



[www.muhammadilibrary.com](http://www.muhammadilibrary.com)

أبوالفدا حافظ ابن كثير دمشقى

**www.muhammadilibrary.com**

*www.muhammadilibrary.com*

وَذَكْرُهُمْ بِإِنْسَانٍ فِي ذَلِكَ الْأَيَّامِ لَكُلُّ صَبَّارٌ شَكُورٌ



شہرہ آفاق عربی کتاب

# اللہ ایف تہائی

کاردو ترجمہ

جلد نمبر ۱۱

۲۳۸ھ سے ۴۰۵ھ کے حالات پر مشتمل ہے اس میں ظیفہ مستعین باللہ کی خلافت سے خلیفہ قادر باللہ کی خلافت اور اس عرصے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں۔ جن میں خلفائے بنی عباسیہ، بنی فاطمہ، ترکوں، دیالمہ بنی بویہ، قرامطہ، زنگی، جبشی وغیرہم کے عروج و زوال کا تذکرہ شامل ہے۔ ساتھ ہی خارجیوں اور شیعوں کے فتوں کے اسباب و حالات بھی قلمبند ہوئے ہیں۔

تصنیف \* علامہ حافظ ابو الفداء اعماد الدین ابن کثیر (۷۷۲-۴۰۱)

ترجمہ \* مولانا انوار الحق قاسمی (فاضل دارالعلوم دیوبند) سابق استاذ حدیث مدرسہ عالیہ ذہاک

تفیض آکیس طیبی

## البداية والنهاية

مصنفہ علامہ حافظ ابوالفرد اعماد الدین ابن کثیر کے جلد نمبر ۱۱ کے اردو ترجمے کے جملہ  
حقوق اشاعت و طباعت، تصحیح و ترتیب و تجویب قانونی بحق

طارق اقبال گاہندری

مالک نفیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	.....	.....	.....	.....	.....
مصنف	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ترجمہ	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ناشر	.....	.....	.....	.....	.....	.....
طبع اول	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ایڈیشن	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ضخامت	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ٹیلیفون	.....	.....	.....	.....	.....	.....

۰۲۱-۷۷۲۲۰۸۰

## تعارف۔ البداية والنهاية (جلد ۱۱)

حَمِيدًا وَ مُصْلِيًّا وَ مُسْلِمًا

کتاب ”البداية والنهاية“ مصنفہ ابوالقداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی متوفی ۲۷۴ھ فتن تاریخ اسلامی میں مقبول اور مسلم ہے اس کتاب کے کل چودہ حصے ہیں۔ جن میں گیارہویں حصہ کا یہ ترجمہ ہے، اور ۲۳۸ھ سے ۲۰۵ھ تک کل ۷۱ برسوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں خلیفہ مستعین بالله کی خلافت سے خلیفہ قادر بالله تک کی خلافت اور اس عرصہ میں وقوع پذیر واقعات کے تذکرے ہیں جن میں خلفائے بنی عبایہ بنی قاطمہ، ترکوں، دیالمہ بنی بویہ، قرامط، زگی، جبشی، غیرہم کے عروج و زوال کا بیان ہے۔ ساتھ ہی خارجیوں، شیعوں کے فتووں کے اسباب اور حالات بھی قلمبند ہوئے ہیں۔

اس طویل عرصہ میں جو ڈیڑھ سو سال ہے کچھ زائد عرصے کا دور ہے، سیاسی لحاظ سے یہ سارے ہی ادوار انہائی شرمناک اور ناقابل ذکر ہیں۔ باشناء چند ان کے سارے خلطا، آپس میں دست و گریاں رہے ان میں خانہ جنگیاں ہوتی رہیں ان میں مرکزیت مفقود تھی۔ ہر شخص خود مختار بننے کی کوشش میں تھا۔ اس کے مطالعہ سے ہر اسلام پسند اور دین و مذہب سے عقیدت رکھنے والے کا سر جھک جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسا خیال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے کاش ان منخوس ادوار کو نہ کوئی جمع کرتا اور نہ ہم ان کا مطالعہ کرتے۔ مگر سچی تاریخ تو آئینہ حقیقت ہوتی ہے کہ کوئی اسے جمع کرے یا نہ کرے اور ہم اسے جانیں یا نہ جانیں وہ چھپ نہیں سکتی۔ جس طرح دوپہر کے وقت آنکھیں بد کر لینے سے آفتاں ناپید نہیں ہو جاتا ہے اسی بنا پر خود صاحب کتاب بھی ۲۳۸ھ کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ابن اشیر نے اس موقع پر وضاحت کی ہے کہ میں نے یہ باتیں اتنی تفصیل سے صرف اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ ظالموں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال نامے اور ان کے کردار چھپ نہیں رہتے بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور کتابوں میں لکھے بھی جاتے ہیں، تاکہ دنیا والے ان کو اچھی طرح سمجھیں اور جس قدر ہو سکے برے الفاظ میں انہیں یاد کرتے رہیں، یہی ان کے لیے دنیا کی رسولی کا سامان ہے اور آخوند میں ان کا معاملہ اللہ سے ہو گا اس طرح ممکن ہے کہ لوگ ان باتوں میں غور کر کے ہمیشہ کے لیے بدنامی سے بچنے کے خیال سے اپنے ظلم سے باز رہیں، اگر اللہ کے ڈر سے وہ باز بھی نہ آئیں۔ فَاغْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارُ۔ اسی دور کے ۲۵۲ھ میں کسی انگلی شاعر نے اشعار پر مشتمل قصیدہ ارمینیہ کے نام سے ایک قصیدہ شاہ ارسلان دمشق کی طرف سے لے کر خلیفۃ المسلمين کے پاس بھیجا۔ جس میں اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کا کچا چھٹا ناہر کیا اور تمام مسلمانوں کی توہین کی جو اگرچہ ایک حد تک حقیقت بھی تھی۔ پھر بھی اس کے جواب میں ایشت کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ان کے ہر ایک الزام کا معقول جواب دیا ہے یہ دونوں ہی قصیدے اپنی جگہ عمدہ ہیں اس لیے علماء کرام کی دلچسپی کے خیال سے ان دونوں کو اصل عربی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس حصہ میں ۲۳۸ھ کا وہ

انتہائی لخاں اور افسوس ہاک واقعی بھی مذکور ہے جس میں قرآن طنز نہ کہو ہے اس کے درود پور کو توڑ پھوڑ کر جو اسود کو دیا تے انہاں کو راپے علاقے میں لے گئے اور پور ۲۲ برس اپنے پاس رکھ کر ۹۵۷ھ میں اپنی جنگ پر رکھئے۔ اس طرح اس حربہ میں دل کی حقیقی جبرا سمود کی نذر یاد رت کر لئے اور نہ براحت ہے۔

اس موقع پر ایک علمی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھیوں والے ابھر نے خانہ کم بنا دیا، یعنی کوشش کی تو اسے فوراً پیدا ہوں کے ذریعے تباہ و بر باد کر دیا کیا، مگر ان قرآن طزو پوری دلیل دی گئی حالانکہ یہ بھی جرم میں ان کے مساوی تھے؟ بلاشبہ خانہ، برائیوں میں ذوب گئے تھے پھر بھی ہمیں ان میں کچھ خوبیاں ہی نظر آتی تھیں جو اس دور میں بھی محفوظ ہیں۔ مثلاً ۲۸۹ھ میں خلیفہ معتضد کے زمانہ میں جب منوذن کی اس دھمکی سے کہ حقدار کا حق ادا کر دو ورنہ میں اذان دے دوں گا کہ اس دھمکی سے بڑے بڑے سرشار امراء اور روز راء بھی قهر اجاتے تھے اور حق ادا کرنے میں ذرا برابرستی نہیں کر سکتے تھے۔

اسی حصہ میں علماء اور صوفیاء کرام کے درمیان کی مختلف فیہ شخصیت "منصور حلاج"، "تحقیق اور طویل مبحث بھی ہے اسی دور میں مددوین علم حدیث پر پورا کام ہوا اور آئندہ صحابہ ستہ کے علاوہ دوسرے تمام محمد شین بڑے صوفیائے کرام ان کے علاوہ جاہظ متكلّم معترضی، شیخ المحتزلہ ابو علی الحیالی ۲۰۰ھ اساتذہ فنِ خوی سیبیہ ۲۸۰ھ البرڈخوی ۲۸۵ھ، نفطیویہ خوی ۲۳۳ھ اور مشہور شاعر ادب میں سے الحضری شاعر ۲۸۳ھ، المتنی شاعر ۳۵۴ھ، البازری مورخ ۲۷۶ھ وغیرہم کے حالات ہماری نظر وہن سے گزرتے ہیں۔

آخر میں اپنی علمی بے بضاعتی کے اعتراض کے ساتھ ان محوری کا بھی اظہار ہے کہ ترجمہ کے لیے جو کتاب میرے پیش نظر ہے وہ مکتبۃ المعارف بیروت کی مطبوعہ ہے اس کی طباعت میں مجھے کمی گلہ غلطیاں نظر آئیں اور مشکلات سامنے آئیں مگر بعض جگہ کسی بھی دوسرے نسخے کے میسر نہ ہونے کے سبب میں انہیں حل نہ کر سکا، اس لیے اس کے مطالعہ کے وقت علماء کرام غلطیوں اور کوتا ہیوں پر مطلع ہونے کی صورت میں ہمیں مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ان کی اصلاح کی جاسکے۔

ان اجر کم الاعلی اللہ، وما توفیقی الا بالله.

انوار الحق قاسمی ۱/۲۸۸

کراچی - پاکستان



## فهرست عنوانات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶	ابن طاہر کا مستعین سے منافقت کے ساتھ پیش آنا ابن طاہر کا مستعین کو معتز باللہ کے حق میں اپنی خلافت سے دست برداری کے لیے آمادہ کرنا	۲۵	واقعات — ۲۲۸
〃		〃	مستعین باللہ کی خلافت
۳۷	متفرق باتیں	〃	نام و نسب
〃	حر میں شریفین میں اسماعیل بن یوسف کی غارت گری	〃	بغایہ کبیر کی وفات اور اس کی جگہ موسیٰ بن بغا کی بحالی
۳۸	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے	〃	حمص والوں کی بغاوت
۳۹	واقعات — ۲۵۲	〃	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
	معتز باللہ کی خلافت کا ذکر امعتز کی شان میں شعراء کے قصیدوں کے نمونے	۲۶	ابو حاتم الجتنی کے حالات
۴۱	مستعین کے قتل کا بیان	〃	واقعات — ۲۲۹
〃	مخصوص لوگوں میں انتقال کرنے والے	〃	فتنه اور اس کی وجہ
۴۲	واقعات — ۲۵۳	〃	اتماش ترکی کا قتل
〃	عبد العزیز کی حالت	۳۰	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
〃	بندار کا قتل	〃	حالات علی بن چہم
〃	وصیف ترکی کا قتل	۳۱	واقعات — ۲۵۰
۴۳	ابن طاہر کی وفات	〃	یحییٰ بن عمر کا قتل
	موسیٰ ابن بغا اور الکوبی کے درمیان زبردست لڑائی کے بعد قزوین پر موسیٰ کا فرضہ	۳۲	حسن بن زید کے ہاتھ پر بیعت
۴۴	مخصوصین کی وفات	〃	احمد بن عیسیٰ اور ادریس بن موسیٰ کا ظہور
〃	سری لسطیعی کے حالات	۳۳	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
۴۷	واقعات — ۲۵۴	〃	واقعات — ۱۵۴
〃	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے	〃	با عز ترکی کا قتل
〃	ابو الحسن علی الہادی کے حالات	〃	اہل بغداد اور سامرا میں سے ہر ایک کا خلافت کے بارے میں اختلاف
〃		۳۴	مستعین اور معتز میں سے ہر ایک کا موسیٰ بن بغا کے نام ذخیرت نامہ

			نام و نسب
۲۹	خاتم کی گرفتاری اور اذیت کے ساتھ اس کا مراجعاً	۲۵۳	واقعات ۲۵۵
۳۰	جبشی سردار خبیث کا زور پکڑنا	۳۹	یعقوب بن ایاث اور علی بن حسین کے درمیان زبردست
۳۱	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	لڑائی بالآخر یعقوب کا غالب آنا
۳۲	حالات حسن بن عرفہ بن یزید	۱۱	غلیفہ المعتز بن التوکل کی موت
۳۳	واقعات — ۲۵۸	۱۱	حلیہ
۳۴	مفلح کا قتل ہو جانا	۵۰	مہندی بالله اور ان کی خلافت
۳۵	جبشی سردار کی الائچی باتیں	۵۱	معتز بالله کی ماں کی ذاتی دولت کا ایک اندازہ
۳۶	ابو احمد کا شہر واسطہ کی طرف نقل وطن کرنا	۵۲	مہندی کی مختصر تقریر
۳۷	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	خلیفہ مہندی کے اصلاحی کام کا اعلان
۳۸	واقعات — ۲۵۹	۵۳	ایک خارجی کا ذکر جس نے بصرہ میں خود کو اہل بیت میں سے ہونے کا دعویٰ کیا
۳۹	مدعی خلافت خارجی کا قتل	۱۱	جاہظ متكلم معترض کے حالات
۴۰	مشہور عالم الجوز جان کی وفات	۱۱	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے
۴۱	واقعات — ۲۶۰	۵۴	محمد بن کرام کے حالات
۴۲	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	واقعات — ۲۶۱
۴۳	اذان کی تحقیق پر نوٹ	۱۱	موی بن بغا کا خلیفہ کے دربار میں ہنگامہ برپا کرنا
۴۴	واقعات — ۲۶۱	۱۱	موی بن بغا کے سامنے خلیفہ کی ایک مختصر مگر پر جوش تقریر
۴۵	موی بن بغا کا غلام کے منصب سے معزولی کا حکم	۱۱	خلافت سے مہندی بالله کی دست برداری اور معتمد احمد بن متوكل کی حکومت
۴۶	خلیفہ کا جعفر اور ابو محمد کے لیے ولی عہدی کا فیصلہ	۵۸	ترکیوں کے مقابلہ میں بالآخر خلیفہ کی شکست
۴۷	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	حلیہ اور اخلاق
۴۸	صحیح مسلم کے جامع مسلم بن الحجاج کے حالات	۱۱	معتمد علی اللہ کی خلافت
۴۹	ایک علمی مسئلہ کی تحقیق اور امام بخاری کا جواب	۵۹	مساوا خارجی کا زور پکڑنا
۵۰	امام مسلمؑ کی موت کا سبب	۶۰	حالات زیر بن بکار
۵۱	حالات ابو یزید البسطانی	۶۱	حالات امام محمد بن اسحاق علی الحجرا
۵۲	واقعات — ۲۶۲	۶۲	سعید حاجب اور جبشی سردار کے درمیان فوج دست مقابلہ
۵۳	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	
۵۴	واقعات — ۲۶۳	۶۳	
۵۵	محصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۶۴	

		واقعات — ۲۷۰ھ		
۹۶		مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۸۳	واقعات — ۲۷۳ھ
۹۸		حالات احمد بن طولون	۸۴	موکی بن بغا کا انتقال
۱۱		احمد بن طولون کی خوش تی کا ایک اہم واقعہ	۸۵	محضو صین کی وفات
۹۹		بادشاہ طولون کی طرف سے احمد کے لیے سلطنت کی	۸۶	ابوزرنہ کے حالات
۱۰۰		وصیت	۸۵	معتز باللہ کی ماں قبیحہ کے حالات
۱۱		ابن طولون کے مرغ موت کا سبب بھینوں کا دودھ پینا	۸۵	واقعات — ۲۷۵ھ
۱۰۱		مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۸۶	قاسم بن مہاہ کا دلف کو قتل کرنا پھر قاسم کا قتل کیا جانا
۱۱		حالات حسن بن زید علوی	۸۶	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
۱۰۲		حالات داؤد بن علی ظاہری	۸۷	حالات یعقوب بن الیث الصفار
۱۰۳		محضو صین کی وفات	۸۷	واقعات — ۲۷۶ھ
۱۱		حالات ابن قمیہ دینواری	۸۹	حسن بن محمد کا مقابلہ کے بعد قتل کیا جانا
۱۰۴		واقعات — ۲۷۶ھ	۸۹	واقعات — ۲۷۶ھ
۱۱		ابوالعباس بن المؤذن کے درمیان جھڑپ	۹۰	ابوالعباس بن المؤذن نعمتوں کی بارش کروی
۱۰۵		مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے	۹۰	شهر منیعہ پر المؤذن کا قبضہ
۱۱		حالات بوران، زوجہ مامون	۹۱	شهر منصورہ پر المؤذن کا قبضہ
۱۰۶		واقعات — ۲۷۶ھ	۹۱	الموقن کا جبشی سردار کے شہر کی طرف جانا اور مختارہ کا حصار کرنا
۱۰۷		محضو صین کی وفات	۹۲	شہر مختارہ کے مقابلہ ایک شاندار شہر موقنیہ کی تعمیر
۱۰۷		حالات ابو معشر الجمجم	۹۲	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
۱۰۸		واقعات — ۲۷۶ھ	۹۲	واقعات — ۲۷۸ھ
۱۱		محضو صین کی وفات	۹۳	بہبود بن عبد اللہ کی گرفتاری اور قتل
۱۱		حالات محمد بن عبد الرحمن بن الحکم الاموی	۹۳	محضو صین لوگوں میں وفات پانے والے
۱۱		حالات خلف بن احمد بن خالد	۹۴	واقعات — ۲۷۹ھ
۱۰۹		حالات ابن ماجہ القرزوئی	۹۴	الموقن کا دشمن کے تیر سے جاں بلب ہونا اور صحت یا بہبود بن عبد الرحمن سے مختارہ پر قبضہ کی کوشش کرنا
۱۱۰		واقعات — ۲۷۶ھ	۹۵	الموقن کا ابن طولون سے ناراض ہو جانا
۱۱		محضو صین کا انتقال اور ان کے کچھ حالات	۹۵	مخصوص لوگوں میں وفات پانے والے
۱۱۱		واقعات — ۲۷۵ھ	۹۶	

۱۳۲	حالات الحصید علی اللہ	۱۱۲	مشہورین کی وفات اور ان کے بچھ حالات
۱۳۳	حالات البلاذری المؤزر	۱۱۳	حالات ابو داؤد الجحتانی
۱۳۴	المعضد کی خلافت	۱۱۵	واقعات ..... ۱۷۴
„	مشہور لوگوں کی وفات	„	مشہورین کی وفات
۱۳۵	احوال الترمذی	„	حالات احمد بن حازم
۱۳۶	واقعات — ۲۸۰	„	حالات قبی بن مخلد
۱۳۸	بغداد میں دارالخلافہ کی تعمیر	۱۱۶	حالات صاعد بن مخلد
۱۳۹	مشہور لوگوں کی وفات	۱۱۷	حالات ابن قتیبہ
„	حالات قاصی احمد بن محمد	„	حالات محمد بن عبد اللہ الریاثی
„	حافظ ثبت، جنۃ پر ایک نوٹ	۱۱۸	واقعات — ۲۷۶
۱۴۰	خوبیوں کے استاذ الاستاذہ	„	محضوین کی وفات
۱۴۱	سیبیویہ کے حالات	„	حالات ابو سحاق الکوفی
۱۴۲	واقعات — ۲۸۱	„	حالات احمد بن عیسیٰ
„	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۱۲۰	حالات عیسیٰ بن عبد اللہ طیاری
۱۴۳	حالات اسحاق بن ابراہیم	„	حالات ابو حاتم الرازی
„	حالات ابو کمر عبد اللہ القرشی	۱۲۱	حالات محمد بن الحسن الجحدی
۱۴۴	واقعات — ۲۸۲	„	حالات محمد بن سعدان الرازی
„	بادشاہ خمارویہ کے قتل کا واقعہ	„	حالات یعقوب بن سفیان بن حران
۱۴۵	مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام	۱۲۲	حالات عرب المامونیہ
„	حالات اسماعیل بن اسحاق	۱۲۳	واقعات — ۲۷۸
„	حالات خمارویہ بن احمد	„	فرقہ قرامطہ کی تحقیق
۱۴۶	حالات عثمان بن سعید	„	قرامطہ کی کتاب طفیلہ تحریمیہ بکریہ، محمد، تعلیمیہ سعییہ بھی کہا جاتا ہے
„	حالات ابو محمد الشعرانی	۱۲۴	حجر اسود اپنی جگہ سے باعثیں بر سر تک غائب رکھا گیا
„	حالات محمد بن القاسم الفزیر	۱۲۵	حالات ابو الحسن الموقن
۱۴۷	واقعات — ۲۸۳	۱۲۶	حالات غلام ابن عبد الرحیم
„	ہارون الشاری القاری کا قتل	۱۲۷	واقعات — ۲۷۹
۱۴۸	ذوی الغرض پر نوٹ	۱۲۸	

۱۶۶	حالات یعقوب بن اسحاق	۱۳۸	مشهور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام
"	حالات ابوداہ بن ابوہبارة المشرقی	۱۳۹	حالات ابن ازروی الشاعر
"	واقعات — ۲۸۷ھ	۱۵۲	سبب، وفات
۱۶۷	حالات محمد بن زید الاعلوی	۱۵۳	حالات محمد بن سلیمان
"	مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام	"	حالات محمد بن غالب
۱۶۸	حالات احمد بن عمرو	"	حالات بخیری شاعر کے
۱۶۹	واقعات — ۲۸۸ھ	۱۵۴	واقعات — ۲۸۸ھ
"	مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام	۱۵۶	مشہورین کی وفات
"	حالات بشیر بن موسیٰ	"	حالات احمد بن المبارک
۱۷۰	حالات ثابت بن قرہ	"	حالات اسحاق بن احسان
"	حالات احسان بن عمرو	۱۵۷	حالات اسحاق بن محمد بن یعقوب
"	حالات عبید اللہ بن سلیمان	۱۵۸	واقعات — ۲۸۵ھ
۱۷۱	واقعات — ۲۸۹ھ	"	مشہور لوگوں کی وفات
"	حالات خلیفہ المعتضد	"	حالات ابراہیم بن اسحاق
۱۸۶	ابو محمد الکلفی بالله کی خلافت	۱۵۹	حالات المبرد الخوی
۱۸۷	مشہورین کی وفات	۱۶۲	واقعات — ۲۸۲ھ
"	حالات ابراہیم بن محمد	"	رافع بن ہرثمه کا قتل
۱۸۸	حالات احمد بن محمد المعتضد بالله	"	اسعیل بن احمد اور عمرو بن الیث میں قتال کے بعد
"	پسپہ سالار بدر کا قتل	۱۶۳	عمرو کی زبردست شکست
"	حالات احسان بن محمد	"	ابوسعید الجنابی انجیث کاظہور
"	حالات عمرہ بن وشیہ	"	ابوسعید الجنابی کی حقیقت
۱۸۹	واقعات — ۲۹۰ھ	۱۶۴	مشہورین کی وفات
۱۹۰	مشہور لوگوں میں وفات پانے	"	حالات اسحاق بن احمد
"	حالات عبد اللہ بن الامام احمد بن حبلان	"	حالات قبی بن مخلد
۱۹۱	حالات ابوکبر الدقاقل	۱۶۵	حالات حسن بن بشار
۱۹۲	واقعات — ۲۹۱ھ	"	حالات محمد بن ابراہیم
"	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	"	حالات محمد بن یونس

۲۰۶	حالات اعمدی الحافظ	۱۹۲	حالات احمد بن میکی ابوالعباس الشیبانی
۱۱	حالات عبد اللہ بن ائمہ	۱۹۳	القاسم بن عسید اللہ وزیری وفات
۱۱	حالات ابو یعفر الرضا	۱۹۴	حالات قاضی محمد بن محمد جبروی
۲۰۷	واقعات — ۲۹۶	۱۹۵	واقعات — ۲۹۲
۲۰۸	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۱۹۶	مشہور لوگوں کی وفات
۱۱	حالات احمد بن زکریا	۱۹۷	حالات ابراہیم بن عبد اللہ الحنفی
۱۱	حالات ابو بکر بن الاشرم	۱۹۸	حالات عبد الحمید بن عبد العزیز
۱۱	حالات خفی بن عمر	۱۹۹	واقعات — ۲۹۳
۱۱	المعز شاعر کارکارا اور خلیفہ	۲۰۰	الداعیہ کاظمیہ
۲۱۲	حالات محمد بن الحسین	۲۰۱	خیجی کاظمیہ
۱۱	واقعات — ۲۹۷	۲۰۲	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۱۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۰۳	حالات ابوالعباس الناشی الشاعر
۱۱	حالات محمد بن راؤ و بن علی	۲۰۴	واقعات — ۲۹۴
۲۱۳	حالات موسیٰ بن اسحاق	۲۰۵	ذکر ویہ لعنۃ اللہ علیہ کے قتل کا ذکر
۲۱۵	حالات یوسف بن یعقوب	۲۰۶	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۱۶	واقعات — ۲۹۸	۲۰۷	حالات صالح بن محمد
۱۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۰۸	حالات محمد بن عیسیٰ البیاضی
۱۱	حالات ابن الراؤندی	۲۰۹	حالات محمد بن الامام اسحاق
۲۱۸	حالات الجنید بن محمد بن الجنید	۲۱۰	حالات محمد بن نصر المرزوqi
۱۱	حالات محمد بن عثمان بن ابی شیبہ	۲۱۱	حالات موسیٰ بن ہارون
۲۱۹	حالات محمد بن طاہر بن عبد اللہ	۲۱۲	واقعات — ۲۹۵
۲۲۰	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۱۳	حالات المکتبی بالله
۱۱	حالات سعید بن اسماعیل	۲۱۴	المقدیر بالله بن المعتهد کی خلافت
۲۲۱	حالات سمنون بن حمزہ	۲۱۵	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۱۱	حالات صافی الحربی	۲۱۶	حالات ابو اسحاق المزرکی
۱۱	حالات اسحاق بن حسین	۲۱۷	حالات ابو الحسین النوری
۱۱	حالات الحسین بن احمد	۲۱۸	حالات اسماعیل بن احمد

			مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۲۲	واقعات — ۲۹۹
۱۱			حالات انسانی احمد بن علی	۲۲۳	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۳۶			حالات احسن بن سفیان	۱۱	حالات احمد بن نصر بن ابراهیم
۲۳۷			حالات رویکم بن احمد	۱۱	حالات الجبلی بن اسحاق
۲۳۸			حالات زہیر بن صالح	۱۱	حالات الحسین بن عبد اللہ
۱۱			حالات ابو علی الجنابی	۱۱	حالات محمد بن اسماعیل
۱۱			حالات ابو الحسن بن سام الشاعر	۲۲۳	حالات محمد بن ابی کعب بن ابی خثیفہ
۲۳۹	واقعات — ۳۰۲		مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	حالات محمد بن احمد کیسان الخوی
۲۴۰			حالات لمید بن محمد بن احمد	۲۲۵	حالات محمد بن عیینی
۱۱			حالات یوسف بن الحسین بن علی	۲۲۶	حالات فاطمہ القہرانی
۲۴۱			حالات یمومت بن المزرع	۱۱	واقعات — ۳۰۳
۲۴۲	واقعات — ۳۰۵		مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۲۷	حالات الاخوص بن افضل
۲۴۳			حالات محمد بن احمد ابو موسیٰ	۲۲۹	حالات عبید اللہ بن عبد اللہ
۱۱			حالات قاسم بن زکریا	۲۳۰	حالات الصنوبری الشاعر
۲۴۴	واقعات — ۳۰۶		مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	حالات ابراہیم بن محمد
۱۱			حالات ابراہیم بن خالد	۱۱	واقعات — ۳۰۷
۱۱			حالات جعفر بن محمد	۱۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۴۵			حالات ابوسعید الجنابی علی بن احمد الراسی	۱۱	حالات محمد بن عبد اللہ
۱۱			حالات احمد بن عمر بن سرت	۱۱	واقعات — ۳۰۸
۱۱			حالات احمد بن عیینی	۲۳۳	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۱۱			حالات احسان بن یوسف	۱۱	حالات بشر بن نصر بن منصور
۱۱			حالات عبد اللہ بن احمد	۱۱	حالات بدمع جاریہ
۱۱			حالات محمد بن بابشاذ	۱۱	حالات قاضی ابو زرعہ
۲۴۶	واقعات — ۳۰۹		حالات محمد بن الحسین	۲۳۴	واقعات — ۳۱۰
۱۱			حالات محمد بن الحلف	۱۱	

۲۷۸	حالات الخالق احمد بن محمد	۲۷۸	حالات منصور بن اسحاق
۲۷۹	حالات ابو محمد الجوہری	۲۷۹	حالات ابو نصر الحب
۲۸۰	حالات ائمۃ جامع صاحب معانی القرآن	۲۸۰	واقعات <u>۲۷۹</u>
۲۸۱	حالات بدر مولیٰ اعتضد	۲۸۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۸۲	حالات حامد بن العباس الوزیر	۲۸۲	حالات احمد بن علی
۲۸۳	حالات ابن خزیمہ	۲۸۳	حالات اسحاق بن عبد اللہ
۲۸۴	واقعات — <u>۲۸۳</u>	۲۸۴	حالات زکریا بن سیفی
۲۸۵	حالات ابراهیم بن فہیم	۲۸۵	حالات علی بن سہل
۲۸۶	حالات علی بن افراط	۲۸۶	حالات محمد بن ہارون
۲۸۷	حالات محمد بن محمد بن سلیمان	۲۸۷	واقعات — <u>۲۸۸</u>
۲۸۸	واقعات — <u>۲۸۷</u>	۲۸۸	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۸۹	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۸۹	حالات احمد بن الصلت
۲۹۰	حالات علی بن عبد الجمید	۲۹۰	حالات عبداللہ بن ثابت
۲۹۱	حالات ابوالعباس السراج الخافظ	۲۹۱	واقعات <u>۲۸۹</u>
۲۹۲	واقعات — <u>۲۹۱</u>	۲۹۲	حالات الحسین بن منصور بن الحنفی اخلاق
۲۹۳	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۹۳	حلج کتبے کی وجہ
۲۹۴	حالات سعی النوبی	۲۹۴	حلج لیل کچھ مکاریاں
۲۹۵	حالات محمد بن محمد البالی وغیرہ	۲۹۵	حلج کتّل گاو کی صفتیں
۲۹۶	واقعات — <u>۲۹۵</u>	۲۹۶	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۲۹۷	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۲۹۷	حالات ابوالعباس بن عطاء
۲۹۸	حالات ابن الحصاص الجوہری	۲۹۸	واقعات — <u>۲۹۷</u>
۲۹۹	حالات علی بن سلیمان	۲۹۹	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۰۰	واقعات — <u>۲۹۹</u>	۳۰۰	حالات ابو بشر الدوالی
۳۰۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۰۱	حالات ابو جعفر بن جریر الطبری
۳۰۲	حالات بنان بن محمد بن حمدان	۳۰۲	واقعات — <u>۳۱۱</u>
۳۰۳	حالات ابوکبر بن ابی داؤد	۳۰۳	حامد بن عباس وزیر بوزہردے کرمادہ الائیا
۳۰۴	حالات نصر الحاجب	۳۰۴	مشہور نگران میں وفات پانے والے

			واقعات — ۳۲۴
۱۱	حالات ابراہیم بن محمد	۲۹۵	قرامضہ حجر سودا پتے علاقے میں سے جانے
	حالات ابی جلیل بن خیزران	۲۹۶	اسحاب فیل کی فوری گرفت ہونے اور قرمطہ کو مہلات
	حالات عبد الملک بن محمد		دینے پر ایک بار یک علمی نقطہ
۱۲	حالات القاضی ابو عمر المانعی	۲۹۹	حالات احمد بن احسن بن الفرج
۳۱۵	واقعات — ۳۲۱	۳۰۱	حالات احمد بن مہدی بن ریسم
۳۱۷	بنو بویہ کے معاملات کی ابتداء اور اس کی حکومت کا ظہور	۱۱	حالات بدر بن الحیثم وغیرہ
۳۱۸	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۰۲	حالات عبد اللہ بن محمد
۱۱	حالات ابو جعفر الطحاوی احمد بن محمد	۱۱	حالات محمد بن ابی الحسین
۳۱۹	حالات احمد بن محمد بن سیفی	۱۱	حالات الکعبی المتكلم
۳۲۰	حالات شغب جو المقتندر باللہ کی ماں تھی اور اس کا القب	۱۱	واقعات — ۳۲۵
۳۲۱	اسیدہ تھا	۳۰۳	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۲۲	حالات عبد السلام بن محمد	۳۰۴	حالات احمد بن اسحاق
۳۲۳	حالات احمد بن احسن	۱۱	حالات یحییٰ بن محمد بن صاعد
۳۲۴	واقعات — ۳۲۶	۳۰۵	حالات احسان بن علی بن احمد
۳۲۵	قاہر کی معزولی اور اس کے عبرت ناک واقعات	۱۱	واقعات — ۳۱۹
۳۲۶	الراضی باللہ بن المقتندر باللہ کی خلافت	۳۰۶	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۲۷	بغدادیں محمد بن علی الششمی ای کا ظہور	۳۰۷	حالات الحسین بن عبد الرحمن
۳۲۸	افریقیہ والے مہدی کی وفات	۱۱	حالات علی بن الحسین
۱۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۱۱	حالات محمد بن فضل
۳۲۹	حالات احمد بن عبد اللہ الدینوری	۳۰۸	حالات محمد بن سعد
۳۳۰	حالات حمد بن احمد بن القاسم	۱۱	حالات یحییٰ بن عبد اللہ
۳۳۱	حالات محمد بن ابی عیل	۱۱	واقعات — ۳۲۰
۳۳۲	واقعات — ۳۲۳	۳۰۹	حالات المقتندر باللہ
۱۱	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۱۱	القاہر کی خلافت
۱۱	حالات نفوذیہ الخوی	۳۱۲	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۳۳	حالات عبد اللہ بن عبد الصمد	۳۱۳	حالات احمد بن عسیر
۱۱	حالات عبد الملک بن محمد	۱۱	

۳۲۸	حالات ابوسعید الاشتری	۳۳۳	حالات علی بن الفضل
〃	حالات علی بن محمد ابواً مین	〃	واقعات — ۳۲۳
۳۲۹	حالات ابوجعفر امیر بن الہبی	۳۳۴	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۵۰	حالات احمد بن عبد ربه	〃	حالات ابن مجاہد المقرنی
۳۵۱	حالات عمر بن ابی عمر	۳۳۹	حالات ابن المفلس الفقیہ الطاہری
〃	حالات ابن شنبیذ المقرنی	〃	حالات ابوکبر بن زیاد
۳۵۳	حالات محمد بن علی ابی مقلد وزیر	〃	حالات عفان بن سلیمان
۳۵۴	حالات ابوکبر بن الانباری	〃	حالات ابوالحسن الاشعربی
〃	حالات ام عیسیٰ بنت ابراہیم الحجری	۳۴۰	حالات محمد بن الفضل
۳۴۰	واقعات — ۳۲۹	〃	حالات ہارون بن المقדר
〃	القاہر کی خلافت	〃	واقعات — ۳۲۵
۳۵۷	متنقی کی خلافت اور ان کے حالات	۳۴۱	حالات احمد بن محمد بن الحسن
۳۶۰	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	〃	حالات عبداللہ بن محمد
〃	حالات احمد بن ابراہیم	〃	حالات محمد بن اسحاق
〃	حالات نجم اترکی	〃	حالات محمد بن ہارون
۳۶۱	حالات ابومحمد البر البهاری	〃	واقعات — ۳۲۶
〃	حالات یوسف بن یعقوب	۳۴۲	وزیر ابی مقلد کے حالات اور اس کے عبر تناک واقعات
۳۶۲	واقعات — ۳۲۷	۳۴۳	واقعات — ۳۲۷
۳۶۵	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۴۴	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
〃	حالات اسحاق بن محمد	〃	حالات الحسن بن القاسم
〃	حالات الحسین بن اسماعیل	〃	حالات الحسین بن القاسم
۳۶۶	حالات علی بن محمد بن سہل	〃	حالات عثمان بن الخطاب
۳۶۷	حالات ابوصالح الحنفی	۳۴۵	حالات محمد بن جعفر بن محمد
۳۶۸	واقعات — ۳۲۸	〃	حالات الحافظ الکبیر بن الحافظ الکبیر
۳۶۹	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۴۶	واقعات — ۳۲۸
〃	حالات ثابت بن سنان الصابی	۳۴۷	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
۳۷۰	حالات محمد بن احمد بن یعقوب	〃	حالات ابومحمد جعفر المرثی

۳۸۸	حالات علی بن عیسیٰ بن داؤد	۳۷۰	حالات محمد بن جعفر حالات انجیون البغدادی
”	حالات محمد بن امامیل	”	واقعات — ۳۳۴
۳۸۹	حالات باریون بن محمد	۳۷۲	البریدی کا پنے بھائی ابو یوسف قتل کردیا
”	حالات ابو العباس بن القاضی احمد	۳۷۳	سردار الجنابی القرمطی کی وفات
”	واقعات — ۳۳۵	”	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
”	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے	۳۷۴	حالات احمد بن محمد بن سعید
”	حالات ابو الحسین بن المنادی	”	حالات احمد بن عامر
۳۹۰	حالات الصولی محمد بن عبد اللہ	”	واقعات — ۳۳۶
۳۹۱	واقعات — ۳۳۷	۳۷۵	امستکفی باللہ کی خلافت
”	حالات عبد اللہ بن محمد	۳۷۶	ابو الحسین البریدی کا قتل
۳۹۲	حالات قداماً الکاتب المشهور	”	واقعات — ۳۳۷
”	حالات محمد بن علی	۳۷۸	توارون ترکی کی وفات
”	حالات محمد بن مظہر	”	بغداد میں بنی بویہ کی حکومت کا قیام اور ان کے احکام
”	واقعات — ۳۳۸	”	امستکفی باللہ کو پکڑنا اور خلافت سے معزول کر دینا
”	حالات ابو الحسن علی بن بویہ	۳۷۹	المطیع اللہ کی خلافت
۳۹۳	حالات احمد بن محمد اسماعیل	”	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
”	حالات استکفی باللہ	۳۸۱	حالات عمر بن الحسین
۳۹۴	حالات علی بن مشاد بن حجیون	”	حالات محمد بن عیسیٰ
”	حالات علی بن محمد بن احمد	۳۸۲	حالات محمد بن محمد بن عبد اللہ
۳۹۵	واقعات — ۳۳۹	۳۸۳	حالات الاشید محمد بن عبد اللہ بن طیخ
۳۹۶	حالات الحسن بن داؤد	”	حالات ابوکراشمی
”	حالات محمد القاهر باللہ	”	واقعات — ۳۳۵
”	حالات محمد بن عبد اللہ بن احمد	۳۸۵	مشہور لوگوں میں وفات پانے والے
”	حالات ابو نصر الفارابی	۳۸۶	حالات الحسن بن حمیہ بن الحسین
۳۹۷	واقعات — ۳۴۰	”	حالات عبد الرحمن بن احمد
”	حالات اشہب بن عبد العزیز	”	حالات عبد السلام بن رغبان
”	حالات ابو الحسن الکرنی	”	

٣٠٩	واقعات — ٣٢٧	٣٩٨	حالات محمد بن زيد
〃	حالات احمد بن عبد الله	٣٩٩	حالات مسعود بن قرطبي
〃	حالات ابي ابي خلف	〃	حالات ابي ابي داود
٣١٠	حالات ابو العباس الاوصم	〃	حالات ابي القاسم
〃	واقعات — ٣٢٤	〃	حالات اسحاق بن ابي ابي داود
٣١١	حالات الزبير بن عبد الرحمن	٣٠٠	حالات اسحاق بن ابي القاسم
〃	حالات ابو سعيد بن يوش	〃	حالات اسحاق بن ابي داود
〃	حالات ابن درستوي اخوی	٣٠١	حالات اسحاق بن ابي القاسم
〃	حالات محمد بن احسن	〃	حالات علي بن ابي ابي داود
٣١٢	حالات محمد بن علي	٣٠٢	حالات محمد بن ابراهيم
〃	واقعات — ٣٢٨	〃	حالات محمد بن موسى
〃	حالات ابراهيم بن شيبان القرني	〃	واقعات — ٣٢٣
〃	حالات ابوبكر الصادق	٣٠٣	حالات احسن بن احمد
٣١٣	حالات عيسى بن محمد بن انصير	〃	حالات علي بن محمد بن عقبة
〃	حالات محمد بن ابراهيم	〃	حالات محمد بن علي
〃	حالات محمد بن عيسى	〃	حالات ابو الحسن الشيباني
٣١٤	حالات ابوبكر عبد الله بن احمد	٣٠٤	حالات عثمان بن احمد
〃	واقعات — ٣٢٩	〃	حالات محمد بن احمد
٣١٥	حالات عيسى بن حرب الكاتب	٣٠٥	حالات محمد بن احمد بن محمد
〃	حالات ابو علي المخافظ	〃	حالات محمد بن احمد بن بطي
٣١٦	حالات حسان بن محمد بن احمد	〃	حالات محمد بن محمد بن يوسف
〃	حالات محمد بن ابراهيم بن الخطاب	〃	حالات ابو بكر بن الحداد
〃	حالات عبد الواحد بن عمر	〃	حالات ابو يعقوب الاذري
〃	حالات ابو احمد العسال	٣٠٦	حالات غلام ثعلب
٣١٧	واقعات — ٣٥٠	٣٠٧	حالات محمد بن علي
〃	حالات قاضي ابو السائب عتبة	〃	حالات احمد بن محمد
〃	حالات امير نوح بن عبد الملك	〃	

۳۶۲	حالات ابو حاتم ابستی صاحب ایش	۳۱۷	حالات الناصر ملک بن اللہ الاموی
"	حالات محمد بن احسن بن یعقوب	"	حالات ابو جعفر بن زید القضاۃ
"	حالات محمد بن عبد اللہ بن ابراهیم	"	حالات ابا عاصیل بن علی
۳۶۳	واقعات — ۳۵۴	۳۱۹	حالات احمد بن محمد بن سعید
۳۶۴	حالات احسان بن راوف	۳۲۰	حالات عبد اللہ بن اسما میل
"	حالات محمد بن الحسین بن علی	"	حالات عقبہ بن عبد اللہ
۳۶۵	حالات ابو بکر بن الجعافی	"	حالات محمد بن احمد بن حیان
"	واقعات — ۳۵۶	۳۲۰	حالات ابولی الحازن
"	معز الدلوہ بن بویہ کی وفات	"	واقعات — ۳۵۷
۳۶۷	حالات ابو الفرج الاصبهانی	۳۲۳	حالات احسان بن محمد بن ہارون
۳۶۸	حالات سیف الدلوہ	"	حالات دفع بن احمد بن دفع
۳۶۹	حالات ابولی القالی	۳۲۴	حالات عبدالباقي بن قانع
۳۷۰	واقعات — ۳۵۷	"	حالات ابو بکر القاش المفسر
۳۷۱	حالات ابراہیم المتنی اللہ	۳۲۵	حالات محمد بن سعید
"	حالات عمر بن جعفر بن عبد اللہ	"	واقعات — ۳۵۸
"	حالات محمد بن احمد بن علی	"	امن کے بادشاہ القبور کے حالات زندگی جس کا نام
"	حالات کافرین عبد اللہ الاشیدی	"	الدستق تھا
۳۷۲	واقعات — ۳۵۸	۳۲۷	قصیدہ رومیہ جسے دستق نے خلیفہ امیطع کے پاس بھیجا تھا
۳۷۳	واقعات — ۳۵۹	"	قصیدہ ترکی بہتر کی جسے فقیہ اندیشی نے لکھ کر اسی امنی
۳۷۴	حالات محمد بن احمد بن الحسین	۳۳۵	بادشاہ کو مناطب کیا ہے
"	حالات محارب بن محمد بن محارب	۳۳۸	ایک عجیب الخلق انسان
"	حالات ابو الحسین احمد بن محمد	۳۳۹	حالات عمر بن اصم
۳۷۷	واقعات — ۳۶۰	۳۵۰	واقعات — ۳۵۹
۳۷۸	حالات سلیمان بن احمد بن ایوب	۳۵۲	حالات بکار بن احمد
"	حالات الرفالشاعر	"	حالات ابو سحاق ایمنی
"	حالات محمد بن جعفر	۳۵۳	واقعات — ۳۶۰
"	حالات محمد بن الحسن بن عبد اللہ	۳۵۵	حالات المتنی الشاعر المشہور

۵۹۷	واقعات — ۳۱۵	۳۸۶	حالات محمد بن جعفر بن محمد
〃	حالات احمد بن جعفر	〃	حالات محمد بن داؤد الصوافی
〃	حالات ثابت بن سنان	〃	حالات محمد بن اثیر خان
〃	حالات الحسین بن محمد	〃	حالات احمد بن اسحاق
〃	حالات ابو احمد بن عدی	۳۸۰	واقعات — ۳۱۶
〃	حالات المعاوی	۳۸۱	حالات سعید بن ابی سعید الجنابی
۵۰۰	واقعات — ۳۱۶	〃	حالات عثمان بن عزرا
۵۰۲	بنو سکنین کی حکومت کی ابتداء	〃	حالات علی بن اسحاق بن خلف
〃	حالات ابو یعقوب یوسف	۳۸۲	حالات احمد بن هبل
۵۰۳	حالات الحسین بن احمد	〃	واقعات — ۳۱۷
۵۰۴	حالات اسماعیل بن نجید	۳۸۳	حالات السری بن احمد بن السری
۵۰۵	حالات الحسن بن بویہ	〃	حالات محمد بن حانی
〃	حالات محمد بن اسحاق	۳۸۵	حالات ابراهیم بن محمد
〃	حالات محمد بن الحسن	〃	حالات سعید بن القاسم
〃	حالات القاضی منذر البلوٹی	〃	حالات محمد بن الحسن
۵۰۷	حالات ابو الحسن علی بن احمد	۳۸۶	واقعات — ۳۱۸
〃	واقعات — ۳۱۸	۳۸۷	طائع کی خلافت اور امطیع کی دستبرداری
۵۰۹	عز الدین بختیار کا قتل	〃	معز فاطمی اور حسین کے درمیان لڑائی
۵۱۰	حالات بختیار بن بویہ الدیلمی	۳۸۸	معز فاطمی کا مشن کو فرامطیوں سے چھین لینا
۵۱۱	حالات محمد بن عبد الرحمن	۳۸۹	فصل بختیار بن معز و ولادوں کی ذاتی فکر
〃	واقعات — ۳۱۸	〃	حالات العباس بن الحسین
〃	قام التراب دمشق کا دادشاہ بنتا ہے	۳۹۰	حالات ابو بکر عبد العزیز بن جعفر
۵۱۲	حالات احمد بن الحسن لعقتی	〃	حالات علی بن محمد
〃	حالات احمد بن جعفر	۳۹۱	حالات ابو فراس بن محمدان الشاعر
۵۱۳	حالات حمیم بن المعاوی	۳۹۲	واقعات — ۳۱۹
〃	حالات ابو سعید السیرافی	۳۹۳	دمشق کے فاطمیوں کے چنگل سے نکال لینے کا ذکر
۵۱۴	حالات عبداللہ بن ابراهیم	۳۹۶	حالات سکنین الحجب الترکی

٥٢٧	حالات <b>بلقيس</b> بن زيري بن منادى	٥١٣	حالات عبد الله بن محمد بن ورقاء
٥٢٨	حالات سعيد بن صالح	٦٦	حالات محمد بن عيسى
٥٢٩	حالات عبد الله بن محمد وأعات — ٤٢٧هـ	٥١٥	وأعات ٤٢٩هـ
٥٣٠	حالات الحافظ ابو شيخ محمد بن الحسن	٦٦	حالات احمد بن زكريا الشافعى
٥٣١	حالات الخطيب بن نباتة اخناء	٦٦	حالات احمد بن عطاء بن احمد
٥٣٢	حالات محمد بن ابراهيم وأعات — ٤٢٨هـ	٦٦	حالات عبد الله بن ابراهيم
٥٣٣	حالات شيخ البعلى بن أبي هريرة	٥١٨	حالات محمد بن صالح
٥٣٤	حالات الحسين بن علي	٦٦	وأعات — ٤٢٩هـ
٥٣٥	حالات ابو القاسم الداركي	٦٦	حالات ابوبكر الرازى الحنفى
٥٣٦	حالات محمد بن احمد بن محمد	٦٦	حالات محمد بن جعفر غندر
٥٣٧	حالات محمد بن عبد الله	٦٦	حالات ابن خالويه
٥٣٨	وأعات — ٤٢٩هـ	٥١٩	وأعات — ٤٢٩هـ
٥٣٩	وأعات — ٤٢٧هـ	٦٦	حالات احمد بن ابراهيم الاسماعيلى
٥٤٠	حالات احمد بن الحسين بن علي	٥٢٠	حالات الحسن بن صالح
٥٤١	حالات اسحاق بن المقتدر	٦٦	حالات الحسن بن علي بن الحسن
٥٤٢	حالات جذري الحنفى	٦٦	حالات عبيد الله بن الحسين
٥٤٣	حالات ابو على الفارسي الخواى	٦٦	حالات عبد العزيز بن الحارث
٥٤٤	حالات سمية بن قاضى عبد الله	٦٦	حالات علي بن ابراهيم
٥٤٥	وأعات — ٤٢٨هـ	٦٦	حالات علي بن محمد الاصداب
٥٤٦	حالات الحسن بن علي	٥٢١	حالات شيخ ابو زيد المرزوقي
٥٤٧	حالات انتيل بن احمد القاضى	٦٦	حالات محمد بن خفيف
٥٤٨	حالات زياد بن محمد بن زياد	٦٦	وأعات — ٤٢٩هـ
٥٤٩	وأعات — ٤٢٩هـ	٦٦	حالات عضد الدولة
٥٥٠	حالات شرف الدولة بن عضد الدولة	٥٢٥	حالات محمد بن جعفر
٥٥١	حالات محمد بن جعفر	٥٢٦	وأعات — ٤٢٩هـ
٥٥٢	حالات عبد الکریم بن عبد الکریم	٦٦	حالات بوي مؤید الدولة بن رکن الدولة

۵۵۲	واقعات — ۳۸۲	حالات محمد بن الحضراف
۵۵۳	حالات احمد بن ابراہیم	واقعات — ۳۸۲
"	حالات ابو عطاء باب الحنفی	حالات بعض باب الحنفی
۵۵۴	حالات العزیز صاحب مصر	واقعات — ۳۸۲
۵۵۵	واقعات — ۳۸۲	حالات احمد بن الحسن بن امیر ان
"	حالات ابو احمد العسكری الملغوی	حالات عبد اللہ بن احمد بن معروف
۵۵۶	حالات عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ	حالات جوہر بن عبد اللہ القائد
"	حالات ابن زوالق	واقعات — ۳۸۲
۵۵۷	حالات ابن بطیع عبد اللہ بن محمد	حالات محمد بن العباس
"	حالات علی بن عبد العزیز	حالات ابو احمد العسكری
۵۵۸	حالات فخر الدوّله بن بویہ	واقعات — ۳۸۲
"	حالات ابن سمعون الوعظی	حالات احمد بن ابراہیم
۵۵۹	حالات سامانی باوشاہوں کے آخری شخص نوح بن منصور کے	واقعات — ۳۸۲
"	حالات ابو طیب سہل بن محمد	حالات ابراهیم بن ہلال
۵۶۰	واقعات — ۳۸۸	حالات عبد اللہ بن محمد
"	حالات الخطابی ابو سليمان محمد	حالات علی بن عسکر بن عبید اللہ
۵۶۱	حالات الحسین بن احمد بن عبد اللہ	حالات محمد بن العباس بن احمد
"	حالات صحاصمة الدوله	حالات محمد بن عمران بن موسی
"	حالات عبد العزیز بن یوسف الحطان	واقعات — ۳۸۵
۵۶۲	حالات محمد بن احمد	حالات الصاحب بن عباد
"	واقعات — ۳۸۹	حالات ابن شاہین الوعظی
۵۶۳	حالات زید بن عبد اللہ	حالات الحافظ الدارقطنی
"	واقعات — ۳۹۰	حالات عباد بن عباس بن عباد
"	حالات احمد بن محمود	حالات عقبیل بن محمد بن عبد الواحد
۵۶۴	حالات عبید اللہ بن عثمان	حالات محمد بن عبد اللہ بن سکرہ
"	حالات الحسین بن محمد	حالات یوسف بن عمر بن مسرور

		واقعات — ۳۹۶	۵۶۳	حالات عبد اللہ بن احمد
۵۷۸		حالات ابو سعید (رض) میں	//	حالات عمر بن ابراہیم
۵۷۹		حالات محمد بن احمد	//	حالات محمد بن عمر بن میکی
//		حالات ابو حبیب اللہ بن مسده	۵۴۵	حالات الراستا و ابو الحسن شوشی بریوان
//		واقعات — ۳۹۷	//	حالات الجریری المعروف باہن طرار
۵۸۰		حالات عبد الصمد بن عمر	۵۶۶	حالات ابن فارس
۵۸۱		حالات ابو العباس بن واصل	//	حالات ام اسلامہ
//		واقعات — ۳۹۸	//	واقعات — ۳۹۱
۵۸۲		مصحف ابن مسعود اور اس کے جلانے کا قصہ	۵۶۷	حالات عفر بن افضل بن عفر
۵۸۳		ایک گرجا گھر قمامہ کے دریان کر دینے کا حکم	//	حالات ابن الحجاج الشاعر
//		حالات ابو محمد البافی	۵۶۸	حالات عبدالعزیز بن احمد
۵۸۴		حالات عبد اللہ بن احمد	//	حالات عیسیٰ بن الوزیر علی بن عیسیٰ
//		حالات البغای الشاعر	۵۶۹	واقعات — ۳۹۲
//		حالات محمد بن میکی	۵۷۰	حالات ابن جنی الولی
۵۸۵		حالات بدیع الزمان	۵۷۱	حالات علی بن عبدالعزیز
//		واقعات — ۳۹۹	۵۷۲	واقعات — ۳۹۳
۵۸۶		حالات عبد اللہ بن بکر بن محمد	۵۷۳	حالات ابراہیم بن احمد
//		حالات محمد بن علی بن الحسین	//	حالات الطائع اللہ عبد الکریم
//		حالات ابو الحسن علی بن ابی سعید	//	حالات محمد بن عبد الرحمن
۵۸۷		حالات امیر المؤمنین القادر باللہ کی ماں کے	//	حالات محمد بن عبد اللہ
//		واقعات — ۴۰۰	//	حالات میمونہ بنت شاقولہ الواعظہ
۵۸۸		حالات ابو احمد الموسوی الحقیب	۵۷۴	واقعات — ۳۹۴
۵۸۹		حالات الحاج بن یہزم ابو جعفر	۵۷۶	حالات ابو علی الاسکانی
//		حالات ابو عبد اللہ الحنفی	//	واقعات — ۳۹۵
//		حالات ابو الحسین ابن الرفالمرقی	//	حالات محمد بن احمد بن موسیٰ
۵۹۰		واقعات — ۴۰۱	۵۷۷	حالات محمد بن ابی اسماعیل
//		حالات ابراہیم بن محمد بن عبید	//	حالات ابو الحسین بن فارس

۱۰۰	حالات محمد بن موسی بن محمد	۵۹۱	حالات عبد الجوشن الوزیر
۱۰۱	حالات الحافظ ابوعاکن حن بن محمد	۱۱	حالات خلف الواصلی
۱۰۲	حالات الحافظ ابن القرضی	۱۱	حالات ابو عیین البروئی
۱۰۳	واقعات — ۵۹۲	۵۹۲	حالات علی بن محمد اسین
۱۰۴	حالات احسان بن احمد	۱۱	واقعات — ۵۹۲
۱۰۵	حالات علی بن سعید الاصطخری	۱۱	فاطمیوں کے نسب کے سلسلہ میں بغداد کے اماموں اور علماء کا طعن
۱۰۶	واقعات — ۵۹۳	۵۹۳	حالات الحسن بن الحسن بن علی
۱۰۷	حالات بدرین صنویہ بن الحسین	۵۹۵	حالات عثمان بن عیینہ الباقلاني
۱۰۸	حالات الحسن بن الحسین بن حمکان	۱۱	حالات محمد بن جعفر بن محمد
۱۰۹	حالات عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ	۱۱	حالات ابوالظیب سہل بن محمد
۱۱۰	حالات عبد الرحمن بن محمد	۱۱	واقعات — ۵۹۳
۱۱۱	حالات ابونصر عبد العزیز بن عمر	۵۹۷	حالات احمد بن علی ابو الحسن المیش
۱۱۲	حالات عبد العزیز بن عبد الرحمن	۵۹۸	حالات الحسین بن حامد بن علی
۱۱۳	حالات عبد العزیز بن عمر بن محمد	۱۱	حالات الحسین بن الحسن
۱۱۴	حالات عبد الغفار بن عمر بن محمد	۱۱	حالات فیروز ابونصر
۱۱۵	حالات الحاشر النشاپوری	۱۱	حالات قابوس بن دشکیر
۱۱۶	حالات ابن کج	۵۹۹	حالات القاضی ابوکبر الباقلاني

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مستعین باللّٰہ کی خلافت

نام و نسب:

ابو العباس، احمد بن محمد المعتصم، عوام الناس نے ان کی خلافت کے لئے اسی دن بیعت کر لی، جس دن المختصر باللّٰہ کی وفات ہوئی تھی، لیکن تو کوں کی ایک تھوڑی اس جماعت نے ان کی خلافت سے بغاوت کی اور اسے معزز! اے منصور! کے نعرے لگائے تو مزید کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ادھر مستعین باللّٰہ کی مدد میں ان کی فوج آگئی، دونوں گروہوں میں کچھ دنوں تک سخت لڑائی رہی، ہر طرف سے کافی انسان مارے گئے، بغداد کے بہت سے گھرانے لوئے گئے، مختلف قسم کے بہت سے فتنے کھڑے ہوئے، بالآخر مستعین کی خلافت قائم ہو گئی، انہوں نے ملکی انتظام بھالا، سرکاری عہدوں سے ناپسندیدہ لوگوں کو نکالا گیا، اور مرغی کے مطابق لوگوں کو عہدوں پر فائز کیا گیا اور کچھ لوگوں سے تعلقات دفتر کیے گئے اور کچھ لوگوں سے قائم کیے گئے، اور کرنے اور نہ کرنے کے متعلق جاری کیے گئے، یہ سلسلہ تھوڑے دنوں تک جاری رہا۔

بغما کبیر کی وفات اور اس کی جگہ موسیٰ ابن بغا کی بحالی:

اسی سال ماوجہ مادی الآخری میں بغا الکبیر کی وفات ہو گئی، اس لئے غیظہ وقت نے اس کے بیٹے موسیٰ بن بغا کو ان کی جگہ بحال کر دیا، جو بہت باہمیت اور اوپر نچے خیال کا تھا، چنانچہ مشرق و مغرب کے علاقوں میں پر درپے اس نے حملے کئے اور اس طرح اس کے پاس مختلف اور کافی جائیداد دس لاکھ دیناروں کی قیمت جمع ہو گئی، اور دوں اصلی موتی دانے ایسے جمع ہو گئے تھے جن کی قیمت لاکھ دینار تھی، اور تین ہیجے اور سونے چاندی کا ایک بکس بھی اسے مل گیا تھا۔

حمض والوں کی بغاوت:

اسی سال حمض والوں نے اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کی اور اپنے علاقہ سے اسے نکال دیا، تب خلیفہ وقت نے ان کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے مکانات میں حادینے کا حکم دیا۔

اس سال محمد بن ملیمان الزہبی نے لوگوں کو حج کرایا۔

مخصوصوں کی وفات:

مخصوص لوگوں میں اس سال ان لوگوں نے وفات پائی، احمد بن صالح، حسین بن علی الکرامیسی، عبد الجبار بن العلاء،

عبدالملك بن شعيب، عيسى بن حماد، محمد بن تميم الرازبي، محمد بن زينور، محمد بن العلاء، أبو كريمة، محمد بن زيد، أبو باش الرفاعي، اور ابو حاتم البصري.

نام سہل بن محمد بن عثمان بن یزید اسکی ہے ابو حاتم النجاشی اللہ تعالیٰ کوئی بڑی کتابوں کے مصنف اور علماء کے مابین تھے جسے انہوں نے ابو عبید اور اصمی سے حاصل کیا اور ابو زید الفزاری سے بہت سی روایتیں بیان کیں۔ پھر ان سے مبردا و رابن در بد وغیرہ جیسی شخصیتوں نے سیکھا، اخلاق کے اعتبار سے بہت نیک، بہت زیادہ صدقہ دینے والے اور تلاوت قرآن کریم کرنے والے تھے ہر روز ایک دینار صدقہ کرتے اور ہر ہفتہ قرآن پاک کا ایک ختم کرتے۔ انہوں نے اشعار بھی بہت سے کہے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ① ابرزا وجهہ الجميل ولاموا من افتن

② ولو ارادوا صیانتی ستروا وجهہ الحسن

① ”لوگوں نے اس کے خوبصورت رُخ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور ان لوگوں کی برائیاں بیان کیں جو ہیں۔“

② ”اگر یہ لوگ میری حفاظت کا خیال کرنے تو یہ لوگ اس کے خوبصورت چہرے کو (مجھ سے) چھپا کر رکھتے“

## — واقعات — ۲۳۹

وسط ماہ رجب روز جمعہ مسلمانوں کی ایک جماعت اور روئیوں کے درمیان ملطیہ کے قریب مقابلہ ہوا اور سخت لڑائی ہوئی۔ جس میں دونوں فریق کے کافی لوگ مارے گئے، ان ہی لوگوں میں امیر اسلامین عمر بن عبد اللہ بن القاطع قتل کردیے گئے، ان کے ساتھ ہی دو ہزار مسلمان مارے گئے، اسی طرح علی بن یحییٰ امنی بھی قتل کردیے گئے، کہ وہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کے امیر تھے۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ یہ دونوں حضرات اکابر صوفیاء میں سے تھے۔

### فتنه بغداد:

ابتداء ماہ صفر میں بغداد میں فتنہ برپا ہوا، وجہ یہ ہوئی کہ عوام الناس ان امراء سے نفرت کرنے لگے تھے، جنہوں نے خلافت پر زبردست قبضہ کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ المتوکل کو قتل کر دیا۔ پر منتصرا بالقدر اور ان کے بعد مستعین بالله کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے مل کر جیل خانہ پر حملہ کر دیا اور تا توڑ کر اس کے تمام قیدیوں کو نکال لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر کے کنارے کے دونوں پلوں کی طرف گئے، ان میں سے ایک کو توڑ پھوڑ کر کھل دیا اور دوسرے کو آگ سے بالکل جلا دیا اور عوام الناس کو آواز دی، اس طرح عوام الناس کو بہت بڑی جماعت اور بھیڑا کٹھی ہوئی، اور بہت سے علاقوں کو لوٹ لیا۔ یہ سارے واقعات بغداد کے مشرقی جانب میں ہوئے، پھر روساء نے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جو سرحدوں پر دشمنان اسلام سے قتال کر رہے تھے، بغداد والوں سے بہت مال و اسباب اکٹھے کیے، ان مسلمانوں کا بدل لینے کی غرض سے، جنہیں دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، چنانچہ پہاڑیوں کے کناروں سے اور اہواز و فارس وغیرہ کے علاقوں سے نکل کر روئیوں سے جہاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔

### فتنه اور اس کی وجہ:

یہ ہوئی تھی کہ خلیفہ اور ملک کی فوج روم کے علاقوں میں نہ گئی، اور نہ مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد کیا، اس طرح خلافت کا مقصد کمزور پڑ گیا، کیونکہ خلفاء اپنی ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھے اور لوٹ دیوں اور رکانے بجانے والوں کی محلوں میں مشغول رہنے لگے، وہاں کی رعایا ان حرکتوں سے سخت ناراض ہو کر مذکورہ ہنگامے کھڑے کرنے اور لوٹ مار میں لگ گئی؛ جن کا تذکرہ ذرا پہلے ہوا۔

پھر ماہ ربیع الاول کی ایکسویں تاریخ سامرا کے عوام نے قید خانہ کی طرف جا کر وہاں کے قیدیوں کو بھی جیل خانوں سے نکال دیا، جیسا کہ بغداد سے نکلا تھا۔ اس وقت وہاں کے سپاہی عوام کے مقابلہ میں آئے، جنہیں زرافہ کہا جاتا تھا، مگر عوام نے ان سپاہیوں کو شکست دے دی۔ اس بنگالے کو فروخت کے لیے وصیف اور بغا صیر اور عوماً تر کی کے باشندے اکٹھے ہو کر سامنے آئے اور مقاتله شروع کیا۔ اور عوام کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا یہ فتنہ بڑھتا رہا۔ لیکن ایک زمانہ کے بعد از خود سرد پڑ گیا۔

### اتامش تر کی کا قتل اور ملکی ہنگامے:

ریچ الآخر کے سطہ مہینہ میں ترکیوں کے آپس میں ایک فتنہ لھرا ہوا وجہ یہ ہوئی تھی کہ خلیفہ مستعین باللہ نے امور خلافت اور بیت المال کے بالوں کا انظام ایں تین آدمیوں کو دیا تھا۔ (۱) ایامش تر کی اور یہ شخص خلیفہ کا ممتاز خاص اور ان کے وزیر کے درجہ کا تھا اور اسکی لی کوڈ میں عباس بن مستعین تھا جسے یہ خاص تربیت دتا اور شہسواروں کے طریقے سکھاتا۔ (۲) شیا کب الیام اور (۳) خلیفہ کی ماں یہ جس چیز کی خواہش کرتی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کی ماں کا ایک کاتب تھا جسے سلمہ بن سعید الصراونی کہا جاتا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایامش تر کی بیت المال سے اسراف کے ساتھ خرچ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ بیت المال میں اس نے کچھ نہ چھوڑا، جس سے تمام ترکی ناراض ہو گئے اور اس کے مخالف ہو گئے، اس لیے وہ سب اکٹھے ہو کر اس پر حملہ آرہو گئے اور شاہی قلعہ میں اسے اس وقت گھیر لیا جبکہ وہ مستعین کے پاس تھا۔ اس وقت مستعین کے لیے اسے عوام کے حوالے کرنا مشکل ہوا اور انکار کرنا محل ہو گیا، بالآخر انہی ذلت کے ساتھ لوگوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس کا سارا مال اور گھر مع سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے ابو صالح عبد اللہ بن محمد بن یزداد کو اپنا وزیر بنالیا اور بغا صیر کو فلسطین کا اور وصیف کو اہواز کا حاکم بنایا تو ہنگامے اور زبردست فتنے کو ہوئے اور خلیفہ ست اور کمزور پڑ گیا۔

۳۰ جمادی الآخری پنجشنبہ کے دن ”سماں“ میں مغاربہ کے درمیان بے چینی کی لہر دوڑ گئی، جس سے وہ اکٹھے ہوتے جماعت بندی کرتے پھر منتشر ہو جاتے۔

۲۵ رجبادی الآخری بروز جمعہ مطابق ۱۲ رہا تھوڑا ”سماں“ کے علاقہ میں زبردست کڑک، زوردار بارش اور مسلسل بھی کی چمک کے ساتھ گھنگھوڑا چھاتی رہی اور موسلا دھار بارش ہوتی رہی، جس سے شام کے وقت آفتاب کے زرد ہونے تک جاری رہی۔

ماہ ذی الحجه میں ”ری“ میں زوردار زلزلہ اور زبردست بھونچال آیا جس سے وہاں کی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور بہت سی مخلوق ختم ہو گئی، بچے کچے لوگ جنگلوں اور میدانوں میں نکل پڑے۔

اس ماہ میں عبد الصمد بن موسی بن محمد بن ابراہیم امام نے جو کہ مکہ معظملہ کے گورنر تھے لوگوں کو حج کرایا۔

### خصوصین کی وفات:

اسی سال مخصوص لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی، ایوب بن محمد الوزان کتاب السنن کے مصنف حسن بن الصلاح الیز ارجاء، الحافظ التفسیر المافل کے مصنف عبد بن حمید اور عمرو بن علی الغلاس رحمہم اللہ تعالیٰ اور علی بن ہبہم:

بن بدر، بن مسعود، بن اسد القرشی السامی بھی تھے، جو سامہ بن لوئی الخراسانی ثم البغدادی کی اولاد میں سے تھے اور یہ مشہور شعراء اور ان لوگوں میں سے بھی ایک تھے، جن کی دینداری اپنے وقت میں مسلم اور معتبر تھی، ان کے اشعار میں وہ اشعار بھی تھے، جن

میں حضرت علیؓ میں ابی طالبؑ کے خلاف ماتین کی گئی تھیں۔ ان کو خلیفہ المظکل کے ساتھ ایک ناص تعلق تھا، لیکن ایک مرتد وہ ان پر بخت ناراض ہو گئے اس لیے انہیں علاقہ خراسان کی طرف نکال دیا اور وہ میں کے ساتھ کو حصر دیا کردہ انہیں بیکا کر کے مار دے۔ پناجھے اس نے ان لے ساتھ ایسا ہی لیا ان کے کہے ہوئے تھے: ہمہ اشعار میں یہ بھی ہیں:

۱۔ بلا، ایس یعد لئے بلا، عادواً عیسیٰ ذی حسب و دین

ترجمہ: ایک ایسی مصیبت جس کے برابر دوسروی کوئی مصیبت نہیں ہے وہ غیر خاندان ذیل اور بے دین کی دشمنی ہے۔

۲۔ بیحک منہ عرضًا لم یصنه و برتع منک فی عرض مصون

ترجمہ: وہ تمہاری عزت کو اس طرح برباد کرے گا کہ ذرہ برابر اس کا خیال نہ رکھے گا اور وہ تمہاری محفوظ عزت و آبرو میں چڑے گا۔

انہوں نے یہ اشعار مروان بن حفصہ کی بھجو کرتے ہوئے کہے تھے، تب مروان نے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار

کہے:

۱۔ عمرک ما الجھم بن بدر بشاعر وهذا علىٰ بعده يدعى الشاعرا

ترجمہ: تیری زندگی کی قسم، جہنم بن بدر شاعرنہ تھا اور برابر اس کے بعد اپنی شعر گوئی کا دعویٰ کرتا ہے۔

۲۔ ولكن ابى قد کان جاراً لاء، فلما ادعى الاشعار او همنى امرا

ترجمہ: لیکن میرا باب اس کی ماں کا پڑوںی تھا، جب اس نے اشعار کرنے کا دعویٰ کیا تب میرے باپ نے اصل بات مجھے بتا دی۔

علی بن جہنم جو شام آچکا تھا، عراق جانے کے ارادہ سے لوٹا، جب حلہ سے آگے بڑھا تو لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، مجبوراً

اس نے ان سے مقابلہ کیا، جس میں یہ بخت زخمی ہو گیا، بالآخر اسی سے اس کی موت واقع ہوئی، اس وقت اس کے کپڑوں میں ایک

تحریر میں جس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

۱۔ يار حمتا للغريب بالبلدا لانا زح ماذا بنفسه صنعا

ترجمہ: اے رحم اس مسافر پر (رحم کر) جو بہت دور کے شہر میں ہے، کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

۲۔ فارق احبابه فيما انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفعوا

ترجمہ: اس نے اپنے دوستوں کو دار غیر مفارقت دیا جس سے اس کے بعد وہ لوگ، زندگی کا مزہ حاصل نہ کر سکے اور خود اس نے

مزہ نہ چکھا۔

آخر کار اسی سبب سے اسی سال اس نے وفات پائی۔



## واقعات — ۲۵۰

اس سال ابو الحسین میخی بن عمر بن محبی بن حسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب منظہ عام پر آئے تھے ان کی والدہ ام الحسین فاطمہ بنت الحسین بن عبد اللہ بن اسما عیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب تھیں، ان کے ظہور کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک موقع پر ان کو خست فاقہ کی نوبت آئی، اس لیے وہ سامرا آئے اور وصیف سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دو، مگر وہ بہت غصہ ہوا اور خست وست کہہ کر واپس کر دیا۔ اس بنا پر وہ وہاں سے کوفہ کی طرف لوٹ گئے اور کھلے میدان میں اپنا پراؤ ذالاً انہیں دیکھ کر وہاں کے دیہاتی باشندوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت پہنچ گئی، یہ خبر پا کر عراق کے نائب حاکم محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے کوفہ کے گورنر ابو ایوب بن الحسن بن موسی بن جعفر بن سلیمان کو ان سے مقابل کرنے کا تحریری حکم دیا، مگر اس سے پہلے ہی محبی بن عمر اپنی جماعت کے ساتھ کوفہ شہر پہنچ گئے اور وہاں کے بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ مگر اس میں دو بزار دینار اور ستر ہزار درہم کے سوا کچھ نہ پایا، وہاں کو کافی حکم چلنے لگا، انہوں نے وہاں کے دونوں قید خانوں پر قبضہ کر کے ان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اور خلیفہ کے مقرر کردہ تمام حکام، وہ طرف کر کے ان کے مالوں کو لے لیا اور ان سب پر اپنا قبضہ جمالیا۔ اب ان کی حکومت وہاں مضمبوط ہو گئی، اور فرقہ زیدیہ وغیرہ سب ان سے مل گئے، پھر وہ شہر کوفہ سے نکل کر اس کے دیہاتوں کی طرف گئے، مگر دوبارہ کوفہ واپس آ گئے، راستہ میں عبد الرحمن بن الخطاب سے جس کا لقب وجہ الفلس تھا آمنا سامنا ہو گیا، اور دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی، بالآخر وجہ الفلس شکست کھا کر بھاگ گیا، تب محبی بن عمر نے شہر کوفہ میں داخل ہو کر تمام عاشقان آل محمد کو اپنے پاس بلایا، جس سے ان کی طاقت بہت بڑھ گئی، اب کوفہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اس کے بعد بغداد کے عوام شیعہ وغیرہ سبھوں نے ان کو وہاں کا حاکم اعلیٰ مان لیا۔ اس سے قبل وہاں جتنے بھی اہل بیت سے گزرے تھے ان سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگے، اور اب بھتیار اور لڑائی کے سامان خرید کر جمع کرنے اور لوگوں کو اپنے پاس اکٹھے کرنے کی فکر میں لگ گئے، اس موقع پر وہاں کا سابق نائب حاکم وہاں سے دوسری طرف نکل بھاگا، لیکن خلیفہ اور محمد بن عبد اللہ بن طاہر کی طرف سے بڑی بھاری ملک پہنچ گئی، جس سے اس کو زبردست تقویت ہوئی اور اپنے لشکر کو اکٹھا کر لیا۔

### محبی بن عمر کا قتل:

ماورجہ کی بارہویں تاریخ کسی غیر ذمہ دار اور ناجربہ کا شخص نے محبی بن عمر کو مشورہ دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ جنہے بنا کر حسین بن علی کا مقابلہ کریں اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیں، چنانچہ وہ گھوڑ سواروں اور پیلیں چلنے والے کوفہ کے عام باشندوں کی ایک بھاری جماعت کے ساتھ بغیر کسی بھتیار کا انتظام کیے حملہ کے لیے نکل گئے، اور ان سے مقابلہ شروع کر دیا، جس سے آخری رات کی تاریکی میں زبردست قتل و قفال اور مقابلہ کیا، صح ہونے سے پہلے ہی محبی بن عمر کی حقیقت ظاہر ہو گئی، اسی عرصہ میں کسی نے ان کی

بیٹھ میں نیزہ مار دیا، جس سے یہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر گر گئے، فوراً ہی لوگوں نے انہیں پکڑ کر ان کا سر تن سے عدا کر کے اپنے امیر کے سامنے پیش کر دیا جسے ابن طاہر کے پاس بھیج دیا گیا اور انہوں نے اسے دوسرا رے ہی دن ایک آدمی کے ذریعہ خلیفہ کے پاس بھیج دیا، اس کا نام عمر بن الخطاب اور اس نے بھائی کاتام عبد الرحمن بن الخطاب تھا، چنانچہ خلیفہ نے اس تو سامرہ میں تھوڑی دیر کے لیے دن کے وقت اسی سامنگہ پر لٹکا دیا۔ پھر وہاں سے بعد اذن بھیج ریا، وہاں پل کے پاس اے لٹکا تھا مگر جو کم کی زیادتی کی وجہ سے اسے لٹکانا ممکن نہ ہوا، اس لیے تھیمار خانہ میں اسے محفوظ کر دیا گیا، تیجی بن عمر کا یہ سر جب محمد بن طاہر کے پاس لایا گیا تو عوام وہاں جا کر فتح اور کامیابی پر مبارکبادیاں دینے لگے۔ ان ہی میں سے ایک شخص ابو باشم داؤد بن یثم جعفری ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امیر! آپ کو ایک ایسے شخص کے قتل پر مبارکبادی جاری ہے کہ اگر ابھی رسول اللہ ﷺ ہم میں زندہ موجود ہوتے تو وہ خود بھی ان کی تعزیت فرماتے۔ یہ سن کر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو باشم جعفری یہ اشعار کہتے ہوئے ان کے پاس سے نکل آئے:

۱۔ یا بنسی طاهر کلوہ و بیسا      ان لحم النبی غیر مری

ترجمہ: اے بنی طاہر تم اسے بد مرگی کے ساتھ کھاؤ، کھاؤ یقیناً نبی کا گوشت خونگوار نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ ان و ترًا یکون طالعہ الا      هو تر نجاہہ بالحری

ترجمہ: ایسا تھا شخص جس کا چاہنے والا خود خدا ہو، وہ ایسا تھا جسے کہ اس کی کامیابی برحق ہے۔

خلیفہ نے پہلے امیر کو نائب کو فہیمن بن اسماعیل کے پاس روانہ کر دیا تھا، جب تیجی بن عمر قتل کر دیے گئے، تب وہ لوگ کوفہ میں داخل ہو گئے، یہاں پہنچ کر امیر نے یہ چاہا کہ کوفہ والوں کو مارکاٹ کر دیتے ہیں لیکن فہیمن بن اسماعیل نے اسے منع کر دیا اور شہر والوں کو عام معافی دے دی، اس طرح اللہ نے اس فتنہ کی آگ بخادی۔

حسن بن زید کے ہاتھ پر بیعت:

اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینہ میں حسن بن زید ابن محمد بن اسماعیل بن الحسین بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب طبرستان کے علاقہ میں گئے، جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ تیجی بن عمر جب قتل کر دیے گئے تو مستعین نے محمد بن عبد اللہ بن طاہر (نائب عراق) کے نام ان کے ہی علاقہ میں کچھ زمین خاص کر دی اور اپنے منشی کو جس کا نام جابر بن بارون اور نصرانی مذہب تھا، بھیجا کہ وہ زمین ان کے حوالہ کر دے وہ منشی جب اس علاقہ میں پہنچا تو وہاں کے باشندے اس فیصلہ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے حسن ابن زید کے پاس اپنے آدمی سے خبر دی تو وہاں آگئے، ان لوگوں نے ان حسن بن زید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ”دیلم“ کے تمام افراد اور اس علاقے کے بہت سے حکام نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لی، تب وہ لوگ ان لوگوں کی جمعیت لے کر آمد طبرستان کے علاقہ میں داخل ہو گئے، اور زبردستی اس علاقہ پر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں سے خراج وصول کیا۔ وہاں ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی، پھر اس علاقہ کے امیر سلیمان بن عبد اللہ سے قفال کی نیت سے نکلے اور مقابلہ میں آمنا سامنا بھی ہو گیا، اور

بڑے تھے لائی چیز گئی۔ آخر طبقہ ان کو مسیح نکھلتے ہیں۔ اُنہیں لیکن کہ مہاتمی جان بخانے کی ناطڑائیں اُنلی، عیناً اور بال، دلست۔ اب پھر چھپوڑ چھاڑا۔ بھاٹ کے امر جو جان سے پہلے شر کے حسن بن زید، جان سے تکل اُر سارا یہ میں داٹلی ہوئے اور جان کی ساری دلست جاسیدا، وغیرہ و سب پر قسطہ لر لیا۔ اور جیمان نے تمام تحقیقیں سوریوں پر با فزت طور پر ان سے یا اس پہنچا دیئے گئے۔

اس موقع پر حسن بن زید کو پورے طبرستان پر حکومت حاصل ہو گئی، اس کے بعد "ری" کے علاقہ میں اپنی جماعت بھیجی اور اسے بھی اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اور جان سے "ظاہریہ" کو نکال دیا۔ اس کے بعد ہمان کے لشکر کا رخ کیا، جب یہ خبر مستعین کو ملی، ایسے وقت میں کہ اس کے ملک کا منتظم و صیف تر کی تھا تو اس کا بہت زیادہ رنج و غم ہوا، اور حسن بن زید کے قفال کے لیے لشکر اور ساز و سامان بھیجے کا زبردست انتظام کیا۔

### احمد بن عیسیٰ اور ادریس بن موسیٰ کاظہور:

اسی سال عرفہ کے دن احمد بن عیسیٰ بن حسین الصغری، بن علی، بن الحسین بن علی، ابی طالب اور ادریس بن موسیٰ بن عبد اللہ بن موسیٰ بن حسن بن علی ابی طالب کا شہادت آئی، اُن سے لائی چھپر دی بالآخر احمد بن عیسیٰ نے ہی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور عاشق آں محمد کو دعوت دی، مگر یہ بات محمد بن علی، بن علی ابی طاہر کو پسند نہ آئی، اُن سے لائی چھپر دی بالآخر احمد بن عیسیٰ ہی نے انہیں شکست دی۔ جس سے اس کا نام بہت مشہور ہو گیا، اسی زمانہ میں حمص والوں نے اپنے عامل فضل بن قارن پر حملہ کر دیا، اور ماہ رب جب میں انہیں قتل کر دیا۔ تب مستعین نے ان لوگوں کے پیچھے موسیٰ بن بغا الکبیر کو بھیجا اور "الرسن" کے علاقہ میں ان سے قتل و قفال کیا۔ انہیں شکست دی، جان کے کافی باشندوں کو قتل کیا اور بہت سے مقامات کو جلا بھی ڈالا اور جان کے شرافا کو قید و بند میں ڈال دیا۔

اسی زمانہ میں ملک فارس میں شاکریہ اور جان کے لشکر نے عبد اللہ بن اسحاق بن ابراہیم پر حملہ کر ڈالا اور ان ہی دنوں جعفر بن عبد الواحد پر خیفہ نے غصہ ہو کر بصرہ کی طرف نکال باہر کیا اور دارالخلافہ میں امویوں کے بہت سے لوگوں کے ہمہ دے ختم کر ڈالے اور اسی زمانہ میں امیر مکہ جعفر بن فضل نے لوگوں کو حج کر دیا۔

### محضو صین کی وفات:

اسی سال معززین میں سے ان لوگوں نے وفات پائی ہے، ابوالظاہر احمد بن عمرو بن اسرج، مشہور قاریوں میں سے البری، حارث بن مسکین، ابو حاتم البختانی جن کا تذکرہ کچھ پہلے (۲۲۸) کے واقعات میں گزر گیا ہے، عباد بن یعقوب الرواجی، عمرو بن بحر الباخط جو بہت سے فنوں کے ماہر اور بہت سی مشہور تصنیفات والے تھے، کثیر بن عبید الحمسی اور نصر بن علی الجنسی۔



## واقعات — ۲۵۵

### باعز تر کی کا قتل:

مال روں میں باعز تر کی کے قتل کردینے پر مستعین باللہ بغا صفیر اور تینوں ہمی متفق ہو گئے یہ ان بڑے سرداروں اور لیڈروں میں سے ایک تھا، جنہوں نے متول کو قتل کیا تھا، ان کی زمینداری کا حلقة بہت زیادہ اور کارندوں کی تعداد بے شمار ہو گئی تھی، چنانچہ یہ باعز تر کی قتل کردیا گیا اور اس کے غشی دلیل بن یعقوب نصرانی کا گھر لوٹ لیا گیا اور اس کا سارا مال اور اس کی ساری آمدنی چھین لی گئی، اس وقت خلیفہ ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہو کر سامرا سے بغداد پلے گئے تو ان کے چلے جانے کی وجہ سے وہاں کے سارے معاملات درہم برہم ہو گئے یہ وقدمہ محروم کا ہے، چنانچہ خلیفہ وہاں پہنچ کر محمد بن عبد اللہ بن طاہر کے گھر میں ٹھہرے۔

### اہل بغداد اور "سامرا" میں سے ہر ایک کا خلافت کے بارے میں اختلاف:

اسی زمانہ میں بغداد اور سامرا کے لشکر کے درمیان ایک زبردست فتنہ کھڑا ہو گیا، سامرا والوں نے معتز باللہ کے ہاتھ یہ بیعت کی لوگوں کو دعوت دی اور بغداد والے مستعین کی خلافت پر قائم رہے، پھر معتز اور اس کے بھائی موید کو دلیل خانہ سے نکال لیا، اس کے بعد سامرا والوں نے معتز کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور وہاں کے بیت المال کے سارے مال پر قبضہ جمالیا، جس میں صرف پانچ لاکھ دینار اور اس کی ماں کے خزانہ میں دس لاکھ اور عباس بن محمد کے پاس چھ لاکھ دینار جمع تھے، اس طرح سامرا میں معتز کا بہت زیادہ اثر اور زور ہو گیا اور مستعین نے محمد بن عبد اللہ بن طاہر کو بغداد مضمبوط اور حفظ کرنے اور شہر کی دنوں دیواروں اور خندق کی مرمت کا حکم دیا۔ اور اس کام کے لیے تین لاکھ میں ہزار دینار مخصوص کر دیتے۔ اور ہر دروازہ پر ایک ایک آدمی اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا اور چهار دیواری پر پانچ گوپھن (قلعہ شکن) نصب کر دیتے، جن میں سے ایک بہت بڑا تھا، اور اس کا نام غضبان تھا، اور چھ توپیں بھی نصب کیں، علاوہ ازیں دوسرے جنگی ہتھیار اور رکاوٹ ڈالنے کے سامان اور لوگوں کی خاصی تعداد کا انتظام کیا ان باتوں کے علاوہ شہر کے چاروں طرف کے پل توڑوادیئے تاکہ دشمن کے لشکر وہاں نہ پہنچ سکیں۔ پھر معتز نے محمد بن عبد اللہ ابن طاہر کو اپنے پاس بلانے کے لیے خط لکھا تاکہ وہ ان کے معاملات میں مشورے دے ساتھ ہی اس خط میں معتز نے اپنیں وہ باتیں بھی یاد دلائیں، جو ان کے والد متول نے ان محمد بن عبد اللہ سے عبد اور وعدے کے طور پر کہی تھیں کہ میرے بعد میرے ولی عبد یہی معتز ہوں گے۔ لیکن اس نے اس خط کی طرف مطلقاً کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ انکار کر دیا اور اس کے خلاف بہت سی ناقابل ذکر دلیلیں دیں۔

مستعین اور معزز میں سے ہر ایک کاموئی بن بغنا کے نام دعوت نام۔

پھر مستعین اور معزز میں سے ہر ایک نے موئی بن بغنا کیہر کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس وقت خط لکھا جس کو وہ شاملے عادتوں میں مقسم تھا تا آئے خس والوں سے لرائی کی جائے۔ علاوه ازیں اس کے یا س کی بھندے بھنی بیجتے تا لہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے جس کسی کو پا ہے اسے یہ جملہ دے۔

اسی طرح مستعین نے بھی اسے ایک خط لکھا تا کہ وہ بغداد میں اس کے پاس آ جائے اور اس کی حکومت میں اس کی نیابت کرے چنانچہ یہ خط پاتے ہی فور اسواری پر سوار ہو کر سارا شہر پہنچا اور مستعین کے مقابلہ میں معزز کا ساتھ دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن بغنا الصغری اپنے والد کے پاس سے بغداد سے بھاگ کر معزز کے پاس پہنچا۔ اس کے علاوہ دوسرے امراء اور رکوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد معزز نے اپنے بھائی ابو احمد متوفی کی سر کردگی میں مستعین کے خلاف بغداد کی طرف ایک جماعت بھیجی اور اس کے ساتھ ایک لشکر بھی روانہ کر دیا، جس میں پانچ ہزار تر کی وغیرہ تھے، اس نے وہاں سے روانہ ہو کر عکبر اس جا کر جمع دی نماز پڑھی اور اپنے بھائی معزز کے لیے دعا کیں مانگیں، پھر وہ اتوار کی رات ساتویں صفر کو بغداد شہر پہنچا، تو وہاں بھی ایک بڑا لشکر اس سے آ کر لگا۔ اس موقع پر ابو احمد کے لئے میں سے ایک شخص نے جسے باز فجانہ کہا جاتا تھا یہ اشعار کہے۔

۱۔ يابنى طاهر حنود إلا ه والمىوت بىنهما مشور

ترجمہ: اے طاہر کی اولاد اللہ کے اس لشکر سے بچو، جس کے درمیان موت پھیلی ہوئی ہے۔

۲۔ و جيوش امامهن ابو احمد نعم المولى و نعم النصير

ترجمہ: اور اس لشکر سے جس کے آگے ابو احمد ہے، جو بہتر آقا وہ برہے اور بہترین مددگار ہے۔

اس کے بعد ان دونوں میں زبردست جنگ ہونے لگی، اور بہت زیادہ دل دہلانے والے ہنگامے اور واقعات ہوئے جنہیں این جریئے تفصیل سے ذکر کیا ہے، پھر معزز نے اپنے بھائی ابو احمد کی مدد کے لیے موئی بن اوشاں کی سر کردگی میں تین ہزار لشکر کی لکھ بھیجی جو ان کے پاس اس وقت پہنچی جب کہ ماہ ربیع الاول کی صرف ایک آخری رات باقی رہ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر شہر کے مغربی کنارے قطر میں کے دروازے پر پہنچ گئی، اور ابو احمد اور اس کے ساتھیوں نے شایسه کے دروازہ پر ناکہ بندی کر دی، اس وقت کی لڑائی اپنے عروج پر تھی، بہت زیادہ مارکات ہو رہی تھی، اور لوگ بے حساب مر رہے تھے۔

ابن جریر نے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ کہا ہے کہ معزز نے اپنے بھائی ابو احمد کو ایک خط لکھا، جس میں اس بات پر ملامت کی تھی کہ اس نے لڑائی کے موقع پر بغداد والوں میں زرمی اور کوتا ہی کیوں دکھائی، تو اس نے جواب میں یہ اشعار لکھ بھیجے۔

(۱) لا مر المنايا علينا طريق وللدهر فيما اتساع و ضيق

ترجمہ: ہمارے پاس موت آنے کا ایک راستہ ہے، اور ہمارے حق میں زمانہ میں وسعت اور تنگی ہے۔

(۲) و اياما عبس للانام فمنها البكور ومنها الطرق

**ترجمہ:** ہمارے شب و روز لوگوں کے لیے پلوں کی مانند ہیں ان میں سے کچھ تو صبح سوریے اور کچھ رات کو آنے والے ہوتے ہیں۔

(۱) وَمِنْهُمْ أَذْيَاءُ اللَّيْلِ فَيَهُمْ لِفِيهَا الْمُسَارِقُ الْمُمْبَلِقُونَ

**ترجمہ:** ان میں سے کچھ برمی خصلتوں والے ہیں جو بچے اور بڑھا نہ رت ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن میں ایک کہرا دوست اپنے گذری دوست کو سوا کرتا ہے۔

(۲) وَسُورٌ عَرِيقٌ لِهِ ذِرْوَةٌ تَفُوتُ الْعَيْنَ وَبَحْرٌ عَمِيقٌ

**ترجمہ:** اور ایک چوڑی شہر پناہ ہے جس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں اور ایک گہرادریا بھی ہے۔

(۳) قَتَالٌ مَبِيزٌ وَسِيفٌ عَتِيدٌ وَخُوفٌ شَدِيدٌ وَحَصْنٌ وَثِيقٌ

**ترجمہ:** ہلاک کر دینے والی لڑائی ہے اور تیار کی ہوئی تلوار ہے اور زبردست خطرہ ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔

(۴) وَطُولٌ صِبَاحٌ لِدَاعِيِ الصَّبَاحِ السَّلَاحُ السَّلَاحُ فَمَا يَسْتَفِيقُ

**ترجمہ:** اور ایک ایسی لانبی زوردار چیز ہے صبح تو پاکرنے والے کی، ہتھیار بھیار کہتے ہوئے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

(۵) فَهَذَا طَرِيقٌ وَهَذَا حَرِيقٌ وَهَذَا حَرِيقٌ وَهَذَا غَرِيقٌ

**ترجمہ:** یہ پہنچنا ہوا ہے اور یہ یزخی پڑا ہوا ہے اور یہ جلا ہوا ہے اور یہ ذوبا ہوا ہے۔

(۶) وَهَذَا قَلِيلٌ وَهَذَا تَلِيلٌ وَاحْرِي شَدِحَهُ الْمَنْجِنِيقُ

**ترجمہ:** اور یہ قتل کیا ہوا ہے اور یہ پچاڑا ہوا ہے اور دوسرا وہ ہے جسے گوپن پر چور کر رہا ہے۔

(۷) هَنَاكَ اغْتَصَابٌ وَشَمٌ انتِهَابٌ وَدُورٌ حَزَابٌ وَكَانَتْ تَرُوقٌ

**ترجمہ:** یہاں زبردست چھین جھپٹ ہے اور وہاں لوٹ مار ہے اور ویرانے اور تباہ شدہ گھر ہیں جو لوگوں کو خوش کیا کرتے ہیں۔

(۸) إِذَا مَا سَمَوْنَا إِلَى مَسْلِكٍ وَجَدْنَاهُ قَدْ سَدَعْنَا الطَّرِيقَ

**ترجمہ:** جب ہم ایک راستہ پر بلند ہونے لگے تو ہم نے اس راستہ کو آگے سے بند پایا ہے۔

(۹) فَبِاللَّهِ نَبْلُغُ مَا نَرْجِيْهُ وَبِاللَّهِ نَدْفَعُ مَا لَا نَطِيقُ

**ترجمہ:** پس اللہ کی قسم جہاں کی ہم امید کرتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے اور اللہ کی قسم ہم ڈور کر دیں گے ایسی چیز کو بھی جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔

ابن جریر نے کہا ہے کہ یہ اشعار علی بن امیہ کے ہیں جو مخلوع اور مامون کے فتنے میں کہے گئے تھے۔

شہر بغداد میں مختز کے بھائی ابو احمد اور مقتعم باللہ کے نائب محمد بن عبد اللہ بن طاہر کے درمیان فتنہ اور فساد جاری رہا، پورا

شہر گھیرے میں رہا، وہاں کے باشندے اس سال کے باقی آخری مہینوں تک سخت مشکلوں میں رہے متعدد واقعات اور حملوں اور

منسوس دنوں میں وہ نوں طرف سے برہت ی مغلوق خدا تعالیٰ کی آنکھیں بھی ابو اسرار کی جسمات کے لگے ٹالے آئی تے اور شر کے کچھ دروازے اپنے برخاں پر ٹھانے آئیں تو جواب میں طاحن کے خانہ اون دائیے ان برخانے پر کئے انہیں مار بھکارت اور ان کی بہت سے افراد کو قتل بھی کر دیتے۔ پھر اپنی اپنی گاؤں یہ واہیں آجائے اور وہ اس باب ایسا ہے کہ درست سب اپنے ہے میں معاشرے کرتے۔

### ابن طاہر کا مستعین سے منافقت کے ساتھ پیش آنا

لیکن جب بھی بغداد میں غلط اور دوسرے ضروری سامان کی باہر سے آمدن میں کمی کی بنا پر ان کے باشندوں میں پست ہمتی آنے لگتی، عوام میں یہ باست مشہور ہوئے لگتی کہ محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے مستعین کو علیحدہ کر کے معذرت سے بیعت ہو جانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ حالت اس سال کے آخری دنوں کی ہے، تفتیش کرنے پر ابن طاہر ان باتوں سے برأت کا اظہار کرتا اور خلینہ اور عوام اس بکے سامنے بے قصوری ظاہر کرتا اور بڑی سے بڑی فتنیں کھا کر اطمینان دلانے کی کوشش کرتا، پھر بھی عوام میں اس کی طرف سے اطمینان نہ ہوتا اور یقین نہ آتا، ایک مرتبہ لوگ بڑی قدر میں این طاہر کے مکان کے ارد گرد بیج ہو گئے اور ہنگامے کرتے رہے، اس وقت خلینہ بھی وہیں موجود تھے، اس کے بالائی حصے خلیفہ خود ان کے سامنے آنے اس حال میں کہ ان کے بدن پر سیاہ کپڑے تھے، اور ان کے اوپر نبی کریم ﷺ کی چادر اور ایک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور ان کو مناسب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس چادر اور چھڑی والی کی قسم دے کر کھاتا ہوں کہ تم سب اپنی اپنی بچہوں پر لوٹ جاؤ اور ابن طاہر سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرے نزدیک وہ بڑی ہے اور کسی طرح کا اسن پر الزام یا تہمت نہیں ہے، یہ سن کروہ لوگ نا موش ہو گئے، ان کا چیخنا چلا نا بدہ ہو گیا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، پھر خلیفہ ابن طاہر کے مکان سے رازق الخادم کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحجه کے ابتدائی دنوں کا ہے، خلیفہ نے وہاں پہنچ کر اس جنگرہ میں بقر عید کی نماز پڑھائی، جوابن طاہر کے مکان کے مقابل تھا، اس دن خلیفہ لوگوں کے سامنے اس صورت میں آئے کہ ان کے سامنے ایک نیزہ تھا، اس کے اوپر چادر پڑی تھی اور ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ دن بغداد والوں کے لیے تاریخی دن تھا کہ اس کے باشندے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ہر چیز کا دام آسمان سے با تین کر رہا تھا اور عام لوگوں پر ڈر اور بھوک دنوں چیزیں جمع تھیں، جن کا اظہار بھوک اور ڈر کے لباس سے ہو رہا تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دنوں جگہ عافیت سے رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔

### ابن طاہر کا مستعین کو معتبر باللہ کے حق میں اپنی خلافت سے دست برداری کے لیے آمادہ کرنا:

اب جبکہ حالات اتری کی انتہا کو پہنچ ہوئے تھے بدحالی بڑھی ہوئی، راستہ نگ بچھو کے اور مرد پر بیان حال تھے، ایسے وقت میں ابن طاہر نے مستعین باللہ کی برخاشگی کے جس خیال کو دل میں چھپا کر تھا، اسے مستعین کے رو برو اشارۃ کنایۃ ظاہر کرنے لگا، پھر را آگے بڑھ کر کھل کر بیان کرنے لگا، اور باضابطہ مناظرہ کرنے لگا، پھر کہنے لگا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کچھ نقد اور سچھ مسئلہ میں لین دین کا معاملہ کر کے خلافت سے دست بردار ہو کر مصالحت کر لیں اور آئندہ کی ضرورت اور اخراجات کے مطابق اپنے لیے سالانہ وظیفہ لینے کا معاملہ طے کر لیں، پھر چلتے پھرتے ہر جگہ اور موقع پر انہیں بہکاتا رہا۔ بالآخر انہوں نے اس کی

باست مان لی اور اپنے خیال سے وہ باز آگئے چنانچہ مستعین نے اپنی خلافت سے دست برداری کے لیے بعثی شرطیں طے کیں اس سے ایک کائنٹر پر ود مید معاہدہ میں شفیع میں لمحہ تھیں پھر فی الحقیقہ میں احمد بن عبد اللہ بن طاہر ایمہ برداری کے لیے ایک کائنٹر پر ود مید معاہدہ میں پہنچا اور نیا امام قائم ہوا اور نیا امام جماعت فی الحقیقہ میں مستعین کے سامنے انتخاب کیا گیا۔ اب اتفاقیت میں اس کا اعلان کیا گیا اس باست یہ نہاد بنایا اور مستعین نے اپنے سامنے اختیارات بھی (یعنی حمد بن عبد اللہ بن طاہر) کو پہنچ دیئے ہیں اسی طرح دربانوں اور دوسرا ملازمیں کے ساتھ بھی کیا پھر ان کی مہر خلافت پر قبضہ کر لیا اور رات کو کافی زیر تک مستعین کے پاس بیٹھا رہا، اور ہر صبح ہوتے ہی لوگوں میں اس کے متعلق چیزیں کیا اور فرضی من گھڑت مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں اس کے بعد امرا، اور حکام کی ایک جماعت نے ابن طاہر نے سامرا میں معزز کے پاس ایک خط دے کر بھیجا یہ لوگ جب معزز باللہ کے پاس ابن طاہر کا خط لے کر پہنچ گئے تو انہوں نے ان لوگوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا، خلعت دیئے اُنہیں بہت زیادہ انعامات اور قیمتی تھائے بھی دیئے۔

اب عنقریب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے بعد پہلے سال میں کیا کیا معاملات پیش آئے۔

### متفرق باتیں:

سال روایت کے ماہ ربیع الاول میں علاقہ قزوین اور زنجبار میں اہل بیت میں سے ایک شخص کاظہور ہوا، جس کا نام حسین بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل الارقط بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن طالب تھا، جو الکوہی کے نام سے مشہور تھا، اس سے متعلق باتیں ہم عنقریب بیان کریں گے۔

اسی سال اسماعیل بن یوسف العلوی کا بھی ظہور ہوا، جو کہ مولیٰ بن عبید اللہ کا بھانجہ تھا۔ اس کے متعلق بھی عنقریب نے لکھا ہو گی، اسی سال کوفہ میں بھی بنی طالب کے ایک شخص کاظہور ہوا، جس کا نام حسین بن محمد بن حمزہ بن عبد اللہ بن حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب تھا۔ اس سے مقابلہ کے لیے مستعین نے مراحم بن خاقان کو بھیجا دنوں میں لڑائی ہوئی، بالآخر مراحم نے علوی کو شکست دے کر اس کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ مراحم جب کوفہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک ہزار گھروں کو جلاڈا اور جو علوی کے ساتھ نکلے تھے ان کے مالوں کو لوٹ لیا، اس کے علاوہ حسین بن محمد کی کچھ آزاد شدہ باندیوں کو نیچ ڈالا۔

### حر میں شریشین میں اسماعیل بن یوسف کی غارتگری:

اسی سال مکہ مکرمہ میں اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسین بن علی بن ابی طالب کاظہور ہوا تو اس سے ڈر کر دہاں کا نائب گورنر جعفر بن فضل بن عیسیٰ بن موسیٰ بھاگ گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے گھروں کو لوٹ لیا، کچھ لشکر والوں اور ان کے علاوہ مکہ کے کچھ باشندوں کو بھی قتل کر دا اور خانہ کعبہ میں سونا چاندی، خوشبو اور غلاف خانہ کعبہ وغیرہ جو کچھ تھا اس نے سب لوٹ لیا، اور عوام سے بھی دولا کھدینا رچھیں لی، پھر دہاں سے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو وہاں سے بھی

اس کا تابع گورنر نکل بھاگا، جس کا نام علی ہن حسین بن علی ہن اسماعیل تھا، اس کے بعد ماہر جب میں یا اسماعیل ان یوسف پھر کے معظمه کی طرف آیا اور وہاں کے لوگوں کو زبردست لکھیرے میں لے آیا، یہاں تک کہ وہاں کے اکثر باشندے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلاک ہو گئے، وہاں گرانی اس قدر بڑھی کہ آیک درہم کے نوش سرف تین اوپریہ (تقریباً سوادو پچھانائے) رولی ملت اور ایک روپی (نصف سیر) گوشت چار درہم کا اور ایک جگ پانی تین درہم میں ملتا۔ مکمل تکمیل والوں نے ان لوگوں کی وجہ سے ہر قسم کی مصیبت حصلی، اس طرح یہ لوگ ستھرہ (۷۱) دن یہاں رہ کر جدہ کی طرف چلے گئے، وہاں بھی ان کے کاروباریوں سے بہت سے مال لوٹ لیے۔ ان کی سواریاں چھین لیں، اور مکمل غلامے لے جانے والوں کے ذخیروں کو بھی لوٹ لیا۔ وہاں سے پھر مکہ میں لوٹ آئے۔ اللدان کا برآ کرے اور وہی ان سے مسلمانوں کا بدلتے۔

اس بنا پر یومِ عرفہ میں لوگوں کے لیے دن یا رات کسی وقت بھی وہاں وقوف کرنا ممکن نہ ہوا، اللدان کے کسی قسم کے صدقات و خیرات قبول نہ کرے، ان مذکورہ باتوں کی وجہ سے خلافت کے معاملات بہت کمزور ہو گئے۔

#### مخصوصین کی وفات:

اسی سال خواص میں سے ان لوگوں کا انتقال ہوا۔ اسحاق بن منصور الکونخ، حمید بن زنجویہ، عمرو بن عثمان بن دینار الحفصی اور ابوالحق ہشام بن عبد الملک الیزني۔



## واقعات — ۲۵۲

### معز باللہ کی خلافت کا ذکر:

(مستعین باللہ کی اپنی خلافت سے دستبرداری کے بعد معز باللہ بن متکل علی اللہ کی خلافت کا ذکر)

اس سال ۲۵۲ھ کی پہلی تاریخ کا چاندایے دنوں میں نکلا جبکہ ابو عبد اللہ محمد المعتر بن جعفر المتولی بن محمد معتصم بن ہارون الرشید کے نام کی خلافت قائم اور پختہ ہو چکی تھی، خلیفہ المعتر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کا اصل نام احمد ایکس و سرے قول میں زیرِ حق، ابن عساکر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اپنی کتاب تاریخ میں اسی نام کے حالات ذکر کیے ہیں۔ جب مستعین نے اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے خلیفہ المعتر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو بغداد کی جامع مسجدوں کے خطبیوں نے ۲۴ محرم جمعہ کے دن ممبروں پر المعتر باللہ کا ہی نام لیا، اور یہ مستعین خود اور ان کے اہل و عیال، باندی اور غلام وغیرہ سب رصافہ سے حسن بن سہل کے قلعہ میں منتقل ہو گئے، اس کام کے لیے ان پر سعید بن رجاء کو ایک جماعت کے ساتھ مسلط کیا گیا، ان لوگوں نے مستعین سے خلافت کی چادر، چھڑی اور انگوٹھی بھی واپس لے کر خلیفہ المعتر کے پاس بھیج دی، پھر المعتر نے خصوصی طور سے مستعین کے پاس آدمی بھیج کر ان سے قیمتی موتیوں کی وہ دو انگوٹھیاں جوان کے پاس تھیں: نگوا بھجیں، ان میں سے ایک کا نام برج اور دوسری کا نام جبل تھا، چنانچہ انہوں نے وہ دونوں انگوٹھیاں حوالہ کر دیں، اس کے بعد مستعین نے وہاں سے مکہ مظہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تب انہوں نے بصرہ جانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ وہ علاقہ آسیب زدہ ہے، تو مستعین نے جواب دیا کہ خلافت کا چھوڑنا اس سے بھی زیادہ آفت زدہ ہے، بالآخر انہیں شہر واسط کی طرف جانے کی اجازت مل گئی، تو وہ وہاں سے اس طرح نکلے کہ ان کے ساتھ چار سو حافظین بھی تھے۔ اس کے بعد المعتر نے احمد بن ابی اسرائیل کو اپنا وزیر بنالیا اور اسے قیمتی جوڑا پہنایا اور اس کے سرپرستاج رکھ دیا۔ اب جبکہ بغداد کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور معتر کی خلافت کی بیعت پختہ ہو گئی اور وہاں کے تمام باشندے ان کے فرمان کے تابع ہو گئے، اور لوگوں نے ہر طرف سے غلے اور لوازمات زندگی بھیجنے شروع کر دیئے، اور عوام میں ہر قسم کے کھانے پینے کے لیے غلوں کے لیے پوری فراوانی ہو گئی، تب ابو احمد محرم کی بارہویں تاریخ ہفتہ کے دن وہاں سے نکل کر سامرا کی طرف گیا اور عبد اللہ بن طاہر اور اس کے ساتھ دوسرے حکام نے بھی آگے بڑھ کر رخصت کیا، اسی موقع پر ابو احمد نے ابن طاہر کو کپڑے کے پانچ قیمتی جوڑے اور ایک تواریخی کی اور استہانی سے اسے بغداد کی طرف واپس کر دیا۔

### المعتر کی شان میں شعراء کے قصیدوں کے نمونے:

اس موقع پر ابن جریر نے المعتر کی شان میں شعراء کے مدحیہ قصیدے نقل کیے ہیں، جو المعتر کی تعریف اور مستعین کی خلافت سے دستبرداری پر لوگوں کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور بڑھ چڑھ کر ان کے اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان اشعار میں سے چند یہ بھی ہیں، جن میں محمد بن مردان بن ابی الحجوب بن مردان نے معتر کی تعریف اور مستعین کی برائی بیان کی

ستہ جسے کہ شعراً کی پرانی عادت ہے۔

(۱) إِنَّ الْأَمْرَرِ الَّتِي أَنْهَا فِي طَرِيقِ الْمُجْتَمِعِ  
تَرْجِمَة: ایسے انتیاریں اور ادائی متعین کی طرف لوٹتی ہیں اور مستحسن اپنی پرانی التواریخ پر اپنی ایج

(۲) وَ كَمَان يَعْلَمُ أَنَّ السَّلْكَ لَيْسَ بِهِ  
ترجمہ: وہ یہ جانتے تھے کہ ملک ان کے پاس رہنے والائیں ہے اور یہ ملک تمہارا ہی ہو کر ہے گا، پھر بھی انہوں نے خود کو دھوکہ دیا۔

(۳) وَ مَالِكُ الْمُلْكِ مُؤْتَيْهِ وَ نَازِعَهُ  
ترجمہ: ساری بادشاہوں کا بادشاہ (خداوند قدوس) ہی ملک کسی کو دینے والا اور اس سے چھینتے والا ہے اسی نے یہ ملک تمہیں دیا

ہے اور اس (مستعین) سے چھینا ہے۔

(۴) إِنَّ الْحَلَافَةَ كَانَتْ لَا تَلَائِمَةَ  
ترجمہ: یقیناً یہ خلافت ان کے لیے بالکل ہی موزوں نہیں تھی، جیسا کہ شوہروں کی عورت نے کسی مرد سے نکاح منعقد کر لیا ہو۔

(۵) مَا كَانَ أَفْبَعُ عِنْدِ النَّاسِ بِيَعْتِهِ  
ترجمہ: لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت قبول کرنے بہت برآ کام نہ تھا، لیکن لوگوں کا یہ کہنا بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کر لی ہے۔

(۶) لَيْسَ السَّفَيْنِ إِلَى قَافِ دَفْعَنِ  
ترجمہ: اے کاش کشیاں اسے کسی نیلہ کی طرف ڈال آئیں میری جان اس ملاح پر قربان ہوتی جوانہیں ڈال آتا۔

(۷) كَمْ سَاسَ قَبْلَكَ الرَّنَاسُ مِنْ مَلْكٍ  
ترجمہ: کتنے ہی بادشاہوں نے تم سے پہلے لوگوں پر حکمرانی کی ہے۔ اگر وہ بوجہ جو تم پر ڈالا گیا ہے، اگر ان میں سے کسی پر ڈالا جاتا تو وہ اس بوجہ کی وجہ سے لگڑا کر چلے گتا۔

(۸) اَمْسَى بِكَ النَّاسُ بَعْدَ الضَّيْقِ فِي سَعَةٍ  
وَاللَّهُ يَجْعَلُ بَعْدَ الضَّيْقِ مَتَسْعًا  
ترجمہ: لوگ تکیوں میں مبتلا ہو کر اب خوشحالی کے دن گزار رہے ہیں، اور اللہ تو تکی کے بعد فراغی دیتا ہی ہے۔

(۹) وَاللَّهُ يَدْفَعُ عَنْكَ السُّوءَ مِنْ مَنْكَ  
ترجمہ: اللہ اس بادشاہت کے طفیل تمہاری ساری برا بیوں کو دور کر دے، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہی بدولت ہم سے ساری برا بیوں کو دور کر دیا ہے۔

خلیفہ معزز نے سامرا سے بغداد میں اپنے نائب محمد بن عبد اللہ بن طاہر کو تحریری حکم دیا کہ وصیف اور بغا کے ناموں کے رجسٹر میں جن لوگوں کے نام ہیں، سب کے نام ختم کر دو، اس طرح انہوں نے ان دونوں کے قتل کا قصد کیا، لیکن بعد میں ان دونوں سے راضی کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ ان دونوں سے بھی راضی ہو گئے۔

اسی سال ماہ ربیع میں خلیفہ عتر نے اپنے بھائی ابراہیم کو جس کا لقب ہوتا تھا، تکمیلت کے عہد سے پڑے بر طرف کر کے پہنچے چاہئے ورنہ اسے چھڑا کے۔ اور وہ سب سے بھائی ابو مدینہ ایشیا سمیعیہ میں رہا۔ اس سے پہنچے، جس سے اس بھائی کا امام اور ازدواجی ساتھی تھا اسے یہ حکم دیا۔ لازم ہواستغفار مدد پیش کر دے اس کے بعد، ہجرت پندرہ ہجری میں، نجد، بحیرہ روم میں اس کی موت ہوئی۔ یہ بات شوربہ کے اسے سور کے لئے اسے دنوں کے درمیان میں بخوبی سے پکار لیتے کہ اس طرح اس کی موت دم گھٹ کر واقع ہوئی، اسی طرح دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اسے ہرف کی سلوک سے مارا کیا۔ یہاں تک کہ مخدوش سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد اسے قید خانہ سے اس طرح نکالا گیا کہ اس چوٹ کا اس پر کوئی اثر نہ تھا، پھر وقت کے قاضیوں اور حاکموں کو بلا کر دکھایا گیا تو ان سب نے بغیر کسی سبب کے اس کی موت کی گواہی دے دی۔ پھر کتنے کے ساتھ اسے گدھے پر سوار کر کے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، تو اس نے اسے دفن کر دیا۔

### مستعین کے قتل کا بیان:

سال روائی کے ماہ شوال میں معتز نے اپنے نائب محمد بن عبد اللہ بن طاہر کو ایک خط کے ذریعہ حکم دیا کہ تم مستعین کے مقابلے میں جانے کے لیے ایک لشکر کا انتظام کرو جن نچہ احمد بن طولون ترکی نے اس کام کے لیے زبردست تیاری کی اور جب رمضان کے صرف چھوٹے باقی رہ گئے، اس وقت مقابلہ کے لیے تھکا اور ماہ شوال کی تیسری نارخ قاطول انہیں پکڑ کر لے آیا، اور قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ ایک اور قول یہ ہے دو جملہ میں انہیں بودیا گیا، ایک اور قول یہ ہے کہ ان کی گردان اڑا دی گئی۔ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ سعید بن صالح، جوان سے قتل پر نامور تھا، اس نے جب مستعین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو مستعین نے اس سے درخواست کی کہ صرف دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دو چنانچہ اس نے اتنی مہلت دی، لیکن جب یہ آخری سجدہ میں تھا، اسی وقت ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر ان کے بدن کو اسی جگہ فن کر دیا جسی پر انہیں قتل کیا تھا، مگر اس بند کے نشانات مٹا دیئے گئے۔ اس کے بعد ان کا صرف سر لے کر معتز کے پاس گیا، اس کے پاس وہ اس وقت پہنچا جبکہ معتز شفرونخ کے کھیل میں مشغول تھا، وہاں پہنچ کر اسے کہا گیا کہ مستعین خلیفہ کا یہ سر ہے، تو اس نے نہایت لا پرواہی کے ساتھ کہا ابھی اسے رکھ دوتا کہ میں اپنے اس کھیل سے فارغ ہو جاؤں، چنانچہ اس نے فارغ ہو کر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اس کے دفن کرنے کا حکم دیا، پھر اس سعید بن صالح کے لیے، جو اس کا قاتل تھا، پہچاں ہزار درہم انعام کے طور پر دینے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اسے بصرہ کا حاکم بھی مقرر کر دیا۔

### محصوصین کا انتقال:

سال روائی میں ان محصوص لوگوں کا انتقال ہوا، اسماعیل بن یوسف علوی، یہ وہی بدنام زمانہ شخص ہے، جس نے حرم کا مکہ معظمه میں بلکہ ان حرکتیں کی تھیں، جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ پاک نے اسے فی الفور ہلاک کر دیا۔ مزید مہمات نہیں دی اور احمد بن <sup>المُعْتَصِم</sup>، جن کا لقب <sup>الْمُسْتَعِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى</sup> تھا۔ جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، اسحاق بن بہلوی، زیاد بن ایوب، محمد بن بشار غنڈر، موسیٰ بن <sup>الْمُشْتَیِ الْزَمْنِ</sup> اور یعقوب بن ابراہیم الاورقی۔

## — واقعات — ۲۵۳

اس سال ماہ ربیع میں خلیفہ مختار نے تقریباً چار ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر موئی بن بغای ماتحتی میں بہمنہ ان کے اطراف میں عبد العزیز بن دلف کے مقابلہ کے لیے بھجا، کیونکہ اس نے حکومت سے سرکشی کی تھی اور وہ تقریباً نیک ہزار افراد کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار تھا۔

### عبد العزیز کی شکست:

چنانچہ موئی بن بغای سال کے آخر ٹوں میں عبد العزیز کو زبردست شکست دی، پھر دوبارہ ماہ رمضان میں کرج کے قریب ان دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اس مرتبہ بھی عبد العزیز کو ہی شکست ہوئی، اور اس کے لشکر کے بہت سے افراد قتل کیے گئے اور بہت سے نو عمر پر قیدی بنائے گئے۔ یہاں تک کہ عبد العزیز کی ماں بھی گرفتار کر لی گئیں۔ مقتولوں کے سر اور بہت سے سرداروں کو ستر اٹوں پر رکھ کر معتز کے پاس بھیج دیا گیا اور عبد العزیز کے قبضہ میں جتنی چیزیں اور جو علاقوں تھے، سب اپنے قبضہ میں لے لی گئیں، ماہ رمضان میں بنا الشرابی کو خلعت دیا، اس کے بعد تاج رکھا اور قیمتی جڑا اور پچکے دیے۔

عید الفطر کے دن ایک ایسی جگہ میں جس کو بوازن نہیں جاتا تھا۔ ایک زبردست واقعہ درپیش ہوا۔ اس طرح پر کہ وہاں ایک شخص جس کو مساور بن عبد الحمید کہا جاتا تھا، اس علاقہ کا حامی بنا گیا، تقریباً سات سو خوارج اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

### بندار کا قتل:

تو اس مساور کی مدد کو ایک شخص جسے بندار طبری کہا جاتا تھا اپنے تین سو سا تھیوں کو لے کر آئے، اس وقت دونوں فریقوں میں زبردست مقابلہ ہوا، جس سے خوارج کے تقریباً پچاس آدمی اور بندار کے دو سو سا تھی، ایک اور قول میں ان کے علاوہ پچاس سا تھی اور بھی قتل کردیے گئے، ان مقتولوں میں خود بندار بھی تھے۔

اس کے بعد یہی مساور ٹلوان کی طرف چلا گیا، تو وہاں کے باشندوں نے اس سے مقابلہ کیا اور خراسانی حاجیوں نے بھی ان کی بروقت مدد کی، پھر بھی مساور نے ان کے چار سو آدمیوں کو قتل کیا اور خود اس کی جماعت کے بھی بہت سے آدمی مارے گئے۔

### وصیف کا قتل:

ستانیسویں شوال کو وصیف تر کی قتل کر دیا گیا، اس کے بعد عوام نے یہ چاہا کہ سامرا میں اس کے اور اس کی اولاد کے گھر اور سامان کو لوٹ لیں، مگر اتفاق سے اس کے لیے یہ بات ممکن نہ ہو سکی، اس کے بعد اس کے پاس جو اختیارات تھے خلیفہ نے وہ سب

بن الشراطی کو دیتے ہیے۔

اس سال کے مذکوری المتعده کی پودا تھیں تا۔ سچ یا نام کرہنے والا یہاں تک کہ اس نے زیادہ دس سال تک بہو کیا اور اس کی رہائشی  
تھر بیان فتحم ہے۔

### اہن طاہر کی وفات

گھنی کے ختم ہوتے وقت عراق کا نائب حامی محمد بن عبد اللہ بن طاہر بغداد میں وفات پا گیا۔ اس کی بیماری اس سے سراور  
حلق کے زخم تھے۔ گویا ان زخموں نے اسے ذبح کردار الاجب اس کے جنازہ کو نماز پڑھنے کے لیے لا یا گیا تو اس کے بھائی عبد اللہ  
اور اس کے بیٹے طاہر نے اختلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ تواریخ سونت لی گئیں، لوگوں پر پھر پھینکنے جانے لگے، اور لوگ جیخ جیخ کر  
اے طاہر! اور اے منصور! کہہ کر پکارنے لگے، اس وقت بھائی عبد اللہ شریقی جانب روادہ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے  
ساتھ بڑے بڑے عہدے داران اور ذمہ داران بھی تھے بالآخر بھی اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے باپ  
نے بھی اسی کو اس بات کی وصیت کی تھی: جب خلیفہ المعز کو ان باتوں کی خبر ملی تو اس نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن طاہر کو قیمتی اور عمدہ  
خلعت دینے کے علاوہ حکومت بھی سونپی، جبکہ خلعت اور خوشخبری لے کر آدمی اس کے پاس پہنچا تو اس نے جانے والے کو بچا س  
ہزار درهم بطور انعام دیے۔

اسی سال خلیفہ المعز نے اپنے بھائی ابو الحمود سرمندی (سامرا) سے واسطہ کی طرف پلے جانے کا حکم دیا۔ ہاں سے بصرہ  
پھرہاں سے بھی بغداد کو روانہ کر دیا۔

### موی بن بغا اور الکوکبی کے درمیان زبردست لڑائی کے بعد قزوین پر موی کا قبضہ

اور جب سوہار کے دن ذوالقعدہ کامبینڈ ختم ہو گیا تو موی بن بغا الکبیر اور اس حسین بن احمد الکوکبی الطالبی کا آمنا سامنا ہوا،  
جس کا ظہور قزوین کے نزدیک ۲۵۴ھ میں ہوا تھا، دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی بالآخر موی بن بغا نے اس الکوکبی و شکست دے  
دی اور قزوین پر قبضہ جمالیہ اور الکوکبی کی طرف بھاگ گیا۔

ابن جریر نے ان لوگوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے جو اس لڑائی میں موجود تھے کہ اس لڑائی کے موقع پر اس الکوکبی نے اپنے  
لوگوں کو اس میدان میں خالص چڑھے سے بنی ہوئی ڈھالوں کے استعمال کا حکم دیا، جن میں تیر اثر نہیں کرتے تھے، تو جواب میں  
موی بن بغا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے پاس الکتر (ناکلور) ہے اسے جگہ جگہ ڈالتے رہیں اور لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے  
یہ طاہر کریں کہ ان لوگوں سے شکست کھائے بھاگے جاری ہے، یہ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب الکوکبی والے ان کے پیچھے زمین  
پر پہنچنے گئے جہاں الکتر اپڑا ہوا تھا، اس وقت اس میں آگ لگانے کا حکم دیا۔ فوراً ہی آگ تمام علاقہ میں بھڑک انھی اور دشمنوں کو  
جلانے لگی، تب وہاں سے گرتے بھاگنے لگے، اسی وقت موی اور اس کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ بے  
حساب مارے گئے، بالآخر الکوکبی شکست کھا کر دیلم کی طرف بھاگ نکلا اور موی نے قزوین پر پورا قبضہ کر لیا۔

اسی سال عبد اللہ بن محمد بن سلیمان زینی نے لوگوں کو حج کرایا۔

بری سماں بورا خوب میں اُن ووں نے اسقائیں۔ وَا لَبِرَ الْمُتَعَذِّتِ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ اَنْوَرٍ اُور

## سری سقطی

• سری سقطی، حمد اللہ صوفی کے مشائخ میں میں معروف کرخی کے شاگرد ہیں انہوں نے اشیم ابو بکر بن عباس، علی بن عرب، عینی بن یمان اور یزید بن ہارون وغیرہم رحمہم اللہ سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ان کے بھانجہ جنید بن محمد ابو الحسن النوری محمد بن الفضل بن جارب لمعظمی وغیرہم نے روایت کی ہے۔

ان کی ایک دوکان تھی جس میں بیٹھے کاروبار کرتے تھے اتفاقاً وہاں سے ایک باندی اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر گزر رہی تھی، جس میں اپنی مالکہ کے لیے پچھا خرید کر لے جانا تھا مگر وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب وہ اس فکر اور غم میں رونے لگی کہ اب کس برتن میں لے جائے گی یہ دلکھ کر موصوف سری سقطی نے پچھوڑے دیتا کہ وہ دوسرا برتن خرید کر سامان لے جائے۔ یہ واقعہ ان کے شیخ معروف کرخی نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہارے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کر دئے چنانچہ اسی روز سے دنیا کی محبت ان کے دل سے نہیں ہو گئی۔

ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ عید کے دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اتنے میں اپنے شیخ کرخی کو دیکھا کہ وہ ایک غریب بحتاج بچ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں جا رہے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمائے لگے کہ یہ بچہ دوسرے بچوں کے پاس پریشان حال کھڑا تھا، جو اخروٹ سے کھیل رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کیوں نہیں کھیل رہے ہو اور رنجیدہ کیوں ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں نہیں پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں تو میں نے اس خیال سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ پچھہ لکھریاں جمع لئے اے دے دوں کہ وہ انہیں بچ کر اخروٹ خرید کر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے یہ سن کر انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے لیے کپڑے خرید دوں اور کچھ نقد بھی میں آپ کے ہاتھ دے دوں جن سے یہ اخروٹ خرید کر ان سے کھیلنے لگے وہ فرمائے لگے کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے، انہوں نے کہا جیسا فرمائے لگے اچھا لو اسے لے جاؤ اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے یہ سری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہی دنیا میرے نزدیک حقیر ہو گئی اور انتہائی معمولی نظر آنے لگی۔

ایک اور واقعہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس براستے فروخت پچھہ با دام تھے ایک خریدار نے جب اس کی قیمت دریافت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس سے ایک کرز (ایک وزن خاص کا نام) کی قیمت تریسٹھ دینار ہوں گے وہ یہ سن کر چلا گیا، عجب اتفاق ہے کہ بازار میں اب با دام کا دام بڑھ گیا اور اتنے ہی کے نوے دینار ہو گئے تو وہی شخص پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں نوے دینار لینے کو تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ان کے تریسٹھ دینار بتا دیئے ہیں اس لیے اب بھی تریسٹھ دینار ہی میں آپ کو دوں گا، اس سے زیادہ نہ دوں گا، تو اس نے کہا دینداری اور انصاف کا تقاضا ہے کہ میں بازار بھاؤ لیعنی نوے دینار میں آپ سے خریدوں ان سے کم میں نہیں، چنانچہ وہ بھی بھی کہتا ہوا اپس ہو گیا۔

ان کا ایک اور اور واقع یہ ہے کہ ایک عورت ان کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ کمی چکر کیا اور نہ سمجھ لیا کہ کمی یا بیش نہ  
ہے آپ پس ہمیں فرمائیں تو ماں اس کے حامہ اعلیٰ کے پاس میں تھوڑی کمی دیتی تھیں کہ اس سے باہر پوچھیں گرتے۔ میر وکیل سے پوچھتے ہیں کہ  
تو بیش نہیں بلکہ اور ایک بیش نہیں یہ بیش نہیں ہے۔ بے انتہا میر وکیل سے پوچھتے چاہئے کہ میر وکیل کی کمی کیا ہے۔ میر  
تو بیش نہیں بلکہ آبے ناپت اُڑ کے معاشر میں اللہ کا واسطہ تھیں ہوں اللہ کے واسطے تھے۔ اُنہیں میر وکیل سے پوچھتے ہیں کہ  
تمہاری یہ فلم میں آبے ناپت اُڑ کے اس مجلس سے اُچھے بھی نہ تھے کہ ایک دوسری عورت نے اس کے پاس آگئی خوشخبری سنائی کہ لوہا راست  
ہو تمہارا لڑکا چھوٹ کر گھروالپس آ گیا ہے۔ یہ میر کو وہ عورت اپنے گھر خوشی خوشی اوث گئی۔

ایک مرتبہ سری نے فرمایا کہ میری دیرینہ خواہش ہے کہ میں ایسا نوالہ منہ میں رکھو جس کے حصول میں اللہ کی طرف سے  
گرفت نہ ہو اور نہ کسی کا مجھ پر احسان ہو، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔

ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مسلسل تیس برس سے بزری کھانے کی خواہش ہوئی ہے مگر میں یہیں کھا سکتا ہوں۔

ایک اور موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ بازار جل گیا جس میں میری دوکان تھی، تو میں اپنی دوکان کی خبر لینے کو جا رہا تھا، اتنے میں  
ایک شخص نے آ کر کہا، میں تم کو خوشخبری اور نہار کبادی دیتا ہوں کہ تمہاری دکان محفوظ رہ گئی، یہ میر میں نے الحمد للہ کہا، اس کے بعد مجھے  
فوراً یہ خیال آیا کہ میں نے صرف اپنی دنیا محفوظ رکھ جانے پر تو الحمد للہ کہہ دیا، مگر میں نے اپنے دوسرے بھائیوں کا ذرہ برا برخیال نہیں  
کیا کہ ان پر کیا گزری یہ سوچ کر میں تیس برس سے استثنیاً کرتا رہتا ہوں۔ یہ واقعہ خطیب بغدادی نے ان سے سن کر کہا ہے۔

ایک اور موقع پر یہ فرمائے گئے کہ ایک رات اپنے ویسیں سے جب میں فارغ ہو تو میں نے اپنا پاؤں محراب کی جانب لمبا  
کر دیا، اتنے میں ایک غبی آواز آئی، جس میں کسی نے مجھ سے کہا اس سے سبی کیا بادشاہوں کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھتے ہو کہنے لگے  
یہ میر میں نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا، اور میں نے کہا تیری عزت کی قسم آئندہ ہم کبھی بھی اپنے پاؤں دراز نہیں کروں گا۔

جنید نے فرمایا کہ میں نے سری سقطی سے بڑھ کر عبادت گزار کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کی عمر انجانوے برس کی ہو گئی تھی پھر  
بھی انہیں مرغ موت کے علاوہ کبھی بھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔

خطیب بغدادی نے ابو نعیم سے انہوں نے جعفر خلدی سے انہوں نے جنید سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان  
کی عیادت کو گیا تو میں نے ان سے دریافت کیا، اب آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ شعر کہا:-

(۱) كيف اشکو الى طبيبي مايى و الذى اصابنى من طبيبي

تتجدد: مجھے جو کچھ تکلیف ہو رہی ہے اس کی شکایت اپنے معانج سے کیا کروں۔ اور خود اپنے طبیب سے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے  
اس کی بھی کیا شکایت کروں۔

فرمایا: اس کے بعد میں ایک پنچھا لے کر انہیں بھلنے لگا تو فرمائے گئے اس پنچھے کی ہوا اس شخص کو کیا خندک پہنچائے گئی جوانہ سے  
جل رہا ہو۔ پھر یہ اشعار پڑھنے لگے۔

(۱) القلب محترق والدمع مستبق والکرب محتمع والصبر مفترق

ترجمہ: ول جل ربانے آنسو نیزی سے بہرہ ہے ہیں، ہر قسم کی تکلیف اٹھنی ہے اور صبر بے قابو ہے۔

(۲) كشف الشفاعة مني من لا طلاق له فما حداه الهمم والشوق والشغف

ترجمہ: اے کس طرح ہیں آتے کچھ کاموں کے نتیجے میں جو اسے خوب اش فرمائی اور شوق اور افسوس کے ساتھ کیے ہیں۔

(۳) يارب ان كان شئ عذلي به فرج فامتنع علىي به مدام بي رقم

ترجمہ: اے میرے اللہ اگر میرے مقدر میں کچھ بھی سکون ہو تو وہ دے کر اس وقت تک کے لیے مجھ پر احسان کر جب تک مجھ میں جان ہے۔

جنید نے مزید فرمایا کہ میں نے ان سے کہا، آپ مجھے کچھ دعیت فرمائیں، تو فرمایا برے لوگوں کی صحبت میں نہ مبتھو نیک اور اپنے لوگوں کی صحبت میں رہ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات منگل کے دن ۲ رمضان ۲۵۵ھ کو نجیر کی اذان کے بعد ہوئی اور عصر کے بعد شو نیزی کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔ ان کی قبر مشہور و معروف ہے اور ان کی قبر کے بغیر ہی میں جنید کی بھی قبر ہے۔

ابوعبدہ بن حرثہ بیوی سے مقول ہے، فرمایا کہ میں نے سری گو ایک بار خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی اور ساتھ ہی ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت کر دی جو میرے جنازے میں شریک تھے، میں نے کہا میں بھی تو ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جو آپ کے جنازہ میں شریک تھے اور جنہوں نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی، انہوں نے کہا میرے جواب کے بعد سری ایک رجز نکال کر دیکھئے لگئے، میرا نام انہیں اس میں نظر نہ آیا، تو میں نے دوبارہ کہا کہ جی ہاں! میں یقیناً شریک تھا، اس کے بعد پھر وہ دیکھنے لگا تو اس کے ایک حاشیہ پر میرا نام لکھا ہوا مل گیا۔

ابن خلکان نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ سری کی وفات، ۲۵۴ھ میں ہوئی اور ایک قول میں ۲۵۶ھ بھی کہا گیا ہے اللہ ہی حقیقت حال جانتا ہے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ سری اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

(۱) ولما ادعيت الحبّ كذبتي فمالى ارى الاعضاء منك كواسيا

ترجمہ: میں نے جب محبت کا دعویٰ کیا تو میری محبوہ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے، آخر کیوں میں تمہارے اعضاء بدن کو (گوشت سے) ڈھنکا ہوا پاتی ہوں۔

(۲) فلا حبّ يلصق الجلد بالحشى و تذهب حتى لا تحبيب المناديا

ترجمہ: محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ چڑا انتزیوں سے لگ جائے اور ایسا بے ہوش ہو جائے کہ کسی بھی پکارنے والے کو جواب نہ دے۔

## واقعات — ۲۵۲

اس سال خلیفہ الحسن نے بغاۃ الرابی کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ قتل کے بعد اس کے سرکوسار میں پھر بغداد میں سر عالم لکھا دیا گیا، اور اس کے بقیہ بدن کو جلا دیا گیا اور اس کا سارا مال و دولت چھین لیا گیا۔ اس سال خلیفہ نے احمد بن طولون کو مصر کے علاقہ کا گورنر بنادیا۔ یہی شخص وہاں کی مشہور یونیورسٹی کا بانی ہے۔ اسی سال علی بن حسین بن اسماعیل بن عباس بن محمد نے لوگوں کو حج کرایا۔

### مخصوص لوگوں کی وفات:

اس سال ان مشہور لوگوں نے وفات پائی۔ زیاد بن ایوب الحیانی، علی بن محمد بن موسیٰ الرضا دو شنبہ کے دن ۲۶ جمادی الآخرة کو بغداد میں وفات پائی اور ان کے بیٹا زہرا کی نماز ابو احمد المتوكل نے اس سڑک پر پڑھائی جو ابو احمد کی طرف منسوب ہے، اور بغداد کے اپنے گھر میں دفن کئے گئے۔ نیز محمد بن عبد اللہ الحسنی اور موصیٰ بن ابی اب اور

**ابو الحسن علی الہادی**

### نام و نسب:

ابن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد الباری بن علی زین العابدین بن الحسین الشہید ابن علی بن ابی طالب، جو بارہ مشہور اماموں میں سے ہیں اور وہ الحسن بن علی العسكری کے والد ہیں، جو گمراہ جھونے اور گنہگار فرقہ میں امتنظر کے لقب سے ملقب ہیں حالانکہ وہ بڑے ہی عابدو زادہ تھے، المتوكل نے انہیں شہر سامرا میں منتقل کر دیا تھا، اور وہاں میں برس سے چند ماہ زائد مقیم رہے اور وہ ہیں اسی سال وفات پائی۔ جبکہ متوكل کے پاس کسی نے یہ شکایت پہنچائی تھی کہ ان کے گھر میں بہت سے ہتھیار اور لوگوں کے بہت سے خطوط ہیں (جن سے بغاوت کا خطرہ ہے) تو اس نے کچھ حملہ آوروں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، جب وہ لوگ اچانک ان کے گھر پہنچ گئے تو انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے بدن پر اونی جبہ ہے، بغیر کچھ بچھائے صرف مٹی پر قبلہ رو بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں اسی حال میں گرفتار کر لیا۔ اور اسی حال میں المتوكل کے پاس لے گئے، جبکہ وہ شراب پینے پلانے میں مست تھا، اس کے باوجود انہیں جب اس کے سامنے لا یا گیا، تو ان کی بہت زیادہ آڑ بھگت کی اور تعظیم سے پیش آیا اور اپنے بغل میں بھایا، اور شراب کا جو پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا وہی سامنے پڑھا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین! یہ چیز کبھی بھی میرے پیٹ میں نہیں گئی اور نہ میرے گوشت اور خون میں اس کی آمیزش ہوئی۔ لہذا آپ اس سے مجھے معاف رکھیں تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، مزید مجبور نہیں کیا، پھر کہا آپ مجھے کچھ اشعار سنائیں تو آپ نے یہ چند اشعار سنائے:

(۱) پروردگاری مکمل ہے ملکہ حکمت ال حکم صفا الحنفیہ اللہ  
سچ رہائی نے پیدا کی جو امور پر اپنے ۷۰ دنکی اسی خیال ہے کہ ان کی سفارت ہے پہلوانِ ارلینز کے لیکن ان جو یوں کے  
ان فی اور برادر سفارت کیں گے۔

(۲) دس سیلروں، سعد، علیٰ حنفی مدعی قبیم فتاویٰ موسوی حضرت برسی مبارکبُخاری  
قریب چند: ہر یہ مزت حاصل کر لیتے رے بعد انہیں ان کی پناہ گا ہوں سے اتنا لیا گیا، پھر انہیں گزر ہوں میں ڈال دیا گیا، ہائے کتنا برا  
ٹھکانے سے جس میں انہیں اتنا را گیا ہے۔

(۳) مادی بھم صارخ من بعد ما فیروا این الامرَةُ والشجَانُ والحلل  
نتیجہ۔ ان کو قبر میں بھن کر، یہ کے بعد انہیں پکارنے والے نے پکار کر کہا، کہاں گئے وہ شاہی تخت، تاج شاہی اور یقینی جوڑ۔

(٤) ایں الوجهُ اللئی کانت منعّمة من دونها تضرب الاستار و الكلل ترجمہ: وہ خوبصورت نرم و نازک چہرے، کہاں گئے کہ ان کے سامنے بڑے پردے لٹکے ہوئے اور مچھر دانیاں پڑی ہوئی تھیں۔

(٥) فاصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل ترجمہ: قبر نے انہیں صاف صاف بتا دیا جبکہ یہ قبر انہیں بریگی کہ یہ لوگ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ قبر کے کیڑے مکوڑے کھا کھا کر ختم کیے دیتے ہیں اور مارے ڈالتے ہیں۔

(٦) قد طال ما اکلو دھرًا و ما لبسوا فاصبھوا بعد طول الاکل قد اکلو  
تہجید: زمانہ دراز تک ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر بہت کچھ کھایا پیا اور بہت کچھ پہننا، اتنا زیادہ کھائیں کے بعد اب یہ خود کیروں کی غذاب بن گئے ہیں۔

بیان کرنے والے نے کہایا اشعار سن کر متوفی اتنا راوی کہ زمین تر ہو گئی، اور اس کے چاروں طرف کے لوگ بھی رونے لگے پھر شراب کے برتن انھا لینے کو کہا، اور انہیں چار ہزار دینار دینے کا حکم لیا اور کفارہ سے فارغ ہوا اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کو ان کے گھروں اپس کر دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ



## وَاقْعَاتٍ — ۲۵۵

یعقوب بن لیث اور علی بن حسین کے درمیان زبردست لڑائی، بالآخر یعقوب کا غالب آنا:

اس سال مغلخ اور حسن بن زید طالبی کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، بالآخر مغلخ نے حسن کو شکست دی اور "آمل طبرستان" میں داخل ہو گیا اور وہاں حسن بن زید کے ٹھکانوں کو جلاڑا اور اس کے آگے "ریشم" پہنچا، جہاں یعقوب بن لیث اور علی بن حسین بن قریش بن شبل کے درمیان زبردست لڑائی تھی، اس لیے علی بن حسین نے اپنی طرف سے طوق بن مغلس کو بھیجا، جس نے وہاں یعقوب کو ایک ماہ تک پریشانی میں بٹتا رکھا، آخر کار یعقوب طوق پر غالب آگیا اور خود اسے اور اس کے بڑے ساتھیوں کو قید کر لیا۔ پھر وہاں سے اسی علی بن حسین کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر اسے بھی گرفتار کر کے اس کے شہروں کرمان وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور ان مقامات کو خراسان اور بختیار وغیرہ کے ان علاقوں میں شامل کر لیا، جو اس کے قبضہ میں تھے، اس کے بعد یعقوب بن لیث کو قیمتی ہدايا اور تحفہ حجہ میں شکاری پر نہیں اور قیمتی کپڑے کے ساتھ خلیفہ معتز کے پاس بھیجا۔

اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں خلیفہ نے الجبلہ، ان بن عبد اللہ بن طاہر کو بغداد اور اس کے علاقوں میں اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں دونوں صالح بن وصیف نے معتز کے کاتب احمد بن ایل اور معتز کی ماں قبیحہ کے کاتب حسن بن مخلد اور ابو نوح عیسیٰ بن مریم کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہ سب بیت المال سے مال لے کر فضول ہنری کرنے میں متفق تھے، اور یہ لوگ بیت المال کے محاسب اور دفتروں کی غمہداشت کے ذمہ دار تھے، گرفتاری کے بعد ان سب کو سزا دی، اور بے حساب با افراط مالوں کے لینے پر ان سب سے دستخط بھی لے لیے یہ سب کارروائیاں خلیفہ معتز کی رضا مندی اور لا علمی میں عمل میں لائی گئیں، ان کے مال، جائیداد، نقد و سب پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کے نام خائن محاسب رکھ دیئے گئے۔

اس سال کوفہ میں رجب کے مہینے میں عیسیٰ بن جعفر اور علی بن زید کا ظہور ہوا، جبکہ خاندانی اعتبار سے دونوں ہی حصی تھے، بہر حال ان دونوں نے وہاں عبد اللہ بن محمد بن دواد بن عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور وہاں ان دونوں کا نام بہت زیادہ ہو گیا۔

### خلیفہ المعتز بن امتوکل کی موت:

اس سال ماورجہ کی ۲۷ تاریخ خلیفہ معتز بالله نے اپنی خلافت سے استغفار دیا اور ماوشعبان کی دوسرا تاریخ ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ان کے استغفار کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کی فوج کے سارے افراد نے اکٹھے ہو کر ان سے اپنی ماہانہ بقیۃ تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ مگر خزانہ میں اتنی رقم نہ تھی جن سے وہ ان کی تنخواہیں ادا کر سکتے، اس لیے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی سے قرض لے کر ہمیں ہماری تنخواہیں دیں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے اتنی رقم قرض چاہی مگر ان سے یہ نہ ہو سکا، اور وہ برابر ہی کہتی زیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ دے سکوں۔ لہذا تمام ترک سرداران سے استغفار لینے پر متفق ہو گئے، اس کے بعد

ان لوگوں نے ان کے پاس یہ خبر بھی کہ ہمارے سامنے آئیں مگر اس نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ میں نے ابھی دو ایسی ہے اور بخشنہ بہت زیادہ مزدوری کیسوس ہو رہی ہے تھا لہذا نہیں سے محفوظ ہوں اس لیے تم میں سے پچھلے نہیں میرے پاس آ جائیں چنانچہ پچھا فرمائیں، باس، اخیل، جو کئے اور کہ ہے کے نہیں اور تمہارا نام سے ان کو اپنی پیش کر ان کی نامیں پکڑ رہا ہیں پھر پختہ ہوئے اس حال میں باہر لے آئے لہانے لہانے سے بدن کی قیمتیں پچھی ہوئی اور خون سے بالکل بھری ہوئی تھی۔ پھر دارالخلافہ کے بالکل درمیان سڑک پر سخت گرمی میں لا کر کھڑا کر دیا وہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بے چینی کے عالم میں اپنے پاؤں ایک کے بعد دوسرے کو بدلتے کھڑا کھڑا ہے تھے اور اپر سے پچھلے لوگ انہیں لات اور گھونے مار رہے تھے، ہمارے والا یہی کہتا جاتا تھا کہ اپنی خلافت سے استغفاء و استعفاء وابقیہ افراد انہیں گھیرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے دھکے دیتے ہوئے ایک انتہائی چھوٹے اور تنگ کمرہ میں لے آئے اور طرح طرح سے انہیں سزا کی دیتے رہے بالآخر مجبور ہو کر اپنا استغفاء نامہ پیش کر دیا۔ ان کے بعد ہی مہتدی باللہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ چن لیا۔ جیسا کہ اس کا تفصیلی بیان عنقریب ہوا کہ اس کے بعد انہیں ایسے چند لوگوں کے حوالہ کر دیا گیا، جنہوں نے ان کا حیہ بگاڑ کر تین دنوں تک بالکل بھوکا اور پیاسا سار کھا، پیاس کی زیادتی سے انہوں نے کنویں سے چند گھونٹ پانی مانگا، مگر کسی نے ایک قطرہ تک لا کر نہ دیا۔ پھر انہیں ایک ایسے گلہے میں داخل کر دیا گیا جس میں پہلے سے چونہ بھردیا گیا تھا، اسی میں ان کی جان نکل گئی، پھر انہیں وہاں سے نکال کر باہر لائے، ظاہر ان کے اعضائے بدن ابھی تک محفوظ تھے اس لیے بہت سے سرداروں اور امراء کو اس بات کا اولاد بنا لیا گیا کہ وہ اپنی موت مرے ہیں اور ان پر چوٹ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ واقعہ سالی روای کے ما شعبان کی دوسری تاریخ ہفتادھجہ دن کا ہے، مہتدی باللہ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قصر الصوامع کے بغل میں اپنے بھائی منصر باللہ کے ساتھ فن کیے گئے اسی وقت ان کی عمر صرف چوبیس برس کی تھی، اور صرف چار برس چھ مہینے تکیس دن عہدہ خلافت پر فائز رہے۔

### حلیہ:

دراز قد، موٹا بدن، خوبصورت بلند ناک، گول پھرہ، نہس کھلہ، سفید رنگ، گھونگریا لے بال، کالے بالوں والے، گھنی داڑھی، دونوں آنکھیں خوبصورت، دونوں ہنویں تنگ، اور چہرہ کارنگ لال تھا۔

امام احمدؓ نے ان کے ذہن کی تیزی اور اچھی سمجھ اور اچھے ادیب ہونے کی اس وقت تعریف کی تھی، جبکہ یہ اپنے والد متوكل کی زندگی میں ان کی خدمت میں تشریف لائے تھے جیسا کہ ہم نے امام احمدؓ کے حالات و اتفاقات کا بیان کیا تو میں نے اس

اور خطیب بغدادی نے علی بن حرب سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک مرتبہ مفتر کے پاس گیا تو میں نے اس خلفہ سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں پایا، اور جب میں نے انہیں دیکھ کر بجدہ کیا، تو انہوں نے کہا: اے شیخ! آپ غیر اللہ کو بجھ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا: مجھ سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: مجھ سے بکار بن عبد العزیز بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کبھی خوش کی چیز دیکھتے یا آپ کو کوئی سرست بخش خبر سنائی جاتی تو آپ اللہ عز وجل کا شکر ادا فرماتے۔

اور زیر بکار نے فرمایا ہے کہ جب میں خلیفہ معتز کے پاس ان کی خلافت کے زمانہ میں گیا تو وہ میری خبر سننے کی جلدی سے بھل آرہی رہے پاس آئے گے اسے تین سچے سوچے گے تو یہ اشعار یہ ہے۔

(۱) یسموت اسقنتی میں عترة بننسانہ و نیس یمومت اسراء من عترة امر حمل

ترجمہ: انسان کا اس کی زبان کے بھسلے سے نوت آتی ہے، لیکن پاؤں کے بھسلے سے اسے نوت نہیں آتی ہے۔

(۲) فعشرتہ من فیہ ترمی برأسہ و عتره فی البرحل تبراً على مهل

ترجمہ: انسان کی زبان بھسلے سے انسان سر کے مل گرتا ہے، اور پیر کے بھسلے سے ذرا دیر سے اچھا ہو جاتا ہے۔

ابن عساکرنے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ معتز نے اپنے والد متولی کی زندگی میں پورا قرآن پاک فتح کیا، تو اس موقع پر ان کے والد حکام وقت اور معززین شہرب سب "سرّ من رای" میں جمع ہوئے اس مسلمہ میں ہرے ہرے انتظامات کیے گئے، اس لیے کئی دنوں تک لوگوں کی آمد و رفت اور چہل پہل جاری رہی اور انہوں نے جب اپنے منبر پر بیٹھ کر اپنے والد کو شاہی آداب بجالاتے ہوئے سلام کیا اور لوگوں سے کچھ خطاب کیا تو اس وقت دارالخلافہ میں ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی، عموم پر بر سائے گئے، جو ہیرے جواہرات ان پر بر سائے گئے تھے، ان کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی، اسی قیمت کے سونے بھی تھے، اور دس لاکھ کی چاندی کے دراہم تھے اور یہ سب کچھ کپڑوں کے بیچی خوڑوں، موتوی کی لڑیوں اور گھر بیلو استعمال کے سامان کے علاوہ تھے، یہ ایک ایسا تاریخی و اقدہ تھا، اور اس کی اتنی خوشی تھی کہ اس جیسی خوشی دارالخلافہ میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، پھر خصوصی طور سے خلیفہ نے اپنی باندی "ام ولد قبیحہ" کو جو معتز کی والدہ تھیں، انتہائی قیمتی جو نہ کپڑا دیا، ایسا ہی ان کے انتیق محمد بن عمران کو بھی خلعت بھیجا، اس کے علاوہ جواہر، سونے، چاندی اور گھر بیلو استعمال کے بے شمار سامان بھی تھے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

### مہتدی باللہ اور ان کی خلافت

#### نام و نسب:

ابو محمد عبد اللہ محمد بن الواثق بن المعتصم بن ہارون۔ ان کی بیعت اسی سال ماه ربیع کی چھبیسویں تاریخ کو ہوئی، جبکہ معتز باللہ نے از خود اپنی خلافت سے دستبرداری پر استغفار نامہ پیش کر دیا۔ اور لوگوں کو اس بات پر گواہ بنا دیا کہ وہ اب امور سلطنت کے انتظام سے عاجز ہو چکے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے از خود ایسے شخص کا انتقام بخسن و خوبی سنبھال کئے، جس کا نام محمد بن الواثق باللہ ہے، اور سب سے پہلے خود ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بیعت کی، اس کے بعد خواص نے پھر بر منبر عوام نے بیعت کی اور معتز سے یہ تحریر لکھوائی کہ اس نے خود لوگوں کو اپنی خلافت سے دستبرداری اور اس سے عاجزی کا اظہار کیا، پھر مہتدی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے۔ اس کے بعد اسی ماه ربیع کے آخری دنوں میں شہر بغداد کے اندر ایک زبردست فتحہ بر پا ہوا اور وہاں کے نائب سلطنت سلیمان بن عبد اللہ بن طاہر کے پاس وہاں کے عوام اکٹھے ہو گئے، تو معتز کے بھائی احمد بن متولی کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کی اُنیں دعوت دی گئی، مگر یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اُنہیں اب تک اس واقعہ کا علم نہ ہوا کہا، جو شہر سامرا میں

مہتدی کی خلافت کے سلسلہ میں ہو چکا تھا اس بن پر شہر بغداد کے بہت سے لوگ قتل کیے گئے اور بہت سے دریا میں ڈبو دیئے گئے۔ پھر جو ٹینیں آئیں مہتدی کی بیعت عامہ میں بہری و سب ہمین اور خاموشی ہو گئے۔ مگر یہ نہ رائیں بہت تاثیر سے ہے، شعبان نومی اس نے بعد سارے معاشرات و راست جو کئے اور مہتدی کی خلافت پختہ ہو گئی۔

### معزز کی ماں قبیحہ کی ذاتی دولت کا ایک اندازہ:

اسی سال ماہ رمضان میں معزز کی ماں قبیحہ کے پاس بے حساب دولت اور بے شمار قیمتی جواہر پائے گئے، جن کی مجموعی قیمت میں لاکھ دینار تھی اور ایک ملوك (ڈیڑھ صاع کے وزن کے) ایسے قیمتی زمرہ پتھر تھے جو کبھی دیکھنے میں بھی نہ آئے تھے، اور ایک ملوك بڑے قیمتی موتی کے دانے، اسی طرح سرخ یا قوت جو کبھی دیکھنے میں بھی نہیں آیا تھا ایک کلیچ، حالانکہ ایک وقت ایسا آیا تھا جبکہ حکام نے اس کے بیٹے معزز سے صرف پچاس ہزار دینار بطور قرض اس لیے مانگے تھے کہ فوجیوں اور دوسرے ملازمین کی ماہوار اور بقیہ تنخوا ہیں ادا کردی جائیں اور ضمانت کے طور پر صالح بن وصیف کو گروہ رکھنے پر تیار تھے، مگر ان کے پاس پچاس ہزار نہ تھے تو مجبوراً انہوں نے اپنی اس ماں سے بھی بطور قرض چاہا لیکن اس ماں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اور اپنے فقر اور خالی ہاتھ ہونے کا روناروئی، نتیجہ کے طور پر اس کے بیٹے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور خود اس کی یہ حالت ہوئی، تب اس نے اپنا مال ظاہر کیا، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے۔

درحقیقت اس کے پاس تو صرف سونا، چاندنی، بادر برتن ہی تو بے حساب تھے، اور ہر سال اسے صرف غلہ اتنا ملتا تھا، جو دوس لاکھ دینار کے برابر ہوتا، مگر یہ سب اس کے بیٹے معزز کے دھن صالح بن وصیف کے پاس تھا، آخر میں اسی صالح سے اس کی شادی بھی کر دی گئی تھی، مگر اب وہ ہمیشہ اس کے حق میں بد دعا کرتی رہتی اور کہتی کہ اے خدا! اس صالح بن وصیف کو ایسا ہی رسوا کر جیسا کہ اس نے میرے راز کو ظاہر کیا ہے اور میرے بیٹے کو قتل کروایا ہے اور ہمارے بے جہن کو ختم کر دیا، میرا سب مال لوٹ لیا اور میرے گھر سے مجھے بے گھر کر دیا اور زبردستی مجھے لوٹنے لگا۔

### مہتدی کی مختصر تقریر:

بہر حال آخر میں مہتدی باللہ کے نام کی خلافت قائم ہو گئی۔ محمد اللدان کی خلافت پچی اور اچھی تھی، ایک دن انہوں نے اپنے امراء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں ایسی نہیں ہے، جس کے پاس صرف غلہ ہی دس لاکھ دینار کے برابر ہوں، میں تو صرف پیٹ بھرنے کے برابر روزی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، البتہ میرے چند بھائی ہیں جو محتاج ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتا ہوں۔

۷۲ رمضان پنجشنبہ کے دن صالح بن وصیف نے احمد بن اسرائیل کو جو کہ وزیر تھا، اور ابو نوح عیسیٰ بن ابراہیم کو، جو درحقیقت نصراوی تھا، لیکن اپنے اسلام کا انطہار کر چکا تھا، اور قبیحہ کا نشی تھا، دونوں کو کوزے مارنے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق سب سے پہلے ان دونوں کی جائیداد اور نقدی ضبط کر لی گئی، پھر ان میں سے ہر ایک کو پانچ پانچ سو کوڑے مارے گئے، پھر ایک ایک خیز پر انہیں اوندھا لانا کر شہر میں گشت کرایا گیا، اسی حالت میں بالآخر وہ دونوں مر بھی گئے اس حرکت سے خلیفہ مہتدی اگرچہ دل سے خوش نہ تھے

مگر انہیں کھلکھلا سائیج بن وصیف کی مخالفت کی طاقت بھی نہ تھی۔

اسی سال رمضان کے مہینہ میں شہر بغداد میں بھی ایک فتنہ گھر ابوا جس میں ایک جانب محمد بن اوس اور طبقہ شاگردیہ اور شادر وغیرہ تے اس تے مانے تھے۔ تو دوسری طرف عوام اور کینے تھے، عوام سے تقریباً ایک لاکھ افراد اکٹھے ہوئے تیریوں نیزوں اور کوڑوں سے لارائی شروع ہوئی جس میں بہت سے افراد کی جانبیں لئیں، نتیجہ میں محمد بن اوس اور اس کے ساتھی شہست الحاکم کے۔ اس موقع پر لوگوں نے اس کا جو پچھا مال پایا سب لوٹ لیا، جو تقریباً ایسیں لاکھ کے برابر تھا۔ پھر سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ محمد بن اوس کو بغداد سے نکال دیا جائے اور وہ جہاں چاہے چلا جائے، اس طرح وہ خوفزدہ ہو کرتا تھا وہاں سے نکل پڑا۔ اس ہنگامہ کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ عوام میں اخلاقی لحاظ سے ناپسندیدہ، جابر، سرکش، متکبر، شیطان اور بڑا فاسد تھا۔

### خلیفہ مہتمدی کے اصلاحی احکام کا اعلان:

خلیفہ نے اصلاحی احکام نافذ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ناچنے اور گانے والے غلام اور باندیاں سب کے سب سامرا شہر سے نکال دیے جائیں اور باڈشاہ کے قلعہ میں دلچسپی کے لیے جتنے درندے اور چیتے وغیرہ پلے ہوئے تھے سب مارڈا لے جائیں، اسی طرح پلے ہوئے شکاری کے بھی مارڈا لے جائیں اور لہو و لعب کے جتنے سامان میں سب ختم کر دیے جائیں، اور ظلم کر کے جس کا جتنا سامان جس کسی نے لیا ہے وہ سب واپس کر دیجے جائیں اور امر بالمعروف و نهى عن المنكر کیا جائے۔ اور وہ خود عوام کی فریاد رسمی کے لیے عام جلسے منعقد کرنے لگے، اس طرح ان کی حکومت ملک شام وغیرہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں قائم ہو گئی، پھر خلیفہ نے موسیٰ بن بغا الکبیر کو اپنے دربار میں بلا بھیجا تاکہ وہ اس کی مدد اسے ان ترکیوں پر پورا قابو پا سکے جو وہاں موجود تھے، اس طرح حکومت مستحکم ہو جائے، مگر اس نے ان کی اس خواہش کی تکمیل سے معدود بری ظاہر کر دی، کیونکہ اسے اس علاقے میں قتل و قتال کا پورا اندازہ تھا۔

### ایک خارجی کا ذکر جس نے بصرہ میں خود کو اہل بیت میں سے ہونے کا دعویٰ کیا:

ماہِ شوال کی درمیانی تاریخ میں بصرہ کے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خود علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے دعویٰ میں سچانہ تھا، کیونکہ وہ تو قبلہ عبد القیس کے مزدوروں میں سے ایک تھا، اور اس کا صحیح نام علی بن محمد بن عبد الرحیم تھا اور اس کی ماں فہرہ بنت علی تھی، جوابن رجب بن محمد بن حکیم اسد بن خزیمہ کے خاندان سے تھا، اور وطنی لحاظ سے شہر "ری" کے کسی دیہات کا باشندہ تھا، یہ تفصیل ابن حجریر نے بتائی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ۲۲۹ھ میں بھی علاقہ نجد میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں علی بن محمد بن الفضل بن الحسین بن عبد اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب ہوں، اس کے ساتھی اس نے مقام بحر میں لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دی، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کی اطاعت قبول بھی کر لی تھی، جس سے وہاں زبردست قتل و قتال اور بڑے فتنے برپا ہوئے تھے اور بہت سی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ اب دوسری مرتبہ جب وہ بصرہ کے علاقہ میں ظاہر ہوا تو بڑی تعداد میں وہ جبکہ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، جو مزدوری اور کھیت وغیرہ میں کام کرتے تھے، ان لوگوں کو لے کر وہ دجلہ پار کر گیا اور وہاں دیناری کے ہاں قیام کیا، یہ ایسے دعویٰ کرتا تھا کہ میں

قرآن یا کہ کی بڑی بڑی کمی سورتوں کو صرف ایک مرتبہ پڑھ کر کرنا کر سکتے ہیں جنہیں ۴۰۰ مرتبے ایک دن میں بھی یا نہیں کر سکتے، مثلاً سورہ (اسراء) سبھن 'کھف' صن اور (ناء) عمه و نیمہ و۔

ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دیہات میں جیسے تریہ سوچ رہا تھا کہ کسی شہر کا غیر مروں تو اسے آسمان سے ایک خوبی آواز سنائی، میں کہ بصرہ کی طرف جاؤ میں نے اسی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ سعدیہ اور بلا یہ نامی دو گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرا پر حملہ کیا جائے، مگر اس مقصد میں مجھے کامیابی نہ ہو سکی۔ مجبوراً وہاں سے نکل کر میں بغداد چلا گیا۔ وہاں ایک سال قیام کیا اور وہاں خود کو محمد بن احمد بن عینی بن زید سے مشہور کیا، وہاں پہنچ کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو معلوم کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے یہ سن کر وہاں کے جہاں اور بخی قوم کے لوگ اس کے موقع ہو گئے، تب وہ دوبارہ ماہ رمضان میں بصرہ کے علاقہ میں لوٹ آیا، اسے دیکھ کر وہاں کے بھی کافی افراد اس کے پیچھے مگ گئے، لیکن ان کے پاس کچھ ایسا سامان نہ تھا جس سے کسی سے وہ مقابلہ کرتے اتنے میں بصرہ کے علاقہ سے کچھ سایہ آگئے، اور ان سے لڑائی ہونے لگی، اس خارجی کی جماعت میں صرف تین تلواریں تھیں، لیکن اس دوسری جماعت میں لڑنے والوں کی تعداد سامان جنگ اور زرہ وغیرہ بھی کافی تھے، اس کے باوجود داداں خارجی کے لوگوں نے اس لشکر کو شکست دے دی، حالانکہ ان میں صرف لڑنے والے چار ہزار افراد تھے، اس کے بعد وہ خارجی اپنے ساتھیوں کو لے کر بصرہ کے علاقہ میں گیا، تو وہاں کسی نے اسے تھنڈے میں ایک گھوڑا پیش کر دیا لیکن اس کے لیے نہ زین تھی اور نہ لگام، اس لیے وہ اس کی پیٹھ پر صرف رسی ڈال کر سورا ہو گیا اور اسی سے اس کا تنگ کسا اور اس کے منڈوں کو بھجو کی چھال کی ری سے باندھ دیا اور ایک مقابل پر حملہ کر کے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے ایک سو بچاں دینا اور ایک ہزار درہم دے کر اپنی جان بچائی، یہی ماں اس کا پہلا ماں غنیمت ہوا، جو اس نے اس علاقہ سے حاصل کیا، پھر دوسرے شخص سے تین تر کی گھوڑے چھینے اور دوسری گھبھوں سے ہتھیار اور سامان وغیرہ حاصل کیے، اس طرح وہ کچھ ہتھیار اور چند گھوڑے لے کر لشکر میں آیا، پھر اس کے اور بصرہ کے نائب گورنر کے درمیان بارہا لڑائیاں ہوئیں، جن میں ہر بار یہ ان لوگوں کو شکست دیتا رہا، اور ہر بار ان بے ایسی چیزیں حاصل کرتا رہا جن سے اس کی قوت بڑھتی رہی اور اس کے مانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، ساتھ ہی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی رہی اور لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اس کامیابی کے باوجود وہ عام لوگوں کے ماں کو مطلقاً ہاتھ نہ لگاتا اور نہ کسی کو تکلیف دیتا، اس کا مقصد صرف بادشاہ اور حکومت کے ماں کو چھیننا تھا۔

اتفاق سے ایک لڑائی میں اس کے مانے والوں کو زبردست شکست ہو گئی، مگر بعد میں لوگ آہستہ آہستہ دوبارہ اس کے پاس آنے لگے، اور اس کے ارد گرد سب مجتمع ہو گئے، تب اس نے دوبارہ بصرہ والوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور بہت سوں کو قید کر لیا، اس کے پاس جو بھی قیدی لا یا جاتا، اسے یہ فوراً قتل کر دالتا، اس طرح اس کی طاقت پھر توی ہو گئی، اور بصرہ والے اس کے نام ہی سے ڈرنے لگے، تب خلیفہ نے ایک خاص لشکر روانہ کیا تاکہ اس جیشی خارجی سے مقابلہ کرے، اللہ اس کا برآ کرے، اس موقع پر اس کے کسی ساتھی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بصرہ پر اچانک حملہ کر

دے، اور زبردستی قبضہ کر لے، مگر اس نے اس مشورہ کو کوئی امہیت نہ دی بلکہ یوں کہا کہ ہم خود آہستہ ان لوگوں کے قریب ہوں گے تاکہ وہاں کے باشندے خود ہی ہمیں اس لئے مقابلے کے لیے بنا میں اور ہم سے ان پر حملہ رہا میں، اس کے بعد بصرہ والوں کا ہمارا ران لوگوں کا کیا ہوا، ہمان شاہزادہ عقبہ بن ثابت آنکہ کے ذریعہ ہم بیان کریں کے۔  
اس سال علی بن الحسین بن اسحیل بن محمد بن عبد اللہ بن عباس نے حام لوگوں کو حج ادا کر دیا۔  
اور اسی سال جاحظ مفتکم معتزلی کا انتقال ہوا۔

ان ہی کی طرف فرقہ جاحظیہ کی نسبت کی جاتی ہے، ان کو جاحظ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا اُبھرا ہوا تھا، اسی مناسبت سے انہیں ”حدتی“ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ انتہائی بدشکل کریہ المنظر اور عقیدے کے بھی خراب تھے۔ ان کی طرف بدعوں اور گمراہیوں کی نسبت کی جاتی ہے، بلکہ بعضوں نے تو کھل کر انہیں کفر کی طرف منسوب کرنا جائز قرار دیا ہے، اور ضرب المثل کے طور پر لوگ کہتے ہیں سخت افسوس ہے اس شخص پر جسے جاحظ نے کافر بنا دیا۔

مگر علمی لحاظ سے بڑے ہی عالم اور فاضل بہت سے علوم کے ماہر تھے، بے شمار کتابیں تصنیف کیں، ان میں سے ہر ایک ان کے ذہین اور حاضر دماغ ہونے پر دلالت کرتی ہے، ان کی اہم کتابوں میں سے کتاب الحجۃ ان اور کتاب البیان والتبیین ہیں۔ ابن خلکان نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں سے یہ دونوں، ہترین کتابیں ہیں، اور ان کے بیان کردہ بہت سے قصوں کو لکھ کر ان کے حالات کو طویل کر دی ہے، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی آخری عمر میں ان پر مرض فالج کا حملہ ہوا۔ اور ان کا مقولہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرماتے تھے کہ میرا بایاں حصہ مفلون اور اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اگر اسے قنچی سے کانا جائے تو مجھے اس کا احساس تک نہ ہو، لیکن میرا دیاں حصہ ایسا حساس ہو گیا ہے کہ اگر اس پر ایک کمھی بھی چلتی ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے اور میرے لیے میری عمر کا چھینلوں اسال ہی انتہائی تکلیف، حصہ ہے۔ وہ اکثر یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے:

(۱) اسر جوان تکون و انت شیخ      کما قد کنت ایام الشباب

نتھجہ: کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ تم اپنے بڑھاپے میں پہنچ کر بھی ویسے ہی رہو گے جیسا کہ تم جوانی کی عمر میں تھے۔

(۲) لقد کذبتک نفسك لیس ثوب      دریس کالجديد من الشاب

نتھجہ: تو یقیناً تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، کیا ایسا کپڑا جو پرانا ہو چکا ہونے کپڑے جیسا رہتا ہے؟

محضو صمیم کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں: عبد اللہ بن عبد الرحمن، ابو محمد دارمی، عبد اللہ بن ہاشم طوسی، خلیفہ ابو عبد اللہ المحرث بن متکل اور محمد بن ابراہیم جو الصاعقة سے ملقب ہیں اور

محمد بن کرام

ان ہی کی طرف فرقہ کرامیہ منسوب ہے اور یہ بات بھی منسوب ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کرام کے متعلق

حدیث وضع کرنا اور گھڑ لینا جائز سمجھتے ہیں، ان کا اصل نام محمد بن کرام نے کاف کے فتح اور راہکی تشدید کے ساتھ تبادل کے وزن ہے اور وہ ابن اعراف بن البراء ابو عبد اللہ البجتانی العابد ہیں کہا گیا ہے کہ یہ نہا قبیله تراب سے ہیں پچھو لوگوں کے نام کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ کرام کاف کے کسرہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے اور یہ وہی ہیں جو بیت المقدس میں ایسی آخري عمر تک سکونت پذیر ہے، اور اسی نے یوں کہا ہے کہ یہ نیشاپورہ والوں کے ایک شخص ہیں لیکن صحیح بات وہی ہے جو ابو عبد اللہ الحاکم اور ابن عساکر کے کلام سے واضح ہے کہ بیت المقدس کے مقیم اور شیخ نیشاپوری دونوں سے ایک ہی شخص مراد ہیں، موصوف محمد بن کرام نے علی بن حجر اور علی بن اسحاق الحاظلی السرقدی سے اور انہوں نے تفسیری ہے محمد بن مروان سے انہوں نے کلبی سے علاوه ازیں ابراہیم بن یوسف المکنانی اور ملک بن سلیمان الہروی اور احمد بن حرب اور عقیق بن الجرجی اور احمد بن الازھر النیسا بوری اور احمد بن عبد اللہ الحوساری اور محمد بن تمیم القاریانی سے جبکہ یہ علی بن حجر اور علی بن اسحاق دونوں ہی جھوٹے اور روایت گھر لینے والے تھے، ان کے علاوه اور رسول سے بھی روایتیں کی ہیں۔

اور خود محمد بن کرام سے محمد بن اسماعیل بن اسحاق اور ابو اسحاق بن سفیان اور عبد اللہ بن محمد القیراطی اور ابراہیم الجاج انسا بوری نے روایت کی ہے۔

اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ یہ طاہر بن عبد اللہ کے قید خانہ میں مقید کیے گئے تھے۔ جب اس نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ شام کی سرحد کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے پھر نیشاپور کی طرف تیئے۔ اس مرتبہ بھی انہیں محمد بن طاہر بن عبد اللہ نے قید خانہ میں ڈال دیا اور زمانہ دراز تک وہیں رہنے دیا۔ ان کا ایک عمل وہاں یہ تھا کہ ہر کے دن جمعہ کی نماز کی پوری تیاری کر کے اپنے جیل خانہ کے پر نئندھن کے پاس پہنچ کر کہتے کہ مجھے نماز کے لیے باہر جانے دو تو منع کر دیتا تب یہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتے کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ نماز کے لیے جانے میں مجھے کوئی حل نہیں ہے، میں مendum ہوں۔

کسی اور نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس میں چار سال قیام کیا، اور وہاں وعظ کے لیے اس ستون کے پاس وعظ و تلقین فرماتے جو مشہد عیسیٰ ﷺ کے پاس ہے، اس علاقہ میں وہاں کے لوگوں کی زبردست بھیڑ ہوا کرتی۔ مگر بعد میں جب ان کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے۔ اس میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لوگ ان سے کنارے ہو گئے اور وہاں کے حاکم نے انہیں زغر کے نیشی علاقہ کی طرف نکال دیا۔ وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا، مگر بعد میں لاش بیت المقدس لائی گئی، وفات اسی سال ماصر میں ہوئی۔

حاکم کا بیان ہے کہ بیت المقدس ہی میں رات کے وقت وفات پائی اور انبیاء کرام کی قبروں کے قریب ہی باب ارجیا میں دفن کیے گئے بیت المقدس میں ان کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً میں ہزار ہے۔ واللہ اعلم



## واقعات — ۲۵۶

موی بن بغا کا خلیفہ کے دربار میں ہنگامہ برپا کرنا:

ماہ حرم کی بارہویں تاریخ صبح کے وقت موی بن بغا سامرا پہنچا اور بڑے لشکر کو لیے ہوئے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس طریقہ سے کہ اسے دائیں بائیں آگے پچھے اور پیچے کے حصوں میں بانٹ رکھا تھا، یہاں تک کہ دارالخلافہ پہنچ کیا، جہاں پر خلیفہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکایتیں سن رہے تھے۔ اس نے پہنچتے ہی خلیفہ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی لیکن انہوں نے بلانے میں کچھ تاخیر کر دی اور انتظار میں کھڑا کر دیا، جس سے ان لوگوں نے دل ہی دل میں یہ بدگمانی کی کہ خلیفہ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے کر بلوایا ہے تاکہ صالح بن وصیف کو ان پر مسلط کر دے، اس خیال کے آتے ہی ذر کے مارے وہ لوگ اچانک یکبارگی اندر رھس گئے، اور اپنی ترکی زبان میں گفتگو اور مشورے کرنے لگا، یہاں ایک بات طے کر کے ان لوگوں نے خلیفہ کو ان کی مجلس سے اٹھادیا اور جو کچھ وہاں تھا، سب لوٹ لیا۔ پھر بری طرح انتہائی بے عزیزی کے ساتھ انہیں دوسرا گھر لے گئے، تو خلیفہ نے ان لوگوں سے کہا: اے موی بن بغا! تم پر افسوس ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیے آدمیوں سے بلوا بھیجا ہے تاکہ صالح بن وصیف کے خلاف مجھے تم بغا نہیں کیا ہوئے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیے آدمیوں سے بلوا بھیجا ہے تاکہ صالح بن وصیف کے خلاف مجھے تم سے وقت حاصل ہو، تب موی بن بغا نے کہا، خیر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ مرے سامنے قسم کہا کہ تمہیں کہاں کی دل کی آواز کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں، چنانچہ خلیفہ نے اسی طرح قسم کھائی، تب وہ لوگ مطمئن ہو گئے، اور آئنے سامنے ان سے دوبارہ بیعت کی، پھر دوبارہ سخت وعدے اور بیثاق لیے تاکہ صالح کو ان کے مقابلہ میں ترجیح نہیں دیں گے، اسی بات پر ان سے مصالحت ہو گئی، پھر ان لوگوں نے صالح بن وصیف کے پاس اس امضوں کا پیغام بھیجا کہ یہاں آ کر خلیفہ معتز اور ان کے علاوہ ان کے دفتری ملازمین وغیرہم کے قاتلین کے بارے میں گفتگو کی جائے اور اس کی تخریج کی جائے تو اس نے آئے کا وعدہ کیا، پھر صالح نے اپنے ماننے والوں، حاکموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کر کے موی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر رات کے وقت وہ اچانک لاپتہ ہو گیا، اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلا گیا، اس لیے موی بن بغا نے شہر کے تمام علاقوں میں اس کی گمشدگی کا عام اعلان کر دیا، ساتھ ہی اس کے چھپانے والوں کو دھمکی بھی دی گئی، مگر ماہ صفر کے آخر تک اس کا پتہ نہ چل سکا، جس کی تفصیل ہم عنقریب بیان کر دیں گے۔ پھر سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کو دوبارہ بغداد کا نائب حاکم بنایا کر بھیج دیا گیا۔ اور جب موی بن بغا اور اس کے ساتھیوں کو صالح بن وصیف کا پتہ لگنے میں بہت دیر ہو گئی، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس خلیفہ مہتدی کو اس کی خلافت سے عیحدہ کر دو، مگر خود ان کے ہی آدمیوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ ایسے دیدار کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، جو بہت روزے رکھنے والا راتوں کو بہت تجدی پڑھنے والا ہے، جو نہ کبھی شراب پیتا ہے اور نہ کبھی کوئی برائی کا کام کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی قسم یہ پہلے خلیفوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی اس معاملہ میں کوئی دوسرا تمہاری کوئی بات مانے گا۔

### موی بن بغا کے سامنے خلیفہ کی ایک مختصر مگر پر جو شیخ تقریر ہے:

پھر یہ خبر نو دخلیفہ کو بھی پہنچ کی تو وہ اپنے گلے میں تکوار لٹکاتے ہوئے اوگوں کے سامنے نکل آئے اور تنہت پر جو شیخ رہموی بن بخار اور اس کے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر ہما کہ میرے معاملہ میں تم اوگوں نے بو کچھ کشیدگی کی ہے اس کی مجھے نہیں گئی ہے اللہ کی قسم میں صفت کے لیے بالکل تیار ہو کر بدن پر جنم طاخوش بواہ کر کر اور اپنے بھائی کو اپنے لڑکے کے بارے میں وصیت کر کے گھر سے بکا ہوں ساتھ ہی میرے ہانجھ میں میری تکوار بھی ہے جب تک کہ اس کے قبضہ پر میرا باتھ ہے اس وقت تک میں لٹھتا رہوں گا اور اللہ کی قسم اگر میرے بدن کا ایک بال بھی بیکا ہو گا اس کے عوض تم سب ختم کر دیئے جاؤ گے یا تم میں سے اکثر ہلاک کر دیئے جاؤ گے کیا تمہارا کوئی دین نہیں ہے کیا تم کو کچھ شرم و حیا نہیں ہے کیا تم شرماتے نہیں ہو کہ تمہاری ایسی حرکتیں اور ان کا اقدام خلفاء کے خلاف کر کے تم خود اللہ عز و جل کی دشمنی کر رہے ہو اور تم ذرا نہیں سمجھتے تمہارے زدیک برابر ہیں وہ سب لوگ جو تمہاری زندگی چاہتے ہوں اور نیک سیرتوں کے مالک ہوں اور وہ لوگ جو بھرے بھرے منکر شراب ملنگا اکر بر ملا تمہارے سامنے پیتے ہوں اور تم ذرہ برابر ان پر اعتراض نہیں کر سکتے نیز تمہارا مال تم سے اور تمہارے کمزوروں سے چھین کر خود ان پر قبضے جاتے ہوں تمہارے سامنے میرا گھر موجود ہے جاؤ اسے اور میرے بھائیوں کے اور میرے دوسرے رشتہ داروں کے گھروں کو دیکھو کیا تم ان میں سے کسی میں بھی سامان اس باب یا ان کے فرش وغیرہ سے کچھ بھی شایی انداز کے پاتے ہو، ہمارے گھروں میں بھی تم صرف وہی سامان پاؤ گے جو تمہارے عام لوگوں کے گھروں میں ہیں تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ میں صالح بن وصیف کی خبر سے واقف ہوں مگر میرے زدیک وہ تمہارا اسی ایک فرد ہے اس لیے اپنے دل کی تشنی کے لیے اس کے متعلق معلومات حاصل کرو اور تحقیقات کرو ایکن میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے یہ کن کران لوگوں نے کہا تو آپ ان باتوں کے لیے ہمارے سامنے قسم کھالیں جواب دیا کہ ہاں میں قسم بھی کھا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں ہیں تو اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک کہ تمام ہاشمی سرداروں، قاضیوں اور مصنفوں کی جماعت اور اونچے طبقہ کے تمام حضرات کل جمع ہو جائیں گے جبکہ میں کل جمع کی نماز پڑھالوں گا۔ یہ باقی سن کران کے دل کچھ نرم ہوئے۔ مگر ۲۲ رتاریخ ماه صفر میں اتوار کے دن کسی طرح ان لوگوں نے صالح بن وصیف کو پالیا اور اسے قتل کر کے خلیفہ کے سامنے اس کا سراس وقت لایا گیا جبکہ وہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے اس وقت انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اسے چھپا دو پھر اپنی تسبیح اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔

دوسرے دن دو شنبہ کو صبح کی نماز کے بعد سرکونیزہ پر لٹکا کر پورے شہر میں لگشت لگاتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اپنے آتا کو قتل کرنے والے کا یہ بدلہ ہے اس کے بعد شہر کے حالات پر یہاں کن رہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے یہاں تک کہ شرپسندوں نے خلیفہ مہتدی کو بھی خلافت سے دست بردار کر کے قتل کر دیا۔ رحمہ اللہ۔

### خلافت سے مہتدی باللہ کی دست برداری اور معتمد احمد بن متوكل کی حکومت:

موی بن بغا کو جب یہ خبر پہنچی کہ مساور الشاری نے اس علاقہ میں زبردست قندوفساد برپا کر رکھا ہے تو وہ فوراً بھاری لشکر لے کر اس کے مقابلہ کروانہ ہوا اور اس کے ساتھ مغلخ اور با یکباک تر کی بھی تھے چنانچہ اس مساور خارجی سے زبردست جنگ ہوئی۔

مگر اس پر قابو نہ پاسکے بلکہ وہ کسی طرح ان کے سامنے سے نکل ہوا گا اور یہاں کہ کچھ نہیں این رکھ کر کہناں لو گوں اسکے بال کی پیچھے ہے بہت پہلے وہ جو ہنگامے وغیرہ کرنا چاہتا تھا، کہ چکا تھا، بالآخر یہ لوگ ناکام ہوٹ آئے اور اس پر قابو نہ یا سکے، بھر جب خلیفہ کی یہ خواہش ہوئی کہ ان ترکیوں کو آپس میں لڑادے تو انہوں نے با یکباک تو خط للھا کر تم موئی بن بغاء کے شتر پر قبضہ کرو یونہدہ اس وقت تم ہی لوگوں کے امیر ہو جاؤ گے اور اس کا مقابلہ سارماں کی طرف جا کر کرو۔

جب یہ خط با یکباک کو ملا تو اس نے موئی بن بغاء کو بھی پڑھنے کو دے دیا۔ پڑھتے ہی مہتدی کے خلاف اس کے بدن میں آگ بھڑک گئی، اور دونوں ہی خلیفہ کے مخالف ہو گئے، اور دونوں ہی اس سے ملنے کو سامرا چلے گئے، اور ان دونوں نے آپس کے اختلاف کو پس پشت ڈال دیا۔ خلیفہ مہتدی کو جو نہیں اس کی خبر ملی فوراً ہر قسم کی فوجوں، بغاریہ، فراغنہ، اشرودیہ، ارزکشیہ اور ترکیوں کو بھی اکٹھا کر کے بہت عظیم الشان شکر لے کر ان کے مقابلہ کو روانہ ہو گئے۔ جو نہیں ان لوگوں کو خبر ملی فوراً موئی بن بغاء نے خراسان کا راستہ اختیار کیا اور با یکباک نے اطاعت اور فرمابرداری کا اظہار کیا۔

چنانچہ ۱۲ اگست رب جمادی ۱۴۰۷ھ خلیفہ کے دربار میں مطیع و فرمابردار ہو کر حاضر ہو گیا، جب وہ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے چاروں طرف امراء اور سرداران بیہقی موجود تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں اس کے قتل کے بارے میں مشورے کیے تو ان میں سے صالح بن علی ابن یعقوب بن ابی جعفر نصیر نے کہا، اے امیر المؤمنین! بہادری میں جتنا نام آپ نے پیدا کیا اتنا سابقین خلفاء میں سے کوئی بھی پیدا نہ کر سکتا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ابو موئی خراسانی اس شخص کے مقابلہ میں انتہائی شریر اور شکری تعداد میں بھی وہ اس سے بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود جب خلیفہ نصیر نے اسے قتل کر دیا تو اس وقت کا نقشہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھیوں کی آواز بند ہو گئی یہ مشورہ سن کر خلیفہ نے با یکباک کی گردان اڑائی ہے کا حکم دیا، پھر اس کے سر کو ترکیوں کی طرف پھینک دیا، جب ان لوگوں نے اس کا سراسحال میں دیکھا تو اس واقعہ کو بڑی اہمیت دی اور دوسرے دن صحیح کے وقت وہ سب با یکباک کے بھائی طغوتیا کے پاس مشورہ کرنے اور ہنگامہ برپا کرنے کی نیت سے اکٹھے ہو گئے، مگر خلیفہ کو بھی جیسے ہی خبر ملی وہ بھی اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل پڑے، جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان سے آمنا سامنا ہونے کے بعد وہ ترکی جواب تک خلیفہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی دھوکہ دیا اور اپنے قبیلہ والوں سے جاملے اور خلیفہ کے مقابلہ میں سب ایک ہو گئے، پھر بھی خلیفہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اور ان میں سے تقریباً چار ہزار کو قتل کر دیا اساتھ ہی ان لوگوں نے بھی ان پر جوابی حملہ کر دیا۔

### ترکیوں کے مقابلہ میں بالآخر خلیفہ کی شکست:

بالآخر خلیفہ شکست کھا گئے اور ہاتھ میں سوتی ہوئی تلوار لے کر پکارنے لگے، اے لوگو! تم اپنے خلیفہ کی مدد کو دوڑو، پھر اپنے ایک معاون احمد بن عقبہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور فوراً اپنا جنگی لباس اور سامان اتار کر سادہ لباس بدلتا ہے۔ اور ارادہ کر لیا کہ یہاں سے نکل کر چھپ جائیں، لیکن احمد بن خاقان نے فوراً ہی انہیں گھر سے گرفتار کر لیا اور بھاگنے کا موقع نہ دیا۔ اور تیر سے انہیں مارا اور ان کے کوئی بھی پر نیزے سے حملہ کر دیا اور ایک گھوڑے پر انہیں سوار کر لیا، اس حال میں کہ پیچے سے ایک محافظ بھی تھا، اس

وَفَتَ شَيْخَنِهِ كَمْ بِصَرِّ اَكَيْتُ تَجَسِّسَ اَمْ اَكَيْتُ شَدَّادَ تَقْرِيْبَ اَمْ حَالَ مِنْ اَنْهِيْسَ اَمْ هَمْ مِنْ تَقْانَ كَمْ بِهِ مِنْ، اَغْلَى كَمْ بِهِ، يَا، مَا، كَمْ بِهِ  
یَ خَلِیْفَهُ کَمْ لَوْگُوںَ نَ لَاتَّ، گھوْنَتَ سَ مَارَنَا شَرِیْعَ اَمْ رِیْ، یَا اَوْ چِیرَدَ پَتَحَنَتَ لَگَّا اَمْ، چِھَرَ اَکَوْهُ، نَیَارَ کَمْ تَجَزَّرَ یَ پَرَ انَ سَ مَتَخَذَلَ لَےِ لَیَا،  
اَمْ، اَنْهِيْسَ اَلْیَ اَیَّسَتَّ تَجَسِّسَ لَرَ حَوَالَ اَرَدَ، یَا جَوَانِیَ کَمْ تَصْتَسِیْنَ کَمْ چُورَتَا اَوْ بَیْتَارَ بَا، بَیَانَ تَکَّلَ کَدَ دَرَدَتِیَ تَابَ نَ لَالَّرَدَمَ تَوَرَّدَیَا، الْقَدَانَ  
پَرَ تَرَمَ کَرَےِ۔

اس وقت رجب کی ائمہ رہوں تاریخ اور بعارات کا دلن تھا۔ ان کی مدتِ خلافت کل پانچ دن کم صرف ایک سال ہوئی۔  
ان کی پیدائش کا سال دوسو نیس (۲۱۹) اور ایک قول میں دو سو پندرہ (۲۱۵) کا سال تھا۔

### حلیہ اور اخلاق:

وَهَشْكَلَانِدَمِ رِنْگَ دُبَلَےِ پَتَّ، بَنْجَلَےِ، ہَوَےِ اَوْ خَلِبُصُورَتِ دَارِصِیِ دَالَّتَ تَتَّهَ۔ اَنَ کَمْ کَنْیَتِ عَبْدَ اللَّهِ تَحْنِیِ، اَنَ کَمْ جَنَازَهَ کَمْ نَماَزَ،  
جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَے پڑھائی اور متصرِ بن متوكل کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔

ان کے بارے میں خطیب کا بیان ہے کہ وہ اگلے تمام خلفاء کے مقابلہ میں شکلاً اور مذہبًا بہت بہتر اور عادات اور اخلاق کے  
اعتبار سے بہت سخی، پر ہیزگاری، عبادت گزاری اور گوشہ نشینی میں سب سے زیادہ تھے۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ مہتدی نے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے کہ مجھ سے بیان کیا ہے علی بن ہشام نے  
طراح نے محمد بن الحسن الفقیہ سے انہوں نے اپنے ابی لیلی جسے، جن کا نام راؤ دبن علی ہے، انہوں نے اپنے والدے اور انہوں نے  
عبداللہ بن عباس بن حنبل سے انہوں نے کہا کہ حضرت عباس بن حنبل نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اس معاملہ میں ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو  
آپ نے فرمایا: میرے لیے تو نبوت ہوئی، مگر تم لوگوں کے لیے خلافت ہوئی، تم لوگوں سے ہی اس کی ابتداء ہوگی اور تم لوگوں پر ہی  
اس کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اور حضرت عباس بن حنبل کو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آپ سے محبت رکھے گا وہ میری شفاعت کا  
مستحق ہوگا اور جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ مستحق نہ ہوگا۔

اور خطیب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے مہتدی سے کسی معاملہ میں اپنے فریق کے خلاف مددجاہی تو انہوں  
نے بنی بر انصاف ایک فیصلہ دیا جو اس کے حق میں ہوا تو خوش ہو کر اس نے یہ اشعار کہے۔

(۱) حَكْمَتُمُوهُ فَقَضَى بَيْنَكُمْ اَبْلَجَ مِثْلَ الْقَمَرِ الزَّاهِرِ

ترجمہ: تم لوگوں نے اسے اپنا حاکم بنایا تو اس نے ایسا صحیح فیصلہ دیا جو چمکتے ہوئے چاند کی طرح بہت ہی واضح ہے۔

(۲) لَا يَقْبِلُ الرِّشُوَةَ فِي حُكْمِهِ وَلَا يَالَّى غَبَنَ الْحَاسِرِ

ترجمہ: وہ اپنے فیصلے میں کسی قسم کی رشوت قبول نہیں کرتا ہے اور نقصان پڑنے والے کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔

اپنی تعریف سن کر مہتدی نے کہا: اے فلاں! تمہاری اس خوش اعتمادی کا خدا تمہیں بدلتے ساتھ ہی یہ جان لو کہ میں  
تمہاری اس تعریف سے ذرہ برابر کسی دھوکہ میں بٹلانا ہوا، میرا تو یہ حال ہے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کیے بغیر کبھی میں اس مدد

خلافت پر نہیں بیٹھتا ہوں:

**ترجمہ:** ”یہیں بروز قیامت الصاف نا ترا روا لکا دل کا دل سے کسی پر درہ بر خشم نہیں ہوا اُسرچہ تھی کہ ولی عشیں ایسے ہے۔“  
برادر زبان کا ہوا رجیح حساب کے لیے تمہی بہت ہے فی ہیں۔ (بخاری، مسلم)

وہ کہتے ہیں کہ یہ سختے ہی تمام حاضرین مجلس روئے گے اس دن سے زیادہ میں نے کمی و بھگی رہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کمی نے یہ بھگی بیان کیا ہے کہ یہ مہتدی عہدہ خلافت سنبھالنے کے بعد اپنے قتل ہونے تک مسلسل روزے رکھا کرتے تھے اور وہ دل سے یہ بھگی چاہتے تھے کہ وہ اسی طرح حکومت کریں جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اپنے زمانہ میں کرتے تھے یعنی پرہیز گاری، خشک روٹی، عبادت کی زیادتی اور ہر معاملہ میں احتیاط۔ اگر وہ مزید زندہ رہتے اور اپنا معاون بنائیتے تو حقیقتاً حتی الامکان ان کے نقش قدم پر چلتے، ان کا پورا پختہ خیال ہو گیا تھا کہ حکومت سے ان ترکیوں کو نکال کر ہی دم لیں گے جنہوں نے پہلے خلفاء کی اہانت اور انہیں ذمیل کیا ہے اور منصب خلافت کی بے حرمتی کی ہے۔ احمد بن سعید اموی نے کہا ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ مکہ مظہرہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ فن نحو اور اشعار عرب سے متعلق بحثیں کر رہے تھے، اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آ کھڑا ہوا، اس کی ظاہری شکل سے ہم نے اسے کوئی بوانہ نہیں، مگر وہ یہ اشعار کہنے لگا۔

(۱) اما تستحبون الله ربكم بعدن النحو شغلتم بذار الناس في اعظم الشغل

**ترجمہ:** اے فن نحو کی کان والو! تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی، آپ لوگ ان معمولی سی باتوں میں انجھے ہوئے ہیں اور لوگ احتیائی عظیم الشان معاملہ میں بمتلا ہیں۔

(۲) امامكم اضحوی قتیلاً مجندلاً و قد اصبح الاسلام مفترق الشمل

**ترجمہ:** تمہارے امام تو قتل کیے ہوئے ڈیمیر بنے ہوئے ہیں، اور اسلام کا تقاق، انتشار کا خکار ہو گیا ہے۔

(۳) و انتم على الاشعار والنحو عَكْفًا تصيرون بالاصوات في الحسن السبل

**ترجمہ:** تم لوگ اشعار اور نحو کے بارے میں سر جوڑے بیٹھے ہوئے اور بظاہر اپنی آوازوں سے اچھے راستوں میں لگے ہوئے ہو۔ احمد اموی نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے غور کیا اور اس دن کی تاریخ لکھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ اسی دن مہتدی بالله قتل کر دیئے گئے وہ دوشنبہ کا دن، ماہ ربج ۲۵۲ھ جو ۱۶ اگسٹ تھی۔

### معتمد علی اللہ کی خلافت:

یہ احمد بن الموكل علی اللہ ہیں اور ابن نجیان (جو انوں کے بیٹے) کی کنیت سے مشہور تھے ان کی خلافت کی خصوصی بیعت سالی رواں میں ماہ ربج کی تیر ہوئیں تاریخ مغل کے دن امیر یار جو خ کے گھر میں لی گئی اور یہ معاملہ سابق خلیفہ مہتدی کی خلافت سے دستبرداری کے چند دن پہلے ہی پیش آیا تھا۔

اس کے بعد عمومی بیعت ماہ ربج کی ۷۰ تاریخ دوشنبہ کے دن لی گئی۔ ایک اور قول میں ربج کی دسویں تاریخ تھی۔

۱۔ وفات مہتدی اور بیعت معتمد کے مذکورہ دن اور تاریخیں قبل غور ہیں، کہ ایک کی دوسرے سے مناسبت نہیں ہے۔ ۲۔ انوار ائمۃ قائمی۔

پچھلے ہنگاموں کے نتیجہ میں موسیٰ بن بغا اور حبیب دنوں ہی "سرمن رائی" میں اپنے لھروں میں جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کا فندر سرد پڑ کیا۔ مساوی خارجی کا نزد ور پڑھتا۔

المتوفیہ خارجی جس نے خود کو اہل بیت کا ایک فرد بتایا تھا اور حبیبیوں کا سردار بن کیا تھا اس نے اپنے تبعین کے ساتھ بصرہ کا احاطہ کر رکھا تھا اور اس کے مقابلہ میں خلیفہ کی فوج تھی، وہ خارجی ہر روز ان پر ظلم کرتا اور ان کے مال چھین لیتا اور کشتیوں میں بھر بھر کر جو غلے وغیرہ باہر سے آتے ان سب پر قبضہ جاتیتا، آہستہ آہستہ اور عبادان وغیرہ ما دوسرے علاقوں پر بھی غالب آتا گیا۔ بصرہ والے بھی ان سے بہت ذرنشت لگتے اور ہر روز اس کی افرادی سماں اور لشکری طاقت بڑھتی ہی گئی، سال روایت کے آخر تک اس کی یہی حالت رہی۔

اس سال کوفہ میں ایک اور شخص کاظمہ ہوا جسے علی بن زید طالبی کہا جاتا تھا، اس کے مقابلہ کے لیے خلیفہ کی فوج اس کے مقابلہ میں آئی، مگر اس طالبی نے اسے پسا کر دیا، اس طرح کونہ میں بھی اس کی دھاک بیٹھ گئی، رب بڑھ گیا، اور یہ سب پر حادی ہو گیا۔

اسی سال محمد بن واصل تیبی نے شہراہونہ کے نائب حاکم حارث بن سیما شرابی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اہواز کے علاقوں پر قابض ہو گیا۔

اس سال رمضان مبارک کے مہینہ میں حسن بن زید "دیکھی" شہر کے علاقوں پر غالب آیا۔ لیکن ماہ شوال میں موسیٰ بن بغا بھی اس کے مقابلہ میں آیا اور خود خلیفہ بھی اس کو رخصت کرنے کو نکلے۔ اسی سال ایک اور اہم معاملہ در پیش آیا، جو دمشق کے دروازہ پر اس کے نائب حاکم اماجور جس کے پاس صرف چار سو شہسوار نوجوان تھے اور اس کے مقابلہ میں عیسیٰ بن شیخ تھا، جس کے پاس میں ہزار فوجی تھے، دنوں میں مقابلہ ہوا، لیکن اماجور نے اسے بھی شکست دے دی پھر خلیفہ کی طرف سے ابن عیسیٰ بن اشیخ کو امر مینیہ کے علاقوں کی حکومت سونپ دی گئی، مگر اس شرط پر کہ وہ اہل شام کو چھوڑ دے گا، اور اس نے یہ شرط مان لی، اس کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو کر اپنی جگہ چلا گیا۔

اس سال محمد بن احمد عیسیٰ بن منصور نے لوگوں کو حج کرایا، ان حاجیوں میں ایک شخص قابل ذکر ابو احمد بن المتوکل بھی تھا، مگر اس نے بہت غلبت سے کام لیا اور جلد جلد چل کر بدھی رات ستائیں سیزی ذی الحجہ کو سامرا پہنچ گیا۔

اسی سال خلیفہ مہتمدی باللہ کا انتقال ہوا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ رحمہ اللہ

زیبر بن بکار:

نسب نامہ یہ ہے، زیبر بن بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزیبر بن العوام قریشی زیبری مکہ معظمه کے قاضی۔ بغداد آئے اور وہیں جوان ہوئے، ان کی ایک مشہور کتاب "انساب قریش" ہے، درحقیقت وہ انصاب کے ایک بڑے

علم تھے، اپنے فن کی بہت ہی جامع کتاب ہے، ان سے ابن الجہن وغیرہ نے حدیثوں کی روایت کی ہے، دارقطنی اور خطبہ نے خود ان کی اور ان کی کتاب دونوں کی توثیق اور تعریف کی ہے۔

اس مالی ذی القعدہ کے مہینہ میں پورا اسی بررسی عرب پاک اردو قات پائی۔

### امام محمد بن اسماعیل البخاری:

شہرہ آفاق کتاب اضْحَى الْكِتَابُ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ "صحیح بخاری" ان ہی کی تالیف ہے، ہم نے اپنی کتاب شرح بخاری میں ان کے حالات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اسی کتاب سے ماخوذ کچھ حالات ہم یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے۔

نام: محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرہ بن برذریہ الجعفی البخاری۔ ان کی لکنیت ابو عبد اللہ البخاری ہے، موصوف حافظ حدیث اور اپنے زمانہ میں محدثین کرام کے امام اور اپنے وقت کے مقتدا تھے، یہ کتاب بخاری عند اللہ اس قدر مقبول ہوئی کہ عام محمدثین میں قرآن مجید کے بعد ان ہی کی کتاب کا مرتبہ ہے، یہ کتاب عند اللہ اس قدر مقبول ہوئی کہ خشک سالی کے موقع پر بارش ہونے کے لیے اس کا ختم کیا جاتا ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ہر اہم ضرورت کے موقع پر با خلاص نیت اس کا ختم مفید اور محرب ہے)۔ تمام علماء کرام نے بالاتفاق اسے قبول کیا ہے اور اس کی احادیث کو صحیح مانا ہے بلکہ تمام مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے، موصوف کی بیدائش شب جمعہ تیر ہویں شوال ہی وہ کو ہوئی، ان کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اپنی والدہ محترمہ کی سر پرستی میں پالے گئے۔ یہ بھی مکتب کا علم حاصل کرتے تھے کہ ان ہی دونوں میں غیبی مدد سے حدیثین حفظ ہو گئی تھیں، صرف سولہ برس کی عمر میں مشہور کتاب میں ختم کر لی تھیں، یہاں تک کہ بعضوں نے کہا ہے کہ صرف سات برس کی عمر میں ہی سترہ ہزار حدیثیں انہیں حفظ ہو چکی تھیں، اور اٹھاڑہ برس کی عمر میں حج ادا کیا تھا، پھر کبکہ معظمہ میں مقیم ہو کر مختلف اساتذہ سے حدیثیں حاصل کرتے رہے۔ پھر جہاں تک ممکن ہو، کا مختلف علاقوں کا سفر کر کے مختلف محدثین اور مشائخ سے احادیث حاصل کیں، اور ایک ہزار سے زائد شیوخ سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور خود ان سے بے شمار علماء و محدثین کرام نے احادیث نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے آپ کے شاگرد فربری سے روایت کی ہے کہ میرے ساتھ تقریباً ستر ہزار افراد نے امام بخاری سے احادیث سنیں، مگر اب میرے سواد و سر اکوئی ناقل زندہ نہ رہا۔

فی الحال صحیح بخاری جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ ان شاگرد فربری کے واسطے سے مردی ہے۔

ان کے علاوہ حماد بن شاکر، ابراہیم بن معتزل، ظاہر بن مخلد ہیں، نیز ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی البردی الدشی بھی ہیں، ان نشی کا انتقال سن تین سو انتیس بھری میں ہوا، امیر ابو نصر ماکو لانے ان کی توثیق کی ہے، بخاری جن سے بڑے محمدثین نے روایتیں نقل کی ہیں، ان میں امام مسلم ہیں، انہوں نے اپنی غیر صحیح (مسلم شریف کے علاوہ دوسری کتابوں) میں ان سے روایت کی ہے، اس کے علاوہ امام مسلم خود کو آپ کا شاگرد بتاتے ہیں اور ان کی پوری عزت کرتے ہیں، اسی طرح امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں اور نسائی نے اپنی سنت میں قال بعضہم کی بحث میں روایت نقل کی ہے، یہ شہر بغداد میں آٹھ مرتبہ داخل ہوا، ہر مرتبہ امام احمد سے ملاقات ہوئی اور

امام احمد نے انہیں شہر بغدادی میں رہنے پر اصرار کیا اور خراسان میں رہنے پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ رات کے وقت اکثر ایسا ہوتا کہ امام بخاری سے سوتے ہوئے آنچھے باتے اور چہائے جلا لرہ وہ مضمون نوٹ کر لیتے جو اس وقت تک ذہن میں آتے۔ پھر چہائے جھاگری یہ بات پھر کوئی مضمون ذہن میں آتا آئندی پہنچت اور چہائے جلا لرہ وہ مضمون نوٹ کر لیتے۔ پھر چہائے جلا لرہ سو۔ بتے اسی طرح تقریباً ساری رات کرتے اور ایک رات میں یہی مرتبہ بھی کرتے رہتے۔

امام موصوف بیکپن میں ہی کسی بیماری سے بینا ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ مختارہ مادر شریعتی رہتیں۔ ایک بار انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا تمہارے ہر وقت روئے رہنے یا دعا کی زیادتی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیچے کی بینائی واپس کر دی ہے، چنانچہ صحیح کے وقت جب امام بخاری کی آنکھ کھلی تو ان کی آنکھوں کی روشنی بحال تھی امام بخاری نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی تصنیفات کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی تصنیفات میں دولا کھمنڈل حدشیں جمع کی ہیں اور وہ سب حافظ میں موجود ہیں ایک مرتبہ آپ سرقد تشریف لے گئے تو وہاں تقریباً چار سو مدین شیں جمع ہوئے اور ان کے حافظ کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے حدیثوں اور ان کی سندوں کو خلط ملط کر کے ان کی تصدیق چاہی کہ ملک شام کے محدثین کی سندوں کو عراق کے محدثین کی حدیثوں میں بدل دیا اسی طرح ایک جگہ کی حدیثوں کو دوسری جگہ کی حدیثوں سے خلط ملط کر کے ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے اس قسم کی سادھی مخلوط حدیثوں کو اصل حالت پر رکھ کر از سرنو ان کی ترتیب کے مطابق پوری سنا دیں اس طرح ہر قسم کی غلطیوں کی تصحیح کر دی اور کہیں جسی اعتراض کا موقع باقی نہ رکھا۔

اسی طرح بغداد میں بھی ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی کتاب کو وہ ایک بار دیکھ کر حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ان کے متعلق بہت سی مشہور ہیں۔ اسی بنا پر اس زمانہ کے تمام ہم عمر ساتھیوں علماء اور شیوخ نے آپ کی دل کھول کر تعریف کی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ خراسان میں ان جیسا کوئی محدث پیدا نہیں کیا ہے اور علی بن مدینہ نے فرمایا ہے کہ بخاری جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا ہے، اسحق بن راہویہ نے فرمایا ہے کہ اگر امام بخاری حضرت حسن بصری کے زمانہ میں پائے جاتے تو حدیث اس کی پیچان اور اس کی سمجھ کے لیے لوگ ان کے بھی محتاج ہوتے، اور ابو بکر بن شیبہ اور محمد بن عبد اللہ بن نعیر حمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں نے ان جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے، علی بن حجر نے فرمایا ہے کہ میں ان جیسا کسی کو محدث نہیں جانتا ہوں، محمود بن النظر بن سہل الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بصرہ، شام، حجاز اور کوفہ سب جگہ گیا اور وہاں کے علماء سے ملاقات کی، ان میں سے کسی کے سامنے اگر امام بخاری محمد بن اسما علیل بخاری کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ سب ان کو ہی اپنے اوپر فضیلت دیتے۔ ابو العباس الدعوی نے فرمایا ہے کہ بغداد والوں نے امام بخاری کو یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا۔

المسلمون بخیر ما حیبت لهم و لیس بعدك خیر حین تفتقد

**ترجمہ:** جب تک کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، سب میں خیر و برکت ہے اور جب آپ نہ پائے جائیں گے فوت ہو جائیں

۱۔ مسند و روایت ہے جس میں متن اور سند دونوں یعنی اصل حدیث اور اس کے بیان کرنے والے تمام لوگوں کے نام بھی مذکور ہوں، (انوار الحقائق)

گئے، اس وقت ان میں وہ خیر و برکت باقی نہیں رہے گی۔“ اور فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری نہ جانتے ہوں فی الحقيقة و حدیث نہیں ہے۔ اور ابوحنیم احمد بن سعید نے اپنے فرمائیا ہے کہ امام بخاری کی حدیث کے فقیہ ہیں۔ یہاں پر یعقوب بن اہم اہمیت اللہ، ورقی نے بھی فرمایا ہے۔ بعض علماء تزوہ بھی ہیں جنہوں نے امام بخاری لوفقة اور حدیث دونوں میں احمد بن حنبل پر ترجیح دی ہے۔ اور قتبیہ بن سعید نے فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب ہر طرف سے لوگ میرے پاس آئے، مگر محمد بن اسماعیل جیسا دوسرا کوئی بھی نہ آیا۔ اور مرجی بن رجاء نے فرمایا ہے کہ امام بخاری کو ان کے اپنے زمانہ میں دوسرے علماء پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ مردوں کو عورتوں پر ہے، لیکن ان کے پہلے زمانہ میں مثلاً صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں ان کو فوقيت نہیں ہے۔ اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی ایک نشانی تھے۔ اور ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الداری نے فرمایا ہے کہ محمد بن اسماعیل ہم سبھوں میں زیادہ فقیہہ زیادہ عالم باریکیوں پر زیادہ نظر کرنے والے اور علم کو ہم سبھوں سے زیادہ طلب کرنے والے تھے۔

اور اسحاق بن راہویہ نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ واقف حال تھے اور ابو حاتم رازی نے فرمایا ہے کہ عراق میں جتنے

محمدین اور علماء آئے، ان سب میں محمد بن اسماعیل ہی زیادہ عالم تھے۔

اور عبد اللہ الجبی نے فرمایا ہے کہ میں جنہیں ابو حاتم اور ابو زرعہ رحمہما اللہ کو دیکھا ہے وہ ان کے پاس جاتے اور جو وہ کہتے اسے وہ دونوں غور سے سنتے اور امام مسلم بھی ان کے پابھ کے نہ تھے اور محمد بن یحییٰ ذہل سے اتنا اتنا (بہت زیادہ عالم تھے) وہ سب ہی باحیا اور فاضل تھے ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے، کسی اور نہ کہا ہے کہ میں نے محمد بن یحییٰ ذہل کو دیکھا ہے کہ وہ امام بخاری سے محمدین کے ناموں، ان کی کنٹیوں اور احادیث کی کمزوریوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور یہ حدیث کی تد میں تیر کی طرح داخل ہو جاتے تھے اسی آسانی سے کہ گویا وہ مشہور و معروف اور مختصری سورۃ کلہ، ہوا اللہ احد کی تلاوت کر رہے ہیں۔

احمد بن حمادون قصار نے فرمایا ہے کہ میں نے مسلم بن الحجاج کو دیکھا کہ وہ امام بخاری کے پاس تشریف لائے، اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کے پیروں کو بھی بوسہ دوں اے استاذ! محمدین کے سردار! حدیث کی بیماریوں کے طبیب! اس کے بعد انہوں نے مجلس کے کفارہ کی حدیث کے بارے میں ان سے کچھ دریافت کیا تو انہوں نے اس کی علت بیان کر کے مطمئن کر دیا، اس سے وہ جب فارغ ہوئے تو مسلم نے فرمایا کہ سوائے حسد کے آپ سے کوئی دشمنی اور نفرت نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔

اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ احادیث کی علتوں ان کی تاریخوں اور ان کی سندوں کی شاخت کے متعلق میں نے امام بخاری سے بڑھ کر پورے عراق اور خراسان میں کسی کو نہیں پایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ عبد اللہ بن منیر کی مجلس میں تھے اس میں انہوں نے بخاری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ آپ کو اس امت کی زینت بنائے یہ سن کر امام ترمذی نے کہا، اللہ نے آپ کی یہ دعا ان کے حق میں قبول کر لی ہے۔ ابن خزیم نے فرمایا کہ پورے آسمان کے نیچے میں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا زیادہ عالم اور زیادہ حافظ محمد بن اسماعیل کے مقابلہ میں کسی کو نہیں دیکھا ہے۔

اگر ہم بخاری کی قوت حافظ، پختگی علم، سمجھنے ہیز گاری، نیا سے کنارہ، کشی اور ان کی عبادت کے بارے میں علم، کی آراء اور اخرينوں کا احاطہ کرنے لئیں تو یہ بحث بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ مگر اس وقت جسمیں حادث زمانہ بیان کرنے کی جلدی ہے اللہ جنانہ تعالیٰ سے تین ملکات جائز ہے۔

امام بخاری، حیدری، بہادری، سخاوت پر ہیز گاری اور، نیا سے کنارہ، کشی اور آخوند دار البیان، کی طرف رفتہ کرنے میں انتہائی درجہ پر تھے۔ امام بخاری نے خود فرمایا ہے کہ میں اللہ پاک سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے اس حالت میں ملاقات کروں گا کہ غیبت کرنے کے سلسلے میں مجھ سے کسی کا مطالبہ نہ ہوگا، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث کی تاریخ اور اس کے جرج و تعدیل میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے (کہ بظاہر آپ نے بہت سے محدثین کی غیبت اور برائی کی ہے) تو فرمایا کہ یہ سب کام غیبت میں شمار نہ ہوں گے، کیونکہ ایک موقع پر خود رسول اللہ ﷺ نے ایک منافق کی آپ کے پاس داخل ہونے کے لیے اجازت چاہئے پر فرمایا، آنے کی اسے اجازت دو گروہ برا بر اخنس ہے، اسی طرح ہم نے بھی جو کچھ لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں وہ تو ہم نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔

بخاری ہر رات تیرہ رکعت پڑھتے، اور ماہ رمضان کی ہر رات کو قرآن پاک کا ایک ختم کرتے، وہ بہت ہی تو نگر اور مالدار تھے، اس سے ظاہری طور پر چھپا کر ہر طرح مال خرچ کیا کرتے، رات دن ہر وقت ضرورت مندوں پر صدقہ اور خیرات کرتے رہتے، ان کی دعاء مقبول بارگاہ ایزدی اور تیرہ بهدف ہوتی، بہت ہی شریف انسنتھے۔

کسی بادشاہ نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ شاہی نسل میں وہ تشریف لا کر اس کے بچوں کو حدیث و قرآن کا درس دیں، تو آپ نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ کیا علم اور حلم ان کے گھر میں لا یا جائیے گا، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا ایسا ہی ارادہ ہو تو خود آئیں اور بچوں کو میرے پاس بھیج دیں، اور اس کے پاس جا کر تعلیم دینے سے اونکر دیا۔ اس وقت بخارا میں خالد بن احمد ذہبی بحیثیت نائب سلطان تھے، بخاری کے انکار کی وجہ سے اس بادشاہ کے دل میں ان سے دشمنی بیٹھ گئی، اتفاق کی بات ہے کہ اس کے پاس ان ہی دونوں محمد بن یحیی ذہبی کا ایک خط آیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ”قرآن پاک کے الفاظ مخلوق ہیں، اور محمد بن یحیی ذہبی اور امام بخاری کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہو چکا تھا، امام بخاری نے افعال عباد کے سلسلہ میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی تھی، اس موقع پر امام ذہبی نے چاہا کہ اس مسئلہ کو اچھا کرنا سے لوگوں کے دل برداشتہ کر دیں، کیونکہ وہ لوگ حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ جب امام بخاری باہر سے اپنے ولیں بخارا اپنے اہل و عیال کے پاس واپس تشریف لاتے تو لوگ خوشی اور عظمت کے اظہار کے طور پر ان کے اوپر سونا اور چاندی نچحاو کرتے، وہاں کی جامع میں ایک خاص جگہ مقرر تھی جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو احادیث لکھواتے۔

ایک موقع پر لوگوں نے بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود بات نہ مانی، اس لیے بادشاہ نے غصہ میں آ کر امام بخاری کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، مجبور انہیں ترک وطن کرنا پڑا، نکتہ وقت سلطان خالد بن احمد کے خلاف بدعا کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مہینہ کے اندر ہی ابن طاہر نے حکم دیا کہ خالد بن احمد کو کسی گدھی پر سوار کر کے شہر میں گشتن کرایا جائے، امام بخاری کی بدعا کے نتیجہ

میں اس کی حکومت ختم ہو گئی اور اسے بغداد کے بیل خانہ میں مقید کر دیا، یہاں تک کہ اسی میں اس کی موت بھی آگئی، اس کے علاوہ جس کسی نے بھی بخاری کے خلاف خالد بن مددی کی خلی فردا فراہم تھیں اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آنحضرت میں بنتا ہو گیا۔ بخاری اپنے شہرے انقلابیہ سرے شہر "خریج" پہنچے جو ستر قندے سے دو فرخ (اقریبہ اول کلومیٹر) تھا، وہاں اپنے رشد داروں کے پاس با کر رکھ رہے۔ اور دیکھ کر نکتوں کی زیادتی دیکھ کر اللہ کے پاس اُسما کی اے اللہ ا مجھے اپنے پاس بدلائے کونکہ ایک حدیث میں ہے: اے اللہ ا جب تو کسی قوم کو فتنہ میں بنتا کرنا چاہے تو اس فتنے میں بنتا ہونے سے پہلے ہی مجھے انہا لے۔ اس کے بعد ہی وہ مرغ میں بنتا ہوئے اور عید الفطر کی رات کو وفات پا گئے، جو ہفتہ کی رات تھی اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، دوسرے روز عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، یہ سال ۲۵۲ھ کا تھا، انہیں ان کی وصیت کے مطابق، تین سفید کپڑوں میں دفن کیا گیا، جن میں نہ قیص تھی اور نہ عمامة تھا، ان کے دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے زور دار خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ تیز تھی نکلنے کی اور کی دنوں تک یہی کیفیت رہی، پھر ان کی قبر کے آس پاس نور کے کئی سفید ستون بھی دیکھے گئے، جس دن آپ کی وفات ہوئی آپ کی عمر یا سیٹھ سال کی تھی۔

بخاریؒ نے اپنے بعد تمام مسلمانوں کے لیے ایک نفع بخش علم چھوڑا، اس لیے ان کے علم کا خاتمہ نہ ہوا، بلکہ وہ اعمال صالحہ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین قسم کا عمل باقی رہتا ہے، ایک وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، آخر حدیث تک۔ ان کی اس تکمیلی حدیث کی شرطوں کا، دوسری کتابوں کی شرطیں مقابله نہیں کر سکتی ہیں؛ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی شرطیں بھی اس کے مقابله میں نہیں آتی ہیں۔ کسی فتح شاعر نے ان کے بارے میں کتنے عمدہ اشعار کے ہیں۔

(١) صحيح البخاري لو انصفوه لما خلط الآباء الذهب

**تشریحہ:** صحیح بخاری کے ساتھ اگر لوگ انصاف کا معاملہ کریں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے صرف سونے کے پانی سے ہی لکھا جائے۔

(٢) هو الفرق بين الهدى والعمى هو المسدّد بين الفتى والغطّب

**تشریح:** اندھے اور آنکھ والے کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے وہ حائل ہے مضبوط اور کمزور کے درمیان۔

(٣) اسمايده مثل نجوم السماء امام متون لها كالشهب

**تہجیہت:** اس کی سند میں ایک مشعل راہ ہیں جیسے آسمان کے تارے، حدیث کے متنوں کی، ہی کتاب امام ہے مثل روشن ستارے کے۔

لے بخاری کی تاریخ ولادت وفات اور مدت حیات کا عربی میں ایک تاریخی شعر ہے، جس میں یہ تمدن الفاظ "صدق" جس کے اعداد ۱۵۷۸، نور جس کے اعداد ۲۵۶۰ اور مدت حیات حمید جس کے اعداد ۲۶۰ ہیں، ان سے ما آسانی تینوں یا تین معلوم ہو جاتی ہیں۔ انوار الحجت قاسمی۔

(٤) بِهَا قَامَ مِيزَانُ دِينِ الرَّسُولِ وَدَانَ بِهِ الْعُجُومُ بَعْدَ الْعَرَبِ

ترجمہ: اسی سندوں سے رسول اللہ ﷺ کے دین کا نرازو و قائم ہے اور اسی سے حرب کے بعد جنم والے تمی متعین ہیں۔

(٥) حَدَّابُ مِنَ النَّارِ لَا شَاءَ وَهُ يُسَيِّرُ بَيْنَ أَرْضِيِّ الْغَضَبِ

ترجمہ: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناراں جہنم میں جانے سے رکاوٹ ہے یہی کتاب اللہ کی رضا مندی اور نارضا مندی کے درمیان تجزیہ تی ہے۔

(٦) سَتْرُ رَقِيقِ الْمُصْطَفَى وَنَصْرٌ مِّبْنٌ لِكَشْفِ الرِّيبِ

ترجمہ: اور رسول مصطفیٰ ﷺ نکل پہنچ کے لیے یہ باریک پردہ ہے اور دین کے شک کو دور کرنے میں یہ واضح نص ہے۔

(٧) فِي عَالَمَ اجْمَعِ الْعَالَمِ وَعَلَى فَضْلِ رَبِّهِ فِي الرَّتبِ

ترجمہ: اے عالم دین! تمام عالموں نے اتفاق کیا ہے مرتبوں میں اس کے مرتبہ کی فضیلت پر۔

(٨) سَبَقَتِ الْأَئمَّةِ فِيمَا جَمِعَتْ وَفَرِزَتِ عَلَى زَعْمِهِمْ بِالْقُصْبِ

ترجمہ: اے صاحب کتاب! تم نے یہ کتاب جمع کی ہے اس کی بنابریم سارے اماموں پر سبقت لے گئے ہو اور علماء کے اقرار کے مطابق اپنی کامیابی کی علامت کے ہانس کو خدا کرم کامیاب ہو گئے ہو۔

(٩) نَفَيتُ الْضَّعِيفَ مِنَ النَّاقِلِينَ وَمِنْ كَانَ مَتَّهِمًا بِالْكَذْبِ

ترجمہ: نقل کرنے والوں میں تم نے کمزوروں کو علیحدہ لرکھا یا ہے اور اس شخص کو بھی جس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد ہو۔

(١٠) وَابْرَزْتَ فِي حَسْنِ تَرْتِيهِ وَتَبَوَّيْتَ عَجَالَ اللَّعْجِ

ترجمہ: اور تم آگے بڑھ گئے ہو اس کی ترتیب کی خوبی میں اور باب قائم کرنے میں تو یہ کتنی ہی تجب خیز بات ہے۔

(١١) فِي عَطَاكَ مُولَاكَ مَا تَشَهَّدَ وَاجْزَلْ حَظَكَ فِيمَا وَهِبَ

ترجمہ: اسی بنابری دعا ہے کہ تمہارا آقا تم کو وہ سب کچھ دے جس کی تم کو خواہش ہو اور وہ تم کو جو کچھ حصہ دے اس میں تم کو زیادہ حصہ دے۔



## واقعات — ۷۲۵ھ

اس سال خلیفہ معتمد نے یعقوب بن لیث کو بنخ اور طخارستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کرمان، بختان اور سندھ وغیرہ کا حاکم بنایا، اور اسی سال ماہ صفر میں خلیفہ نے اپنے بھائی ابو الحماد کو کوفہ طریق مکہ، حریم شریفین اور یمن کا حاکم بنایا، مزید برآں ماہ رمضان میں بغداد، سواد، واسطہ، کور، دجلہ، بصرہ اور فارس تک بھی اپنی حکومت کا اضافہ کیا، اور ان کو اجازت دی کہ ان تمام علاقوں میں ان کی قائم مقامی کے فرائض ادا کریں۔

### سعید حاجب اور جبشی سردار کے درمیان زبردست مقابلہ:

اسی سال بصرہ کے علاقہ میں سعید حاجب اور جبشی سردار کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، بالآخر سعید حاجب نے اسے شکست دے دی اور اس کے قبضہ سے بہت سی عورتوں اور بہت سے بچوں کو رہا کرایا، علاوه بریں بے حساب مال بھی واپس لیا، اور اس کی زبردست توہین کی، پھر ایک رات ان جبشیوں نے سعید حاجب اور اس کے لشکر پر حملہ کر کے بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود سعید بھی قتل کر دیے گئے، پھر اسی جبشی سردار نے جو خود کو طالبی کہا کرتا تھا حالانکہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا، ایک بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ ان لوگوں پر اور منصور بن جعفر اخیاط پر چلا کر کے انہیں شکست دے دی۔

### خناق کی گرفتاری اور اذیت کے ساتھ اس کا مارا جانا:

ابن جریر نے کہا ہے کہ اسی سال بغداد کے ایک علاقہ میں، جس کا نام، کہہ ززل تھا، ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جو خناق، گلاغونٹنے والا آدمی کے نام سے مشہور تھا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت سی عورتوں کو ان کے گلے گھونٹ کر مار دیا تھا، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ آئے دن کسی عورت کو اپنی محبت میں پھانستا اور مطلب برآ ری کے بعد اس کا گلے گھونٹ کر مار دیتا تھا، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے سب اس سے چھین لیتا، لوگوں نے اسے پکڑ کر معتمد کے دربار میں حاضر کر دیا، وہاں اسے دو ہزار چار سو کوڑے مارے گئے، اس کے باوجود وہ نہیں مر، آخر میں جلادوں نے اس کے خصیتیں کو شکنجه کی لکڑیوں سے دبایا اور جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل گئی انہیں وہ دباتے اور پیٹتے ہی رہے، اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ بغداد لا کر اسے سوی پر لٹکایا گیا، پھر آگ سے جلا دیا گیا۔

### جبشی سردار خبیث کا زور پکڑنا:

اسی سال چودھویں شوال کی رات کو چاندگرہن ہوا، یہاں تک کہ اس کا اکثر حصہ گرہن سے چھپ گیا، اسی دن صبح کے وقت جبشی سردار خبیث کے لشکر نے بصرہ میں زبردستی داخل ہو کر بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا اور وہاں کا نائب حاکم بغراج اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا، جبشیوں نے بصرہ کی جامع مسجد اور وہاں کے بہت سے گھروں میں بھی آگ لگادی اور

انہیں لوٹ لیا، اس کے بعد جب شریار کے ایک صاحبی اہر ایم برلنی نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ اماں چاہتے ہیں یہاں آ جائیں، یہ سن کر بصرے والے بڑی تعداد میں اس کے پاس جمع ہو گئے اس جب شریار نے اتنے باشندوں کو ایک جگہ پار کر موقع نیمت آجھا اور ان سے مدد و نفعی کر کے ان سب کو قتل کروادی، اس طرز اس سے پاس تھوڑے تھے ان آدنی بناگ سکے دردہ ب قتل کرو دیتے گئے اس کے بعد بھی اس جب شی کی حالت یہ تھی کہ کسی جگہ بھی بصرہ والوں کی بھیز، یہ تباہ اپنے لوگوں کو اشراوف میں کہتا کہ ان لوگوں کو قول ڈالنے کا مطلب ہوتا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا تو یہ حکم سنتے ہی وہ مقامی باشندوں پر تواریکرٹ پڑتے اور ان لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھنے کے علاوہ چارہ نہ ہوتا، اور جیخ و پکار کی آواز سنائی دینے لگتی اور ادھر سے ظالموں کی بھی کی آواز آتی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

وہ لوگ بصرہ میں متواتر کئی دنوں تک جہاں کہیں موقع پاتے اسی قسم کی حرکتیں کرتے اور بصرہ والوں میں سے جنہیں موقع ملتا، وہاں سے جان بچا کر بھانگنے کی کوشش کرتے، علاوہ ازیں وہ لوگ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک گھاس، پھوس، انسان، حیوان اور ہر چیز میں آگ لگادیتے تھے، حتیٰ کہ جامع مسجد میں بھی انہوں نے آگ لگادی، انہوں نے بہت سے معززین شہزادبا، فضلاء، محمد شین اور علماء کو بھی قتل کیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

پھر جب شی سردار خبیث جس نے فارس نبی کبھی قتل و قفال کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسے جب یہ خبر ملی کہ بصرہ والوں کے پاس پھر خوراک کا سامان و افر مقدار میں جمع ہو گیا ہے، اور بدھالی کے بعد پھران کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو اسے حسد ہونے لگا۔

اس موقع پر امن جریر نے کسی سے سن کر یہ بات نقل نہیں کر دی کہ وہ خبیث کہنے والا کہ میں نے اللہ کے پاس بصرہ والوں کے حق میں بدعا کی تو مجھے خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ بصرہ والے تو تمہارے لیے روٹی کی مانند ہیں اسے کنارہ کنارہ سے کھاؤ، جب آدمی روٹی کھالو گے تو وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تو میں نے اس کی تاویل اس طرز کی ہے کہ روٹی سے مراد چاند ہے اور اس کے ٹوٹنے سے مراد گھن لگنا ہے، یعنی جس رات چاند میں گھن لگے گا اس رات تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات اس کے ساتھیوں میں مشہور تھی، چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق واقع ظہور پذیر ہوا، کیونکہ بلاشبہ اس کے ساتھ کوئی شیطان رہتا تھا، جو اس سے اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، جیسا کہ مسیلہ کذاب و غیرہ کے ساتھ رہتا تھا، پھر جب جب شیخوں نے بصرہ والوں کے ساتھ جو دل دھلانے والا سلوک کیا، اس وقت اس خبیث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے آج صحیح اللہ تعالیٰ کے پاس بصرہ والوں کے خلاف بدعا کی اور اس کے بعد بصرہ کے اوپر میں میں نے دیکھا کہ اس شہر والے قفال کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ فرشتے بھی میرے جماعت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ میں غالب آ گیا اور اس وقت تک فرشتے میرے ساتھ لڑتے رہے، میری جماعت کی تائید کرتے رہے اور اسے انتشار سے بچاتے رہے، مگر وہ اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹا تھا، جیسا کہ اپنے نامہ کے بیان کرنے میں جھوٹا تھا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے خود کو علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ، پھر علی بن محمد بن الفضل بن الحسین بتایا

لی یہ زائد حصہ مصری نہیں موجود ہے۔ ۱۲۔ یہ فقط بعض نحوں میں دلفظوں کے ساتھ خبیث اور بعض نحوں میں تین نقطوں کے ساتھ خبیث ہے، میں نے اس کی صفت کی مناسبت سے تین نقطوں کے ساتھ خبیث ہی استعمال کیا ہے۔ ۱۲ (انوار الحجت قاسی)

اور اب جبکہ اس کے ساتھ بصرہ کے پچھے علوی مل گئے تھے اس وقت اس نے خود کو تھیجی بن زید کی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ اس کی یہ ساری باتیں بالکل غلط تھیں۔ کیونکہ بالاتفاق تھیں، بن زید کو صرف ایک لڑکی ہوئی تھی جو بیچپن ہی میں فوت ہوئی تھی اس کے اس کتاب مثلاً میں اس کے متنالام: حانی پر اللہ اس کو باکر کر دے کر وکٹا ہے اتحدہ نابدا کا، اور غدا، بھجو تھا۔

اسی سال ماواہی القعدہ کی پہلی تاریخوں میں خلیفہ امیر محمدی سرداری میں جو امولہ سے مشہور تھا اس سجنی سردار لے مقابلہ میں ایک زبردست فوج کے ساتھ بھیجا، اس نے اشاعر راہ میں سعد بن احمد البانی کو پکڑ لیا، جس نے بظاہر کے علاقہ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور وہاں لوٹ مار کا سلسلہ قائم کر لیا تھا۔

اسی سال محمد بن واصل نے ملک فارس کے علاقہ میں خلیفہ سے بغاوت کی تھی اور وہاں غالب آگیا تھا۔

اسی سال علاقہ روم کے ایک ایسے شخص نے جسے بسیل لسطینی کہا جاتا تھا، بادشاہ روم بیٹھا تھا میں بن توفیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر کے سلطنت روم پر قابض ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ بیٹھا تھا میں کو ملک روم پر بادشاہت کرتے ہوئے چوبیس برس گزر چکے تھے۔

اس سال فضل بن اسحاق عباسی نے لوگوں کو حج کرایا۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں مندرجہ ذیل لوگوں نے وفات پائی:

### حسن بن عوفہ بن یزید

یہ اس جز کے مصنف ہیں جو محدثین کے یہاں مشہور ہے، اور اس کی روایت کی جاتی ہے، ایک سو دس برس سے زائد عمر پائی تھی، بعضوں نے بجائے دس برس کے ساتھ برس بھی کہے ہیں، ان کے دس بیس تھے، جن کے نام عشرہ مبشر کے نام پر رکھے تھے، تھی بن معین جیسے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، امام احمد بن حبل کی خدمت میں جایا کرتے تھے، سن ایک سو پچاس بھری میں ان کی ولادت ہوئی اور ایک سو سات برس کی عمر پا کر سالی رواں سن دوسوستاون بھری میں وفات پائی۔

اور وفات پانے والوں میں یہ حضرات بھی ہیں: ابوسعید الاضعف، برید بن اخرم الطائی اور الرواسی۔

بعضیوں نے بصرہ کے جن باشندوں کو قتل کیا تھا ان ہی میں یہ دونوں بھی اسی وقت ذبح کرائے گئے تھے، ان کے علاوہ علی بن خشم بھی ہیں جو کہ امام مسلم کے ان اساتذہ میں سے تھے جن سے انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی تھیں، اسی طرح عباس بن الفرج ابوالفضل الربی اور لغوی ہیں، جو کہ عرب کے حالات اور اس کے باشندوں کی سیرتوں سے بھی بہت زیادہ واقع تھے، بہت زیادہ عام معلومات کے عالم اور قابل اعتقاد بھی تھے، الاصمعی اور ابو عبیدہ وغیرہ ہماسے روایت کی ہے، اور خود ان سے ابراہیم الحرمی، ابو بکر بن ابی الدنیا وغیرہ ہماسے روایت کی ہے۔

اسی سال بصرہ میں مشہور مظلوم جبشتی نے انہیں بھی قتل کیا تھا۔ یہ باتیں ابن خلکان نے اپنی وفیات میں بیان کی ہیں۔ اصمی

نے ان سے ایک واقعہ نقل کیا ہے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میرے قریب سے ایک دیہانی اینے گمشدہ لڑکے کا اعلان کرتے ہوئے گزر ا تو ہم نے اس سے کہا اس پیچے کی کچھ شناخت بتاؤ اس نے کہا گویا کہ وہ دنیز (دنیاروں کے رنگ کا بنہ ہے) تو ہم نے اپنی اعلیٰ ہدایت پر کیا۔ ان گنتیوں کی تصوری دیے بعد میں وہ اپنے کندے سے پر ایک لڑکے کو سوار کیے جانے لے رکھا یا یہ بالکل سیاہ ایک ہائٹی کے نچلے حصے کی طرح بالکل یا ہتھا یہ کیجوں میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کے متعلق دریافت کرتے تو میں بتاؤ کہ وہ تو صبح اس جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے بعد صحنی نے یہ اشعار پڑھے:

(۱) نعم ضجیع الفتی اذا برَدَ اللیل سحرًا وقرقوف الغردا

ترجمہ: نوجوان کا ساتھی اس وقت کتنا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے جبکہ ٹھنڈی ہو گئی ہو رات آخري وقت میں اور پرندے خوب چھپانے لگے ہوں۔

(۲) زَيْنَهَا اللَّهُ فِي الْفَؤَادِ كَمَا زَيْنَ فِي عَيْنِ وَالْدِولَةِ

ترجمہ: اللہ سے دل کا سہارا ایسا ہی بنادے جیسا کہ باپ کی آنکھ میں لڑکا پیارا بنادیا گیا ہے۔



## و ا ق ع ا ت — ۲۵۸

بیسویں ماہ ربیع الاول بروز دشنبہ خلیفہ نے اپنے بھائی ابو احمد و مصر تصریح کیا، اور بروز پنجشنبہ پہلی ربیع الآخر کو وہ اپنی منصبدارت پر بیٹھ گیا، اس کے بعد اپنے بھائی اور مبلغ کو خلعنٹ پہنایا، اس کے بعد وہ دونوں شکریوں کی ایک بڑی تعداد لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔

### مبلغ کا قتل ہو جانا:

وہاں پہنچ کر اس جبشی سردار اور اس کے شکر سے زبردست مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے مبلغ قتل کر دیا گیا، اس طرح پر کہ کہیں سے ایک تیر آ کر اس کے سینے میں پیوس ہو گیا، جس سے وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا، اور اس کی لاش سامرا لکر دفن کر دی گئی۔

اسی سال بھی بن محمد المحرانی نے اس جبشت جبشت سردار کے ایک بڑے سردار کو گرفتار کر کے سامرا پہنچا دیا، جہاں اسے خلیفہ معتمد کے سامنے دوسو کوڑے مارے گئے، پھر اس کے دنوں ہاتھ اور پیرائی جانب سے کاٹ دیئے گئے، آخر میں اسے توارے ذبح کر کے آگ سے جلا دیا گیا، اسے گرفتار کرنے والے ابو احمد کے شکر کے آدمی تھے، اور یہ گرفتاری زبردست مقابلہ کے بعد ہو گئی تھی، اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ذیل رکھے۔

### جبشی سردار کی لا یعنی باتیں:

جب اس کے قتل کی خبر اس جبشت سردار کو ہوئی تو اس نے اولاً افسوس کیا، پھر اس نے کہا مجھ سے اس معاملہ میں غیبی طور پر گفتگو کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا قتل کیا جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہو گا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ مالی غنیمت سے اچھے حصہ کو اپنے لیے چھپا لیا کرتا تھا، یہی جبشتی سردار اپنے ساتھیوں کو یہ بات بھی کہا کرتا تھا کہ مجھ پر بہوت پیش کی گئی تھی، مگر اس ڈر سے کہ میں اس کی ذمہ داریاں ادا نہ کر سکوں گا اس لیے میں نے نبوت قول نہیں کی۔

اسی سال ماہ ربیع الآخر میں سعید احمد البانی خلیفہ کے دروازہ پر جب پہنچا تو اسے سو کوڑے مارے گئے، جس سے وہ مر گیا، پھر اسے سوی پر بھی لٹکا دیا گیا۔

اسی سال اس جبشتی سردار کے ساتھیوں میں سے ایک قاضی اور چوبیس دوسرے ساتھی سامرا کے باب العامہ میں قتل کیے گئے۔

اس سال محمد بن واصل نے خلیفہ کی ذمہ داری دوبارہ قبول کر لی اور ملک فارس کا خراج یہاں پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ

دوسرے بہت سے معاملات درست کر دیے۔

ماہ رجب کے آخری دنوں میں ابو احمد اور اس سردار کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی جس کے نتیجہ میں دونوں فریق کے بہت سے افراد بارے گئے۔

### ابو احمد کا شہر واسط کی طرف نقل و طحن کرننا:

اس کے بعد ابو احمد نے اس علاقے کو اپنی ریاست کے لیے مناسب نہ سمجھا اس لیے وہاں سے واسط کی طرف منتقل ہو گیا، اور ماہ شعبان کی ابتداء میں وہاں اقتامت شروع کر دی، ابھی اس کی رہائش کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ وہاں ایک زبردست زولہ آیا ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا، جس سے اس علاقے کے بہت سارے مکانات ٹوٹ پھوٹ کر ڈھیر بن گئے اور تقریباً میں ہزار آدمی ختم ہو گئے، اسی زمانہ میں ایک زبردست وبا پھیلی، جس سے بغداد، سامرا اور واسط وغیرہ شہروں میں بے حساب جانی نقصان ہوا، اور خاص کر بغداد میں ایک بیماری پھیلی، جسے قفاع (جس سے ہاتھ پیر میز ہے ہو جاتے ہیں) کہتے ہیں۔

ماہ رمضان کی ساتویں تاریخ جمعرات کے دن سامرا میں باب العاصمہ کے پاس ایک ایسا شخص گرفتار کیا گیا جس کے متعلق یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ اسلاف کو گالیاں دیتا ہے۔ اس لیے اسے ہزار کوڑے مارے گئے۔ بالآخر اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

اور آٹھویں تاریخ بروز جمعہ امیر یار جون کا انقال ہو گیا، تو خلیفہ کے بھائی ابو عیسیٰ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور جعفر بن المعتمد نے بھی اس میں شرکت کی۔ اسی سال خاصان کے علاقہ میں موی بن بغا اور حسین بن زید کے ساتھیوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، مگر موی نے ان لوگوں کو شکست فاش کی۔

اسی طرح مسرور بختی اور مساور خارجی کے درمیان بھی جنگ ہوئی اور مسرور نے انہیں شکست دی اور ان کے معاونوں کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنالیا۔

اس سال فضل بن اسحاق نے جن کا ذکر گزر چکا ہے، لوگوں کو حج کرایا۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مخصوص لوگوں میں سے ان حضرات نے وفات پائی، احمد بن بدیل، احمد بن حفص، احمد بن سنان القطان، محمد بن یحیٰ ذہلی اور یحیٰ بن معاذ الرازی حبهم اللہ۔

### واقعات — ۲۵۹

اس سال ماہ ربیع الثانی کی چھبیسویں تاریخ جمعہ کے دن ابو احمد بن التوکل، واسط سے سامرا لوٹ آئے، اور جوشی سردار سے مقابلہ کے لیے محمد کو، جس کا لقب مولدہ تھا، اپنا قائم مقام بنادیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار اور بہادر تھا، ان ہی دنوں خلیفہ نے نائب کوفہ کے پاس سرداروں کی ایک جماعت بھیجی، ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر اس نائب کو زنج کر دیا، اور جو کچھ مال اس کے پاس تھا،

سب چھین لیا گکرو، صرف جائیں ہزار، یہاں ہی تھے۔ اسی سال ایک شتر بان نے جس کا نام شرکب الجمال تھا، خاسان کے ایک شہر مرو پر قبضہ کر کے است لوٹ لیا۔ اس حراثت سے، ماں کے لوگوں میں اس کا اور اس کی جماعت کا رعب بیٹھ گیا۔ اسی طرح ماں دو انقدر کی ستر تو یہ تاریخی مسویٰ ان بعیانیں جسیں سردار سے مقابلہ کے لیے آئیں اور غیرہ غیرہ نے توہن سے رخصت کیا، وہ اسے ایک قسمی خلعت، یہ اور عبد الرحمن بن مفلح شبراہواز کے علاقہ کی طرف، باش کا نائب حاکم ہوا کرنا۔ ساتھ ہی یہ غرض بھی کہ یہ خبیث جبشی کے مقابلہ کے وقت مویں بن بغای کی مدد کرے گا۔ چنانچہ اس عبد الرحمن بن مفلح نے اس جبشی خبیث کے لشکر کو زبردست شکست دی اور اس کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور انہیں اتنا زیادہ مرعوب کر دیا کہ پھر بھی ان لوگوں کے کوسراٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، اگرچہ اس جبشی خبیث نے انہیں بارہا بھارنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اس ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر علی بن ابیان الہمی جو کہ جبشی سردار کا معاون خاص اور اس کے لشکر کا سراغنہ تھا، اس کے اور عبد الرحمن بن مفلح کے درمیان بھی لڑائیاں ہوئیں اور اتنی زیادہ ہوئیں کہ ان کا بیان مشکل ہے، آخر کار اس کے بعد اس جبشی پر ایک نہ ایک مصیبت نازل ہوتی رہی۔ فللہ الحمد۔

اس لیے علی بن ابیان خائب و خابر اور مقبور و مغلوب ہو کر اپنے سردار کے پاس لوٹ آیا، اور عبد الرحمن بن مفلح نے تمام قیدیوں کو سامرا کھیج دیا۔ وہاں خلیفہ تک ان کے فتحی سے پہلے ہی لوگوں نے ان پر حملہ کر کے ان میں سے اکثر کو قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔

اس سال روم کا بادشاہ علیہ اللہ نعمۃ النعمۃ سمیا ط پھر ملطیہ نے علاقوں میں گیا تو وہاں کے باشندوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے سب سے بڑے جرنیل کو قتل کر دیا۔ بالآخر وہ ذیل ہو کر اپنے علاقہ میں واپس آگیا۔

#### مدعی خلافت خارجی کا قتل:

اسی سال یعقوب بن اسحاق لیث غیثا پور پنجھ اور اس خبیث پر غالب آئے جو ہرات میں سلسل تیس بر س سے خلافت کا مدعی تھا، چنانچہ اسے قتل کر کے اس کے سرکونیزہ پر لٹکا کر تمام علاقوں میں گشت کرایا اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا جس میں یہ باتیں لکھ دی گئی تھیں۔

اس سال ابراہیم بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن یعقوب بن سیمان بن اسحاق بن علی بن عبد اللہ بن عباس نے لوگوں کو جج کرایا۔

#### مخصوص اور مشہور عالم الجوز جانی کی وفات:

اس سال مخصوص لوگوں میں سے ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق بالجوزیانی نے وفات پائی، جو کہ جامع دمشق کے نام، خطیب اور وہاں کے مشہور عالم تھے، ان کی بہت سی مشہور اور مفید تصنیفات ہیں، ان میں سے ایک المترجم ہے، جس میں بیش بہا علوم اور بے شمار فوائد ہیں۔

## واقعات — ۲۶۰ھ

اس سال تمام مہنگی اسلامیہ میں غدیر کی اور ختنہ گرانی ہوئی۔ جس کی وجہ سے وہاں کے بہت سارے باشندے دوسرے ملکوں کی طرف نکل پڑے۔ مجاہدین میں سے ایک بھی مکہ ممعظمه میں نہ رہ سکا اور وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے، خود مکہ ممعظمه کا نائب گورنر بھی وہاں سے نکل گیا، اور بغداد میں ایک "کریم" جو کی قیمت ایک سو میں دینار ہو گئی، یہ بدحالی مہینوں تک باقی رہی۔

اس سال جب شردار نے حاکم کوفہ علی بن زید کو قتل کر دیا۔

اس سال رومیوں نے مسلمانوں کے ایک تلعہ پر جس کا نام لوکوۃ تھا قبضہ کر لیا۔

اس سال ابراہیم بن محمد بن اسماعیل نے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، لوگوں کو حج کرایا۔

### محضو صین کی وفات:

مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں: حسن بن محمد زعفرانی، عبدالرحمن بن شرف، مالک بن طوق، رجب و اے ان ہی کی طرف رجب کی نسبت کی جاتی ہے، یہی مالک بن طوق ہیں، اسی طرح رجب کو بھی رجب مالک بن طوق کہا جاتا ہے، حسین بن اسحاق العبادی جنہوں نے اقلیدیس کی کتاب کی اصلاح کی ہے، اس کے بعد یہ کتاب ثابت بن فرہ نے لکھی، اور حسین نے بھی علم ریاضی میں ایک کتاب بھلپی لکھی، اس کے علاوہ فن طب کی کتابیں بھی یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کی ہیں، اپنے وقت میں خلیفہ مامون الرشید کو اس قسم کے تراجم سے بہت زیادہ لچکی تھی، ایسا ہی ان سے پہلے جعفر برکی کو بھی لچکی تھی، حسین بن اسحاق نے تو فن طب میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان ہی کی طرف سائل حسین کی نسبت کی جاتی ہے، اپنے فن کے بڑے ہی عالم و فاضل تھے، اسی سال مغل کے دن ۲۶ ماہ صفر کو انتقال کیا، یہ باتیں ابن خلکان نے کہی ہیں۔

## واقعات — ۲۶۱ھ

اس سال حسن بن زید دیلم کے علاقے سے طبریان کی طرف آیا اور شہر طالوس کو جلا دیا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس کے خلاف یعقوب بن لیث سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔

اسی سال ماہ جمادی الآخر میں مساور خارجی نے اس سیجی بن حفص کو قتل کر دیا جو خراسان کے راستہ پر حکومت کر رہا تھا، اس بناء

۱۔ ایک کر = ۶۰ قفیر، ایک قفیر = ۸ مکوک، ایک مکوک = ۳ کلچہ، ایک کلچہ = ۲۰۰ درهم اور ایک درهم = تین ماش ایک رتی اور ۵/۵ رتی کا ہوتا ہے، اس طرح ایک کر کا وزن ۲۶،۰۰۰،۸۰۰ درهم کے برابر ہوا۔ اس قسم کے وزنوں کی تحقیق میں ایک رسالہ بن ام "اویان شرعیہ" مولفہ مفتی محمد شفیع صاحب، جس کے کل ۳۲ صفحات ہیں، بہت مفید ہے، مزید معلومات کے لیے اس کا ملاحظہ بہت مفید ہو گا۔ (انوار الحج قاسمی)

پر سرور بُلخی نے اس سے ناراضی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ابو احمد بن متول نے اس کا پیچھا لیا۔ بالآخر یہ مساو رایسا بھاگا کہ ہاتھ نہ آیا۔ اس سال ابن واصل جس نے فارس پر غلبہ حاصل کیا تھا اس کے او ر عبد الرحمن بن بُلخ کے درمیان بھڑپ ہوتی آئڑا بن واصل نے اسے شکست دے دی اور اسے قیدی بھی بنالیا اور طاشم قتل کیا گیا اور اس کے پورے شکر کو شکست دی۔ اس طرح محدودے چند کے سوا شکر سے کوئی نفع نہ کا۔

### مویں بن بغَا کا اس کے منصب سے معزولی کا حکم:

اس کے بعد یہ ابن واصل واسطہ کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں مویں بن بغَا سے مقابلہ کرے لیکن یہ مویں بجائے مقابلہ کرنے کے نائب کے خلیفہ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ مشرقی ممالک میں چونکہ بہت زیادہ فتنے برپا ہیں اور ان پر قابو پانا مشکل ہے، لہذا اسی میں بہتری ہے کہ ان سے مصالحت کر لی جائے یہاں کر خلیفہ کو غصہ آیا اور اس کے منصب سے اسے معزول کر دیا۔ اور اس کی جگہ اس کے سارے اختیارات اپنے بھائی ابو احمد کے سپرد کر دیئے۔

اس سال ابوالساج جیشیوں سے مقابلہ کے لیے نکلا اور ان سے سخت لڑائی کی، مگر جب شردار ہی ان پر غالب آیا، اور اس جب شی نے اہواز میں داخل ہو کر وہاں کئے لوگوں کو بے حساب قتل کیا، اور ان کے گھروں کو آگ لگادی، اس کے بعد ابوالساج اہواز کی نیابت سے کنارہ ہو گیا اور جیشیوں نے اہواز کو ویران کر دیا، پھر خلیفہ نے اس کی جگہ ابراہیم بن سیما کو وہاں کا حاکم بنادیا۔ اسی موقع پر سرور بُلخی نے جیشیوں سے مقابلہ کے لیے شکر پار کیا، پھر اسی سال خلیفہ نے نصر بن احمد بن رسد سامانی کو مادراء انہر بُلخ کا حاکم بنایا کہ ماہ رمضان میں اس کے پاس تحریری حکم نامہ بھیج دیا۔

ماہ شوال میں یعقوب بن لیث نے حرب میں واصل سے مقابلہ کا ارادہ کیا اور ماہ ذی القعده میں لڑائی ہو گئی، بالآخر یعقوب نے حرب کو شکست دے کر اس کے شکر پر قبضہ کر لیا، یہاں اس کے بہت سے گھروں کو اور کچھ اس کے اہل خانہ کو بھی قید کر لیا۔ اور اس کے سارے مال پر قبضہ بھی کر لیا، جس کی مجموعی قیمت چار کروڑ تھی، اور اس علاقہ کے ہر اس اس شخص کو بھی قتل کر دیا جو اس حرب میں واصل کی موافقت کرتا تھا، اللہ اس علاقہ کے حالات کو ہمیشہ کے لیے درست کر دے۔

### خلیفہ کا جعفر اور محمد کے لیے ولی عہدی کا فیصلہ:

ماہ شوال کی بارہویں تاریخ معمتند علی اللہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے جعفر کے لیے ولی عہدی کا فیصلہ سنایا اور اس کا لقب مفوض الی اللہ رکھا اور مغرب کا والی اسے مقرر کر دیا، ساتھ ہی افریقی ممالک مصر، شام، جزیرہ، موصل، ارمینیہ اور خراسان علاقوں کا بھی اس کی ولادت میں اضافہ کر دیا، اور اس کی معاونت میں مویں بن بغَا کو نامزد کیا، اس کے بعد کے لیے ابو احمد متول کے نام کا انتخاب کیا اور اس کا لقب الموفق باللہ رکھا اور اسے شرقی ممالک کا حاکم مقرر کیا اور اس کی معاونت کے لیے سرور بُلخی کو نامزد کیا۔ اور اس کو بغداد، سواد، کوفہ، طریق، مکہ، مدینہ، یمن، کسکر، کورد جلہ، اہواز، فارس، اصہان، کرخ، دیبور، ری، رنجان اور سندھ کا حاکم بنایا۔ اس مضمون کے مختلف فرائیں جاری کیے اور مختلف علاقوں میں پڑھ کر سنواد دیئے گئے، ان میں سے ایک نسخہ خاتمة کعبہ پر بھی لکھا دیا گیا۔ اس سال فضل بن اسحاق نے لوگوں کو حج کرایا۔

## مخصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں سے مندرجہ ذیل لوگوں نے وفات پائی۔ احمد بن سلیمان رہا وی احمد بن عبد اللہ بن جعیل حسن بن ابی الشوارب (کہ مذکور نہیں ہیں) اور دنیمیان غفرنی شعیب بن ابی بکر تہذیب بالله کے بھائی عبد اللہ بن واشق ابو شعیب سونا ابوزید پر طائفی جوصہ فیروز کے اماموں میں سے ایک تھے علی بن ابی کعب اُن کے بھائی ابو محمد احمد

صحیح مسلم کے جامع، مسلم بن الحجاج کے حالات:

ان کے مزید مختصر حالات یہ ہیں:

آپ کا اسم گرامی ہے مسلم ابو الحسین الفشیری نیشاپوری حفاظ حدیث کے اماموں میں سے ایک ہیں، اکثر علماء کے نزدیک صاحب صحیح بخاری محمد بن اسما عیل کے ہم پلے ہیں، اگرچہ پچھے محدثین مغربی ممالک والے اور مشرقیوں میں ابو علی نیشاپوری تو، اس صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر اس بنا پر ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ (۱) اس میں محدودے چند مقامات کے سوا کوئی مطلق حدیث نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہیں۔ (۲) صاحب مسلم ہر حدیث کو مکمل طور پر صرف ایک ہی جگہ ذکر کرتے ہیں، بخلاف صحیح بخاری کے۔ (۳) صحیح بخاری کی طرح یہ احادیث کو نکڑے نکڑے کر کے مختلف ابواب میں ذکر نہیں کرتے، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح بخاری کی احادیث کی سندوں کے مقابلے میں باعتبار قوت کے نہیں آتی ہیں، کیونکہ امام بخاری نے اپنی کتاب جامع میں احادیث کے ذکر کرنے کی شرطیں یہ رکھی ہیں کہ اس کے تمام راوی اپنے شیخ کے ہم عصر ہوں۔ (۴) اور کسی بھی ذریعہ سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی بھی موقع پر راوی نے اپنے اس شیخ سے کوئی روایت سنی ہو۔ مختصر بات یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس شرط ثانی کو لازمی طور پر اختیار نہیں کیا ہے بلکہ راوی اپنے اس شیخ کے صرف ہم پلے زمانہ ہونا ہی کافی سمجھ کر ان کی روایت قبول کر لی ہے، جیسا کہ علوم احادیث میں یہ باتیں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ اور خود میں جنے بھی بخاری شریف کی اپنی شرح کی ابتداء میں یہ باتیں بالتفصیل ذکر کر دی ہیں۔

امام مسلم حصول احادیث کے سلسلہ میں عراق، حجاز، شام اور مصر وغیرہ گئے ہیں اور ہر جگہ کثیر تعداد میں محدثین کرام سے احادیث سنی ہیں، جنہیں ہمارے شیخ حافظ المزراعی نے اپنی کتاب تہذیب میں ذکر کیا ہے اور ان کے ناموں کی ترتیب حروف تہجی (حروف ابجد) کے طریقہ پر ہے۔ پھر امام مسلم نے بھی بے شمار محدثین سے روایتیں نقل کی ہیں، جن میں سرفہرست امام ترمذی بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں یہ ایک حدیث نقل کی ہے جو موقول ہے محمد بن عمرو سے انہوں نے ابو سلہ سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماه رمضان کے چاند کی پہلی تاریخ کو صحیح طریقہ سے جانے کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھنے کی کوشش کرو۔

ان کے ملاوہ صالح بن محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابن خزیمہ، ابن عاعد اور ابو عوانہ اس فرائضی بھی ہیں۔ اور خطیب بغدادی نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محمد بن احمد بن یعقوب نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے احمد بن نعیم ضمی نے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے بیان

کیا ہے محدث ابن ابراہیم نے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن سلمہ کو بیان کرتے ہوئے شایعہ فرماتے تھے کہ میں نے وزیرہ اور ابو حاتم کو دیکھا ہے کہ یہ دونوں حضرات مسلم بن الحجاج (صاحب مسلم شریف) کو اپنے زمانہ کے تمام مشائخ پر معرفت حدیث کے علمیں میں ترجیح دیتے تھے اور مجھ سے ابن یعقوب نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے محمد بن نعیم نے بیان کیا ہے کہ میں نے سین بن محمد السرضی کو بیان کرتے ہوئے شایعہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے شایعہ کہ مجھ سے مسلم بن الحجاج نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب مسند صحیح کو تین لاکھ سنی ہوئی حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ اور خطیب بغدادی نے مزید ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے ابو القاسم عبید اللہ بن احمد بن علی السور جانی نے اصحاب میں بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن اسحاق بن منده سے شایعہ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو علی الحسین بن علی نیشاپوری کو یہ کہتے ہوئے شایعہ کہ علم حدیث کے متعلق آسمان کے نیچے مسلم بن الحجاج کی کتاب سے زیادہ صحیح، دوسری کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔

ایک مرتبہ اسحاق بن راہویہ کے سامنے امام مسلم کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اپنی بھی زبان میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اسحاق بن متصور نے امام کو مخاطب کر کے کہا، اللہ آپ کو جب تک مسلمانوں کے درمیان جب تک باقی رکھے گا، اس وقت تک ہم لوگ یہی بھلائی سے محروم نہیں کیے جاسکتے، بڑے بڑے علماء محدثین وغیر محدثین نے ان کی مختلف انداز میں تعریفیں کی ہیں۔ ابو عبد اللہ محمد بن عبید اللہ بن نیشاپوری الآخر نے فرمایا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی حدیث ہو جس کا ثبوت ہو اور وہ امام بخاری اور مسلم کی نظروں سے او جمل ہو، خطیب بغدادی نے ابو عمر و محمد بن حمدان الحیری سے نقل کیا ہے، فرمایا ہے کہ میں نے ابو العباس احمد بن سعید بن عقده الحافظ سے امام بخاری اور امام مسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ ان دونوں میں بڑے عالم کوں ہیں؟ جواب دیا کہ بخاری بھی اپنی جگہ بڑے تھے اور مسلم بھی اپنی جگہ بڑے تھے، میں نے اس سوال کو بار بار دہرا�ا اور ہر بار وہ ہی ہی جواب دیتے رہے، آخر میں فرمانے لگے کہ امام بخاری کو محدثین اہل شام کے بارے میں گاہے گا ہے غلط بھی ہو جایا کرتی ہے اس صورت سے کہ بخاری نے ان محدثین کی کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کیا ا ان میں سے کسی کو ایک جگہ لکھتے سے ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ پر اسی روایی کو ان کے اصل نام سے، اس بنا پر امام بخاری کو یہ وہم ہو جایا کرتا ہے کہ یہ دو اشخاص ہیں، لیکن امام مسلم کو ایسی غلط بھی شاید ہی ہو، کیونکہ انہوں نے مقطوع اور مرسل ساری حدیثیں قبول کر لی ہیں۔ اور خطیب نے فرمایا ہے کہ مسلم امام بخاری کے ہی طریقہ پر چلے ہیں، ان کے علم میں غور کیا ہے اور ان کے قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں، امام بخاری اپنے سفر کے آخری مرحلہ میں نیشاپور تشریف لائے تو مسلم ان کے ساتھ رہے اور ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور مجھ سے عبید اللہ بن احمد عنان صیری نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو الحسن دارقطنی کو یہ کہتے ہوئے شایعہ کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم نہ حدیث میں لوگوں کے پاس آمد رفت بھی نہ کرتے۔

### ایک علمی مسئلہ کی تحقیق اور امام بخاری کا جواب:

خطیب نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے ابو منکد رنے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو حامد احمد بن حمدان قصار کو یہ بیان کرتے ہوئے شایعہ کہ میں نے مسلم بن الحجاج کو اس وقت جگہ وہ محمد بن اسماعیل کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یہ کہتے

ہے سنا کہ جناب عالیٰ اس تاذ محدثین کے سردار اور حدیث کی یاداریوں کے طبیب! آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کے قدموں کو بوس دوں پھر یہ فرمائیں کہ مجلس کے کفارہ کے متعلق وہ روایت ہے محدث بن سلام نے آپ سے یوں روایت کی ہے کہم می خلدن یزید خراسانی اخراجی نے اس طرز بیان کیا ہے کہ تم سے ان برٹگ نے موئی بن عقبہ سے انہوں نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ عرضہ سے روایت کی ہے تو اس کی سند میں کیا خرابی ہے؟ اس کی نشاندہی فرمادیں، جواب دیا کہ اس حدیث میں کچھ خرابیاں ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں اس باب میں اس حدیث کے علاوہ میں دوسری کوئی حدیث نہیں جانتا، اس لیے یہ حدیث اس خاص سند سے معیوب ہے، کیونکہ مجھ سے اسی حدیث کو بیان کیا ہے موئی بن اسماعیل نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ہے وہیب نے بواسطہ سہیل بواسطہ عون بن عبد اللہ اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا کہ یہ سند پہلی سند کی نسبت بہتر ہے اور پہلی سند میں خرابی ہے، کیونکہ پہلی سند میں ہے کہ موئی بن عقبہ نے سہیل سے روایت کی ہے حالانکہ موئی کا سہیل سے سماع ثابت نہیں ہے۔

اب میں یہ کہنا ہوں کہ میں نے صرف اسی ایک حدیث کو مستقلًا ایک جزو میں ذکر کیا ہے، میں نے اس میں اس حدیث کی تمام سندوں، ان کے الفاظ اور ان کے متون کو، رآن کے عیوب و مفصلًا ذکر کیا ہے۔

خطیب بغدادی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام مسلم، امام بخاری کی حمایت کرتے تھے، اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا ہے جو بخاری اور محمد بن یحییٰ ذہبی کے درمیان غیشا پور میں الفاظ قرآن مجید کے مخلوق ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں پیش آیا تھا، اور یہ کہ کس طرح ان پر حملہ کیا گیا تھا۔

ایک مرتبہ ذہبی نے اپنے شاگردوں کے مجمع میں یہ عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی الفاظ قرآن پاک کے مخلوق ہونے کے مسئلہ میں بخاری جیسا عقیدہ رکھتا ہو وہ ہماری مجلس سے نکل جائے، یہ اعلان بنتے ہی فوراً امام مسلم وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور اب تک ان سے سن کر جتنی بھی روایتیں لکھی تھیں، تمام کو اکٹھا کر کے ان کے پاس واپس بھجوادیں۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی کوئی روایت ذہبی سے نقل نہیں کی، نہ اپنی صحیح مسلم میں اور نہ کسی دوسری جگہ، اور ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے درمیان منافر تقامر رہ گئی، مگر اس کے برنس خود امام بخاری نے محمد بن یحییٰ ذہبی سے نقل کرنے کا چھوڑا بلکہ اپنی صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی نقل کرتے رہے اور ذہبی کے طرزِ عمل پر انہیں مغذہ و سمجھا۔ رحمہ اللہ

### سبب موت کا واقعہ:

خطیب بغدادی<sup>ؒ</sup> نے امام مسلم کی موت کے سبب میں، یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مجلس مذاکرہ میں ان سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا، مگر وہ اس وقت اس کا جواب نہ دے سکے، اس کی تحقیق کے لیے اپنے گھر گئے، اور چراغ جلایا اور اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کر دی کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، اس کے قبل کھجور کی ایک ٹوکری کسی نے ہدیۃ انہیں پیش کی تھی، وہ وہیں پڑی

۱۔ جیسا کہ ابھی چند صفحے پہلے امام بخاری<sup>ؒ</sup> کے حالات میں گزر چکا ہے۔ (انوار الحق قاسمی)

ہوئی تھی اس سے وہ ایک ایک سمجھو رکھا تھا جاتے اور اس حدیث کو اپنے اور اس میں تلاش کرتے جاتے اس طرح ساری دادیں نظر آئیں اور ان کی بُوقی اور ادھر پریں اور نجس بُوقی اور انہیں اس کا انسان ملے۔ وہ شریعت پر اس کا بُوقی اور ادھر پر کہا وہ بہ رہو گئے آخر بروز یعنی شنبہ تاریخے وقت وفات ہوئی۔ انا نہ دانا الیہ راجعون۔ دوسرے دن بروز دوشنبہ ۲۵ ربیع الاول تھے تین نیشاپوری میں دُن کر دیے گئے ان کی پیدائش ۲۵ ربیع الاول تھے تین ہوئی۔ اس میں امام شافعی کی وفات ہوئی تھی اس حساب سے امام مسلم کی پوری زندگی صرف متادون بری کی ہوئی۔

ذکورہ حضرات کے علاوہ اسی سال ابو یزید البسطامیؑ کا بھی انتقال ہوا۔

### ابو یزید البسطامیؑ:

نام طیفور بن عیسیٰ بن علی تھا، مشائخ صوفیہ میں سے ایک تھے، آپ کے دادا پہلے مجوسی تھے، مگر بعد میں اسلام لے آئے، ان بسطامی کی چند بہتیں بھی تھیں، جو بہت ہی نیک اور عبادت کر رکھیں اور یہ خود ان سب سے بڑھے ہوئے تھے ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ علم معرفت میں اس درج تک کس طرح پہنچے؟ تو فرمایا: پہیت کو جو کارکھ کر، بدن کو نگار کھکر فرماتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اللہ کی طاعت کی دعوت دینا تھا تو وہ میری باقی نہیں ستاتا تھا، اس لیے ایک سال تک میں نے اس سے پانی کو روک دیا۔ فرماتے تھے کہ جب تم کسی میں کرامات دیکھو بلکہ ہوا میں بھی اڑتے ہوئے پاؤ جب بھی تم اس کی مذرگی پر دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں تک کہ اسے ادامر اور نواہی کا پابند اور اللہ کے حدود کا محافظ اور شریعت پر براخبر پاؤ۔

ابن خلکان نے موصوف کے بارے میں فرمایا ہے انہیں کے جالات اور مجاہدوں کے واقعات اور کرامات کی باتیں واضح اور مشہور ہیں۔ ۲۲۲ تھے میں وفات پائی، آپ سے کچھ نامناسب دادا اور لغزشیں بھی منقول ہیں، مگر فقہاء اور صوفیائے کرام نے ان کی تاویلیں کی ہیں اور ان کو دور دراز باتوں پر محمول کیا ہے، بعضوں نے ایسی باتوں کو بے خودی اور جذب پر محمول کیا ہے، بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو بدعتی اور خططا کار اور بہت بڑا بدعتی بتالیا ہے اور ان کے اعمال کے متعلق کہا ہے کہ ان سے فساد عقیدگی کا پتہ چلتا ہے، جسے وہ اپنے دل میں چھپائے پھرتے، کبھی کبھی بلا قصد ان کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## واقعات — ۲۲۲

اس سال یعقوب بن لیث ایک لشکر جرار لے کر آیا اور زبردستی و اسٹ میں داخل ہو گیا، اس لیے خلیفہ معتمد خود ہی سامراے اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور واسطہ و بغداد کے درمیان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ دوسری طرف خلیفہ کے بھائی ابو احمد الموقن بھی ان کی مدد کو ایک بڑا لشکر لے کر سامنے آیا، جس کے میمنہ (داہنے ہاتھ کے لشکر) پر موی بن بغا اور میسرہ (باکیں ہاتھ کے لشکر) پر سرور بختی تھے، اور ماہ رجب میں ان سکھوں میں زبردست مقاتلہ ہوا، یعقوب اور اس کے ساتھی مغلوب ہوئے، اتفاقاً وہ دن عیسائیوں

۱۔ اور امام شافعیؑ کی پیدائش اسی سال ہوئی، جس میں امام عظیم ابوحنیفہؑ کی وفات ہوئی تھی، یعنی ۴۷ھ میں۔ ۲۔ (انوار الحقائق)

کے تہوار منانے کا دن تھا جسے وہ عید الشعائر میں کہتے تھے اس بنا پر ان سے بہت سے آدمی قتل کر دیئے گئے۔ انہوں نے ان سے سونا، چاندی مشکل اور جانور بڑی تعداد میں بطور مالی میمت اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس موقع پر یہ بات جسی بھی نہیں تھی ہے اس یعقوب اسند میں ایسے بہت سے بھنٹے ہوئے تھے جن پر سینہ پر کئے امدادی بیٹھے ہوئے تھے اس کا میانی کے بعد خیز معتقد ہے انہی طرف ہے آئے اور محمد بن طاہر و بغداد میں نائب نا رہا اس نے لیے یا فی الواقع رہنماد یعنی کام مرد یا موقع یا برپہرا اس یعقوب بن لیث نے ممالک فارس پر تمدن کر کے غلبہ حاصل کر لیا اور وہاں سے اپنی واسطہ حاصل بھاگ گیا، اس سال بھی جوشی کے سردار غبیث اور غلیفہ کے لشکروں میں مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں۔

اس سال علی بن محمد بن ابی الشوارب کو عہدہ قضاۓ پر مأمور کیا گیا۔ اور اسہا علی بن اسحاق کو بغداد کے دونوں حصوں کا قاضی بناریا گیا۔

اس سال فضل بن اسحاق عباسی نے لوگوں کو حج کرایا۔

ابن جریر نے کہا ہے اس سال مکہ مکرمہ میں درزیوں اور موچیوں کے درمیان نویں ذی الحجه یا اس سے ایک دن پہلے کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اتنا زبردست ہو گیا کہ اس میں سترہ آدمی قتل کر دیئے گئے اور بات کا خطرہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج فوت ہو جائے، مگر کسی ظریحہ کے بعد فیصلہ کے لیے ان کے درمیان مصالحت کے وعدہ پر قابو پالیا گیا۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال ان مشہورین کا انتقال ہوا۔

صالح بن علی بن یعقوب بن منصور ماہ ربیع الآخر میں اور سرہ بن شبة الشیری، محمد بن عاصم اور یعقوب بن شیبہ جن کی مند مشہور ہے۔ واللہ اعلم۔

## — ۲۲۴ —

اس سال جمیعیوں سے (اللہ ان پر لعنت کرے) مختلف علاقوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں، جنہیں خلیفہ کے حکم سے مختلف علاقوں میں گھیراؤ ڈال کر ایک ایک کر کے قتل کیا جاتا تھا۔

اس سال صقالہ نے قلعہ لوٹہ رومی شرکتوں کے حوالے کیا۔

اس سال شرکب الجمال کے بھائی نے نیشاپور پر قبضہ جمالیا اور وہاں سے اس کے عامل حسین بن طاہر کو نکال باہر کیا اور ان کے خاندان والوں سے ایک تھائی مال زبردستی چھین لیا، اللہ اس کا برآ کرے۔

اس سال فضل بن اسحاق نے لوگوں کو حج کرایا۔

۱۔ صقالہ وہ قوم جو بلغار اور قسطنطینیہ کے درمیان رہا کرتی تھی، بعد میں یورپ میں پہنچ گئی۔ ۲۔ اصبح (انوار الحق قاسمی)

### مخصوصین کا انتقال:

اس سال ان مشہور رہنماں کا انتقال ہوا۔

صادر، بن عبد الحمید المغاربی، حبیب الدین، اور سید علی وہبی، داروں میں تھا اعم الجی اور غیر اعم الجی بہ اس کے پاس بعہ ہونے تھے اس لے طویل عمر پائی تھی۔ باہر اللہ نے اسے ٹھوڑے ٹھوڑے روپا اور روز مرد الخلافت عبید اللہ بن محبی بن خاقان تھے اس کے ایک خادم نے جس کا نام رشیق تھا ایک میدان میں زبردست پھٹک لگائی تھی جس سے وہ اپنی سواری سے سر کے بل گز پر اتنا اور اس کے سر کا مغز بہ کر اس کے دونوں کانوں اور ناک کے نھنوں سے نکل گیا تھا، بالآخر اس نے صرف تین گھنٹوں میں دم توڑ دیا، اس کے جنازہ کی نماز ابو الحمد الموفق بن الموقل نے پڑھائی، پھر اس کے جنازہ کے پیچھے پیچھے بھی کیا، یہ واقعہ دسویں ذی الحجه جمع کے دن پیش آیا تھا، اس کے دوسرے دن اس میں جگہ پر حسن بن مخلد کو وزیر بنادیا گیا تھا، لیکن جب موسیٰ بن بغا سامرا پہنچا تو اس نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ سلیمان بن وہب کو وزیر بنادیا۔ اور عبد اللہ بن محبی بن خاقان کا گھر اس امیر کے حوالہ کر دیا۔ جو کیلئے کے نام سے مشہور ہوا تھا۔

ان کے علاوہ احمد بن الاطھر، حسن بن الربيع اور معاویہ بن صالح الاشعري نے بھی وفات پائی۔

### واثقات — ۲۶۲

اس سال ماه محرم میں سامرا میں ابو الحمد اور موسیٰ بن بغا نے شکرانکھایا اور دوسرا صفر کو وہاں نے دونوں نکل پڑے۔ اس موقع پر خود معتمدان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے دونوں وہاں سے بغداد کی طرف چلے۔

### موسیٰ بن بغا کا انتقال:

اتفاق کی بات ہے کہ بغداد پہنچنے کے بعد ہی امیر موسیٰ بن بغا کی وفات ہو گئی، اس لیے اس کی لاش وہاں سے لاکر سامرا میں دفن کر دی گئی۔

اس سال محمد بن المولد کو واسط کا والی بن اکرم سلیمان بن جامع سے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا، جو کہ جبشی خبیث کی جانب سے اس علاقہ کا نائب تھا وہاں مقابلہ ہوا اور آخوندیریکٹ لڑنے کے بعد سلیمان کو شکست دے دی۔

اس سال ابن الدیریانی نے دیبور شہر کا سفر کیا تو اس کے مقابلہ پر دلف بن عبد العزیز بن امی دلف اور ابن عیاش آئے اور ان دونوں نے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی اور اس کا سارا مال لوٹ لیا، اس لیے وہ ابن الدیریانی لوٹا بارا اپنے گھر واپس آگیا۔ پھر موسیٰ بن بغا کے ختم ہو جانے پر اس کے مقرر کردہ وزیر سلیمان بن حرب کو خلیفہ نے معزول کر دیا اور اسے جبل خانہ میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خود اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے گھروں کو لوٹ لینے کا حکم دیا۔ اور اس کی جگہ پر حسن بن مخلد کو وزارت کے عہدہ پر بھال کیا، جب اس کی خبر ابو الحمد کو بغداد میں ملی وہ فوراً اپنے لوگوں کو لے کر سامرا پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے کی اطلاع پا کر اس کا بھائی معتمد مغربی کنارہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ مگر نویں ذی الحجه کو ابو الحمد اپنے شکر کو لے کر پل پار کر کے اس رخ پر پہنچ

گیا، جدھر خلیفہ معتمد مقیم تھے، مگر خوش قسمتی سے قمال کی نوبت نہ آئی، اور صرف اس بات پر طرفین میں صلح ہو گئی، کہ سلیمان بن وہب کوی حرب سائبی وزارت لے عمدہ پر بحال رکھا جائے اور سنہن ہن محلہ تھے اس عرصہ میں وزارت سوپری ٹی تھی وہ معزول ہوا۔ وہ سر دہلی سے بھاگ کر آیا تھا اس کا باش و مقام ایسا تھا کہ اسے اسی بارہ بیان کیا گیا، ابو عاصی بن مت فاطحی مدد پر بھاگ لایا ہے اسی ایسا بادھ کر خوف سے امراء کی ایک جماعت دہلی سے نکل اور موسیل پر طرف بھاگ گئی۔ اس سال بارون بن محمد بن اسحاق بن موسیٰ بن عیینہ الکوفی نے لوگوں کو حج کرایا۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مندرجہ ذیل مشہور لوگوں نے وفات پائی: احمد بن عبد الرحمن بن وہب، اسماعیل بن یحییٰ مرنی جو مصر کے باشندہ اور شافعی المذہب حدیث کے راویوں میں سے ایک تھے، ہم نے ان دونوں کے حالات طبقات الشافعین میں ذکر کیے ہیں، ان کے علاوہ:

### ابوزرخ:

بھی ہیں، عبدالله بن عبدالکریم الرازی مشہور حفاظ حدیث میں سے ایک ہیں، ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ سات لاکھ احادیث کے حافظ تھے، بڑے فقیہ، پرمیغ گار، کنارہ کش، عبادت گزار، متواضع اور خشوع و خضوع بھی کرنے والے تھے، ان کے ہمصوروں نے ان کے حفظ کی اور ان کی دینداری کی شہادت دی ہے اور اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ وہ اپنے تمام ہمصوروں سے بلند پایہ کے تھے یہ اپنی جوانی میں جب امام امین بن حنبل کے ساتھ ہوتے تو صرف بچوتو فرض نمازوں پر اکتفاء کرتے، ان سے اپنی گفتگو غنیمت جانتے ہوئے نوافل وغیرہ ادا نہ فرماتی۔

اس سال بروز دوشنبہ ماہ ذی الحجه کے آخری دنوں میں وفات پائی ہے، پیدائش دسویجری میں ہوئی، اور ایک قول میں ایک سو نوے میں پیدائش ہوئی ہے، ہم نے ان کے مفصل حالات اپنی کتاب "التكملہ" میں لکھے ہیں۔

ان کے علاوہ ان حضرات نے بھی وفات پائی ہے، محمد بن اسماعیل بن علیہ، جو دمشق کے قاضی تھے، یونس بن عبد العالی الصدفی المصری، یہ ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے امام شافعی سے روایت کی ہے اور ہم نے ان کے حالات بھی "التكملہ" اور الطبقات میں ذکر کیے ہیں۔

### معتز بالله کی ماں قبیحہ کے حالات:

اور متوكل علی اللہ کی خاص محبوباؤں میں سے ایک، جس کا نام قبیحہ اور معتز بالله کی ماں تھیں اس نے جواہر، موتی، سونا اور دوسری نایاب بیش بہادر دلت اتنی زیادہ جمع کی تھی، جس کی کوئی مثال نہیں پائی گئی ہے۔ مگر یہ ساری دلت بالکلیہ چیزوں لی گئی، اور اس کے لڑکے خلیفہ متوكل کو صرف اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کی تجنواہ ادا کرنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ صرف پچاس ہزار دینار دے کر ان کی جان بچ کر کی تھی، اور ان کی مشکلات حل کر کر کی تھی، اسی سال ماہ ربیع الاول میں اس کی وفات ہوئی۔

## و اتفاقات — ۲۲۵

اس سال ابواحمد کے عامل اہن لیشو یا اور سلیمان بن جامع کے اور میان لڑائی ہوئی نتیجہ میں اہن لیشو یا نے جنپیوں کے نائب سردار سلیمان بن جامع پر فتح پائی، اس کے کافی ساتھیوں کو قتل کیا، سینتا لیس آدمیوں کو قیدی بنایا۔ اس کی بہت سی سواریوں اور کشتوں کو جلا ڈالا۔ اور بے حساب مال بطور غنیمت حاصل کیا، اس سال ماہ محرم میں مصری علاقوں کے نائب احمد بن طولوں نے شہر انطا کیہ کا محاصرہ کیا، جس پر اب تک سیما طویل تر کی سپہ سالار کے اختیارات تھے، جسے احمد بن طولوں نے واپس لے لیا، اس کے بعد شاہ روم کی طرف سے اس کے پاس بے شمار ہدایا آئے، جن میں بہت سے مسلمان قیدی بھی تھے اور ہر قیدی کے پاس قرآن کریم بھی تھا، ان قیدیوں میں عبد اللہ بن رشید بن کاؤس بھی تھا، جو شغور کا عامل تھا۔ اس طرح اب احمد بن طولوں کمکل طور پر شام کی حکومت پر قابض ہونے کے علاوہ مصری علاقوں پر بھی قابض ہو گیا، کیونکہ دمشق کے نائب اماخور کا جب انتقال ہو گیا تھا، تو اس علاقے کو اپنے اختیارات میں لانے کے لیے روانہ ہوا مگر راستہ ہی میں اماخور کے بیٹھے سے رملہ کے علاقہ میں ملاقات ہو گئی، تو اسے اس کے باپ کی جگہ حاکم باقی رہنے دیا۔ پھر ابن طولوں زبان سے روانہ ہو کر دمشق کی طرف چلا گیا۔ اور باطنیناں اس پر بھی قبضہ ہو گیا، پھر انطا کیہ کی طرف گیا تو وہاں کے باشندوں نے تھی اس کی اطاعت قبول کر لی، پھر حلب کے علاقہ میں پہنچا، تو اس پر بھی قبضہ ہو گیا، پھر انطا کیہ کی طرف گیا تو وہاں وہ و اتفاقات پیش آئے، جن کا نہ کرہا بھی گزیر گیا، اس نے اپنے بیٹھے عباس کو مصر پر اپنا قائم مقام بنا کر کھاتھا، جب عباس کو وہاں اپنے والد کے متعلق خبریں کہ وہ شام کے بالائی علاقوں میں پہنچ چکے ہیں تو اس وقت مصر کے بیت المال میں جو کچھ مال موجود تھا، وہ سب سمیت کر کر اور اپنی ہم خیال ایک جماعت کو لے کر نافرمان ہو کر اپنے والد کے حلقة سے باہر ریختا نی علاقوں میں چلا گیا۔

جب اس کے والد کو اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو اس نے ایک مضبوط دستہ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ لوگ اپنہ ای ذلت کے ساتھ اسے اور اس کی جماعت کو گرفتار کر کے مصر لے گئے، جہاں اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور بقیہ ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔

### قاسم بن مہاۃ کا دلف کو قتل کرنا پھر قاسم کا قتل کیا جانا:

اس سال قاسم بن مہاۃ نامی ایک شخص دلف بن عبد العزیز بن ابی دلف عجلی کے مقابلہ میں نکلا اور اسے قتل کر کے اصفہان پر قبضہ کر لیا، مگر دلف کے ساتھیوں نے اس سے اپنے ساتھی کا بدلہ لیا، اور قاسم کو قتل کر دیا، اور اس کی جگہ پر احمد بن عبد العزیز کو اپنا رئیس مان لیا۔

اس سال محمد بن مؤبد یعقوب بن یسار کا ہم خیال ہو کر ماہ محرم میں اس کی جماعت میں چاگیا، اس لیے غلیظ نے غصہ میں آ

کو اس کی دلکشی کا نتیجہ مانگتا ہے۔ جو اس دلکشی کو حکم دیا ہے اور اس سے عجیب تر، انہوں نے اس کو مانگا کر اس کا اگامی میراث قرار دے دیا۔ اس کی طرف چالا کر جس کے نام سے باؤں کا پنچھے لکھا اور بیانی باشندہ تھا پہنچا، پہنچا تو اس سے تکلیف رہا۔ اپنی خاتمۃ اور حادثہ مال کے خوف سے والی سے شہزادہ اعلیٰ کئے۔

اک سائیں ایواہم نے تمہرے بن انجیل و فراہم اس سماں اس میں اسیں اسیں اسیں اور سدھا کا حاصل ہے اور پتیتی بس اور پتیتی بہ تھا کف دے کر ان علاقوں میں اسے بھیج دے۔

اس سال جھشیوں نے تسلیم کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ سب کو گرفتار کر لیں، اتنے میں وہاں تکمین بخاری پہنچ گئے اور اپنے سفری کپڑے تبدیل کئے بغیر ان جھشیوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ ان کے کافی ساتھیوں کو قتل کیا اور شرمناک حد تک انہیں شکست دی، بالآخر ان کا سردار علی ہن اباں مہلمی زبردست شرمندگی اٹھاتے ہوئے بھاگا۔

ابن جریر نے کہا ہے کہ یہ واقعہ باب کوڈک کا مشہور واقعہ ہے اس کے بعد علی بن ابی مہمی تکمین اور جبشی سردار کے درمیان ایچھے تعلقات کے لیے خط و کتابت کرنے لگا، یہاں تک کہ تکمین نے اس کی بات مان لی، مگر جب یہ خبر مسرور بلجنی کوٹی تو وہ خود آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے امام دینے کا اظہار کیا، اس طرح بہانہ بنانے کا راستے پکڑ لیا اور مقید کر دیا، اب اس کے لشکر والے کئی حصوں میں اس طرح بٹ گئے کہ ان کی ایک جماعت جیشیوں سے مل گئی، دوسری جماعت محمد بن عبد اللہ کردی سے ملی، اور تیسرا جماعت مسرور بلجنی سے جا کر مل گئی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں امام کا پروانہ دے دیا تھا، اور اس کے عوض اس کی حکومت پر ایک دوسرے شخص کو جس کا نام انترمش تھا حاکم بنادیا۔

اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق ابن موسی العباسی نے لوگوں کو نئی کرایا۔  
مخصوصین کی وفات:

مخصوصین کی وفات:

مشہور لوگوں میں ان حضرات نے وفات پائی، احمد بن منصور الرمادی، جو محمدث عبدالرازاق کی حدیثوں کے بڑے راوی تھے، اور امام احمد کی صحبت میں بھی رہے تھے، ابدال میں شمار کیے جاتے تھے۔ تریسٹھ برس کی عمر پا کرو فات پائی، اور سعدان بن فخر عبد اللہ بن محمد المخزومی، علی بن حرب الطائی الموصلي، ابو حفص النیشاپوری، علی بن موفق زاہد، محمد بن سخون۔

ابن اثیر نے اپنی کتاب کامل میں کہا ہے کہ اسی سال ابوالفطل العباس بن فرج اریاشی جو ابو عبیدہ اور اصمی کے شاگرد بھی ہیں۔ انہیں جیشیوں نے بصرہ میں قتل کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ وفات پانے والوں میں یعقوب بن صفار بھی ہیں۔

يعقوب بن الليث الصفار:

یہ بڑے عقائد اور بہادر پادشاہوں میں سے ایک تھا اس نے بہت سے علاقوں فتح کیے تھے۔ ان میں سے ایک شہر الرنج بھی

۱۔ تیسرا نئے اقل کو پیش اور دوم کوز بر کے ساتھ (نعلکے وزن پر) ایک مشہور شہر ہے اس کی طرف ایک مشہور بزرگ منسوب ہیں، اس میں ایک لغت شہر بھی ہے، ممکن ہے کہ فارسی میں تیسرا اور عربی میں تیسرا ہو، فارسی میں اسے شوہر بھی کہا جاتا ہے، از منتخب اللہ عالیات (انوار الحجۃ قاسی)

تھے، اس پر عصیت کا سارہ بتاتا تھا، اس کا تحفظ ہونے کا ناجواہتہ بنتے رہا آدمی کا نذuron پر لیے گئے تھے اسکی سوارنے اپنا ایک ہر پرواز کے بالائی حصہ پر بنا رکھا تھا جس کا نام اس نے مل رکھا تھا اسی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اس شہر پر قبضہ سریا گیا اور وہاں کے باشندے فرمایا ہے تو اس پر اس کے ہاتھ پر وہ اسلام آئے۔ لیکن اس باشندہ نے خیفہ کی اطاعت میں رکراں کر کر اپنے اس بنا پر ابو احمد الموقن نے اس سے مقابلہ کیا تھا، جبکہ اگر پر پکھے ہے اس کے مقابلے کے بعد لوگوں نے اس کے بھائی عمر و بن الیث کو ان تمام علاقوں کا حاکم بنادیا۔ جن پر یہ یعقوب حاکم تھا، مزید برآں سامرا اور بغداد کے علاقوں پر بھی اس کی حکومت ہو گئی جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

## واقعات — ۲۶۶

اس سال ماہ صفر میں اساتکین نے ”ری“ کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں کے عامل کو وہاں سے نکال دیا، پھر وہاں سے تزوین گیا تو وہاں کے باشندوں نے اس سے مصالحت کر لی، تب یہ باطمینان وہاں داخل ہو گیا، اور ان لوگوں سے بہت زیادہ مال وصول کریا، وہاں سے دوبارہ ”ری“ کی طرف گیا، مگر وہاں کے باشندوں نے اس شہر میں داخل ہونے سے اسے روکا، اس لیے ان لوگوں پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے وہاں داخل ہو گئے۔

اس سال رومیوں کی جماعت ربیعہ کے علاقہ ٹھیک گئی اور ان لوگوں کو قتل کیا، قید کیا، ان کا حلیہ بگاڑا اور تقریباً ڈھائی سو آدمیوں کو پیڑکر لے گئے، اس وقت چین اور موصل والے انہی مدد کو پہنچے تو وہ رومی وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور اپنے شہروں میں لوٹ گئے۔

اس سال بغداد و سامرا کے عہدہ کے لیے عمر و بن الیث نے عبید اللہ ابن طاہر کو نائب مقرر کیا، اور ابو احمد نے بھی اس کے پاس قیمتی خلعت بھیجا، اسی طرح عمر و بن الیث نے بھی اس کے پاس قیمتی جوڑا اور سونے کی دو چھتریاں بھیجیں، یہ علاقہ ان علاقوں کے منصل تھا جہاں اس کے بھائی کی حکومت تھی۔

اس سال اغترمیش تستر میں علی بن ابان سے مقابلہ کے لیے نکلا، وہاں کے قید خانہ میں علی بن ابان مہلسی کے ساتھیوں میں سے جتنے بھی حکام تھے، ایک ایک کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا، اس کے بعد خود علی بن ابان سے قفال کے لیے نکلا، وہاں کئی بار ان دونوں میں سخت لڑائی ہوئی آخراً رکار علی بن ابان مہلسی ہی کو کامیابی حاصل ہوئی اور اغترمیش کے بہت سے ساتھیوں کو موقع پر ہی قتل کیا، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر قتل کیا اور ان کے سروں کو جمیلوں کے سردار خبیث کے پاس بھیج کر شہر کے دروازہ پر لٹکا کر چھوڑ دیا گیا۔ خدا اسے بر باد کرے۔

اس سال حص و والوں نے اپنے عامل عیسیٰ کرخی کے خلاف ہو کر مقابلہ کیا اور بالآخر ماؤشوال میں اسے قتل کر ڈالا۔

حسن بن محمد کا مقابلہ کے بعد قتل کیا جانا:

اس سال حسن بن محمد جعفر بن عبد اللہ بن حسین الاصغر عقیلی نے طبرستان والوں کو اپنی اطاعت کی، دعوت دی اور ان کو خبر

بچپن سرحدوں پر یقینی بنا لیتے گئے ہیں اور جسے ۷۰۰۰ میل کی طویلی پر جوان کی تفاہم ملتی ہے تو ملکت ہی ختم ہے کہ سب سے کوئی نہ اسے اس کے ہاتھ پر بچتے رہے۔ مگر جب یہ سخن ہے تو یہ متعین نہ رہا اس کے مقابلہ ملکا زیر بست مقاومت ہے میا۔ اور آنہ کو اس کے قتل نہ رکے خود اس کا اور ان کے تماہی مانے والوں کا سارا ملک لوٹ ہے اور اس کے ہمراں کو آنکھ لہو دی۔

میں اور اس کے اردو گرد کے علاقوں میں عفریہ اور علویہ کے درمیان لشکر برپا ہے۔ اور آنہ کو اس بیت میں سے حسن بن زید کے خاندان کا وہ شخص جو بصرستان پر غالب آیا تھا، یہاں بھی غالب آیا۔ مگر عفریہ اور علویہ کے درمیان شدید لڑائیوں کی وجہ سے وہاں اتنے زیادہ فتنے برپا ہے کہ ان کے بیان کرنے سے طوالت کا خوف ہوتا ہے۔

اسی سال بدؤں نے خانہ کعبہ کے غلاف کے علاقوں پر لوث مارکا باز ارگرم کیا۔

گئے، اس وقت قتل و غارت گری کی وجہ سے مجاہد کوخت تکلیفیں پہنچیں؛ مزید برآں ناگفتی اور ناقابل؛ کر معاملات در پیش آئے۔

اسی سال رومنیوں نے ربیعہ کے علاقوں پر لوث مارکا باز ارگرم کیا۔

اسی سال جلشی سردار کے حامی لشکر امیر مزہر کے علاقے میں گھس گئے اور سخت لڑائی کے بعد آخوند اس پر قبضہ کر لیا۔

اسی سال ابن الی الساج مکہ مظہر میں داخل ہوا تو مخدومی نے اس سے مقاومت کیا مگر ابن الی الساج نے اس پر غالب آ کر اس کے گھر کو جلا دیا، اور اس کے مال کو مباح کر لیا۔ اقعہ اس سال کے یوم ترویہ بقول بعض نویس ذی الحجہ کے دن پیش آیا، اس طرح خلیفہ کی جانب سے ابن الی الساج کو حرمین شریفین کی گھرمت سونپ دی گئی۔

اس سال ہارون بن محمد نے جن کا ذکر کرا بھی گزر چکا ہے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال محمد بن عبد الرحمن نے جو کہ انہیں اور مغربی علاقوں کا خفیہ تھا، شہر قرطہ میں بہت سی کشتیاں بناؤں تاکہ ان کے ذریعہ بحر محیط میں داخل ہو، اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فوجیوں کی آمد رفت بڑھے اور لوگوں سے قبال کر سکے، اس کے بعد جیسے ہی یہ کشتیاں بحر محیط میں داخل ہوئیں وہ ثوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ان پر سوار مسافر سوائے چند لوگوں کے سب ڈوب گئے۔

اس سال صقلیہ کے علاقوں میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان بھری بیڑے سے مقابله ہوا اور زبردست لڑائی ہوتی ہوئی، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہو گئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

اسی سال غلام بن طولون لواؤ نے موی بن اتابش کا مقابلہ کیا اور لواؤ نے اسے شکست دے کر قیدی بنالیا، پھر اپنے آقا احمد بن طولون کے پاس اسے بچھی دیا، اس وقت وہ خلیفہ کے حکم سے شام، مصر اور افریقہ کا نائب حاکم تھا، اس کے بعد اسی لواؤ اور رومیوں کی ایک جماعت کے درمیان مقاومت ہوا تو رومیوں کی بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے، اور قتل و قبال، فتوں ہنگاموں کے آئے دن ہوتے رہنے کی

بھی تھے، میاں کی معاشری سات بہت ابتدی ہو گئی، اور خلافت کے کمزور ہو چاہنے اور اس کے بھائی ابو احمد کے مسلسل جہشیوں سے قتل، قبال میں مشکول رہنے کی وجہ سے اکٹھ شہروں میں سرداروں اور فوجیوں نے سر اٹھایے اور ان مانی کرنے لگے اس سال ماہ قشرین شانی (ہد و نہر) میں ان لوگوں کا انتقال ہوا۔ ابراہیم بن روما، سعید بن احمد بن حسن، جو اصحابہ ان کے قاضی تھے، اور محمد بن شجاع تھیں، جو جہشیوں کے سرداروں میں سے ایک تھا، اور محمد بن عبد الملک الدقیق۔

## واقعات — ۲۶۴

### ابوالعباس بن الموقن پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی:

اس سال ابو احمد الموقن نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو تقریباً دس ہزار گھوڑے سوار اور پیادہ پانوں جیوں کے ساتھ انہی خوبصورتی اور پوری تیاری کے ساتھ جہشیوں سے مقابل کے لیے بھجا۔ یہ لوگ جہشیوں کے مقابلہ میں گئے، موقع ہے موقع، وقفہ وقفہ سے کبھی لڑائیاں ہوتیں اور کبھی تھم جاتیں، اس سلسلہ کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن کے ذکر سے کتاب طویل ہو جائے گی، ان واقعات کو ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا جی چاہے، وہاں دیکھ لے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ جہشی سردار نے واسط کے شہروں اور دجلہ کے علاقوں میں، ہماں تک قابض ہوا تھا، وہاں تک ابوالعباس بن الموقن بھی قابض ہو گیا، حالانکہ وہ اس وقت بالکل نوجوان، کم عمر اور ناجرب کار تھا، بالخصوص لڑائی کے طور طریق سے بالکل بے خبر تھا، لیکن یہ حاضر فضل ایزدی تھا کہ اللہ پاک نے اسے بالکل محفوظ رکھا، اس کا رب قائم ہو گیا، معاملات درست رہے، نشانے صحیح لگے، دعائیں مقبول ہوئیں اور اس کے ہاتھوں اللہ نے فتح مندی نصیب کی اور اللہ نے اس پر نعمتوں کی بارش لرزی۔ یہی وہ نوجوان ہے جسے بعد میں بچپنا معتد کے بعد مند خلافت پر بھلا کیا گیا۔ جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔

اس کے بعد ماہ صفر میں ابو احمد الموقن بغداد سے لشکر جرار لے کر نکلا اور ماہ ربیع الاول میں واسط میں داخل ہوا۔ دوسرا طرف سے اس کے بیٹے نے اس کا استقبال کیا اور بعد ملاقات اپنے لشکر کی پوری کارگزاری سنائی، اور یہ کہ لشکریوں نے کس قدر خلوص کے ساتھ جہاد کے سلسلہ کی ساری دشواریوں کو نہی خوشی کے ساتھ برداشت کیا۔ یہن کرمونق نے ایک ایک کر کے سارے سرداروں کو قیمتی خلعت سے نوازا۔

### شهر مدیعہ پر الموقن کا قبضہ:

پھر وہ سارے لشکر کو لے کر جہشی سردار کے مقابلہ کے لیے اس شہر کی طرف بڑھا، جسے اس نے خود بسایا تھا، اور اس کا نام منیعہ رکھا تھا، وہاں اس جہشی سردار نے ان لوگوں کا جنم کر مقابلہ کیا اور گھسان کی لڑائی ہوئی، بالآخر موفق اس پر بزرگ غالب آیا، پھر

س اس شہر میں اخیر ہے، گئے حسرے جو شہر کا شکر باری نکلے، صاحب اس لیے اس نے اس جو شہر کے پیچھے اپنا شکر بھایا، ۰۰ لوگ بظاہرے علاقے میں انسیں پائے میں کامیاب ہو گئے وہاں انہیں قتل اور موقع پر کرفتار بھی کرتے جاتے، آخر میں اب احمد الموقنے اس شہر منیع ہے بے شمار چیزیں تیمت نے طور پر حاصل کیں اور اسی یاد پر ہزار سورتوں کو ان کے ماتحتوں سے نکلا جو اس شکر وہاں آ رفتار تھیں۔ پھر ان عورتوں کو آزاد کر کے واطھ میں ان کے اپنے گروں میں پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ ساتھ ہی اس شہر کی چہار دیواری، شہر پناہ کوڈھاد ہے، ان کی خندقوں کو بھردینے کا حکم دیا، اور اسے بالکل چیل میدان کر دیا، جبکہ اب تک وہ جگہ ساری شراتوں کی آماجگاہ تھی۔

### شہر منصورہ پر موفق کا قبضہ:

اس کے بعد موفق نے خاص اس شہر کا رخ کیا جو خبیث سردار کے لیے مخصوص تھا، جس کا نام منصورہ رکھا گیا تھا، وہیں سلیمان بن جامع بھی تھا، وہاں پہنچنے ہی اس شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لڑائی شروع کر دی، اس لڑائی میں فریقین کے بے شمار آدمی کام آئے، پھر ابوالعباس بن الموقن نے زگی سردار کے ایک خاص مصاحب احمد بن ہندی کو تاک کرا دیا تیر مارا جو اس کے دماغ میں لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، چونکہ وہ شخص جبشی سردار کے خاص مقربین میں تھا، اس لیے اس سردار کو انتہائی ناقابل برداشت صدمہ ہوا۔

پھر ستائیکسویں ربیع الآخر کو ہفتہ کے دن موفق کے فوجوں نے اس سردار کے شہر منصورہ کو چاروں طرف سے انتہائی بہتر ترتیب کے ساتھ گھیر لیا۔ اس کے بعد موفق نے چار رکعت نمازوں پڑھی اور اللہ کے دربار میں بہت زیادہ گڑگڑا کر خلوص دل کے ساتھ دعا کی، پھر اس گھر اور کو اور بھی سخت کر دیا، آہستہ آہستہ یہ لوگ دشمنوں کے بھادروں کو شکست دیتے ہوئے اس کے خاص خندق تک پہنچ گئے، جو درحقیقت ایک بہت مسلح قلعہ تھا۔ اس طرح پر کہ ان لوگوں نے اس شہر کے ارد گرد اور پانچ خندقیں اور پانچ دیواریں اس طرح بنا رکھی تھیں کہ ایک دیوار سے آگے بڑھنے کے بعد دوسری تک پہنچنے سے پہلے زبردست لڑائی ہوتی، اس طرح یکے بعد دیگرے دیواروں سے آگے بڑھنے اور لڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آخر دیوار تک پہنچ گئے، جو شہر سے متصل تھی، بالآخر خاص شہر میں بھی داخل ہو گئے، تو وہاں بھی بے حساب لوگوں کو قتل کیا اور بچے کچھ کچھ کسی طرح نکل بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور جبشی سردار کی عورتوں کو قید کر لیا، جن میں سلیمان بن جامع کی بیویاں، اسی طرح اور بہت سی عورتیں اور چھوٹے بچے بھی تھے، ان کے قبضہ سے بصرہ اور کوفہ کی مسلمان عورتوں کو نکال لائے، جو تقریباً اسی ہزار تھیں، پھر ان سبھوں کو ان کے اپنے اپنے گروں تک پہنچا دیا۔ (اللہ سے جزا نہیں دے)۔

اس کے بعد وہاں کے ہولموں، ان کی دیواروں کوڈھاد ہے اور اس کی خندقوں اور نہروں کو بھردینے کا حکم دیا، اور وہاں سترہ دن اقامت کی، اس عرصہ میں شکست خورہ بھاگے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر لانے کے لیے چاروں طرف اپنے آدمی بھیج دیئے، اس طرح جتنے بھی پکڑ کر وہاں لائے جاتے، وہ موفق ان سبھوں کے ساتھ انتہائی نرمی کا برداشت کرتا، اور ان کے گزشتہ اعمال سے

وہ زندگی کرتے ہے اپنے انہیں سمجھانے کی بحاجت نہ کی کوئی ششیکر تا جہا لوگ الہ پڑھیں۔ اس کی بات مالیہ لمحت انہیں وہ اپنے نامیں خاص دعائیں کرنے والی ترددیتا اس سے اس کی غرض یقینی کرو لوگ دین جن کی طرف پچھلوٹ آئیں اور راہ راست پر لگ جائیں اور جو لوگ اس کی بات نہ مانتے انہیں وہ قتل کر دیتا یا نید خانہ میں ڈال دیتا اسے بعد وہ موفق اپنا شکر کے رہا: واڑ کی طرف پلا کریں۔ وہاں سے بھی حصی کے آذیوں کو نکال بھر کریا اور ان کے بہت سے سرداروں کو قتل کیا جس میں ابو عتبی محمد بن ابراء یہ مصیری بھی تھا: جو ان لوگوں کا سردار اور ان کا لیڈر بھی تھا، پچھروہاں سے اسے بے حساب غیمت کا مال ملا، آخر میں موفق نے اس خاص جوشی سردار خبیث کو خلکھا (اللہ اسے ذلیل اور بر باد کرے) تاکہ وہ اپنی گذشتہ تمام حرکتوں سے باز آجائے اور تمام گناہوں، ظلموں، حرام کاریوں، نبوت اور رسالت کے نفلط دمودوں سے شہری ویرانی، محروم اور توں کو اپنے لیے حلال سمجھنے کے متعلق کیے تھے، ان سب سے وہ توبہ کر لے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ ان تمام باتوں سے توبہ کرے تو اسے امان بھی حاصل ہوگی، مگر اس خبیث نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔

ایو احمد الموق کا جبھی سردار کے شہر کی طرف چانا اور مختارہ کا حصار کرنا

شہر مختارہ کے بالمقابل ایک شاندار شہر موفقیتی کی تعمیر:

ابو احمد نے جب اس جبھی سردار کو خط لکھ کر حق کی دعوت دی تو اس نے حفارت کے ساتھ اسے ٹھکرایا اور جواب نہیں دیا، اس لیے اسے سخت غصہ آیا اور فوراً تقریباً پچاس ہزار لڑاکا جوانوں کا شکار لے کر اس خبیث کے شہر مختارہ کی طرف روانہ ہوا، وہ وہاں جب پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ ایک اختتامی مضبوط قلعہ ہے اور اس کے چاروں طرف زبردست حفاظتی انتظام ہے جسے تقریباً تین ہزار لڑکے اور اسے نوجوان تنگی تکواریں، میزے، قلعہ شکن گومبھیوں کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے مخالفین ہیں، یہ دیکھ کر موفق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو آگے بڑھا دیا۔ وہ بڑھتا ہوا قصر شاہی کے نیچے جا کر گھر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس قلعہ کا گھراؤ کیا۔ اور زبردست انتظام کیا، ابوالعباس کی بیٹی قدی اور اس کی دلیری کو دیکھ کر جبھی سردار کو سخت تعجب ہوا، پھر جبھیوں نے ہر طرف سے اسے گھیرے میں لیا، لیکن ابو احمد نے ان سب کو شکست دی۔ البتہ بہبود، جو جبھی سردار کے بڑے امراء میں سے ایک تھا، تیرا اور پتھروں کے ساتھ ڈارہا، پھر جبھی سردار کے امراء کے ساتھیوں کی ایک جماعت موقت سے مل گئی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اعزاز واکرام سے پیش آیا، اور انہیں قیمتی خلقتوں سے نوازا، اس کی دیکھادیکھی مزید دوسرا بہت سی جماعتیں آ کر موفق ہے مل گئیں۔

اس کے بعد شعبان کی پندرھویں تاریخ ابو احمد موفق نے سواری پر سوار ہو کر تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ سوائے خبیث سردار کے سبھوں کو عام امن دیا جاتا ہے، اس اعلان کو سن کر جبشی کے لشکر سے بے شمار افراد موفق سے مل گئے، اس کے بعد موفق نے جبشی سردار کے خاص شہر کے بالفاظ ایک شہربانے کا حکم دیا۔ جس کا نام موقتیہ رکھا گیا، اس سلسلہ میں ایک عام اعلان یہ کرایا کہ ہر قسم کا ضروری سامان اس تدریجی مقدار میں وہاں پہنچ گیا، جو اس سے پہلے کسی شہر میں اتنا نہیں پہنچا تھا، اس کی وجہ سے اس کی

عفتمت بہت راہ گئی اور کھانے پیئے، پس پہنچنے جانور، غمہ ماور کار، بزاری سماں۔ تھے شہ بھر گئی اور شہ کے اکر گل آنے اور سال آخر ہوئے تک ان دلوں فریقیوں میں قیام بوتا رہا اور اس سردار و دہنیرے میں یہ رہنے آئے۔ آہستہ آہستہ یہ مانیوں میں سے لشکرے لوگ نکل کر موقن کی جماعت میں پناہ لیتے رہے اور حصی کے خواص امراء اور فوجیوں میں سے بھی تقریباً پچاس ہزار افراد اس دوسری جماعت میں شریک ہو گئے اور قوت طاقت، مدد اور کامیابی بروحتی گئی۔

اس سال ہارون بن محمد الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

### محضو صین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں ان لوگوں کا انتقال ہوا۔ اسماعیل بن سیبویہ، اسحاق بن ابراہیم شاذان، یحییٰ بن نصر الخوارزی، عباس الزرقی، محمد بن جماد بن بکر بن جماد ابو بکر المقری، خلف بن ہشام بزاروالے کے شاگرد، ماہ ربيع الاول میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا اور محمد بن عزیز الالی، یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ذبلی، اور یونس بن حبیب جو منداد بودا و دطیلی کی میں ان کے راوی بھی ہیں۔

## و اتفاقات — ۲۶۸

اس سال ماه محرم میں جعفر بن ابراہیم نے جو اصحاب کے نام سے مشہور ہیں اور جمیعیوں کے اعلیٰ عہدہ داروں اور اس کے مقریبین میں سے تھے، موفق سے اپنے لوگوں کے لیے امن کی وظیافت کی تو بہت ہی خوشی کے ساتھ موفق نے اسے امان بھی دی، ساتھ ہی خلعت سے بھی نوازا۔ اس کے بعد موفق کے حکم کے مطابق دہائی سے نکل کر قصر خلافت کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب کیا اور بتایا کہ جب شہزادی سردار بہت زیادہ جھوٹا اور فاجر ہے وہ خود اور اس شہزاد کا بھی انتہائی مغرور اور مستکبر ہیں، اسی بنا پر اس کے بہت سے مانے والوں نے امن کی درخواست کی ہے اور یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ فی الحال ان لوگوں سے ماہ ربيع الآخر تک لڑائی موقوف رکھی جائے، اس لیے موفق نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جمیعیوں کے شہر کی شہر پناہ حصار میں رکھی جائے اور یہ کہ یہ لوگ جب اس چار دیواری کے اندر داخل ہوں تو اس وقت تک اس شہر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ خلیفہ کی جانب سے مستقل اس کی اجازت نہ دی جائے لیکن اس کے لوگوں نے اس شہر پناہ میں سوراخ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں سے راستہ نکل آیا تو عجلت کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور جمیعیوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ مگر مسلمانوں نے انہیں غلست دی اور بڑھتے ہوئے شہر کے پیچ میں داخل ہو گئے، اچانک وہ جب شی مختلف جہتوں سے آنے لگے اور ایسی چیزیں ہوئی جگہوں سے نکل کر تھیماروں سے ان پر حملے کرنے لگے، جن کا ان مسلمانوں کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس اچانک حملے میں جمیعیوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیا اور لوٹ مار کیا۔ بمشکل تمام بقیہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، یہ سن کر موفق نے ان لوگوں کو سخت ملامت کی کہ تم نے اجازت کے بغیر ان پر حملہ کیوں کیا، اور جلد بازی سے کیوں کام لیا۔ ساتھ ہی مقتولین کی اولاد اور خاندان والوں کے لیے کھانے پینے اور ضروریات کے بندوبست کرنے کا فرما حکم دیا۔ یہ بات مسلمانوں کو بہت پسند آئی۔ پھر ابوالعباس دیہاتیوں کی اس جماعت کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو

ان جھشیوں کو خوراک اور غلہ وغیرہ پہنچانے میں کوشش تھے، گرفتاری کے بعد انہیں قتل بھی کر دیا گی۔  
بہبود بن عبد اللہ بن گرفتاری اور قتل:

اس طرح بہبود بن عبد اللہ بن گرفتار رئے تھے کہ روز الایس کا قتل ہونا مسلمانوں کے حق میں جو ہمیں بی  
اور جھشیوں کے حق میں سب سے بڑی مصیبۃ تھی۔

عمرو بن یسیث نے ابو الحمد الموقن کو تین لاکھ دینار پچاس منٹھک پچاس من عزیز دوسومن عواد ایک ہزار کی قیمت کی چاندی تے  
علاوہ بہت سے مقتول کپڑے اور کشیر تعداد میں غلام بھیجے۔

اس سال روم کا بادشاہ جس کا لقب ابن الصلقیہ تھا، اس نے بڑھ کر ملطیہ والوں کو محاصرہ میں لے لیا، مگر مرعش والے ان  
کی مدد کے لیے دوڑ پڑے تو وہ خبیث ذلت کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ ابن طلوبون کے عامل الصاعقه نے نفر کے علاقے سے قاتل  
کر کے سترہ ہزار رومیوں کو قتل کر دیا۔

اس سال اس ہارون (بن محمد الہاشمی) نے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال احمد بن عبد اللہ الجحتانی قتل کر دیے گئے۔

#### مخصوصین کی وفات:

اس سال ان مشہور لوگوں نے وفات پائی: احمد بن حیار، احمد بن شیبان، احمد بن یونس الصی، عیینی بن احمد الہاشمی، اور محمد بن  
عبد اللہ بن عبد الحکم مصری، فقیہ مالکی، امام شافعی کی صحبت سے فیضیاب تھے اور ان سے روایت بھی کی ہے۔



۱۔ ایک من در طل کا پیمانہ = ایک رطل بارہ اوپری یا ۲۰ تو لے کا پیمانہ۔ ۲۔ امصارح الالفاظ (انوار الحقائق)

۳۔ العود: ایک قسم کی خوشبو جس کو بطور بخور یا دھوان استعمال کیا جاتا ہے۔

## — ۲۶۹ —

**موفق کا دشمن کے تیر سے جاں بلب ہونا اور صحت یا ب ہو کر پھر سے مختارہ پر قبضہ کی کوشش کرنا:**

اس سال موفق بالله نے جب شیخی سردار کے شہر کو ڈھادیئے میں کوئی کسر باتی نہ کریں، چنانچہ اس شہر کی بہت سی عورتوں کو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد لشکر اس خاص شہر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک روئی شخص قرطاس نامی کا پھینکا ہوا ایک تیر آ کر موفق کے سینہ میں لگا، قریب تھا کہ اس تیر سے وہ نہ ستم ہو جائے، اس وقت وہ بہت دلیری اور بہادری دکھار رہا تھا، اور لوگوں کو واٹلی پر ابھار رہا تھا، اب مجبوراً اپنے شہر موقفیہ میں جا کرئی دن تک اپنا اعلان کرتا رہا، جس سے ابتداءً اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی، اور لوگوں کو سردار خبیث کی طرف سے خفہہ بڑھ گیا اس لیے لوگوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ بغداد واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے مشورہ قبول نہیں کیا اور حالت مزید خراب ہوتی گئی، اچانک اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، احسان ہوا اور وہ روح صحت ہونے لگا، اور ماہ شعبان تک بھلا چنگا ہو گیا، جس سے سب مسلمان بہت خوش ہوئے، صحنتیابی کے ساتھ ہی وہ پھر شہر پناہ کے حصار کی طرف بڑھا۔ وہاں آ کر اس نے دیکھا کہ زخمی ہونے سے پہلے جس تک اس شہر کو نقصان پہنچایا تھا، اس سردار نے ان کی اصلاح اور مرمت کر کے پھر سے پختہ اور مضبوط کر دیا ہے، اس لیے اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شہر کے آس پاس جو عمارتیں اور حفاظت کے انتظامات ہیں سب توڑ دیجئے جائیں، ساتھ ہی اپنا حصار قائم رکھا، یہاں تک کہ شہر کے مغربی حصہ کو قلعہ کر لیا اور جب شیخی سردار، اس کے حکام اور افران بالا کے محلات کو بھی دیکھا، اور اس کی عورتوں کو قید کر لیا۔ وہاں سے بھی اسے اتنا زیادہ سامان اور ایسی ایسی چیزوں میں جو بیان سے باہر ہیں، اس وقت بھی اس کے قبضے سے مسلمان عورتوں اور بچوں کی بھاری تعداد نکلی، اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان سبھوں کو ان کے اپنے اپنے گھروں میں باعزت طور پر پہنچا ریا جائے۔

اس عرصہ میں وہ سردار شہر کے مغربی حصہ سے نکل کر مشرقی حصہ میں پہنچ گیا اور ایسے پل اور راستے جو نوٹے پڑے تھے، جن کے ذریعہ باہر سے ضروریاتِ زندگی اس کے علاقہ میں پہنچ سکتی تھیں، ان سب کو اس نے از سرنو بنو الیا ماضبوط کر لیا ہے۔ موفق کو اس کی اطلاع ملتے ہی اس نے پھر سے ان سب کو ویران کرنے اور بلوں کے توڑ پھوڑ کر دینے کا حکم دیا۔ اور ان پر حصار مزید مضبوط اور مستقل رہ دیا۔ آخر کار اللہ نے اس مشرقی حصہ پر بھی قبضہ دلا دیا۔ پھر اس علاقہ کی ساری چیزوں اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اب مجبور ہو کر وہ خبیث سردار وہاں سے چھپ کر ایسا بھاگا کہ پلت کر بھی نہ دیکھا، اپنی بیویوں بچوں، رشتہ داروں، متعلقین اور جانیداد وغیرہ سب کچھ یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا، تو موفق نے ان تمام چیزوں پر اپنا قبضہ جمالیا۔ ان چیزوں کی تفصیل سے مضمون بہت طویل ہوتا ہے۔

پھر بھی علامہ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں ان چیزوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن لوگوں کو ان کے جانے

کا شوق ہو وہ اس کتاب پر طبری کا مطالعہ کر لیں۔

اذن انتیم ہے اس باتوں کا پورا ترتیب ہے اور ان یہ ہے تھی تھے ایمان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اسواب اُنہیں یہ ہے وہی ہے اور وہی ہمارے یہے اونتھیں جد اور شاد کا ہے۔

خیفہ معمتنے جب یہ گھوسن کیا کہ ان کا بھائی ابو احمد بن امور خلافت پر غائب آئی ہے جو امراء بن سنت احمد مامی سے صادر ہوتے ہیں اور وہی لوگوں کو اپنی مرضی سے حکومت کے عہدے پر مامور اور معزول کرتا ہے تو انہوں نے خط لکھ کر احمد بن طولون سے ان باتوں کی شکایت کی ابن طولون نے ان کے خط کے جواب میں لکھا کہ وہ وہاں سے نکل کر فوراً امر صلی آئیں اور اپنی طرف سے ہر قسم کی مدد دینے اور ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، یہ خط پا کر خیفہ معمتنے اپنے بھائی کی خوبیت کو خدمت سمجھا اور اپنے ساتھ رہنے کی آمد کا منتظر ہو گیا۔ خیفہ جب اثناء سفر موصل اور عام جزیروں کے نائب حاکم اسحاق بن کنداج کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے آگے بڑھ کر خلیفہ کو ابن طولون کے پاس جانے سے روک دیا۔ اور ان کے ساتھ جتنے بھی امراء اور سردار تھے سب کو ملامت کی، پھر خلیفہ اور ان کے تمام حکام کو سامرا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ آخر خلیفہ انتہائی ذلت اور رسولی کے عالم میں واپس چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔

### موفق کا ابن طولون سے ناراض ہو جانا:

موفق کو جب ان باتوں کی خبر پہنچی تو اس نے اس بات پر اسحاق کا بہت زیادہ شکردا کیا اور افریقہ تک کے تمام علاقوں میں احمد بن طولون کے تمام اختیارات کا اسے ذمہ دار بنا دیا اور اپنے بھان خلفہ معمتنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام عام مقامات میں ابن طولون پر لعنت کریں اس بنا پر نہ چاہئے کہ باوجود انتہائی مجبوری کے ساتھ خلیفہ کو یہ بانی پڑی حالانکہ ابن طولون نے ان کی خیرخواہی میں تمام خطبوں اور اہم مقامات سے موفق کا نام حذف کر دیا تھا۔

اس سال موفق اور ابن طولون کے مانے والوں کے درمیان مکہ معظمہ میں ہنگامے کھڑے ہوئے جسے کہ متجہ میں ابن طولون کے دوسوآدمی قتل کر دیئے گئے اور بقیہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت موفق کے آدمیوں نے بہت سالوں کا مال جمع کر لیا، اس سال بدودؤں نے حاجیوں میں ڈکیتی ڈالی اور ان سے پانچ ہزار اونٹ مع سامان کے چھین لیے۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں: ابراہیم بن مقداد کنانی، احمد بن خلاد مختصہ کا مولیٰ جو کہ فرقہ معززل کے اماموں میں سے تھا، اور جعفر بن معشر معززلی سے علم کلام حاصل کیا تھا، اور سلیمان بن حفص معززل بشر بن مریم کے شاگرد ابوالہدیل علاف، عیسیٰ بن الشیخ بن السلیل الشیخانی، ارمینیہ اور دیار بکر کے نائب حاکم اور ابو فروہ بن یزید محمد الرہاوی جو کمزوروں میں سے ایک تھا۔

۱۔ اس کتاب البداية والنهاية کے ناشر ”نسیس اکیڈمی“ والوں نے اردو (ان حضرات کے) استفادہ کے لیے تاریخ طبری کا بھی مکمل اردو ترجمہ شائع کر دیا ہے اس لیے شاکرین ان سے رابطہ قائم کریں۔ (انوار الحق تاسی)

## واقعات — ۲۷۴

اس سال خبیث جبشی سردار (خدا سے برہاد کرے) کا فلی ہوا، تفصیل یہ ہے کہ موفق نے جب جبشی سردار کے شہر مقارہ پر قبضہ کر لیا اور اس میں جس قدر مال اور سامان تھا سب اپنے قبضہ میں لے لیا اور ان میں لڑنے والے مردوں کو قتل کر دالا اور جتنے بھی عورتوں بچوں کو پایا سب کو قید کر لیا تو جبشی سردار اپنی اور قتل و قبال کی گرم بازاری سے گھبرا کر بھاگ گیا اور دوسرے علاقوں میں انتہائی بے سرو سامانی دھنکارے ہوئے بدترین حالات کے ساتھ چلا گیا اور موفق اپنے شہر مونسیہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو گیا اور احمد بن طولون کا غلام لولہ اپنے آقا سے دشمنی اور موفق کی طرفداری اور فرمائیہ دراری کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو گیا یہ واقعہ اسی سال ماہ محرم کی تیسرا تاریخ کا ہے موفق نے اس لولہ کو خوش آمدید کہا اس کی عزت افزائی کی خلعت فاخرہ دیا اور اس سے بہتر سلوک کیا اور جبشی سردار سے مقابلہ کے لیے اسے ہر اول بنا کر بھیجا اور خود موفق بھی اس کے پیچھے زبردست لشکر لے کر لڑائی کے ساز و سامان سے لیس ہو کر خبیث سردار کے پیچھے روانہ ہوا جبکہ وہ ایک نئے شہر میں جا کر قلعہ بند ہو گیا تھا اس لیے موفق نے اس کو محاصرہ میں رکھا جب تک وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور نہ ہوا بالآخر انتہائی ذلت کے ساتھ اسے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جو کچھ مال و اسباب اس کے پاس تھا موفق نے سب پر قبضہ کر لیا اس کے بعد تھوڑا شکر اور قافلہ اس کے پیچھے روانہ کیا جس نے اس کے خاص خاص لوگوں اور اس کی جماعت کے افراد کو قیدی بنالیا جن میں سلیمان بن جامع بھی تھا اس شخص کی گرفتاری پر لوگوں کو بے حد صریت ہوئی اور تکمیر و تجدید کی اس کامیابی اور فتح پر سب نہت خوش ہوئے آخر میں موفق نے اپنے ساتھیوں سمیت یکبارگی جبشی سردار کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور لڑائی کی آگ بھڑکا دی پھر جب تک کہ میدان جنگ میں اس کے قتل ہونے کی بشارت کسی نے آ کر نہ دی لڑائی جاری رہی اس کا سر غلام لولہ طولون کے ساتھ لا یا گیا اس سردار کے ساتھیوں میں سے جتنے اس جگہ موجود تھے سبھوں نے جب اسی کے سر ہونے کا اقرار کر لیا اور شہادت دی اور موفق کو پورے طور پر اس کے قتل ہونے پر یقین آ گیا تو اس نے اللہ پاک کے سامنے گر کر جدہ شکر ادا کیا پھر اپنے آباد کردہ مونسیہ شہر لوت آیا ایسے وقت میں کہ ایک شخص اس خبیث سردار کا سر اس کے آگے آگے لیے جا رہا تھا اور اس کا ساتھی سلیمان قیدی بن ابوبکر تھا آخر وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا اور پورے ملک کے ایک کونہ سے دوسرے کونہ مشرق سے مغرب کے سارے مسلمان اس کے قتل سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اس کے بعد اس خبیث کے بیٹے الکلانی اور ابیان بن علی مہمی کو بھی قیدی بن کر سامنے لایا گیا جو کہ اپنے لوگوں میں لڑائی کی آگ بھڑکانے میں بہت پیش تھے ان کے ساتھ تقریباً پانچ ہزار دوسرے قیدی بھی تھے اس لیے عام مسلمانوں کی خوشی کی حد نہ تھی مگر وہ ظالم قرطاس جس نے موفق کے سینہ میں تاک کر تیر مار کر تقریباً ختم کر دیا تھا ہاتھ نہ لگا بلکہ وہ رامہرز کی طرف نکل گیا پھر بھی لوگوں نے اس کا پیچانہ چھوڑا آخرا کار سے پکڑ کر موفق کے پاس پہنچا دیا اس وقت موفق کے لڑکے ابوالعباس نے اسے قتل کر دالا

ان کے علاوہ اب اس سردار کا جو کوئی شخص بھی پڑا جاتا اور تو بکرتا تو اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیتا اور اسنے اسے دیتا۔ آخر میں ان دیتے کا عام اعلان کر دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس خبیث کی زیادتی کی وجہ سے جس کسی کوچی اس کے گھرست نکالا گیا ہے سب اپنے گھروں میں پلے جائیں اور ان کی ساری چیزیں، اپنی کمردی بنا لئیں، باہم سے اطمینان پا کر وفق اب بغداد پر آیا اسی دن سے جب شیخ سردار کذاب کا قتل ختم ہو گیا، اللہ اس کا برآ کرے۔ اس سردار کا ظبور ر، رمضان ۱۴۵۷ھ روز چہار شنبہ کو ہوا اور اس کی ہلاکت ۳ صفر ۱۴۵۷ھ کو ہوئی، اس طرح اس کی اپنی حکومت چودہ برس چار ماہ چھوٹ دن تک باقی رہی۔ فلله الحمد والشکر والمنه۔

اس سردار کی حکومت ختم ہونے اور اس پر کامیابی حاصل کرنے کے موقعہ پر بہت سے اشعار کہے گئے، ان میں سے یہی بن محمد اسلامی کے چند اشعار یہ ہیں۔

(۱) اقوول وقد جاء البشير بوعزة اعزت من الاسلام ما كان واهيا

ترجمہ: میں یہ چند اشعار ایسے وقت میں کہتا ہوں جبکہ خوشخبری دینے والا ایک ایسے اہم واقعہ کی خبر لے کر آیا، جس نے اسلام کو عزت بخشی جبکہ وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔

(۲) جرى الله خير الناس لناس بعد ما ابىح حمامهم خير ما كان جازيا

ترجمہ: بہترین انسان کو اللہ بہتر سے بہتر بدل دے لیا اسی نے عامۃ الناس کی حفاظت کی، اس وقت جبکہ وہ بالکل غیر محفوظ ہو چکے تھے۔

(۳) تفرد اذ لم ينصر الله ناصر بتجديده دين كان اصبح باليا

ترجمہ: وہ تن تہادیں کی مدد کے لیے کھڑا ہوا جبکہ ملک طاقتوں کی تھیں اور وہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے بھائے چکا تھا۔

(۴) و تشديد ملوك قد و هى بعد عزه و اخذ بشارات تبیر الا عاديا

ترجمہ: اور وہ ملک کی مضبوطی کے لیے کھڑا ہوا جبکہ ملک طاقتوں کی تھیں اور وہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے بھائے ہوئے خون کا بدل لینے لگا۔

(۵) و رد عمارات ازيلت و احرقت ليرجع فيسى قد تخرم و افيا

ترجمہ: وہ ایسی عمارتوں میں آیا کہ وہ ڈھادی گئی تھیں اور وہ یان کر دی گئی تھیں، تاکہ مجاہدوں کی جماعت اس میں پناہ لے سکے حالانکہ وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔

(۶) و ترجع امسار ابيحت و احرقت مرارا وقد امست قواه عوافيا

ترجمہ: اور ایسے شہر آباد کر دیئے گئے ہیں جو کہ بے عزت کر دیئے گئے تھے، اور جلا کر خاک کر دیئے گئے تھے، بارہا اور اس کے سارے حصے مٹنے کے قریب ہو چکے تھے۔

(۷) و يشغى صدور المسلمين بوجعة تقريرهم على العيون الباكية ترجمہ: اور اثر انی لا کر مسلمانوں کے سینوں کو شکار ہینے لگا، جن سے ہماری روتی ہوتی آئیں تھیں محدثی ہو چکی ہیں۔

(۸) و سُنَّتُ كِتَابِ اللَّهِ فِي كُلِّ مسجِدٍ وَ سُنْنَتُ دُعَاءِ الطَّالِبِ ترجمہ: اور اب اللہ کی کتاب ہر مسجد میں تلاوت کی جانے لئی اور بلاں والوں، کمزوروں لی پکارتے اب پہنچا جانے لگا۔

(۹) فَاعْرَضُ عَنِ احْبَابِهِ وَ نَعِيمِهِ وَ عَنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا وَ اصْبِحْ عَازِيْماً ترجمہ: وہ اپنے دوستوں اور اپنی نعمتوں سے بالکل کنارہ کش ہو چکا ہے، اور دنیا کی لذت سے بھی، اور اب مرد غازی ہو گیا ہے۔

اس سال رومی ایک لاکھ لے والی فوج لے کر آئے اور طرسوں کے قریب پڑا اور ڈالا، ان کے مقابلہ کے لیے تمام مسلمان نکل آئے، اور رات ہی کے وقت ان پر حملہ کر دیا، جو صحیح تک جاری رہا، صرف ایک رات میں تقریباً ستر ہزار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فللہ الحمد.

ان کے دستوں کو قتل کر دیا، جن میں ان کے بڑے بڑے جرنیل تھے، اور باقی بہت سے لوگوں کو زخمی مسلمانوں نے ان سے بہت سامال غنیمت حاصل کیا، جن میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سات صلیبی نشان بھی تھے، ان کا سب سے بڑا صلیب خالص سونے کا تھا، جسے ہیروں جواہرات سے مزین کیا گا تھا، سونے کی چار اور چاندی کی دو سو کریساں بھی تھیں، بے شمار برتن دس ہزار قیمتی ریشمی جھنڈے بے حساب بے شمار مال و دولت پندرہ ہزار گھوڑے اور ان کے زین اور ان کے لیے مناسب ہتھیار جزاً کی ہوئی تکواریں وغیرہ بھی تھیں۔ فللہ الحمد.

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں: احمد بن طولون نے انتقال کیا۔

### کنیت:

ابوالعباس تھی، مصری شہروں کا امیر، وہ جامع مسجد جو طولون کی طرف منسوب ہے، درحقیقت اس کا بانی یہی احمد ہے، اس نے دمشق، عواصم اور شغور پر مدتِ دراز تک حکومت کی، اس کے والد طولون ان ترکیوں میں سے تھے جنہیں بخاری کے عامل نوح بن سامانی نے ۲۰۰ھ میں مامون الرشید کو بطور تخفہ پیش کیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ۱۹۵ھ میں الرشید کو تخفہ بھیجا تھا، اس احمد کی پیدائش ۲۱۳ھ میں اور طولون جو اس کا باپ تھا، اس کی وفات ۲۳۰ھ یا ۲۳۷ھ میں ہوئی تھی۔ اسی بناء پر ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ طولون دراصل اس کا حقیقی باپ نہ تھا بلکہ لے پاک کے طور پر لے رکھا تھا۔ واللہ اعلم۔

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ احمد کی ماں وہ ترکی باندی تھی جس کا نام ہاشم تھا، اس احمد کی بڑے ہی ناز و نعمت، عزت، حفاظت، حکومت، برائی کے ساتھ پروردش کی گئی تھی، اسے قرآن پاک کی طرح سے تعلیم دی گئی تھی، قدرتی طور پر اس کی آواز بھی

شیریں تھیں یہ فطری طور سے ترکیوں کی اولاد کو ان کے محظیات اور منکر حرکات کرنے پر ہمیشہ ملامت کرتا تھا، اس کی ماں باندی اور نام بائشم تھا۔

این عمارت مصہرے بعض شاخے نئیں کیا ہے کہ طولون اس کا باپ نہیں بلکہ اسے اس کی زیارتی اور قیامت پا کر کے بہتر آواز سے تلاوت لرنے ذاتی شرافت اور بیچین سے ہی لندیوں اور برائیوں سے کفارہ شکی لی گئی ہے یا لکھنا لایا تھا۔

### احمد بن طولون کی خوش قسمتی کا ایک واقعہ:

اس کے ساتھ ایک اتفاقی واقعہ یہ پیش آیا تھا، کہ ایک مرتبہ طولون نے کسی خاص ضرورت کے لیے اسے دارالامارة بھیجا، وہاں اچانک اس نے طولون کی خاص باندی کو کسی غلام کے ساتھ فرش کاری میں مشغول پایا تو بہت ہی بجلت کے ساتھ اپنا سامان وہاں سے لے کر نکل آیا۔ اور واپس آ کر باندی اور خادم کے درمیان جو تحرکت دیکھی تھی، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ تک نہ کیا مگر اس باندی نے گمان کیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس نے طولون سے یقیناً کہہ دیا ہوا، لہذا اس نے فوراً ہی طولون کے پاس آ کر یہ شکایت کر دی کہ احمد ابھی میرے پاس فلاں جگہ پہنچا تھا اور مجھے بری تحرکت پر آمادہ کرنا چاہتا تھا، یہ کہہ کروہ اپنی جگہ واپس چل گئی، اس لیے طولون کے دل میں یہ بات تھی گئی کہ اس باندی نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے اس لیے اس نے فوراً احمد کو بلوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھ کر اس پر سربراہی کر دی تھی ہوئے احمد کو دیا کہ یہ خط ابھی فلاں حاکم کو دے کر آؤ، مگر اس کے مضمون سے متعلق یا باندی سے گفتگو سے متعلق اس سے بات نہیں لی۔ اس خط میں حاکم کو یہ لکھا تھا کہ اس رقعہ کے لانے والے کو جو نہیں وہ تمہارے پاس پہنچا اس کی گردان اڑا دو اور اس کا سر فوراً میرے پاس بیٹھیج دو، احمد یہ خط لے کر طولون کے پاس سے چلا، اسے اس خط کے مضمون کا کوئی علم نہ تھا، چلتے وقت اسی باندی کے پاس سے اس کا گرہ ہوا، تو اس باندی نے اسے اپنے پاس بلوایا، اس نے کہا کہ میں بہت ہی جلدی میں ہوں، مجھے یہ خط فلاں حاکم کے پاس جلد پہنچانا ہے، پھر بھی اس نے اسے یہ کہہ کر اپنے پاس بلوایا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اس باندی نے دل میں یہ سوچا کہ میری شکایت پر طولون نے اس سے کیا کہا ہے، اس کی تحقیق کی جائے، اس طرح اسے اپنے پاس روک لیا اور وہ خط لے کر اس نے اسی خادم کو دے دیا، جس سے وہ بدلی کی مرکب ہوئی تھی، اس خیال سے کہ شاید طولون کی طرف سے اسے کوئی خاص انعام دینے کا حکم کیا گیا ہو تو اس طرح وہ انعام بجائے احمد کے اسی غلام کو مل جائے، چنانچہ وہ غلام اس خط کو لے کر فوراً حاکم کے پاس پہنچا، اس حاکم نے اس خط کو پڑھتے ہی اس کی گردان اڑا دینے کا حکم دیا۔ پھر فوراً ہی اس سرکو طولون کے پاس بیٹھیج دیا، طولون اس سرکو دیکھ کر نہایت متوجہ ہوا اور فوراً احمد کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ آیا تو بادشاہ نے کہا تیرا ہو، تم سچ سچ وہ ساری باتیں مجھ سے بیان کر دو، جو میرے پاس سے تمہیں جانے کے بعد سے اب تک ہوئی ہیں۔ اس لیے اس نے تفصیلی بات سچ سچ اسے بتا دی۔ جب اس باندی کو یہ خبر ملی کہ اس غلام کا سرکو طولون کے پاس لا یا گیا ہے تو اسے دن میں نارے نظر آنے لگے اور اس نے یقین کر لیا کہ بادشاہ طولون کو اصل واقعہ کی پوری اطلاع مل چکی ہے، اس لیے وہ فوراً عذرخواہی کرتے ہوئے اور غلام کے ساتھ حرام کاری کے گناہوں سے معافی چاہتی ہوئی اس کے پاس حاضر ہو گئی، اور اس نے وہاں پہنچ کر حق بات کا اقرار کر لیا اور احمد کی جس برائی کی طرف منسوب کرتے ہوئے شکایت کی تھی اس سے اس کی برآت کر دی،

اس واقعہ سے طوام کی نظر میں احمد کی عزت بہت بڑھ گئی اور اپنے بعد اسی کے لیے سلطنت کی وصیت کر دی۔

### بادشاہ طولون کی طرف سے احمد کے لیے سلطنت کی وصیت:

اس کے بعد یہ احمد ۲۵۳ھ تیسیں رمضان برداشت چہار شنبہ مسیع عدالت کے ان جسموں کا ہوتھر کے قلعہ ان کا گھنائیں اسی کے عالم باشندوں کے ساتھ بہت بحد سلوک کیا اور بیت المال اور صدقات کے مہینے ان لوگوں پر کافی خرچ کیا۔ ایک سال اسے مصری علاقوں سے چالیس لاکھ دینار کا غلہ وصول ہوا اور اسیں ایک لاکھ میں بڑا ردیان خرچ کر کے ایک جامع مسجد بنوادی۔ ۲۵۴ھ اور ایک قول میں ۲۶۲ھ میں اس کے بنانے سے فراغت ہوئی، اس کا دستخوان بہت وسیع ہوا کرتا تھا، جس پر ہر روز خاص و عام مجتمع ہوا کرتے تھے، اپنی جیب خاص سے ہر مہینہ ایک ہزار دینار صدقہ میں دیتا، ایک دن اس سے اس کے خزانی وکیل نے کہا کہ میرے پاس ہر روز ایک ایسی عورت آ کر مانگتی ہے جس کے بدن پر ایک تہبند اور پرا گندہ کپڑے ہوتے ہیں، مگر اس کی شکل و صورت اچھی ہے اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہے تو کیا میں اسے بھی دیا کروں، اس نے جواب دیا کہ جو بھی تھمارے سامنے ہاتھ دراز کرے اسے دیا کرو۔ یہ قرآن پاک کا بہت زیادہ حافظ تھا، یاد پختہ تھی، آواز بھی دوسروں کے مقابلہ میں سب سے اچھی اور شیریں تھی۔

ابن خلکان نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ اسی نے اخراجہ ہزار آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ واللہ العالم

سماں ہزار دینار کے خرچ سے شفاعة نہ بنا دیا، ایک میدان پر ڈیڑھ لاکھ دینار خرچ کیے، اس کے صدقہ، عملیات بے شمار تھے، اس کا احسان سب سے زیادہ تھا۔

پھر دمشق کے امیر ماخور کے بعد ۲۶۲ھ میں وہاں کا بھی بادشاہ بن گیا۔ ران لوگوں کے ساتھ بھی بہت بہتر، بہت زیادہ اور عمدہ سلوک کیا۔

ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کنیسه مریم کے قریب زبردست آگ لگ گئی تو اس کی مدد کے لیے آپ آٹھا، اور اپنے ساتھ ابو زرعہ عبد الرحمن بن عمر و حافظہ دمشقی اور اپنے شیخ ابو عبد اللہ احمد بن محمد و اسطی کو بھی لے لیا، پھر اپنے شیخ کو حکم دیا کہ اس کے مال میں سے ستر ہزار دینار گھر والوں کی آباد کاری اور جلسے ہوئے والوں کے دوبارہ انتظام اور اصلاح پر خرچ کیے جائیں، چنانچہ اس نے سارے کاموں پر یہ رقم خرچ کی پھر بھی چودہ ہزار دینار ان میں سے باقی رہ گئے، تو خبر پاک راس نے دوبارہ حکم دیا کہ ان لوگوں پر ہی ان کے حصہ کے مطابق یہ کل رقم خرچ کر دی جائے۔ پھر ایک موقع پر بے حساب مال دمشق اور دوسرے شہر غوطہ والوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے کم از کم جو حصہ ایک فقیر کا ملا وہ ایک دینار تھا۔ رحمہ اللہ

پھر وہاں سے شہر انطا کیہ کی طرف گیا اور وہاں کے حاکم کا بھی حاصلہ کر کے آ خوار سے قتل کر ڈالا، اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔

### احمد کے مرض موت کا سبب بھینسوں کا دودھ پینا ہوا:

اس کا انتقال سالی روان کے ماہ ذی القعده کی ابتدائی تاریخوں میں ہوا، اور اس کے انتقال کا سبب اس کی وہ بیماری ہوئی،

جو بھینسون کا دو دھمہ ہیتے سے اسے لاحق ہوئی، کیونکہ یہ بھینسون کا ۱۰۰،۰۰۰ روپے بہت زیاد پسند کرتا تھا جس سے اسے ایک خاص بیماری لگ گئی تو حکما نے اس کا علاج کیا اور آئندہ کے لیے اس سے پہنچنے کا مشورہ دیا۔ تین ان اس نے ان لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا اور چھپ چھپ رُردودھ پیتا ہی رہا، با لآخر موت نے دیوبن آیا۔

اس نے اپنے ترک میں بہت سا ماں اسماں گھوڑے وغیرہ بے حساب چھوڑے اس طرح پر کہا۔ اسکا دینا، جس کے ساتھ چاندی بھی بہت زائد تھی، تین تیس اولاد چھوڑی جن میں سترہ لڑکے تھے، اس کے بعد اس کے معاملات کو اس کے ایک بیٹے شمارویہ نے سنھالا، جس کا مفصل تذکرہ غفرنیب آتا ہے اور غلاموں میں اس کے پاس سات ہزار تھے، اسی طرح گھوڑے نچھر اور اونٹ وغیرہ چوپائے بھی تقریباً ستر ہزار ملکہ بعضوں نے ان سے بھی زائد بتائے ہیں۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ شہروں پر اس کے غالب ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سب سے بڑے فتنہ پر ور جبشی سردار کے مقابلہ میں یہی موفق بن متوفی تھا، جو کہ اپنے بھائی معتمد کا نائب تھا۔

### محصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پائے والوں کے نام یہ ہیں: احمد بن عبد الکریم بن سہل کاتب، جنہوں نے کتاب الخراج لکھی ہے، جیسا کہ ابن خلکان نے کہا ہے اور احمد بن عبد اللہ البرقی، اسید بن عاصم جمال اور بکار، بن قثیہ المصری نے بھی اسی سال ماہِ ذی الحجه میں وفات پائی اور

## حسن بن زیین علوی

طرہستان والے، جن کا انتقال ماہِ ربیع میں ہوا، ان کی حکومت کل ایسے سال آٹھ ماہ چھوٹن رہی، ان کے بعد ان کے بھائی محمد بن زید نے حکومت سنھالی۔

یہ حسن بن زید نہایت ہی شریف، تھی تھے اور فتنہ اور عربی زبان کے بہت ماہر بھی تھے، کسی شاعرنے ان کے سامنے ان کی تعریف میں ایک اچھا قصیدہ نہاتے ہوئے کہہ دیا اللہ بھی کیتا ہے اور ابن زید بھی کیتا ہے، یہ سنتے ہی انہوں نے اسے ڈانتے ہوئے کہا، چپ اخاموش رہ! اللہ تیر امنہ بند کرے (کہ تو نے مجھے خدا کا شریک اور مثال بنادیا) تم نے اس مصرعہ کو زرادبیل کر کیوں نہ کہا "اللَّهُ فَرَّدُ وَابْنُ زِيدُ عَبْدٌ" کہ اللہ کیتا ہے اور ابن زید بندہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے تخت سے اتر کر خدا کا سجدہ شکردا کیا اور اپنار خسار مٹی سے لگا دیا۔ اس شکر میں کہ اللہ نے بروقت ہدایت دی اور شیطان کے چکر میں پڑنے سے فوراً منبہ کر دیا اور اظہار نفرت کے طور پر اس کو کچھ نہیں دیا۔

ایک مرتبہ کسی اور شاعر نے ان کی شان میں ایک قصیدہ کہہ کر سنانا شروع کیا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

لَا تَقْلِيلُ شُرِيْـاً وَلَكِنْ بُشْرِيـاً      غُرَّةُ الدَّاعِـيِ وَ يَوْمُ الْمَهْرَ جَـانِ

ترجمہ: ہوں نہ کہو کہ اک خوشخبری سے بلکہ دو خوبیوں میں دوست دینے والے کا جھروں اور میر جان یعنی یار یوسف کی عید کا دن۔ تو انہوں نے اس شاعر سے کہا کہ اگر تم دوسرے صدر سے اپنے شعر کو شروع کرنے کے پہلے صدر و دوسرے صدر بتاتے تو بہتر ہوتا۔ تمہارے لیے تو یہ بات بہت سی گزی ہوئی ہے اتم نے اتم نے اپنے شعر کو شروع کرنے کا ایسا شروع کیا ہے یہ سنتے دن شاعر نے کہا دیا میں کوئی بھی مقولاً اس جملہ لایا۔ اللہ سے بہت نہیں ہو سکتا جا لائیں اس میں بھی حرف ”اے“ سے شروع کیا گیا ہے یہ بات سنتے دن انہوں نے کہا تمہاری بات بالکل صحیح ہے اور دلیل بھی بہت قوی ہے۔ یہ کہہ کر اس شاعر کو تیقینی انعام دینے کا حکم دیا اور وفات پانے والوں میں حسن بن علی بن عفان العامری ہیں اور

## دواوَدْ بْنُ عَلَىٰ

بھی ہیں یہ اصفہانی پھر بغدادی اور بڑے فقیہ اور ظاہر المذہب تھے، تمام اہل ظاہر کے امام تھے، ابوثور، ابراہیم بن خالد، اسحاق بن راہویہ، سلیمان بن حرب، عبد اللہ بن سلکہ عقینی، مدد بن سرحد وغیرہ محدثین سے انہوں نے احادیث کی روایت کی ہے، اور آپ سے آپ کے صاحبزادہ فقیہ ابو بکر بن دان، ذکریابن سیجی الساجی نے روایت کی ہے۔ خطیب بغدادی نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑے فقید اور زادہ تھے، ان کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ہیں جو آپ کی علمی صلاحیت پر دلالت کرنے والی ہیں۔

آپ کی وفات اسی سال بغداد میں ہوئی اور وفات ۲۰۵ھ میں ہوئی تھی، ابواسحاق السیرامی نے اپنی کتاب طبقات میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی اصل اصفہانی کی ہے، کوفہ میں ولادت ہوئی، بغداد میں جوان ہوئے، علمی لحاظ سے ان کے اپنے زمانہ میں ان ہی کو علمی برتری حاصل تھی، آپ کی مجلس میں بزر چادروں والے چاروں علماء و مشائخ حاضر ہوا کرتے تھے، مسلک اشافعی المذہب تھے اور اس میں تعصّب کی حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ امام شافعی کی منقبت اور سیریف میں مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے اور دوسرے لوگوں سے یوں بھی منقول ہے کہ آپ کی نماز بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ بہت ہی عمدہ ہوا کرتی تھی، ازدواج نے کہا ہے کہ آپ کی حدیثیں متذکر العمل ہوئی ہیں، لیکن اس بات پر کسی نے ان کی تائید نہیں کی ہے، البتہ امام احمد نے فرمایا ہے کہ آپ نے بارے میں محدثین نے چمیگویاں کی ہیں، اس سبب سے کہ آپ نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی یہ رائے پیش کی ہے کہ الفاظ قرآن پاک مخلوق ہیں، جیسا کہ امام بخاری کی طرف اس بات کی نسبت کی جاتی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ بہر صورت آپ مشہور فقهاء میں سے تھے، لیکن آپ نے قیاس صحیح کی بھی نظر کر کے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اور بہت سے علاقوں میں آپ کا فقیہی دائرہ، بہت ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ معنی نص میں غور و خوض کی کوشش ترک کر کے صرف ظاہری الفاظ کی اتباع سے قطعی احکام کے قول کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان کے بعد قیاس کرنے والے فقهاء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ ان کا اختلاف معتبر ہے یا نہیں کہ کسی مسئلہ میں ان کے اختلاف کرنے سے دوسروں کے اتفاق کے باوجود اجماع منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلہ میں کمی اقوال ہیں، مگر یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

## مخصوصین کی وفات:

اس سال ان حضرات نے انتقال فرمایا ہے الربيع بن سليمان المرادی اجوامش شافعی کے شاگرد تھے انہم نے ان کے حالت ایسی لباب طبقات الشافعیہ میں ذکر کیے ہیں اور قاضی بکار بن قبیلہ جو مصری ملاقوں میں ۲۷۰ کا آندری عربیں نیل پانے سے پہلے تک حاکم رہ۔ ہارشاہ احمد بن طواون کے حکم میں جیل میں رہتا پڑا اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا جیل میں جاتے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ۲۷۰ میں موقع کا ساتھ بھیں چھوڑا تھا، یہ بہت بڑے عالم عابد اور زاہد تھے، اکثر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے اور خود اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ان کے بعد یہ عہدہ قضاء تمیں برسرور تک خالی رہا۔

اس سال وفات پانے والوں میں ابن قبیلہ بھی ہیں۔

## ابن قبیلہ دینوری

نام عبد اللہ بن مسلم بن قبیلہ دینوری، جو اپنے علاقہ کے قاضی تھے، علمی لحاظ سے بڑے نجوی، لغوی، اور نادر، مفید اور ایسی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں بہت سے علوم اٹھتے کر لیے تھے، بغداد میں مشغول رہے اور وہیں اسحاق بن راہویہ اور ان کے ہم عصروں سے حدیث کی سماعت کی اور فن لغت ابو الجما تم بھتائی اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں سے حاصل کیا، اس کے بعد بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کیں، اور بہت سی تصنیفات جمع کیں، ان میں سے چند یہ ہیں: ① کتاب المعارف۔ ② ادب الکاتب، جس کی تفریغ ابو محمد بن سید بطيیوسی نے کی ہے۔ ③ کتاب مشکل القرآن والحدیث۔ ④ غریب القرآن والحدیث۔ ⑤ عيون الاخبار۔ ⑥ اصلاح الغلط۔ ⑦ کتاب النخل۔ ⑧ کتاب الانوار۔ ⑨ کتاب المسلسل والجوابات ⑩ کتاب لمیسر والقداح وغیرہ ذالک۔ وفات اسی سال ہوئی ہے دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کے دوسرے سال میں ہوئی ہے، اور ولادت ۲۷۰ میں ہوئی، بہر صورت سانحہ برس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کے صاحبزادے احمد نے ان کی تمام تصنیفات ان سے روایت کی ہیں اور ۲۷۰ میں مصر کے عہدہ قضاء پر مأمور ہوئے، مگر صرف ایک سال بعد ہی وہی وفات پائی۔ رحمہ اللہ ان لوگوں کے علاوہ وفات پانے والوں میں محمد بن اسحاق بن جعفر الصفار، محمد بن اسلم بن وارہ اور مصعب بن احمد الصوفی ہیں، جو کہ جنید کے ہم عصر تھے۔

اسی سال روم کے بادشاہ مقلوبیہ کی بھی وفات ہوئی۔ لعنة اللہ  
اسی سال عیسیٰ بن موسیٰ نے ملک اندرس میں ایک شہر لارڈ کی بنیاد دی۔



## واقعات — ۱۷۲ھ

اس سال خلیفہ نے خراسان کی حکومت سے عمر بن لیث کو معزول کر دیا اور منبروں پر اس کے نام کے ساتھ لعنت بھیجئے کا حکم بھی جاری کیا اور اس کی جگہ محمد بن طاہر کو خراسان کا حاکم بنادیا، پھر عمر و بن لیث سے مقابلہ کے لیے ایک لشکر بھیجا، مگر عمر و نے اس لشکر کو شکست دی۔

### ابوالعباس معتضد اور خمارویہ بن احمد کے درمیان جھڑپ:

اسی سال ابوالعباس معتضد بن ابی احمد موفق اور خمارویہ بن احمد بن طلوبون کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب خمارویہ اپنے والد احمد کے بعد مصر اور شام کے علاقوں کا بادشاہ بنا تو خلیفہ کی طرف سے اسحاق بن کنداج جو جزیرہ میں نائب حاکم تھا، اور ابن ابی الساج کی سرکردگی میں اس کے مقابلہ کے لیے ایک لشکر آیا۔ چنانچہ دیترز کے علاقے میں مقاتله ہوا اور شام کو ان لوگوں کے حوالہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ابوالعباس بن الموفق سے مدد چاہی، تو وہ ان کے مقابلہ کے لیے آیا، اور خمارویہ کو پسپا کر دیا اور دمشق پر قبضہ کر کے اس کی ساری چیزیں اپنے قبضہ میں لے لیں، پھر رملہ کے علاقوں کی طرف خمارویہ کا پیچھا کیا اور طوائفین نامی ایک چشمہ کے پاس اسے پایا، اور وہیں ان سے مقابلہ شروع کیا۔ اسی مناسبت سے اس جھڑپ کا نام وقعة الطوائفین رکھا گیا ہے۔ الحاصل ان لڑائیوں میں اولاً ابوالعباس کو خمارویہ پر بر بڑی حاصل رہی کہ اسے شکست دے دی، یہاں تک کہ خمارویہ اس طرح بد حواس ہو کر بھاگا کہ دائیں بائیں دیکھے بغیر مصری علاقوں میں پہنچ کر ہی دم لیا، اس موقع پر ابوالعباس اور اس کے ساتھی اس بھاگتے ہوئے لشکر کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے، اسی طرح وہ غفلت میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی اپنی تواریں اور تھیمارا تاز کر کر کھدیے تھے، کہ خمارویہ کے لشکروں کو نہیں جو کہیں گا ہوں میں اسی خیال سے چھپے ہوئے تھے، اچانک ان پر حملہ کر دیا، اور فرینق ثانی کے لوگوں کے بہت سے لشکر قتل کر دیا اور اب ابوالعباس معتضد جان بچا کر اس طرح بھاگا کہ دمشق پہنچ کر ہی دم لیا۔ مگر اس شہر والوں نے اس کے لیے صدر دروازہ نہیں کھولا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگا، اور طرسوں میں جا کر دم لیا۔ مگر مصری اور عربیٰ فوجیں دونوں ہی بغیر کسی امیر کے لڑتی رہیں، بالآخر مصریوں کو پیغام حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگ شمارویہ کے بھائی کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، اسی سبب سے وہ غالب آگئے اور دمشق اور پورا شام ان کے زیر دست رہا، یہ واقعہ عجیب و واقعات میں ایک ہے۔

اس سال اندرس کے علاقے میں مغرب والوں سے بارہ لڑائیاں ہوتی رہیں۔

اور اس سال حسین بن جعفر بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے دو لڑکے جن کے نام محمد اور علی تھے، یہ دونوں مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، اور وہاں کے باشندوں کو بے حساب قتل کیا اور ان سے بے شمار مال بھی چھینا اور چار

جماعوں تک مسجد نبوی میں نہ پہنچتی نمازوں میں اور نہ ہی جمعہ کی نمازوں میں کوئی بھی نمازی حاضر ہو سکا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون  
اسی طرزِ نہادِ مطہرہ ہیں جسی دوسرے ساقیوں نے اور بیہان سجدہ حرام سے دروازہ پر بھیں وُقُتُل و قتل آئی تھے۔  
۱۲ سال بارہ ماں ہیں مسی امتنع مرے لئے لوگوں کو حق نہ رہا۔

### مخصوصین کی وفات:

اور اس سال ان حضرات کا انتقال ہوا، عباس بن محمد دینوری، جو کہ ائمہ جرج و قدمیں میں سے ابھیں وغیرہ کے شاگرد  
تھے، اور عبد الرحمن بن محمد بن منصور بصری، محمد بن حماد عبرانی، محمد بن سنان عوفی، یوسف بن مسلم اور

### بوران، زوجہ مامون

ایک قول یہ بھی ہے کہ نام خدیجہ اور لقب بوران تھا، مگر پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے اور اسی بوران کے نام پر مصلح کے مقام  
پر ہارون نے اس سال ۲۰۶ھ میں نکاح کیا تھا۔

جبکہ وہ صرف دس سال کی تھی، انہیں موقع پر اس کے والد نے اس بوران اور حاضرین مجلس پر مشک کی ایسی گولیاں لٹائیں جن  
کے نیچے میں کاغذ کے ایسے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جن سے کسی میں کسی دیہیات کا نام، کسی میں باندی یا غلام یا گھوڑے یا ملک کا نام  
لکھا ہوا تھا، اس طرح جس کے ہاتھ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، اس چیز کا وہی مالک بنایا گیا۔ ان کے علاوہ دینار مشک کے نافے اور عنبر  
کے انڈے بھی لٹائے گئے تھے، اور اس نے پانچ دن مامون اور اس کے لشکر کے رہنے کے زمانے میں دس لاکھ درہم خرچ کیے جب  
مامون وہاں سے رخصت ہوا تو اس نے اسے ایک کروڑ درہم دینے اور مصلح کا علاقہ اس کی جا گیر میں دیا۔ اور ۲۱۳ھ میں اس  
کے ساتھ غلوت میں رہا، مامون نے جب بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے مامون کے لیے سونے کی چٹائی بچھائی، ان کے قدموں پر  
جو ہر کے ہزار دنے نچاہو رکیے اور سونے کے ایک طشت میں عنبر کی میت رکھی گئی؛ جس کا وزن چالیس من تھا، یہ دیکھ کر مامون نے کہا  
کہ یہ اسراف ہے اور چٹائی پر جو دانے پڑے ہوئے تھے اور بہت چک رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ کہنے لگا، اللہ ابو نواس شاعر کا برا  
کرنے جو شراب کی تعریف میں کہتا ہے۔

کان صغیری و کبری من فقا فعہما حصباء دُر على ارض من الذهب

تہجید: اس کی جھاگ کے چھوٹے بڑے بلند گویا سونے کی زمین پر موتوی کی کنکریاں ہیں۔

پھر اس نے موتیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور انہیں تخت عروی پر ڈالتے ہوئے کہا: یہ یہری طرف سے تمہیں تکھنے ہے۔ ان  
کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش ہو تو تم مجھ سے کہو۔ اس موقع پر اس کی دادی نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، تم اپنے آقا سے چاہو  
کیونکہ اسی نے تمہارا منہ کھلوا لیا ہے، تب اس نے کہا میں امیر المؤمنین سے درخواست کرتی ہوں کہ ابراہیم بن المهدی سے اپنی بھنگی  
دور کر کے خوش ہو جائیں، چنانچہ اس نے اپنی خشنودی کا اظہار کر دیا، اس کے بعد وہ ہمبستری کے لیے تیار ہوا تو اسے حاکمہ پایا، یہ  
واقعہ ماہ رمضان کا ہے۔ اسی بوران کی وفات اب اسی سال کی عمر میں ہوئی۔

## و اتفاقات — ۲۷۲ھ

اسی سال ماہ جمادی الاولی میں قزوین کا نائب حاکم ارلنکیس چار ہزار بندجوں سپاہیوں کو لے آر محمد بن زید کے مقابلہ میں نکلا۔ جو کہ اپنے بھائی حسن بن زید علوی کے بعد طبرستان کا حاکم مقرر ہوا تھا، اس وقت وہ دیلیزیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر مشتمل ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر مقام ری میں پڑا اور ذا لے ہوئے تھا، وہاں دونوں فریقوں میں زبردست قتل و قتل ہوا، آخر کار ارلنکیس نے اپنے مقابلوں کو شکست دے دی اور لشکر میں جو کچھ سامان تھا، سب لوث لیا، اور تقریباً چھ ہزار سپاہیوں کو قتل کیا اور ری میں داخل ہو کر اس پر قبضہ جمالیا اور ایک لاکھ دینار کا ان سے مطالبه کیا، اس کے اطراف و جوانب میں اپنے منتخب عمال مقرر کر دیئے۔

اسی سال ابوالعباس بن موفق اور طرسوں کے سرحدی علاقوں کے حاکم یا زمان الخادم کے درمیان مقابلہ ہوا، اہل طرسوں نے ابوالعباس کے خلاف مشتعل ہو کر زدہ اور مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس لیے وہ وہاں سے بغداد کی طرف لوث گئے۔

اسی سال حمدان بن حمدون اور ہارون الشاری موصل شہر میں داخل ہو گئے اور وہاں کی جامع مسجد میں شاری نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔

اسی سال موصل کے علاقہ میں بوشیان نے بھی زبردست فساد برپا کیا۔

اسی سال بصرہ میں بچے کچھ جوشیوں نے پھر زور پکڑا اور یا انکلائی ہا منصور کے غیرے لگائے۔ یہ ”انکلائی“، جوشی سردار خبیث کا پینٹا تھا، سلیمان بن جامع اور ابیان بن علی بھی اور دوسرے نامور سردار، جو موفق کے لشکر میں تھے، ان سبھوں کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، چنانچہ ان فتنے گروں کو قتل کر کے ان کے سر موفق کے پاس بھیج دیئے گئے اور باقی جسموں کو بغداد میں سولی پر لیکا دیا گیا، تو ان کے بقیہ تمام شرپند مختنڈے پڑ گئے۔

اسی سال مدینہ منورہ کے حالات درست ہوئے اور امن و امان قائم ہوا تو اس کے باشندگان پھر وہاں واپس آ کر بس گئے۔

اسی سال اندرس کے شہروں میں بکثرت لڑائیاں ہوئیں، بالآخر دیلیزیوں نے مسلمانوں سے اندرس کے دو بڑے شہروں پر کمل قبضہ کر لیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجحون

اسی سال صاعد بن مخلد کا تب فارس سے واسط آیا تو موفق نے اپنے سرداروں کو اس کے اشتقبال کا حکم دیا وہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا لیکن اس سے غور اور تکمیر کا ظہور ہونے لگا، اس لیے موفق نے بہت جلد اسے اور اس کے گھروں کو گرفتار کرنے اور اس کی دولت لوث لینے کا حکم دیا اور اس کی جگہ پر ابوالصفرا اسماعیل بن یلبل کو کاتب کے عہدہ پر بحال کر دیا۔

اس سال بھی بارون بن محمد بن اسحاق نے لوگوں کو حج کرایا، جو کئی برسوں سے حج کرتا آتا تھا۔

### خصوصیں کی وفات:

اس سال بھی شہزادگان میں میں مدد رجب ذیل حضرات نے وفات پائی۔ ابو ایمیم بن ادایہ الحنفی، ابن احمد بن عبد الجبار، ابن محمد بن عطار، العطار، میں الحنفی، جنہوں نے السیرت کی روایت یونس بن لمیہ سے انہوں نے اسحاق بن سارا اور دوسروں سے روایت لی ہے، اور ابو عنیبہ جازی، سلیمان بن سیف، سلیمان بن وہب الوزیر، جن کا انتقال موفق کے قید خانہ میں ہوا اور شعبہ بن بکار جواب عاصم بن نبیل سے روایت کیا کرتے تھے، اور محمد بن صاحب بن عبد الرحمن الانماطی، جن کا القب مکھلہ تھا، اور سعیٰ بن معین کے شاگردوں میں سے تھے، اور محمد بن عبدالوهاب الفراء، محمد بن عبیدالنادی اور محمد بن عوف الحنصی اور

### ابو معشر اربعہ

نام: جعفر بن محمد الحنفی، جو علم نجوم میں اپنے زمانے کے استاد تھے، اس فن میں ان کی بہت سی مشہور تصنیفیں ہیں، جسے مغل، زنج اور الالوف وغیرہ اور التیسر والادکام سے متعلق مضمون پر خاصی گفتگو کی ہے۔ ان کے انداز اور نشانے کچھ عجوب ہوتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی شخص کو تقاضا کرنے کے ارادے سے تلاش کرنا شروع کیا، اس شخص کو اس کی خبر ملنے سے وہ کہیں چھپ گیا، مگر اس بات کا ذرہ ہوا کہ یہ ابو معشر بادشاہ کا حکم پا کر اپنے علم نجوم کی مدد سے ضرور تلاش کر لے گا، اس لیے اس نے ایک نئی ترکیب اس طرح کی کہ اس نے ایک بڑا لگن منگوا، برا سے خون سے بھر دیا اور اس میں ایک ہاون رکھ کر خود اس پر بیٹھ گیا، بادشاہ نے ابو معشر کو بلوا کر اسے حکم دیا کہ وہ شخص جہاں کہیں ہو اس کا بہتہ تاؤ، چنانچہ اپنے قانون کے مطابق اس نے کچھ نشانات بنائے اور حساب کتاب کر کے بتایا کہ اس کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ شخص ایک سونے کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ خونی سمندر میں ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بات واضح نہ ہونے کی بنا پر بادشاہ نے اسے دوبارہ نکالنے کو کہا تو اس نے اسی طرح دوبارہ حساب و کتاب کیا، اس مرتبہ بھی ویسا ہی پایا، تب بادشاہ کو اس جواب سے سخت تعجب ہوا اور مجبور ہو کر شہر میں اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ معافی کی خبر پا کر اطمینان کے ساتھ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تب اس نے ساری باتیں بتادیں، جن سے سب کو تعجب ہوا۔

ظاہر یہ ہے کہ رجز، المطرف اور اختلان اعضاء کی نسبت جو جعفر بن محمد الصادق کی طرف منسوب ہے، وہ درحقیقت اسی جعفر بن ابی معشر کی طرف منسوب ہے اور وہ بات صحیح نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ واللہ اعلم



## واقعات — ۲۷۳

اس سال موصل کے نائب حاکم اسحاق بن کنداج اور اس کے دوست فخرین وغیرہ کے نائب حاکم ابن الی الساج کے درمیان اختلاف ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے دونوں میں ابھی تھے تعلقات تھے اور یہ ابن الی الساج کا تب خمارویہ کے جو حاکم مصر تھا اور اس کے علاقوں میں اس کا نام خطبوں میں لیا جاتا تھا، اس موقع پر خمارویہ شام آیا تو ابن الی الساج اس سے مل گیا، اور اسحاق بن کنداج کی طرف جا کر دونوں نے مل کر حملہ کر دیا، نتیجہ میں ابن کنداج کو شکست ہوئی اور مار دین کے قلعہ کی طرف بھاگ گیا، اسحاق نے یہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح ابن الی الساج کو غلبہ ہو گیا، اور موصل اور جزیرہ کے علاقوں پر بھی وہ غالب آگیا، اور وہاں خمارویہ کا نام خطبوں میں لیا جانے لگا، اور اس کی زبردست دھاک بیٹھ گئی۔

اسی سال موفق نے ابن طولون نے غلام اولوہ کو پکڑ لیا، اور چار لاکھ دینار کا اس سے مطالبة کیا اور اسے جیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ میرا قصور صرف میرے پاس زیادہ مال کا ہوتا ہے، ورنہ کوئی قصور نہیں ہے، اس کے بعد جیل خانہ سے فرار اور ذلت کے ساتھ نکلا گیا، اور ہارون بن خمارویہ کے زمان میں مصر جاسکا، اس طرح کہ اس وقت اس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اور وہ ایک ٹوپر سوار تھا۔

درحقیقت اس کا اس بدحالی کو پہنچنا اپنے آقا کے ساتھ ناٹکرنی، برکفران نعمت کی سزا ہے۔

اس سال روم کے بادشاہ کے لڑکوں نے اپنے باپ پر حملہ کر کے اسے مل کر دیا اور اپنوں میں سے ایک کو اس کی جگہ بادشاہ بنادیا۔

### خصوصیں کی وفات:

اسی سال ان مشہور حضرات نے وفات پائی:

### محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الاموی:

حاکم اندلس، کل پنیسہ سال کی عمر پائی اور چوتیس برس گیارہ ماہ حکومت کی، یہ شکل و شابہت کے لحاظ سے رنگ کے گورے، جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، میانہ قد، چھوٹی گردن والے، مہندی اور وہم سے بالوں کو نگین کرتے، بہت ہی عاقل اور ہوشمند تھے، مشتبہ جانوں کی حقیقت کو بآسانی معلوم کر لیتے، اپنے بعد تینیس لڑکوں کو چھوڑا، ان کے بعد ان کے لڑکے منذر نے ان کی جگہ سنگھانی اور لوگوں کے ساتھ بہت ابھی سلوک سے پیش آئے، اور لوگوں نے بھی ان سے محبت کا اظہار کیا اور اسی سال ان کی وفات ہوئی۔

### خلف بن احمد بن خالد:

کی وفات بھی اسی سال ہوئی، یہی وہ شخص ہے جو معتمد کے جیل خانہ میں رہنے کے زمانہ میں خراسان کا امیر تھا۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے امام بخاری محمد بن اسماعیل کو ان کے اپنے وطن بخاری سے نکال دیا تھا، جس سے ناراض ہو کر امام بخاری نے

ان پر بد دعا کی، چنانچہ اس کے بعد اس نے بھی فلاخ نہ پائی، اور اس کے بعد صرف چند ماہ یہ حاکم رہا۔ آخر میں اس کی ساری جیزیں اس سے پھیلن کر اس کو کہہ ہے پر سارے رکے شہر میں نشت کرایا کیا اپنے قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور وہ اتنی حالت میں نید میں پڑا رہا۔ یاں تک کہ پندرہ ماہ بھی ہی اسی سال انتقال ہوا گیا۔ یہ قدرتی سزا ہے اس شخص کی جس نے اہل حدیث و سنت و تحفہ نیا۔

اور اسی سال انتقال لرنے والوں میں

### اسحاق بن احمد، حبیل بن اسحاق:

جو امام احمد بن حبیل کے پچھا تھے اور ان کے مشہور راویوں میں سے بھی تھے، اگرچہ ان کی بعض روایتوں اور حکایتوں میں جو ان سے نقل کی ہیں، ان پر تہمت بھی لگائی گئی ہے اور ابو امية طرسوی ابو الفتح بن خرف جو صوفیانے کرام کے مشائخ میں سے ایک اور بہت ہی حالات کرامات اور مفید کلمات والے تھے۔

ابن اشیر نے اپنی کتاب کامل میں جو یہ ذکر کیا ہے کہ سنن ابی داؤد کے جامع کا بھی اسی سال انتقال ہوا ہے، ان کو اپنے اس گمان میں وہم ہوا ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کا انتقال ۲۵ ۲۷۴ھ میں ہوا ہے جیسا کہ عنقریب ذکر آتا ہے اور

### ابن ماجہ القرزوینی:

کا بھی اسی سال انتقال ہوا ہے، یہی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ کے جامع میں۔ نام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ ہے، ان کی یہ کتاب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ بہت بڑے علماء عالم تبحر تھے، اور ان کو احادیث پر پوری واقفیت تھی، اور مسائل اصولیہ اور فروعیہ میں سنت کے بہت قیع تھے، یہ کتاب تین کتابوں ذیلیں ہے ہزار بابوں اور چار ہزار احادیث پر مشتمل ہے، جس کی ساری حدیثیں محدودے چند کے سو صحیح اور قابل قبول ہیں۔ ابو زرع رازی کے متعلق م McConnell ہے کہ انہوں نے اس کی دس سے کچھ زائد احادیث پر اعتراض کیا ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موضوع یا مکر تھیں، ابن ماجہ کی لکھی ہوئی ایک بہت مفصل تفسیر ہے اور صحابہ کرام سے ان کے زمانہ تک کی ایک مکمل تاریخ ہے۔

ابو یعلی الحنبل بن عبد اللہ الحنبلی نے کہا ہے کہ ابن ماجہ قزوینی کا نام ابو عبد اللہ بن محمد بن یزید بن ماجہ ہے اور یزید ماجہ سے مشہور ہیں، جو ربعیہ کے غلام تھے، بہت بڑے مرتبہ کے عالم اور بہت سی تصنیفوں کے مالک تھے، جن میں ان کی "التاریخ" اور "السنن" بہت مشہور ہوئی ہیں، عراق، مصر اور شام کے علاقوں میں کافی سفر کیا ہے اور انہوں نے اپنے مشائخ کے بھی کچھ حالات جمع کیے ہیں، جن کو ہم نے اپنی کتاب "التكملہ" میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔

ان سے بڑے پایہ کے لوگوں نے روایتیں نقل کی ہیں جن میں ابن سیبویہ، محمد بن عیسیٰ الصفار، اسحاق بن محمد، علی بن ابراہیم بن سلمہ القطان، احمد بن ابراہیم، سلیمان بن یزید ہیں۔ کسی اور نے کہا ہے کہ ابن ماجہ کی وفات دو شنبہ کے دن ۲۷۴ھ کو ۲۲ رمضان مدفن ہوئے، اس وقت آپ کی عمر چونٹھ برس کی تھی، آپ کے بھائی ابو بکرؓ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور اپنے دوسرے بھائی، ابو عبد اللہ اور ان کے صاحبزادے عبد اللہ بن محمد بن یزید کے ساتھ مل کر ان کے دفن کے ذمہ دار ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم

## واقعات — ۲۷۴ھ

اس سال ابو احمد الموفق اور عمرو بن الیث کے درمیان گھسان کی لڑائی کے حالات ہوئے اسی خیال سے ابو احمد آگے بڑھا، لیکن عمرو بن الیث بھاگ نکلا اور ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ تارہا اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن نہ تو لڑائی کی نوبت آئی اور نہ ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا کہ الیث کا سرا دستہ ابو طلحہ شرکب الجمال نے موفق کی طرف پیش قدی کی پھر وہ اپنی کا ارادہ کر لیا، تو موفق نے اسے واپس جانے کا موقع نہیں دیا بلکہ اس پر حملہ کر کے اسے کپڑا لیا۔ اور اس کا سارا مال اپنے بیٹی ابوالعباس المغتصد کے لیے حلال کر دیا، یہ واقعہ شیراز کے قریب پیش آیا۔

اسی سال شہر طرسوس کے نائب حاکم یازمان خادم نے روی شہروں پر جہاد کیا اور زوردار کیا، بے حساب لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال بطور غنیمت حاصل کیا اور صحیح و سالم واپس آگیا۔

اس سال الفرغانی کا دوست سامراییں کھینچا اور وہاں بخار کے گھروں کو لوٹ کر واپس آگیا یہ وہی شخص تھا جو راستوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ چھاڑ کر برپا کیا خود ہی لوٹ مار کرنے لگا، اور سامرایی پولیس بھی اس کے مقابلہ سے عاجز آگئی۔

### محضوصین کا انتقال:

اس سال مندرجہ ذیل مشہور لوگوں کا انتقال ہوا، (۱) ابراہیم بن احمد بن حیکی ابوسحاق، ابن الجوزی نے اپنی کتاب *المنتظم* میں کہا ہے کہ یہ حافظ اور بڑے فاضل تھے۔ حرمه وغیرہ سے روایت کی ہے اس سال جمادی الاخری میں وفات پائی۔ اور (۲) الحنفی بن زیاد ابو یعقوب المقری نے اس سال ماہ ربیع الاول میں وفات پائی اور (۳) ایوب بن سلیمان بن داؤد صعدی جو آدم بن ایاس اور ابن صاعد اور ابن السماء کے روایت کرتے تھے روایت میں ثقہ تھے اس سال ماہ رمضان میں وفات پائی۔

اور (۴) حسن بن مکرم حسان بن علی البر ارجو عفان اور ابو الفضل اور یزید بن ہارون وغیرہم سے روایت کرتے تھے اور ان سے الحاملی ابن مخلد اور بخاری نے روایت کی ہے، روایت حدیث میں ثقہ تھے، تہتر سال کی عمر پا کر سال رواں کے ماہ رمضان میں وفات پائی اور (۵) خلف بن محمد بن عیسیٰ ابو الحسین الواسطی، جن کا لقب کردوسی تھا، جو یزید بن ہارون وغیرہ سے روایت کرتے تھے اور ان سے حاملی اور ابن مخلد روایت کرتے تھے، ابن حاتم نے انہیں صدق و اور دارقطنی نے ثقہ کہا ہے۔ سال رواں کے ماہی الحجہ میں وفات پائی۔ ہے اور اسی سال سے کچھ زائد عمر پائی۔

اور (۶) عبداللہ بن روح بن عبید اللہ ابن ابی محمد المدائی، جو عیدروس سے مشہور ہیں یہ حبابہ اور یزید بن ہارون سے

روایت کرتے تھے اور ان سے مجازی اور ابن السمک اور ابو بکر الشافعی وغیرہ روایت کرتے تھے اور شفیق تھے۔ اس سال ماءِ جمادی الآخری، فاتح پانچ۔

(۱) اے ) عبد اللہ بن ابی سعید ابو محمد ابو راقی اصلائی تھے کے تھے اور بغداد میں رہائش اختیار رہی تھی: شریعت بن یوسف اور عفان اور علی بن الجعد وغیرہ ہم سے روایت کرتے اور ان سے ابن ابی الدین یا اور بخوبی اور مجازی روایت کرتے ہیں اُنکے تھے اخبار اور آداب بیان کرنے والے اور ضمید باتیں بتانے والے تھے ستتر (۷۷) برس کی عمر پا کر سال رواں کے ماہ جمادی الآخرہ میں مقام واسطہ میں وفات پائی۔

(۸) محمد بن اسماعیل بن زیاد ابو عبد اللہ اور ان کو ابو بکر الدو، بن بھی کہا گیا ہے، ابو الحضر اور ابو الحسان اور ابو الحسر سے روایت کی ہے اور ان سے ابو الحسین المنادی اور محمد بن مخلد اور ابن السمک نے روایت کی ہے، محمد بن کے نزدیک شفیق کے نزدیک

شفیق تھے۔

## واقعات — ۲۷۵

اس سال ماه محرم میں ابوالساج اور خماز دیوب کے درمیان اختلاف شدید ہو گیا یہاں تک کہ مشرقی دمشق کے ثانیۃ العقاب کے مقام میں دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور آخر کار خماز نے ابن ابی الساج پر غالب آگیا اور وہ شکست کھا گیا، حمص کے علاقہ میں ابوالساج کی چاندی وغیرہ کی کان تھی، اس لیے خمارویہ نے کنی نیز رفارٹھنک کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا اور ابوالساج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس پر قبضہ بھی کر لیا اور اسے وہاں نہ ہٹھرنے کا موقع نہ دیا، اس لیے وہ حلب کے علاقہ میں بھاگا تو خمارویہ نے اسے وہاں جانے سے بھی روکا۔ تب وہ رود کی طرف چلا، تو اس نے وہاں بھی پہنچ گیا اور وہاں اوپر پاپوں کا اس نے ایک تخت بنوایا، اور فرات کے کنارے اس پر بیٹھا کرتا، یہ دیکھ کر ابن کنداح کو لالج ہوئی اور اس کے تعاقب میں گیا، تاکہ کچھ بھی اس سے چھین سکے مگر اس کے لیے چھیننا ممکن نہ ہوا، اتفاقاً کسی دن دونوں میں مقابلہ بھی ہو گیا، مگر ابن الساج کو زبردست شکست برداشت کرنی پڑی، مگر جان فتح گئی، آخر وہ لوٹ کر واپس بغداد میں موفق کے پاس پہنچ گیا۔ موفق نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور خلعت سے نواز اور اپنے ساتھ اسے پہاڑ تک لے گیا اور یہ اسحاق بن کنداح جزیرہ کے علاقہ میں دیوار بکری کی طرف لوٹ گیا۔

اس سال شوال کے مہینے میں ابوالحمد الموقن نے اپنے بیٹے ابوالعامص المعتقد کو دارالامارہ میں مقید کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کسی علاقہ میں جانے کا حکم دیا تو اس نے وہاں جانے سے بختنی سے انکار کر دیا اور صرف شام میں جانے پر اظہار رضا مندی کیا، یہ وہ علاقہ تھا، جہاں اس کے بیچا المعتقد نے اسے حاکم بنادیا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو اس نے قید میں ڈال دیا اس وجہ سے وہاں کے حاکم برائی گھنٹہ ہو گئے، اور بغداد میں ہنگامہ کرنا شروع کیا، تب موفق گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد گیا اور لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگوں کو میرے بیٹے سے مجھ سے زیادہ محبت ہے، یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے، پھر خود

بی ایران نے بیٹھ کر دبایا۔

اس سال رافع نے محمد بن زید علوی کے ملاقوں میں مقابلہ کر لئے اس سے جرجان کا ملاقوں پتھریں لیں گے اور اتنا ادا کے ملاقوں میں بھاگ لیا۔ مگر وہاں بھی اس کا گھیرا اور گرنے رکھا گیا۔ اس کے تجھے میں وہاں اشیائے خور و نیلی کی ختنگرائی ہوئی۔ یہاں تک کہ دو درہم میں ایک درہم کے برابر تک ملے گا تھا۔ البتہ ایک رات موقع پا کر رہا یہ کی طرف نکل گیا۔ اس طرح رافع نے کچھ عرصہ میں رہ کر اس سے بہت سے علاقے اپنے قبضہ میں لے لیے۔

اس سال ماه محرم یا ماہ صفر میں منذر بن محمد بن عبد الرحمن الاموی انلس کے حاکم کا چھیالیں بر س کی عمر میں انتقال ہوا، اور ایک سال گیارہ دنوں تک حکومت کی، یہ گندمی رنگ لانے بندے قد کے چہرہ پر دانوں کے داغ تھے، جنی خوبیوں کے مالک، شعراء کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتے اور زیادہ سے زیادہ مال دے کر ان کو خوش کرتے، ان کے بعد ان کے بھائی محمد نے انتظام سنگھالا، مگر ان کے ناقص انتظام کی وجہ سے انلس میں شر و فساد پھوٹ پڑا۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ تفصیل عنقریب آئے گی۔

### مشہور لوگوں کی وفات اور ان کے کچھ حالات:

اس سال مشہورین میں سے ان لوگوں کی وفات ہوئی، (۱) ابو بکر احمد بن محمد البجاج المرزوqi، امام احمد کے شاگردوں میں بہت ذہین تھے، امام احمد ان کو اپنے تمام شاگردوں پر مقدم رکھتے، ان سے محبت رکھتے، اپنی ضروروتوں میں ان کو ہی بھیجتے اور ان کو کہا کرتے کہ تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے امام احمد کی آنکھیں بعد وفات بند کیں، ان کو غسل دینے والوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے امام احمد سے بہت سے مسائل نقل کیے ہیں۔ امام احمد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں بڑی عظمت حاصل ہوئی۔ اس وقت جبکہ انہیں سامر امیں بلا کر پہچاں ہزار ان کے سامنے پیش کیے گئے، مگر انہوں نے کچھ قبول نہیں کیا بلکہ انکا رکر دیا۔ (۲) احمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرد اس ابو عبد اللہ البائل المصری، جو خلیل کے غلام سے مشہور ہیں، بغداد میں سکونت اختیار کی، سلیمان بن داؤد الشاذ کوئی اور شیبان بن فروخ اور قرقہ بن جبیب وغیرہم سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے این سماں کے، ابہن مخلد وغیرہمانے روایت کی ہے، ابو حاتم وغیرہ نے ان پر اس طرح اعتراض کیا ہے کہ ان کی روایتیں منکر ہوتی ہیں اور محبول اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو حدیث کو غلط طریقہ سے پیش کرتے ہیں، بہت نیک آدمی تھے، ابو داؤد اور ان کے علاوہ کئی محدثین نے ان کی تکذیب کی ہے، ابہن عدی نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے احادیث وضع کی ہیں، بڑے حق عابد زاہد تھے اور صرف بزریوں کو ہی خواراک بناتے تھے۔ ان کی وفات پر بغدادی کے تمام بازار بند ہو گئے، سارے شہری ان کے جنازہ میں شریک ہوئے اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھی، جنازہ کو کشتی میں رکھ کر بصرہ لے جایا گیا اور وہیں مادر جب میں دفن کئے گئے۔

(۳) اور احمد بن ملاعہ ہیں جنہوں نے یحییٰ بن معین وغیرہ سے روایت کی ہے، یہ شفیعہ بڑے دیدار عالم اور فاضل تھے ان سے بہت سی حدیثیں پھیلی ہیں۔ اور

## (۲) ابواؤد السجستاني:

بین اور سخن ابواؤد کے جامع ہیں۔ نام سلیمان بن اشعث بن بشیر بن یحییٰ بن مردان ابواؤد، اسحقی ہے ان آئندہ حدیث میں سے ایک ہیں جنہوں نے طلب حدیث میں بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے۔ احادیث جمع یہیں ان سے تاب تصنیف کی اور مسائل کا استنباط کیا اور تالیف بھی کی۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں شام مصر جزیرہ عراق خراسان و نیروہ شہروں کے مشائخ سے سنی ہیں۔ ان کی کتاب السنن بہت مشہور اور علماء میں مقبول اور ان کے ہاتھوں ہاتھ ہے ان کے بارے میں ابو حامد الغزالی نے فرمایا ہے کہ ایک مجتہد کے لیے ان کی یہ ایک کتاب حدیث نبویہ یعنی الصلوٰۃ والسلام کے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان سے حدیثیں کی ایک جماعت نے روایتیں نقل کی ہیں جن میں ابو بکر عبد اللہ، ابو عبد الرحمن النسائي، احمد بن سلیمان البخاری ہیں اور ان سے نقل کرنے والوں میں دنیا میں بھی آخری شخص ہیں۔

موصوف نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی اور بارہ بغداد تشریف لا کر وہاں لوگوں کو اپنی کتاب السنن سنائی اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغداد میں ہی رہ کر اس کتاب کی تصنیف کی اور آخر میں امام احمد کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا۔ تعریفی کلمات کہے۔ خطیب بغدادی نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ابو بکر محمد ابن علی بن ابراہیم القاری الدینوری نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ میں نے ابو الحسین محمد بن عبد اللہ بن الحسن القرصی کو کہتے ہوئے سنائے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن درس سے سنائے وہ کہتے تھے کہ میں نے ابواؤد کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی پانچ لاکھ احادیث لکھی ہیں ان میں سے چار ہزار آٹھ سو احادیث کا انتخاب کر کے میں نے اپنی کتاب السنن میں جمع کی ہیں جن میں صحیح، مثل صحیح اور اس کے قریب قریب ہیں۔ لیکن انسان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان میں یہ صرف ان چار حدیثوں پر عمل کافی ہے:

① إنما الأعمال بالنيات۔

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

② منْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ فَرُكْمَةٌ مَا لَا يَعْنِيهُ.

”انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے اس کا غیر مفید کاموں اور باتوں کو چھوڑ دینا۔“

③ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضِي لِأَخِيهِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ.

”مومن اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرنے لگے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

④ الْحَلَالُ بَيْنُ وَالْحَرَامِ بَيْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْبَهَاتٌ.

”حلال چیزیں بھی کھلی اور حرام بھی بالکل واضح ہیں، ان کے درمیان کی چیزیں مشتبہات میں سے ہیں۔“

مجھے عبدالعزیز بن جعفر حنبلی سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو بکر الخلال نے کہا ہے کہ ابواؤد بن الاشعث السجستاني جو اپنے زمانہ کے سب سے بڑے امام ہیں ایسے شخص ہیں کہ ان کے مقابلہ میں علوم کی تحریک اور ان کے موقع کی شاخت میں ان کے زمان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی پرہیز گارا اور سب سے بڑھے ہوئے تھے ان سے امام احمد بن حنبل نے بھی ایک حدیث سنی جو صرف ان ہی کو

معلوم تھی۔ ابو بکر اصفہانی اور ابو بکر بن صدقہ دونوں ہی ان کو بڑے منازل تک پہنچاتے تھے ان کو ایسی صفتیں سے متصف کرتے ہیں سے ان نے اس زمان میں سے وہی بھی اسف نہ کرتا۔

اب میں ہے نہتا ہوں لہ وہ حدیث جو امام احمد بن حنبل نے ان سے سنی اور کمی وہ ہے جو حماد بن عسلہ سے اور انہوں نے ابو ذئش داری سے اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح و (وہ بُری نبَّتے زمانہ جاہیت میں شرکیں عرب ماہ رجب میں اپنے بتوں کے نام ذبح کرتے تھے) کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کی اچھائی بیان کی (ابتداء اسلام کے زمانہ کی یہ بات ہے) ابراہیم الحرمی وغیرہ نے کہا ہے کہ ابو داؤدؓ کے لیے حدیث اسی طرح نرم اور آسان کر دی گئی تھی جس طرح نامیہنا حضرت ابو داؤدؓ کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، ان کے علاوہ دوسرے نے کہا کہ وہ مسلمانوں میں سے حدیث میں سے ایک تھے، ان احادیث کی تعلیل کے دوران ان کی سندوں کی تحقیق کی، بہت بڑے عابد بڑے پرہیز گارڈیندار نیک اور فتن حدیث کے شہسواروں میں تھے اور دوسرے نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ ہدایت را ہبہی اور راہ راست پر چلنے میں بہت مشاہبہ تھے۔ اور حضرت علقمہ ان کے مشاہبہ تھے اور حضرت ابراہیم حضرت علقمہ کے اور منصور ابراہیم کے اور سفیان منصور کے اور دیکیح سفیان کے اور احمد بن حنبل وکیع کے اور یہ ابو داؤد احمد بن حنبل کے مشاہبہ تھے۔

محمد بن بکر بن عبد الرزاق نے کہا ہے کہ ابو داؤدؓ کی ایک آسٹین چوڑی اور ایک آسٹین پتلی ہوا کرتی تھی، تو ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے ایسا کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ جواب دیا کہ ایک یہ چوڑی آسٹین تو کتابوں کی حفاظت کے لیے ہے مگر دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔

امام ابو داؤدؓ کی پیدائش ۲۰۲ھ میں ہوئی اور جمعہ کے دن سولہ بجے شوال ۲۷۵ کو تہرسال کی عمر میں وفات ہوئی اور سفیان ثوریؓ کی قبر کے بغل میں دفن کئے گئے۔

ہم نے ان کے حالات اپنی کتاب التکمیل میں ذکر کیے ہیں اور دوسرے اماموں نے ان کے بارے میں جو تعریض کلمات کہے ہیں وہ بھی ذکر کر دیے ہیں۔

اس سال محمد بن الحنفی بن ابراہیم بن القبس الصمیدی الشاعر کا انتقال ہوا، وہ بہت دیندار اور بڑے پر مزاح تھے اور بہت زیادہ بخوبیہ اشعار بھی کہنے والے تھے ان کے اپنے اشعار میں یہ داشعار بھی ہیں۔

(۱) كم عليٍ عاش بعد ياسٍ      بعد موت الطيب والعواد

تعریف: بہت سے بیمار ایسی بھی ہوتے ہیں کہ زیست سے نا امیدی کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ اپنے معاف اور عیادت کرنے والوں کی موت کے بعد بھی۔

(۲) قد تُصَادُ الفطا فتَحُوا سريعاً      ويحلَّ الباء بالصياد

تعریف: اور بکھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قطار پر نہ شکار کر لیا جاتا ہے مگر وہ جلد ہی فتح کر بھاگ جاتا ہے اور بلااء اس کے شکاری پر نازل ہوتی ہے۔

## واقعات — ۲۷۶

اس سال ماه محرم میں بغداد کے لوتوال کے عہدہ پر عمر بن الیث کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اور اس کا نام فرشتوں کر سیوں اور پردوں پر لکھ دیا گیا، پھر اس کا نام ان چیزوں سے خارج کر کے اسے معزول کر دیا گیا، اور عبید اللہ بن طاہر کو وہ عہدہ دے دیا گیا۔ اس سال موفق نے ابن ابی الساج کو آذربائیجان کا نائب حاکم مقرر کر دیا۔

اس سال ہارون الشاری الحارجی نے موصل شہر پر قبضہ کا رادہ کیا اور اس کے مشرقی حصہ میں پڑاؤ لا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا، مجبور اور ہاں کے باشندے نکل کر اس کے پاس گئے اور اس سے امن چاہا، تو اس نے انہیں امن دے دیا، پھر واپس اپنی بلگہ پر لوٹ گیا۔

اس سال حریمین اور طائف کے امیر ہارون بن محمد العباسی نے لوگوں کو حج کرایا، حج کے بعد جب ججاج یمن کو لوٹ آئے تو ایک مقام پر سب نے پڑاؤ لا، اچانک پانی کا ایک سیلا باب ان تک آیا اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک فرد بھی نفع سکا، فرداً فرداً سب ہلاک ہوئے۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب المقتضی میں اور ابن اثیر نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے کہ اس شہر بصرہ کے علاقہ میں نہر الصلمہ میں ایک نیله ابھر آیا، جو بنی شقیق کے نیله کے نام (تل الشقیق) سے مشہور ہے، جس میں مثل حوض کے ساتھ قبریں تھیں، ان سات قبروں میں سات صحیح و سالم انسانی بدن تھے، ان کے کفنوں سے مشک کی خوبی پھوٹ رہی تھی، ان میں سے ایک شخص نوجوان تھا، اس کے سر پر کچھ لمبے بال تھے، اس کے ہونٹ پر تری تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے ابھی ابھی پانی پیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں سرگیں تھیں اور اس کے کوئی ہر پرتوار کی مار کا اثر تھا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ چاہا کہ اس کے سر کے کچھ بال وہ تبر کا کھنچ کر اپنے پاس رکھ لئے، مگر وہ تو اپنی جگہوں پر سخت تھے، گویا کہ وہ ابھی زندہ شخص کے ہیں لہذا لوگوں نے ان سب کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔

### مشہورین کی وفات:

اس سال مشہورین میں سے وفات پانے والوں میں:

#### ① احمد بن حازم:

بن ابی عزراہ الخافظ مشہور مندوالے ہیں ان کی حدیثیں بکثرت مردی ہیں اور ان روایت عالی، کم مندوں والی ہے اور اس

سال وفات پانے والوں میں یہ بھی ہیں:

#### ② حالات قبی بن مخلد:

جن کا نام ابو عبد الرحمن انلسی الخافظ الکبیر ہے ان کی کتاب منفذ قبی ترتیب بر محبوب ہے اس میں سولہ سوراویوں سے

## ۲۷۶۔ کے حالات و ایجاد کا بیان

روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن حزم نے اس کتاب کو مسند احمد بن خبل پر فوقيت دی ہے، لیکن میرے نزدیک ان کا یہ فیصلہ غور طلب ہے، ظاہر ہے کہ مسند احمد اس مسند سے بہت زیادہ جامع اور عمده ہے، تبی موصوف نے عراق تک سفر کیا ہے اس عرصہ میں امام احمد کے عماں ۱۰۰۰ مسیح سے بہت سے ائمہ حدیث سے عراق اور مصر اتنی اساتھ میں مدحشیں سنیں ہیں وہ مشائخ دوسرا چوتھس سے بھی زیادہ ہوں گے ان اُلیٰ اور بھی، مصری تصنیفیں ہیں ان بالتوں کے ساتھ ہیں وہ بہت سی نیک ناپدرازیاں اور مستحبات الدعوات میں جھیل تھے۔

ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت نے آ کر یہ کہا کہ میرے بیٹے کو انگریز گرفتار کر کے لے جھاگے ہیں میں اس کے فرق میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں، میرے رہنے کو ایک چھوٹا سا گھر ہے، چاہتی ہوں کہ اسے فروخت کر دوں اور اس کی قیمت سے اس بیچ کو آزاد کر داؤں، اب اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو میرے مناسب کسی خریدار کا مجھے پڑھتا دیں، جو اسے خریدے لے کہ میں اس کی قیمت دے کر بیچ کو آزاد کر داوں، مجھے دن رات میں کسی الحکمی ذرہ برابر ترا نہیں ہے نہ نیند ہے نہ صبر ہے نہ سکون ہے نہ آرام ہے، تو جواب دیا کہ ہاں فی الحال تم لوٹ جاؤ، میں ان شاء اللہ اس معاملہ میں غور کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس شیخ نے اپنی گرد़وں جھکائی، اپنے دونوں ہونتوں کو حرکت دی اور اللہ عز و جل کے پاس اس بیچ کی نجات کے لیے ذعاں میں کرنے لگے کہ اللہ اسے انگریز کے قبضہ سے نکال دے، وہ عورت ان کی بیت سن کر اپنے گھر لوٹ گئی، تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت اپنے بیچ کو لیے ہوئے اس شیخ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اللہ آپ پر حمد کرے، آپ درا تکلیف فرم اکار اس بیچ کی سرگذشت سن لیں، تو شیخ نے اس سے کہا، کہو تم پر کیا میں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے خدمت گزاروں میں تھے، میں اسی حال میں جل پھر رہا تھا کہ اچانک میری بیڑی کھل کر گرگئی، یہ دیکھ کر وہ پولیس جو مجھے پر سلطنتی اس نے مجھے گالی دی اور اس نے کہا تم نے اپنے پیر سے یہ بڑی کیوں کھوئی؟ میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے نہیں کھوئی اور نہ مجھے اس کا حال معلوم ہو سکا۔ بہر حال ان لوگوں نے لوہار بلوا کر پھر سے وہ بیڑی میرے پیروں میں ڈلوادی اور اسے خوب مضبوط کر دیا، اس کی کیلوں کو خوب سخت کر دیا۔ اس کے بعد جب میں اٹھا تو وہ بڑی پھر خود سے نکل کر گر پڑی، اس مرتبہ پھر تیری مرتبہ بھی ان لوگوں نے بیڑی میرے پیروں میں جکڑ دی اور پہلے سے بھی زیادہ انہیں سخت کر دیا، فارغ ہوتے ہی وہ بیڑی پھر گر پڑی، یہ باتیں دیکھ کر ان لوگوں نے اپنے کا ہنوں کے پاس جا کر اس کی وجہ دریافت کی تو ان لوگوں نے کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا باں زندہ ہے، تب ان کا ہنوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے ذعاۓ خیر کی اور اس کی ذعا عند اللہ مقبول ہو چکی ہے، الہذا تم لوگ اسے کھوں دو اور آزاد کر دو۔ بالآخر لوگوں نے مجھے کھوں کر آزاد کر دیا اور میری حفاظت کی نیہاں تک کہ میں اسلامی ملک میں پہنچ گیا۔ یہ باتیں سن کر قمی نے اس لڑکے سے اس وقت کے متعلق دریافت کیا، جبکہ وہ بیڑی پیروں سے نکل کر گرگئی تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا، جبکہ انہوں نے اس شخص کے لیے اللہ کے ماں ذعاۓ خیر کی اور اللہ نے اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔

اس سال وفات یانے والوں میں

صاعد بن مخلد الکاتب: ③

یہ، جو بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں اور نفل نہایت پڑھنے والوں میں تھے، ابو الفرج بن الجوزیٰ نے ان کی

بہت زیادہ تعریف کی ہے، لیکن ابن الائچر نے اپنی کتاب الکامل میں کچھ عجیب بھی ذکر کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں خود پسندی اور حماقت کا اثر تھا، لیکن مذکورہ دونوں آتوال اور اوصاف سچا جمع کیے جاسکتے ہیں اور ایسا ہونا ممکن ہے۔

## حالات

### ④ ابن قتيبة :

پورا نام ہے عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة الدینوری، پھر بغدادی، انہیں علماء اور باعہ حفاظ اور اذکیاء ہر ایک میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں، بہت ہی شریف اور قابل اعتماد تھے، وہ علماء جن کے گھر میں ان کی تصنیف کی ہوئی کتاب میں نہیں تھیں، وہ ان پر تہمت لگاتے تھے، ان کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ ہر یہ کا ایک لقمه منہ میں رکھا، اتفاقاً وہ گرم تھا، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے ایک زور دار صحیح نکلی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جو ظہر کے وقت تک رہی، اس کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو برابر اشہدُ ان لا إله إلا الله کا وظیفہ زبان سے جاری تھا، وہ اس سال ماہ رب جب کی پہلی تاریخ کی صبح تک باقی رہا، آخراں وقت وفات پا گئے۔  
دوسرا قول یہ ہے کہ ۲۷۴۰ میں وفات پائی ہے، لیکن پہلا قول، اسی سال کا ہونا زیادہ صحیح ہے۔

### ⑤ محمد بن عبد اللہ ابو قلابہ الریاثی :

جو حفاظِ حدیث میں سے ایک ہیں، ابو محمد کی کنیت ہے بکارے جاتے تھے، لیکن ان کا لقب ابو قلابہ ان پر غالب رہا، انہوں نے یزید بن ہارون، روح بن عبادہ اور ابو داود طیالی کی دو ایتیں سنی ہیں، اور ان سے ابن صاعد محاطی، بخاری اور ابو بکر الشافعی وغیرہم نے روایتیں کی ہیں یہ بہت زیادہ سچے عبادت گزار اور ہم روز چار سور کعیتیں ادا کرنے والے تھے، انہوں نے زبانی سائھ ہزار حدیثیں روایت کیں، ان میں سے چند میں عمداً غلطی کی ہے، چھیاسی برس کی عمر میں اس سال ماہ شوال میں وفات پائی۔

⑥ محمد بن احمد بن ابی العوام۔ ⑦ محمد بن اسماعیل الصانع۔ ⑧ یزید بن عبد الصمد۔ ⑨ ابو امرداد المؤذن، ان کا نام عبد اللہ بن عبد السلام بن عبید الردا المؤذن صاحب المقايس مصر میں وفات پائی، جہاں ان کی اور ان کی اولاد کی طرف آج تک نسبت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں ابن خلکان نے کہی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔



۱۔ ہریں ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ (انوار الحق قاسی)

## واقعات — ۲۷۶

اس سال نائب ملک کے نائب حاکم یازمان نے خمارویہ کے حق میں خطبہ دیا، کیونکہ خمارویہ کی طرف سے اس کے پاس نقد بہت سا سونا اور قیمتی تحفہ وغیرہ بھیجا گیا تھا۔  
اس سال خمارویہ کے لوگوں کی ایک جماعت بغداد آئی۔

اور اسی سال بغداد کے مظالم کی تحقیقات کے لیے یوسف بن یعقوب کو مقرر کیا گیا، اور لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی کو کسی کے خلاف ظلم کی شکایت ہو، خواہ وہ امیر المؤمنین الناظر الدین اللہ الموفق ہی کے خلاف ہو یا عوام میں سے کسی کے خلاف ہو تو وہ آئے اور شکایت پیش کرے، اس طرح لوگوں میں اچھی خصلتوں کی چھاپ پڑ گئی، اور ایسی بہادری کا مظاہرہ ہو گیا جس کی نظر نہیں دیکھی گئی تھی۔

اس سال بھی لوگوں کو اسی امیر نے حج کر دی، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔

### مخصوصین کی وفات:

اس سال مشہور لوگوں میں ان لوگوں کا انتقال ہوا۔ ابراہیم بن صراء، اسحاق بن ابی اعینین اور ابو اسحاق الکوفی:

جو ابن ساعد کے بعد بغداد کے قاضی مقرر ہوئے، انہوں نے معلی بن عبید وغیرہ سے احادیث کی سماعت کی ہے اور ان سے ابن ابی الدنیا وغیرہ نے روایت کی ہے، ترانوے بر س کی عمر میں وفات پائی، وہ شفہ فاضل دیندار اور نیک شخص تھے۔

### حالات احمد بن عیسیٰ:

ابوسعید الخراز، جو عبادت، مجاهدہ، پرہیز گاری اور مراقبہ کرنے کے اعتبار سے مشہور صوفیاء میں سے ایک تھے، اسیضمون پر ان کی کئی تصیفات ہیں، ان کی بہت سی کرامتیں اور حالات بھی لوگوں میں منقول ہیں، مصائب پر بہت صبر کیا ہے، انہوں نے ابراہیم بن بشار، ابراہیم بن ادھم وغیرہ کے شاگردوں سے احادیث بیان کی ہیں، اور ان سے علی بن محمد الامری اور ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ان کے عمدہ کلاموں میں سے یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی آنکھیں روری ہوں اس وقت تم آنسوؤں کے عوض یا ان کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی آزادی کا معاملہ کرو اور یہ فرمایا ہے کہ عافیت اور سکون نیک اور بد دونوں کی اصلیت پر پردہ پوشی کیے رہتی ہے مگر جب مصیبت نازل ہوتی ہے اس وقت دونوں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر دو چھپی ہوئی چیز کہ ظاہر اس کے مخالف ہو، سمجھ لو کہ یہ باطل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ گزرے ہوئے وقتوں کی یاد میں مشغول رہنا موجودہ

وقت کو برداود کرنا ہے (کہ گز شیر اصلوٰۃ، آئندہ در احتیاط یعنی عمل کرتا جائیے) اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے وہ کام جوان کے حق میں گناہ کے ہوں وہی کام دوسرے نیک بندوں کے حق میں نکیوں کے ہوتے ہیں۔۔۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ان اس پر راضی رہتے ہیں امّا تفویض ہے اور فیصلہ صادر ہونے کے بعد راضی ہونے کا نام تسلیم ہے۔

اور امام تیہنی نے اپنی مند میں ان کی جانب منسوب بکار تے ہوئے کہا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ انسانوں کے دل نظر اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ ہر اس شخص سے محبت کریں جوان کے ساتھ احسان کرے تو فرمایا تجھب ہے اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی کو بھی محض حقیقی جانتا ہو وہ اللہ کی طرف پورے طور پر کیوں مائل نہیں ہوتا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ حدیث روایتی صحیح نہیں ہے پھر بھی ان کا اب بہترین ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے صاحزادے سعید نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے چاندی کا ایک دائق لے مانگا تو کسر نفسی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تمہارے والد یہ پسند بھی کر لیں، کہ سواری پر سوار ہو کر بادشاہ کے روازے تک جائیں پھر بھی وہ مڑکر دیکھا پسند نہ کریں گے (تو تمہیں اتنا مال کہاں سے لا کر دوں؟)۔

ابن عساکرنے ان سے یہ روایت بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی، میں نے چاہا کہ اللہ سے کھانا طلب کروں، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بابت توکل کے خلاف ہے، پھر میں نے سوچا کہ اس اللہ سے کم از کم صبر کرنے کی توفیق چاہوں، تو غبی آواز میں کسی نے یہ اشعار کہے:

(۱) وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ الْأَنْصَارَ لِنَصِيبٍ مِنْ أَنَارَةِ

تیہنہ: وہ خیال کرتا ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہے، اور یہ بھی خیال کرتا ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے میں اسے بلاک نہیں کرتا ہوں۔

(۲) وَيُسَأَلُنَا الْقَرِيْبُ جَهَدًا وَصَبَرًا كَانَا لَا نِرَاهُ وَلَا يَرَانَا

تیہنہ: اس کے باوجود وہ مجھ سے برداشت کرنے اور صبر کرنے کی توفیق کی درخواست کرتا ہے، گویا کہ نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔

اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ میں وہاں سے اٹھا اور کئی فرخ تک بغیر کسی تو شد کے ہی بیدل چلا گیا اور کہا کہ عاشق اپنے معشوق کو پانے کے لئے ہر چیز کو بطور جھٹکے پیش کیا کرتا ہے۔ لیکن محبوب کی کسی نشانی یا علامت کو دیکھ کر عاشق تک تسلی نہیں ہوتی، اور محبوب کے حالات اور حقیقت حال کی دریافت کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر یہ اشعار کہے:

۱۔ دائق ایک درہم کے چھٹے حصے کے برابر ایک سکہ کا نام ہے۔ (متجم)

۲۔ الفرج: تین میل ہاشمی، جو تقریباً آٹھ کلومیٹر کے برابر ہے۔ جمع فرانخ۔ (متجم)

(۱) أَسْأَلُكُمْ عَنْهَا فَهَا مِنْ مُجَاهِرٍ فَسَأَلَهُ يَسْعَى بَعْدَ مَكَةَ لِمَ عَلِمَ ترجمہ: اے لوگو! میں تم سے اپنی محبوبہ کے بارے میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا کوئی بھی مجھے اس کے بارے میں تسلی بخش نہ رہیے والا ہے؟ کیونکہ میری محبوبہ بھی کامدست نکلنے کے بعد مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

(۲) فَلَمَّا كَنَتْ أَذْرِي إِنِّي نَحِيمُ عَلَيْهَا وَإِنِّي بِلَادِ اللَّهِ إِذَا ظَلَمْتُنَا ترجمہ: اگر میں یہ جان سکتا کہ اس کے گھروں نے کہاں خیمدگڑا رہے، اور اپنے سفر کے وقت اللہ کے کس شہر کا انہوں نے قصد کیا ہے۔

(۳) إِذَا السَّلَكَ مَسِيلُكُ الرِّيحِ حَلَفَهَا وَلَوْ اصْبَحَتْ نُعْمَى وَعَنْ دُونِهَا نَجَمٌ ترجمہ: تو اتنا جان لینے کی صورت میں میں اس کے پیچھے ہوا کہ چال سے چلتا رہتا، اگرچہ وہ نعمتی اور اس کے لوگ شریاتاروں تک دور چلے گئے ہوں۔

ان کی وفات اسی سال ہوئی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ۲۸۲ء میں ہوئی، مگر پہلا قول ہی صحیح ہے۔

### حالات عیسیٰ بن عبد اللہ طیابی:

اسی سال عیسیٰ بن عبد اللہ بن سنان بن زکویہ بن موکی طیابی الحافظ جن کا لقب رعاب تھا، کا انتقال ہوا۔ انہوں نے عقان اور ابو نعیم سے روایتیں سنی ہیں، اور ان سے ابو بکر الشافعی وغیرہ نے روایتیں سنی ہیں، دارقطنی نے ان کی توثیق کی ہے، ان کی وفات چورا سی برس کی عمر میں، اسی ماہ شوال میں ہوئی، اور اسی سال

### ابوحاتم الرازی:

کی وفات ہوئی۔ نام: محمد بن ادریس بن المندزہ بن داؤد بن مهران ابو حاتم الحنظی الرازی، احادیث کے حافظ، ثبت اور حدیث کی علتوں اور جرح و تعدیل کے جانے والے اماموں میں سے ایک ہیں، ابو زرع رحمہ اللہ کے ہم نشینوں میں ہیں، انہوں نے بہت سے حدیثیں سنیں، بہت سے ملکوں اور شہروں میں سفر کیا، بڑے بڑے محدثین کی بڑی تعداد سے روایت کی ہے اور ان سے بھی کافی تعداد میں لوگوں نے روایتیں کی ہیں، جن میں الربيع بن سليمان، یوسف بن عبد الاعلاء بھی یہ دونوں ہی ان سے بڑے تھے، بغداد شریف لے گئے اور وہاں احادیث بیان کیں، اور بغداد کے مقامی لوگوں میں ابراہیم الحرمی ابن الہدیا اور حمالی وغیرہم ہیں، اپنے صاحزادے عبدالرحمٰن کو ایک بار فرمایا کہ اے! میں حدیث کی طلب میں ایک ہزار فرشخ تھے سے بھی زیادہ پیدل چلا ہوں اور یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات ایسے بھی گزرے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اس

۱۔ فرغ برابر ہے تین میل باشی، یا بارہ ہزار گز یا آٹھ کلو میٹر کے۔ المصباح۔ (مترجم)

طرح کبھی کبھی تین تین دن مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، کبھی کسی ساتھی سے نصف دینار قرض بھی لیا جائے اور کبھی اکثر عالماء اور فقہاء نے ان کی تعریف کی ہے اور کبھی حافظ حدیث اور غیرہ حافظ سے زبانی حدیث کے یاد ہونے پر پتختی کی جسی نوبت آ جائی تو اسی اس طرز پر کہ اگر کوئی بیرے سامنے ایک صحیح حدیث کی ایسی صورت سے جو یہ رکنی ہوتی رہتی تو اسی میں ایک دو ہم صدقہ کیسے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے کا مقصد اپنی بڑائی ثابت کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس بہانے سے نہیں ہوتی ہی حدیث کے شفے کا مجھے موافق ملتا۔ مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے مجھے ایک بھی نئی حدیث سنائی ہو جالانکہ حاضرین میں ابو زرعة رازی جیسے بھی ہوتے۔ ان کا انتقال اسی ماہ شعبان میں ہوا۔

### حالات محمد بن الحسن الجحدی:

اور وفات پانے والے لوگوں میں محمد بن الحسن بن موسیٰ بن الحسن ابو جعفر الکوفی الحراز ہیں؛ جو الجحدی کے نام سے مشہور ہیں ان کی ایک کتاب مسند کبیر تھی، انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ، اقعنی اور ابو نعیم وغیرہم سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان سے ابن صاعدا و الحاملی اور ابن السمک وغیرہم نے حدیثیں نقل کی ہیں، بیان حدیث میں ثقہ اور صدقہ تھے۔

### محمد بن سعدان ابو جعفر الرازی:

انہوں نے پانچ سو شیوخ سے بھی زیادہ روایتیں سنی ہیں، مگر سوائے محدودے چند حدیثوں کے اور زیادہ روایت نہیں کی ہے، اسی سال ماہ شعبان میں وفات پائی ہے، ابن الجوزی بنے کہا ہے کہ محمد بن سعدان البرز اکارا قعنبی سے روایت کا دعویٰ وہم ہے کیونکہ وہ تو غیر مشہور شخص ہے اور یہ محمد بن سعدان اللجوی ہیں اور متصور ہیں، ان کی وفات ۲۰۷ھ میں ہوئی۔

ابن الاشیر نے اپنی کتاب ”الکامل“ میں بیان کیا ہے کہ اس سال وفات پانے والے لوگوں میں یعقوب بن سفیان بن حران الامام الفسوی ہیں، شیعیت کی طرف مائل تھے۔

اور یعقوب بن یوسف بن معقل الاموی کہ ان کے آقا ابو العباس احمد بن الاصم کے والد تھے۔

اسی سال عرب المقدیہ المامونیہ نے بھی وفات پائی، ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جعفر بن سیحق البرکی کی بیٹی تھیں۔

### یعقوب بن سفیان بن حران:

ان کا نام ابو یوسف بن ابی معاویہ الفارسی الفسوی ہے، انہوں نے بے شمار حدیثوں کی ساعت کی ہے اور ایک ہزار سے زائد شفے شیوخ سے روایت کی ہے، جن میں ہشام بن عمار، حیم، ابو الجابر، سلیمان بن عبد الرحمن، یہ سب مشق کے تھے، اور سعید بن منصور، ابو عاصم، سعید بن ابراهیم، سلیمان بن حرب، محمد بن کثیر، عبید اللہ بن موسیٰ اقعنی ہیں، اور ان قعنبی سے سنائی نے اپنی کتاب السنن میں روایت کی ہے، ابو بکر بن داؤد الحسن بن سفیان، ابن خراش، ابن خزیمہ ابو عوانہ الاسفاری، وغیرہم نے روایت کی ہے اور کتاب التاریخ والمعرفة وغیرہ جیسی کئی مفید کتابیں تصنیف کی ہیں، طلب حدیث میں دور راز شہروں کی طرف سفر کیا اور اپنے وطن سے تقریباً

تمیں میری... ۔۔۔ بنی اسرائیل کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی سافر کے زمانہ میں جراغ کی روشنی میں لکھا کرتا تھا کہ ایک رات اتفاقاً میری آنکھ پر کوئی جینگری جس کی وجہ سے میں جراغ کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے اپنی بینائی کے پلے جانے پر میں ورنے لکھا کہ اس ناہیانی کی وجہ سے اپنی کتابت حدیث سے میں ہمیشہ کے لئے معذور ہو جاؤں کا اور ساتھ ہی یہ کہ سافرت کی حالت میں بھی ہوں خدا کی قدرت کے بیری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا، خواب میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تو میں نے روتے ہوئے عرض کی کہ میں حالت سفر میں ہوں اور ساتھ ہی کتابت حدیث سے ہمیشہ کے لئے معذور ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”میرے قریب آؤ“۔ میں قریب ہوا تو آپ نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر رکھا اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ کچھ تلاوت فرمار ہے ہیں، اس کے بعد میں جاگ پڑا اور میں سب کچھ دیکھنے لگا، تب میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تہلیل کرنے لگا۔

ابوزرعد مشقی، حاکم ابو عبد اللہ النیشا پوری نے ان کی بہت تعریفیں بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ یہ ملک فارس کے محمد شین کے امام ہیں، یہ نیشا پور تشریف لائے اور وہاں ہمارے مشائخ سے احادیث سنیں، بعضوں نے ان پر شیعیت کی طرف مائل ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ یعقوب بن الیث حاکم فارس کو یہ خبر طلبی کہ یہ یعقوب بن سفیان، عثمان بن عفان کی برائی بیان کرتا ہے، تو اس نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا، اس کے وزیر نے کہا، اے امیر! یہ شخص ہم لوگوں کے عثمان بن عفان اس خبری کی برائی نہیں کرتا ہے بلکہ یہ تو عثمان بن عفان صحابی ہے وہ کی برائی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا: جب تو اسے چھوڑ دو، مجھے اس صحابی کی برائی سے کیا تعلق ہے، میں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ وہ اپنے شیخ عثمان بن عفان اس خبری کی برائی کرتا ہے (اسی لیے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا تھا)۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ یعقوب بن سفیان کے متعلق، ایسا گمان کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بڑے پایہ کے محمد شین کے امام تھے اور ان کی وفات بصرہ میں رہتے ہوئے ماہ رجب میں ابو حاتم سے ایک ماہ پہلے ہوئی تھی۔ انہیں کسی نے خواب میں دیکھ کر یہ دریافت کیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا کہ میری مغفرت کردی گئی، اور مجھے حکم دیا گیا کہ جس طرح میں زمین میں رہتے ہوئے لوگوں کو احادیث لکھایا کرتا تھا، اسی طرح اب بھی آسمان والوں کو لکھواتا رہوں، چنانچہ اب میں چوتھے آسمان پر فرشتوں کی ایک جماعت کو احادیث لکھواتا رہتا ہوں، جن میں حضرت جبریل ﷺ بھی ہیں، جو میری بتائی ہوئی احادیث کو سونے کے قلموں سے لکھتے رہتے ہیں اور اس سال وفات پانے والوں میں

### عرب المامونیہ:

بھی ہیں، جن کے حالات ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیے ہیں، انہوں نے کسی حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ عفربرکی کی بیٹی تھیں، برکی حکومت کے خاتمہ کے زمانہ میں یہ بچی ہی تھیں کہ انہوں کے بیچ دی گئیں، مامون بن الرشید نے انہیں خرید لیا تھا۔ اس

بیان کے بعد حماد بن اسماق سے نقل کیا کہ ان کے والد اسحاق نے کہا ہے کہ میں نے اس عورت سے بڑھ کر خوبصورت اور اس سے بڑھ کر ادیبہ اور اس سے عمدہ کا نے والی ستار بجانے والی اشعار کہنے والی شطرنج اور زرد سے کھلینے والی کوئی دوسری عورت نہیں ہے بلکہ ہے۔ ان باتوں کے علاوہ تم جوئی خوبی کی عورت میں تلاش رہنا چاہو گے اسی میں پابلو گے ساتھ ہی یہ نصیحتہ بلیغہ اور نی ابتدیہ اشعار کہنے والی بھی تھی، نامون کو تو اس سے عشق تھا۔

اس کے بعد معتصم نے اس سے محبت کی، لیکن یہ خود ایک ایسے شخص سے عشق کرتی تھی جس کا نام محمد بن حماد تھا، ابن عساکر نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس عورت نے بار بار اسے دارالخلافہ میں اپنے پاس بلایا تھا، اللہ اس کا برا کرے۔ اس کے بعد اس عورت نے المندری سے عشق کیا اور اس سے چھپ کر شادی بھی کر لی تھی اور اس کی محبت میں اشعار بھی کہا کرتی تھی، اس نے بسا اوقات متوكل کے سامنے اپنے اشعار میں اس کا اظہار بھی کیا مگر اسے اس کا احساس نہ ہو سکا، ان اشعار کو سن کر اس کی سہیلیاں ہنسنے لگتیں، تو انہیں گالیاں دیتے ہوئے کہتا، تمہارے عمل سے اس کا عمل کہیں بہتر ہے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں، یہاں اس کے وہ اشعار نقل کیے جاتے ہیں جو اس نے متوكل کے مرض بخار میں گرفتار ہونے کے موقع پر اس کی عیارات کرتے ہوئے کہے۔

### اشعار:

(۱) اتونى ف قالوا بالخليفة عليه فقلت و نار الشوق توقى فى صدرى

ترجمہ: لوگوں نے میرے پاس آ کر خبر سنائی کہ خلیفہ کی مرض میں گرفتار ہو گیا ہے، تو میں نے کہا شوق کی آگ میرے سینہ میں جلا دی گئی ہے۔

(۲) الاليت بي حمى الخليفة جعفر فكانت بي الحمى و كان له اجري

ترجمہ: اے کاش، خلیفہ جعفر کا بخار مجھے آیا ہوتا، اس طرح میں بخاری میں گرفتار ہتی اور اسے میری طرف سے اجر ملتا رہتا۔

(۳) كفى بي حزن ان قيل حم فلم امت من الحزن انى بعد هذا الذو صبرى

ترجمہ: میرے مغموم رہنے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ میرے سامنے اس کے بخار میں رہنے کی بات کی جائے اور مجھ پر موت طاری نہ ہو شدت غم کی وجہ سے اس کے باوجود میں صبر کیے زندہ رہوں۔

(۴) جعلت فدا للخليفة جعفر و ذلك قليل للخليفة من شكرى

ترجمہ: میں نے خود کو خلیفہ جعفر پر فدا کیا ہے اور خلیفہ کے شکریہ کے طور پر میرا فدا ہونا معمولی سی بات ہے۔

۱۔ ایک قسم کا کھیل جس کو ارشیب بن با بک شاہ ایران نے ایجاد کیا تھا۔ المصباح، گوث، چمر وغیرہ جیسے ایک کھیل کا نام ہے۔ (کشوری)

اس کے بعد خانہ کو بخار سے تندرنگی حاصل ہوئی تو اس نے اپنے یہ اشعار گاہک بنائے:

(۱) شَكَرُ الْأَنْعَمِ مِنْ عَافِثٍ مِنْ سَقْمٍ دَمْتُ السَّعَاةَ مِنَ الْأَلَامِ وَ السَّقْمِ

ترجمہ: میں تمہاری بیماری سے شفایا فتنے کی نعمت کے مقابلہ میں اس ذات کا شکردا کرتی ہوں جس نے تمہیں خفاہی خدا کر کر تم بیش آفات اور بیانات سے محفوظ رہو۔

(۲) عَادَتْ يُرِئِنَكَ لِلأَيَامِ بَهْجَتْهَا وَ اهْتَرَزَتْ بَنْتُ رِيَاضِ الْجَوْدِ وَ الْكَرْمِ

ترجمہ: تمہاری تندرنگی لوٹ آنے سے زمانہ پر اس کی رونق لوٹ آئی ہے سخاوت اور داد دہش کے باغات میں بزری جھوم گئی ہے۔

(۳) مَاقَامَ لِلَّدِينِ بَعْدَ الْيَوْمِ مِنْ مَلِكٍ اعْقَى مِنْكَ وَ لَا ارْغَى إِلَى الدَّمْ

ترجمہ: آج کے بعد سے دین کی حفاظت کے لئے کوئی بھی بادشاہ ایسا کھڑانہ ہو گا، جو تم سے زیادہ درگزرا کرنے والا اور برائیوں کو ختم کرنے والا ہو۔

(۴) فَعَمَّرَ اللَّهُ فِيَّا جَعْفَرًا وَنَفِيَ بِنُورٍ وَ جَنَّتَهُ عَنَّا وَ جَنَّى الظُّلْمِ

ترجمہ: اس لیے اللہ ہم میں جعفر خلیفہ کی عمر دعا از کرے اور اس کی پیشانی کی چمک سے ظلم کی گھٹاؤپ تاریکیوں کو دور کرے۔

اسی طرح خلیفہ کی شفایا بی کے بعد بھی اس کے یہ اشعار ہیں:

(۱) حَمْدَنَا الَّذِي عَفَى الْخَلِيفَةَ جَعْفَرَا عَلَى رَغْمِ اشْيَاخِ الْضَّلَالِ وَ الْكُفَّارِ

ترجمہ: ہم اس ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، جس نے خلیفہ جعفر کو شفادی، کمرانی اور کفر کے شیوخ کی ناراضگی کے باوجود۔

(۲) وَمَا كَانَ الْأَمْثَلُ بِدِرِّ اصَابَهُ كُسُوفُ قَلِيلٌ ثُمَّ أَجْلَى عَنِ الْبَدْرِ

ترجمہ: اس کی بیماری کی مثال تو ایسی ہوئی کہ چودھویں رات کے چاند میں، تھوڑا گہن لگ گیا تھا، پھر چاند کو نظر تا ہوا چھوڑ کر وہ گہن دور ہو گیا۔

(۳) سَلَامَتَهُ لِلَّدِينِ عَزُّ وَ قُوَّةُ وَ عَلَتَهُ لِلَّدِينِ قَاصِمَةُ الظَّهَرِ

ترجمہ: اس کا تندرنگت ہونا دین کی عزت اور قوت کا سبب ہے اور اس کا بیمار ہونا دین کی مضبوط پیچہ کو توڑنا ہے۔

(۴) مَرَضَتْ فَامْرَضَتِ الْبَرِّيَّةُ كُلُّهَا وَ اظْلَمَتِ الْأَمْسَارُ مِنْ شَدَّةِ الدُّعَرِ

ترجمہ: اے خلیفہ! تم تھا کیا بیمار ہوئے کہ تم نے ساری مخلوق کو بیمار کر دیا، اور ذر کی زیادتی کی وجہ سے سارا شہر تاریک ہو گیا۔

(۵) فَلِمَّا اسْتَبَانَ النَّاسُ مِنْكَ افَاقَهُ افَاقُوا وَ كَانُوا كَالنَّيَامِ عَلَى الْحَمْرِ

ترجمہ: اب جبکہ لوگوں کے سامنے تمہاری تندرنگی کا اظہار ہوا، تو وہ سب تندرنگت ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے وہ انگاروں پر

بڑے ہوئے تھے۔

(۶) سلامۃ دیسا سلامۃ حعصر فیام معافا سائماً حسر الدهر

ترجمہ: ہماری دنیا کی یادتی جعفری علمتی میں بے نہ آکرے وہ قیامت کے سچے عالم اور تقدیرست رہے۔

(۷) امام اعلم النّاس بالفضل واللداء فریسا من الشُّعُورِ بعيداً عن الأنوار

ترجمہ: وہ ایسا امام ہے جس نے ہر انسان پر اپنے فضل اور سخاوت کو عام کر دیا ہے وہ تقویٰ سے بہت قریب اور گناہ سے بہت دور ہے۔

اس طرح اس کے اشعار بہت زیادہ اور حیرت آمیز ہیں، اس کی پیدائش ۱۸۷۳ء ایک سوا کاسی بھری میں اور وفات دو سو ستر بھری میں سُرمن رائی کے مقام پر چھینا نوے برس کی عمر میں ہوئی۔



## وَاقْعَاتٌ — ۲۷۸

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماه محرم میں ایک ستارہ نکلا تھا، جو سر کے بال جملہ کی طرح گھننا اور بڑھا ہوا تھا، پھر وہی بڑھ کر اور لانا بنا ہو گیا تھا۔

اور یہ بھی کہا کہ اس سال دریائے نیل کا پانی بالکل گہرائی میں اتنا چلا گیا تھا، جس کی کوئی نظیر نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ پرانے واقعات میں کبھی سنی گئی، نتیجہ میں اس سال ہر چیز کا دام بہت بڑھ گیا، قحط ہو گیا۔  
اس سال عبداللہ بن سلیمان کو وزارت کے خلعت سے نوازا گیا۔

اسی محرم میں موفق اپنے جہاد سے واپس آیا، تو نہروں تک بڑھ کر لوگوں نے اس کا استقبال کیا، پھر جب وہ بغداد پہنچا تو اسے گھٹایا مرض تک لگ چکا تھا، اس بنا پر فرقہ کے ابتدائی دنوں تک وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکا، بالآخر چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

### فرقہ قرامطہ کی تحقیق:

اور یہ بھی کہا کہ ان ہی دنوں میں قرامطہ نے زور پڑا، جو زندیقوں اور مخدوں کا ایک فرقہ تھا، فارسی فلسفیوں کا قبیع تھا، جو زرتشت اور مردک کو اپنانی مانتے تھے، جو رام چیزوں کو حلal کرنے تھے، ان کے بعد وہ لوگ ہر کس دن اسکس غلط عقیدے والوں کو مانتے والے ہو گئے، ان میں زیادہ تر راضھیوں ہی کی طرف سے فساد داخل ہوتا، اور وہی ان لوگوں کو باطل عقیدوں کی طرف مائل کرتے، کیونکہ لوگ عقل کے کورے تھے، اس فرقہ کو اسامیلیہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اسامیل اعرج بن جعفر صادق کی طرف منسوب تھے، اور یہی لوگ قرامطہ بھی کھلاتے تھے، جن کی نسبت قرمط بن اشعث البقاری کی طرف ہوتی تھی، یہ مشہور ہے کہ ان کا سردار اپنے مانے والوں کو دن رات میں پچاس نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیتا تھا، تاکہ وہ لوگ اس میں مشغول رہیں اور خالفت اور عیب جوئی کی طرف ان کا دھیان نہ جاسکے، اس کے بعد اس نے اپنے بارہ غلیظے مقرر کیے، پھر اپنے مانے والوں کے لئے کچھ قواعد اور اصول گھر لیے تاکہ وہ لوگ ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پھر امام اہل بیت کی ایتام کی دعوت دی اور انہیں فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اپنی یہودی گیوں کو ظاہر ہر کرتے اور کفر خالص کو چھپاتے، اور انہیں جرمیہ اور باکریہ بھی کہا جاتا۔ باکر خرمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جو معتصم کے زمانہ میں ظاہر ہوا اور قتل کیا گیا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اور انہیں کو محمرہ بھی کہا جاتا، لال

۱۔ الجمہ: سر کے بالوں کی کثرت، کان کے لو سے نیچنکے بال۔ المصباح۔ (مترجم)

۲۔ قرامطہ ہی کو باطنیہ، جرمیہ، باکریہ، محمرہ، تعلیمیہ، سعیہ، بھی کہا جاتا ہے۔

رنگ کو اپنا شعار بنانے کی وجہ سے تاکہ بنی عباس کی موافقت اور دوسروں کی مخالفت ہوئی یونکہ بنی عباس سیاہ لباس پہنچتے تھے اور ان تو ٹھیکی بھی کہا جاتا تھا۔ یونکہ وہ امام حسوم سے اپنی تعلیم و مسوب برتبے تھے اور اپنی رائے اور تفاصیل سے قتل سے ہام ینے و بالکل چھوڑ دیا تھا اور ان لوگوں کی تعلیم و مسوب برتبے تھے اور اپنی رائے اور تفاصیل سے قتل سے ہام ینے انتظامات کو سنبھالتے ہیں (اللدان پر لعنت کرے)۔ چنانچہ پہلے آسمان میں قمر دوسرے میں عطا رہا تھا۔ یہ میں زہر چوتھے نہیں سورج پانچویں میں مرغ، چھتے میں مشتری اور ساتویں میں زحل ہیں۔

ابن الجوزی نے یہ بھی کہا ہے کہ باکیہ کی ایک جماعت اب بھی ایسی موجود ہے جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ سال بھر میں ایک رات اپنے مردوں اور خورتوں کے ساتھ کسی بندگلہ میں جمع ہوتے ہیں اور اندر جمع ہو کر بتی بجا کر اندھیروں میں خورتوں پر دست درازی کرتے ہیں، اس طرح جس کو جو بھی عورت ہاتھ لگ جاتی ہے وہ اس رات کے لیے بالکل حلال ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے حلال شکار ہے، اللدان پر لعنت کرے۔

ابن الجوزی نے ان کی باتوں کو اپنی کتاب میں تفصیل اور بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ان سے پہلے ابوکبر الباقلاني نے (جو متکلم سے مشہور ہیں) اپنی کتاب ”ہنک الاستار و کشف الاسرار“، لکھنے میں سبقت کی ہے، اس میں باطنیہ فرقہ پر رد کیا ہے۔ اسی طرز ان لوگوں کی اس کتاب کا بھی رد کیا ہے، جسے فاطمین کے کسی قاضی نے مصر کے علاقے میں جمع کیا ہے۔ اور اس کا نام ”البلغ العظيم رالبا موس الاکبر“ رکھا ہے اور اس کی دعوت میں سولہ درجے قائم کیے ہیں، پہلا درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جوان کے ساتھ ہمنشی میں شرکیہ ہوں، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوں تو ان کے سامنے صرف بتایا جائے کہ حضرت علیؑ کو حضرت عثمان بن عفانؓ پر فضیلت حاصل تھی، اس عقیدے سے موافقت ہو جانے کے بعد دوسرا سبق یہ ہوتا کہ حضرت علیؑ کو شہید کو شہید کو شہید کو شہید کو شہید کو شہید اور حضرت عمر فاروقؓ پر بھی افضلیت حاصل تھی، پھر بڑھ کر یہ بتایا جاتا کہ ان دونوں کو گالیاں دینی چاہئیں، کیونکہ ان دونوں نے حضرت علیؑ اور اہل بیت پر بہت ظلم کیا ہے، پھر ترقی کر کے یہ بتایا جاتا کہ ساری امت اور صحابہ کرام جاہل اور نظام تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں نے خلفاء اولین کی تائید کی ہے، پھر آگے بڑھ کر اصل دین اسلام کی ہی برائی کی تعلیم دی جاتی۔ پھر امام باقلانی نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح اپنے مخاطبین کو شکوہ اور شبہات میں ڈال دیجے، مگر اس کا اثر صرف ان لوگوں پر پڑتا جوانہتائی تاکہ جغہ غبی اور بدجنت ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قسم ہے آسمان کی جس میں (فرشتوں کے چلنے کے) راستے ہیں کہ تم سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعہ گمراہی میں بنتا ہونے والے کوہی گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اور جس کی قسم عبادت کیا کرتے تھے، کوئی بھی نفع کر نہیں، وہ انہیں ہے، ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، جن اور انسان بنائے ہیں، جو ایک دوسرے کو ملاوٹی باتیں بنایا کرنا کر دھوکہ میں ڈال کرتے تھے، لیکن اے نبی! اگر تھا رارب چاہتا تو وہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، اس لیے اے نبی! آپ ان لوگوں کو ان کے باطل طریقوں میں ہی بنتا رہنے دیں، تاکہ ان لوگوں کی غلط باتوں کی طرف ان کے دل مائل رہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ ان کے قول و

عقل سے یہ راضی رہیں اور دوسروں کی طرح یہ بھی اندازے سے باتمیں کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ اور ہمیں بہت سی آئیں ہیں جو یہ بتائی ہیں کہ باطل اور جہالت اور کفر ایسی اور کتنا ہوں لے کاموں میں بد نکلوں کے خلاف، میراثی اچھا آئی شرکیت نہیں، بلکہ اس کی کسی شاعر نے بھی کہا ہے:

نہ هے مستحبہ د علی احمد      لا علی اضعف المجنیس  
ترجمہ: وہ تو کسی پر بھی غالب آئے والا نہیں ہے، مگر صرف کمزوروں اور دیوانوں پر۔

اب ان تمام باتوں کے بعد کفر، کفر ایسی اور کم عقلی میں یہ لوگ اس مرتبہ تک پہنچ گئے تھے کہ دوسرا کم عقل اور تھوڑی دینی سمجھو والوں کے لئے مناسب یہ تھا کہ ان کو ان جیسی باتوں کا خیال آتے ہی خود کو بچانے کی کوشش کریں اور کفر اور جہالتوں کی مختلف قسم کی خراب باتیں وہی ہیں جو ابليس ہی ان کو بتاتے اور سکھاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود شیطان ہی ان سے اس قسم کی باتیں سیکھا کرتا ہے، کیونکہ اس سے قبل تک وہ ان باتوں سے نادا اقت ہوتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَكَنْتَ امْرَأً مِنْ جَنْدِ ابْلِيسِ بَرْهَةً      من الدهر حتی صار ابليس من جندی

ترجمہ: میں کچھ دنوں تک تو شیطان نے لشکر کا ایک فردو تھا، لیکن اب تو خود شیطان بھی میرے لشکر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔

الحاصل اس سال یہ جماعت ابھری <sup>ع</sup> نے زور پڑا اور بہت ہی اہمیت اور شان و شوکت والی ہو گئی، اس کی تفصیل ہم عنقریب ذکر کریں گے، اس طرح حالات ان کے لئے موافق ہو گئے کہ یہ بزرور طاقت مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔

### حجر اسود کا غائب ہونا:

خاص خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام کے پیچے میں بے حساب جمیج کا خون بھایا، حجر اسود کو توڑا والا اور اپنی جگہ سے اسے اکھیز کر کے <sup>ع</sup> بھری میں اپنے علاقوں میں لے بھاگے، پھر <sup>ع</sup> ۳۹۳ھ تک وہ ان کے ہی پاس رہا، اس طرح وہ حجر اسود بائیک برس تک اپنی جگہ سے غائب رکھا گیا۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

یہ ساری آفیسی محض اس وجہ سے ہوئیں کہ خلیفہ بالکل کمزور اور کٹھ پتلی ہو کر رہ گیا تھا، ترک قوم منصب خلافت سے کھیل رہی تھی، ہر جگہ ان لوگوں کا ہی غلبہ تھا، اور خلافت بالکل برائے نام رہ گئی تھی۔

اس سال دواہم و اتفاقات پیش آئے، (۱) ایک تو ان لوگوں کا ظہور ہوا، (۲) حسام الاسلام ناصر دین اللہ ابو احمد الموفق کی وفات۔ رحمہ اللہ۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی بقا کے لئے ان کے بعد ان کے لڑکے ابو العباس احمد کو قائم مقام بنایا، جن کا لقب معتقدہ ہوا تھا، جو بہت زیادہ مذرا اور دلیر تھے۔

### حالات ابو احمد الموفق:

بھی امیر ناصر دین اللہ ہیں، ان کو الموفق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور ان کو ہی طلحہ بن متکل علی اللہ جعفر بن محمد المعتصم بن ہارون الرشید کہا گیا۔

ان کی پیدائش روز چہار شنبہ ۲ ربیع الاول ۲۲۹ھ کو ہوئی تھی۔

جب امور خلافت ان کے بھائی معتمد کے ہاتھ میں آگئے تھے تو اس نے ان سے وعدہ کیا تھا اور وصیہ کہا تھا کہ جعفر کے بعد خلافت تم کو ملے کی اور اس کا لقب الموفق کر دیا تھا لیکن اس نے جب زمینی سردار کا مقابلہ کر کے اس کا لفظ قلع آرڈیا تو اس کا لقب بدل کر زاد صدر ہیں اللہ کر دیا اور اسی وقت نے تمام امور سلطنت چھوٹے ہی سے اس کے قبضہ میں آگئے اور ملکی خراج اور آمد نیاں سب اسی کے پاس جمع کی جانے لگیں اور اسی کے نام کا منبر و پرخبطہ پڑھا جانے لگا اور یوں کہا جانے لگا: ”اے اللہ امیر الناصر لدین اللہ ابو احمد الموفق بالله جو مسلمانوں کے معاملات کا نگہبان ہے اور امیر امویین کا بھائی ہے اس کی اصلاح کر“۔ لیکن قدرت خداوندی سے اس کے بھائی معتمد سے چھ ما قبل ہی اس کی وفات ہو گئی۔

یہ شخص بڑی گھری عقل، عمدہ انتظامات کا مالک تھا، جس وقت یہ لوگوں کی فریاد رسی کے لیے بیٹھتا تھا اس وقت اپنے پاس قاصیوں کو بھی بھاٹاتھا اور کھڑے کھڑے بلاتا خیر دادرسی کر کے مظلوم کے حقوق دلاتا۔

علمی لحاظ سے یہ بڑا ہی ادب، نسب، فقدہ اور ملکی سیاستوں کا ماہر تھا، اسی کی خوبیاں بے شمار اور یادگاریں بے حساب ہیں۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوا کہ حالت سفر میں یہ مرض گھٹیا کاشکار ہو گیا، تو ماہ سفر میں بغداد والپیش آ کر اپنے لگھر ہی میں رہنے لگا، مرض بڑھتا گیا، اس کے پاؤں پھول کے موٹے کپے ہو گئے اس کے بدن میں گرمی کی وجہ سے جلن رہتی، اس لیے برف وغیرہ مٹھنڈی چیزوں کا افران انتظام کیا جاتا، چار پاپیوں پر بنا کر اسے ادھر سے ادھر کیا جاتا، جس کے لئے چالپیش آدمی مقرر کر دیئے گئے تھے، جن میں باری باری سے بیک وقت میں آدمیوں کی ضرورت پڑتی، ایک دن اس نے خود تنگ آ کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تم لوگ میری وجہ سے تنگ آ چکے ہوئے کاش! میں حاکم وقت نہ ہوتا اور تمہاری ہی طرح ادملی آدمی ہوتا کہ تمہاری ہی طرح میں کھاتا اور تمہاری ہی طرح پیتا اور تمہاری ہی طرح آرام سے سویا کرتا، اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے رجسٹر میں ایک لاکھ ایسے غریبوں اور محتاجوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو ہماری طرف سے زندگی گزارنے کے اخراجات پائیے جاتے ہیں، مگراب کوئی بھی ان میں سے مجھ سے بدتر حالت میں نہیں ہے۔

بالآخر ماہ صفر میں باعیسویں تاریخ قصر حسینی میں انتقال ہوا۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس وقت اس کی عمر چند ماہ اور کچھ دن کم چوالیس سال کی ہوئی تھی۔

ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابوالعباس احمد سے بیعت لینے کے لئے تمام امراء اکٹھے ہوئے، ان کے والد کے بعد ان سے تمام انتظامی امور کو قائم کرنے کے لیے معتمد نے بیعت کی، اور منبروں پر کھڑے ہو کر اس سلسلہ میں بیانات دیئے اور وہ سارے امور مملکت جوان کے والد سے متعلق تھے، مثلاً لوگوں کو عہدوں پر فائز کرنا، انہیں معزول کرنا، لوگوں اور حکومتوں سے تعلق قائم کرنا اور ختم کرنا، یہ سب ان سے متعلق کر دیئے گئے، اور معتقد باللہ کا لقب انہیں دیا گیا۔

اس سال اور یہیں بن سلیمان الفقعنی الموصی کا انتقال ہوا، ابن اثیر نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے اور بڑے دیندار تھے۔

اسی طرح اسحاق بن کنداح کا بھی انتقال ہو گیا، جو جزیرہ کے نائب گورنر تھے یہ اچھی رائے اور مشورے کے مالک تھے، ان

کے بعد ان کی تمام ذمہ داریاں ان کے بینے محمد کو سونپ دی گئیں۔

او، اسی سال طرسوس کے نائب حاکم یا رمان کا بھی انتقال ہوا، اس کا سبب وہ پتھر تھا جو روزیوں کے عاصمہ سے آ رہا تھا اور کوئی نئے بخت سے آ رہا تھا، لہذا اسی سال یا درجہ میں وفات ہوئی اور طرسوس میں دفن لئے گئے اس سے بعد سرحدی علاقوں کی نیابت پر ان سے بعد خارویہ ہن احمد ہن خوون کے حکم سے احمد شیخ متر رئیے گئے مگر جلد ہی اپنے پیچارا دھائی موئی ہن خلوون کی وجہ سے اسے مزول بھی ہونا پڑا۔

### حالات غلام ابن عبد الرحیم:

اسی سال ان کے غلام ابن عبد الرحیم کا بھی انتقال ہوا، خدا اس کے ساتھ براسلوک کرنے اben الجوزی نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ یہ بد بخت روم کے علاقوں میں مجاهدین میں نامور شخص تھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس طرف کسی غزوہ میں مسلمان روم کے کسی شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک قلعہ میں سری رو میہ لڑکی پر پڑی، آنکھیں لڑتے ہی اسے دل دے بیٹھا اور اس سے ملنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا، اور خود اسی سے دور سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ نصرانیت کو قبول کر کے سید ہے، بآسانی میرے پاس آ جاؤ، چنانچہ اس کی بات مانتے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ چھاڑ کر سید ہا اس کے پاس پہنچ گیا، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں، مجادلوں کو خفت دی صدمہ ہوا، اور ان پر واقعہ بڑا شاق گزرا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی جبکہ وہ اسی قلعہ میں اسی عورت کے پاس تھا کہ مسلمان اس طرف سے گزرے اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس کو غیرت دلائی کہ تمہارا حفظ قرآن کہا گیا؟ تمہارا علم کیا ہوا؟ تمہارے روزے کیا ہوئے؟ تمہارے جہاد کا کہا شتر ہوا؟ تمہاری نمازیں کیا ہوئیں؟ تو اس نے کہا: سوائے اس

ایک آیت کے مجھ سے پورا قرآن محو کر دیا گیا ہے اور وہ ایک آیت جو مادرہ گئی ہے وہ یہ ہے:

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**: ”بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی اسلام لانے ہوتے تو انہیں چھوڑ دو کہ وہ اطمینان سے محدود وقت کے لیے کھائیں اور ان کی تمباکیں انہیں غفلت میں رکھیں کہ عنقریب وہ اپنا نتیجہ جان لیں گے، اور اب میں فی الحال ان لوگوں میں مال اور اولاد کا مالک ہوں“۔ (پ ۲، جمیر آیت نمبر ۲۔ انوار الحنفی)



## واقعات — ۲۷۹

حکومتِ ذمہ داریاں جو آپھی بھی اب تک بخفر لے پر درجیں ان سے اس نے اس سال ماه محرم کے آخر میں دشیر داری اختیار کر لی اور اب اعتماد کے بعد ابوالعباس المعتهد بن الموقن مستقل طور پر ساری ذمہ داریوں کا مالک ہو گیا اور اس کے نام کا سب کے سامنے خطبہ پڑھا جانے لگا اس موقع پر بیکن بن علی نے المعتهد کو مبارک بادی دیتے ہوئے یہا شاعر کہے ہیں:

(۱) لیہنیک عقدانست فیہ المقدم حبک بہ رب بفضلک اعلم

ترجمہ: وہ تنگی مجلس جس کے آپ سردار ہیں وہ آپ کو مبارک باد کہتے ہیں خدا اس مجلس کی حفاظت کرے جو آپ کے فضائل کو خوب جانتے والا ہے۔

(۲) فان كنت قد اصحت والی عهدا فان غدأً فینا الأمام المعظم

ترجمہ: آپ اگر بھی ہمارے زمانہ کے حامی ہیں کہا سامنے آئے ہیں تو کل آپ ہمارے لیے امامِ عظیم ہو جائیں گے۔

(۳) ولا زال من والاک فیہ مبتغا مناہ و من عاداک یخزی و یندم

ترجمہ: اب جو بھی آپ سے ابھی تعلقات قائم رکھے گا وہ اپنے تمناؤں کو باسانی پالے گا اور جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ رسول اور شرمند ہو گا۔

(۴) و كان عمود الدين فيه تعوج فعاد بهذا العهد وهو مقوم

ترجمہ: اب سے پہلے تک دین کے ستون میں جھکا ڈاپ کا تھا، لیکن اب اس دور میں وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔

(۵) و أصبح وجه الملك جذلان ضاحكا يضيقى لسامنه الذى كان مظلوم

ترجمہ: اس وقت ہمارے بادشاہ کا چبرہ ہشاش بشاش اور ہنسنے والا ہو گیا ہے جس سے ہماری ہروہ چیز جو تاریک تھی اب روشن ہو گئی ہے۔

(۶) فدونك شدد عقد ما قد حقيقة فانك دون الناس فيه المحكم

ترجمہ: اب جس عہدہ اور مقام کو آپ نے حاصل کر لیا ہے اسے آپ مضبوطی سے قائم رکھیں، کیونکہ آپ تو لوگوں کے بغیر بھی اسے مضبوطی سے خامے رہ سکتے ہیں۔

اس سال بغداد میں یہ اہم اعلان کیا گیا کہ اب ان لوگوں کو جو قصہ گوئی کرتے ہیں، راستوں میں بینک بازی کرتے ہیں، ستاروں سے اپنے کاموں میں مدد لیتے ہیں، اور اس قسم کے دوسرا اور بھی جتنے کام ہیں ان میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہو گا (قانوناً) کہ وہ مسجد اور عام راستوں میں بیٹھے اور یہ بات بھی ان کے لیے منع کر دی گئی ہے کہ علم کلام، علم فلسفہ اور لوگوں کے ساتھ

مقابلہ بازی کی کتابیں فروخت کریں، اس طرح اتنی بڑی اہم باتوں کا اعلان ہوتا، سلطان الاسلام ابوالعباس المعتضد کی ہمت کا نتیجہ ہے۔

ایسا سال ہارون الشفیع اور بنی شیبہ کے درمیان، عسل کے علاقے میں زبردست اٹھائیں ہوئے، جنہیں ابن الونجہ نے اپنی کتابِ الکامل میں تفصیل کے ساتھ وہ کہا گیا ہے۔

اسی سال دو شنبہ کی شب ۱۹ ارجی ۲۴ھ کو المعتضد علی اللہ کا انتقال ہو گیا۔

### حالات المعتضد علی اللہ:

یہ امیر المؤمنین المعتضد بن الم توکل بن العقاص بن الرشید ہیں، ان کا نام احمد ابن جعفر بن محمد بن ہارون الرشید ہے، امور خلافت پر تحسیں بر س اور چھوپن قائم رہے، وفات کے وقت ان کی عمر پچاس برس چند ہیں، کی تھی، یہ اپنے بھائی الموفق سے چھ ماہ بڑے تھے، اور اس کے بعد ایک برس سے بھی کم ہی باقی رہے، اپنے بھائی کی موجودگی میں ان کو مطلقاً کچھ بھی اختیار نہ تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے صرف تین سو دینار مانگوا بھیجے، وہ بھی ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے:

### اشعار

(۱) من العحائب في الخلافة ان نرى ماقيل ممتنعا عليه

تہذیب: خلافت کے اندر تجب خیر باتوں میں سے یہ بات ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک معمولی سی چیز کا حصول بھی اس کے لیے ناممکن ن کر رہا گیا ہے۔

(۲) و توحد الدُّنْا باسمه جميعا

تہذیب: حالانکہ اسی کا نام لے کر ساری دنیا حاصل کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔

(۳) اليه تحمل الاموال طراً و يمنع بعض ما يحيى اليه

تہذیب: ساری چیزیں اسی کے پاس لائی جاتی ہیں، لیکن اسے ان میں سے معمولی چیز کو بھی خرچ کرنے سے روکا جاتا ہے۔

یہ معتضد وہ پہلا شخص ہے، جو خلافت کو سامرا سے بغداد لے آیا تھا، اس کے بعد پھر دوسرا کوئی بھی سامر انہیں گیا، بلکہ سب نے بغداد تک اپنی اقامت رکھی، جیسا کہ اہن اشیر نے ذکر کیا ہے کہ اس کی بلاکت کا سبب یہ ہوا کہ اس نے آخری ایک رات میں بہت زیادہ شراب بھی پی لی اور کھانا بھی بہت سا کھالیا تھا، وفات کے وقت یہ بغداد کے قصر حسینی میں تھا، موت کے قریب معتضد نے قاضیوں اور بڑے عہدہ داروں کو بلوک کران کو اس بات کا گواہ بنالیا کہ اس کی موت از خود ہوئی، دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، پھر اسے غسل دیا گیا اور اس کی نماز پڑھ کر سامرا میں منتقل کر دیا گیا، اور دوسرے دن صبح کے وقت معتضد کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی۔

اس سال وفات پانے والوں میں:

### البلا: ری المورخ:

بھی ہے اس کا نام احمد بن یحییٰ بن جابر ہے داؤد ابو الحسن ہے اسی نے ابو جعفر بھی کہا ہے اور اسی نے ابو مکبر بلاذری بھی کہا ہے، شہر تاریخ بلاذری ان کی میں طرف منسوب ہے اس نے ہشام بن عبد الرحمن اور ابوبیہ القاسم بن علیم ابا ابریجع الثہراوی کے علاوہ ایک جماعت سے رہائیں کئی ہیں اور ان سے یحییٰ بن ندیم، احمد بن عمار، ابو یوسف یعقوب بن حییم، بن قرقاہ الازدي نے روایت کی ہے۔

ابن عساکر نے کہا ہے کہ علمی لحاظ سے یہ برا مرتبہ والا تھا، اس کی عمدہ عمدہ کتاب میں منظر عام پر آئی ہیں، اس نے مامون کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں، متولی کی ہم نشی فی اسے میسر تھی۔ معتمد کے زمانہ میں اس کی وفات ہوئی، اس کی آخری عمر میں اسے بہت زیادہ ہوس اور سو سے بھی پیدا ہوئے۔ اس کے متعلق ابن عساکر نے یہ بیان کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے محمود و راق نے بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے اشعار کہو جن سے تمہاری یاد قائم رہے اور ان کے کہنے کا گناہ تم سے ختم ہو جائے تو میں نے اس وقت کہا۔

### الشمار

(۱) استعدی بانفس للموت واسعی      لنحاة فالحازم المستعد

**تشریحہ:** اے نفس! اموت کے لیے تیار ہو جا اور پوری کوشش کر کم نجات پانے کی کیونکہ موت سر پر منڈلا رہی ہے۔

(۲) انما انت مستعیرة و سوف      تردیدن والعواری تردا

**تشریحہ:** اے نفس! تو یاد رکھ کر تو امانت رکھنے والا ہے، اور عنقریب توہاں کہ ہو گا اور تیرے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں اپنی جگہ واپس لوٹائی جائیں گی۔

(۳) انت تسهین والحوادث لا      تسهو و تلهین والمنايا تعد

**تشریحہ:** اے نفس! تو بھولتا ہے مگر آنے والے حوادث نہیں، بھولتے ہیں اور تو غافل ہو کر رہتا ہے اور موت ہر طرف سے تیار ہے۔

(۴) اى ملک فى الارض داى حظ      لا يرى حظه من الارض لحد

**تشریحہ:** روئے زمین کے کس حصہ پر تیری ملکیت ہے اور کوئی جگہ انسان کی قسم کی ہے، انسان کے حصہ کی زمین تو صرف قبر کی جگہ ہے۔

(۵) لا ترجى البقاء فى معدن الموت      و دار حنوفها لك ورد

**تشریحہ:** موت کی کان میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ کر، اور ایسے گھر میں بھی جس میں تجھے آنا ہی ہے۔

(۶) كيف يهوى امرء لذادة ایام      انفاسه اعلىه فيها تعد

حج ۹۷۴ھ میں عاصمہ کی قتوں کی کوئی طبق نہ تھی اور کوئی قیمتی حجت نہ تھی، میکہ اسی سے جیسا نہیں گا۔

### معضد کی خلافت

امیر المؤمنین ابوالعباس احمد بن احمد الموقن بن عذر الموقر ہے۔ اسی العباس کے اتنے لواؤں اور اپنے خلفاء میں سے تھا۔

سالِ روان کے ماہِ جب کی بیسویں تاریخ صبح کے وقت معتمد کی وفات پانے کے بعد اس کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی، خلافت کے معاملہ کو اس وقت تک فرار نہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے باقیوں کو اس کے انصاف کرنے اور رہنمائی کی بنا پر مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عبد اللہ بن سلیمان بن وہب کو اپنا وزیر بنایا، اور اپنے غلام بدر کو بغداد میں کوتولی کے عہدہ پر مقرر کیا۔ عمرو بن الیث نے اس کے پاس ہدایا اور تھائف بھیج کر خراسان کی حکومت کی گورنری کی درخواست کی تو اس نے درخواست قبول کر لی اور اس کے پاس خلعت اور جنہذا بھیجا، عمرو نے اس جنہذے کو انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے گھر میں تین دنوں تک لگا کر رکھا، اور رافع بن ہرثیم کو خراسان کی حکومت سے مزروعی کر دیا، عمرو وہاں داخل ہو گیا، اس کے بعد رافع کے پیچے لگ گیا اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا رہا، آخر کار ۲۸۳ھجری میں اسے قتل ہی کر دیا، اس کی تفصیل عنقریب آتی ہے، پھر اس کا سر مغضد کے پاس بھیج دیا، اور خراسان کے معاشر اس کے حوالہ کر دیے گئے۔

اس سال حسین بن عبد اللہ جو حصاص سے مشہور ہے، مصر کے شہر سے نکل کر خوارویہ کی جانب سے بہت سے ہدایا اور تھائف لے کر مغضد کے پاس آیا، چنانچہ مغضد نے خوش ہو کر خوارویہ کی سے نکاح کر لیا، اس موقع پر اس لڑکی کے والد نے بے نظیر بے حساب جہیز دیا، اس بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کے جہیز میں دینے کے سو ہاون دستے دیے اور وہ سارا مال شب عروی کی صح کو ہی مصری علاقہ سے بغاود پہنچا دیا گیا، وہ وقت بہت مبارک تھا اور لوگ ریکھنے کو منتظر تھے۔

اسی سال احمد بن عیسیٰ بن الشیخ قلعہ مارد میں کامالک بن گیا، جواب تک اسحاق بن کنداج کی ملکیت میں تھا۔

اس سال ہارون بن محمد العباسی نے لوگوں کو حج کرایا، اور یہی حج اس کا آخری حج تھا، جبکہ وہ ۲۶۵ھ سے متواتر اس سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔

### مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں، احمد امیر المؤمنین المعتمد، ابو بکر بن ابی خیثہ، احمد بن زہیر بن خیثہ، جو التاریخ وغیرہ کے مصنف ہیں، ابو نعیم اور عفان سے اس حدیث کو حاصل کیا اور علم حدیث احمد بن حنبل اور سیفی بن معین سے علم النسب مصعب الزبیری سے لوگوں کے حالات و واقعات ابو الحسن علی بن محمد الدانی سے اور علم الادب محمد بن سلام الجبی سے حاصل کیا۔ محمد شین کے نزدیک یہ ثقہ تھے، اور ان کے حفظ اور ضبط بھی لوگوں میں بہت مشہور تھا، ان کی کتاب التاریخ میں بہت سی مفید باتیں اور بیش بہا بہت سے موتی ہیں، ان سے بغوثی، ابن صاعد، ابن ابی داؤد بن المنادی نے روایت کی ہے۔

ایں کی وفات چودہوئے سویں تیر میں سالِ رہا، ان کے ماہ تمازو، الاعلیٰ میں ہوئی اور اسی مالی ناقان ابو عبد اللہ الصوفی کی بھی وفات ہوئی، جن کے گرامات اور کاشفات بہت مشہور ہیں اور وفات پائے والوں میں

### التزمی:

بھی ہیں۔ نام: محمد بن عیینی بن سورہ بن عویشی بن الحجاج بے اور یوس بھی جائیا ہے کہا، م. محمد بن عیینی بن یوس بن سورہ بن الحسن ہے۔ اور اس طرح بھی لہاگیا ہے محمد بن عیینی بن سورہ بن شداد، بن عیینی اسلامی الترمذی الصفری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پیدائشی ناپینا تھے (ورنه عموماً یہ مشہور ہے کہ خوف خداوندی میں اکثر روتے رہنے کی وجہ سے ضعیفی میں ناپینا ہو گئے تھے، اپنے زمانہ کے بڑے مرتبہ کے اماموں میں سے ایک تھے، ان کی تصنیفات بہت سی ہیں، جن میں الجامع، الشماکل، اسماء الصحابة وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ کتاب الجامع ان چھ کتابوں میں ایک ہے، جو حجاج ست کے نام سے مشہور ہیں اور ساری دنیا کے علماء میں مقبول ہے۔ ابن حزم کا ابو عیینی کو نہ جانتے سے ان کا کوئی نقسان نہیں ہے، جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب محلی میں کہا ہے کہ محمد بن عیینی بن سورہ کو نہ ہیں، غیر معروف ہیں تو ان کا ترمذی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ترمذی کے مرتبہ میں کوئی نقسان نہیں ہوا بلکہ حافظ حدیث میں خود ان کا نقسان ہوا کہ وہ ایسے مشہور شخص سے بھی ناواقف ہیں۔ شعر:

وَكَيْفَ يَصْحَّ فِي الْأَدْهَانِ شَيْءٌ      إِذَا احْتَاجَ النَّهَارَ إِلَى دَلِيلٍ

ترجمہ: لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات کس طریقے پر ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دن کا ہونا بھی دلیل کا محتاج بن جائے۔

میں نے ترمذی کے مشائخ کا اپنی کتاب التسلیل میں ذکر کیا ہے، ان سے روایت کرنے والے بہت سے علماء ہیں، جن میں محمد بن اسماعیل البخاری بھی ہیں کہ اپنی بخاری میں ان کی سند ذکر کی ہے اور یاثم بن کلیب الشاشی جو مسد والے ہیں، اور محمد بن یعقوب المحبوبی ہیں، اور اپنی جامع میں ان سے بھی روایت لی ہے اور محمد بن المنذر بن شکر ہیں، ابو یعلی الخلیل بن عبد اللہ الخلیلی القرزوینی نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ محمد بن عیینی بن سورہ بن شداد الحافظ پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، فن سنن الحدیث میں ان کی ایک کتاب ہے، ایسی ہی ایک کتاب فن الحجر والتدعیل میں بھی ہے۔ ان سے ابو محجوب اور اجلاء نے روایت کی ہے، وہ امانت، امامت اور علم میں مشہور ہیں۔ ۲۸۰ھ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی تاریخ وفات کے سلسلہ میں یہی باتیں کہی ہیں۔ اور حافظ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن سلیمان التخجیار نے تاریخ بخاری میں کہا ہے کہ محمد بن عیینی بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک الترمذی الحافظ بخاری کے پاس گئے اور ان سے حدیثوں کی روایت کی، یہ الجامع اور التاریخ کے مصنف ہیں، دو شنبہ کی رات ۱۳ ارماہ ربیعہ ۲۷۴ھ میں ترمذ میں وفات پائی، الحافظ ابو حاتم بن حیان نے انہیں ثقافت میں شمار کیا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے احادیث جمع کیں، ان کی تصنیف کی انہیں حفظ کیا اور اس پر مذاکرہ کیا، ترمذی نے خود کہا ہے کہ بخاری نے مجھ سے یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ عطیہ نے ابوسعیدؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے کہ اس مسجد کے بغل میں میرے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے لیے رہنا حلال نہیں ہے، اور ابن یقظان نے اپنی کتاب تقدیم

میں ترمذی کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے یہ کتاب المسند <sup>الصحیح</sup>، تصنیف کی اور اسے جواز کے علماء کے سامنے پیش کیا تو وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔ پھر عراق کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہ بھی اس سے خوش ہوئے پھر علمائے خراسان کے سامنے پیش کی تو وہ بھی خوش ہوئے، جس کے گھر میں یہ کتاب جوڑا توڑا گیا اس کے لئے میں آنحضرت ﷺ: وَهُوَ يَعْلَمُ اُنَّمَا مَنْ أَفْتَأَلَوْ فرماد ہے ہیں، دوسری رہابت میں ہے کہ وہ تکلم فرمائے ہیں۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس جامع میں ایک سوا کاون کتابیں ہیں، اور ان کی کتاب العلل نامی بھی ایک کتاب ہے جس کی تصنیف سرفہد میں کی ہے، ۲۷۹ میں حیدر الٹھی کے دن اس سے فراغت ہوئی۔

ابن عطیہ نے کہا ہے کہ میں نے محمد بن طاہر المقدسی سے سنائے اور انہوں نے ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد الانصاری کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میرے زدیک کتاب الترمذی، کتاب البخاری اور مسلم سے زیادہ منور اور روشنی پیش ہے تو میں نے کہا کہ عام خیالات کے برخلاف آپ نے ایسا کیوں خیال کیا؟ تو جواب دیا کہ ان دونوں کتابوں کے فوائد اور گھرے مطالب تک پہنچنا تمام لوگوں کے بس سے باہر ہے، اس سے تو صرف وہی لوگ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کو اس فن سے پوری پوری واقفیت ہو ان کے بعد کتاب الترمذی میں صاحب کتاب نے اس کی تمام حدیثوں کی خود ہی تشریح کی اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو واضح کر دیا، اس طرح ہر فقیہ، محدث اور دوسروں کے لیے ان احادیث تک پہنچ گی آسان ہو گئی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ترمذی کے حالات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پیدائشی ناینا نہ تھے، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے، بلکہ لکھ پڑھ کر طلب حدیث میں دور دراز علاقوں میں سفر کر کے کتاب میں لکھیں، مذکرات اور لوگوں سے مناظرے وغیرہ کرنے کے بعد آخوند میں آنکھ کی بینائی جاتی رہی، پھر صحیح قول کے مطابق ان کے اپنے علاقہ میں ماہر جب میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ۔



## و افعال — ۲۸۰

اسی سال ماه محرم میں ایک ایسے جبشی سردار کا معتقد نے فل کر دیا جس نے اس سے امان کی درخواست کی تھی جو مسلمہ کے نام سے مشور تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو ایک ایسے شخص کی اتباع کی دعوت دیتا تھا جس کی اصلیت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس طرح اس نے ایک بڑی جماعت کو فتنہ و فساد میں ڈال دیا تھا، اس وقت معتقد نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس کے حالات جانے چاہے، مگر اس نے مطلقاً کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ اگر وہ میرے پیروں کے نیچے بھی ہوگا، جب بھی اس کا اقرار نہیں کروں گا، مجبوراً معتقد نے اسے ستون سے باندھ دینے کا حکم دیا۔ پھر آگ جلا کر اسے گرم کر دا لائیا تھا تک کہ اس کے بدن کی کھال جل کر گرنے لگی، بالآخر ساتویں تاریخ ماه محرم میں اس کی گردن اڑا دی اور پھانسی پر لاکا دیا۔

پھر ماہ صفر کی ابتداء میں معتقد بقید اوسے موصل کے علاقہ میں بنی شیبان کی طرف روانہ ہو گیا، اور ایک ایسے پہاڑ کی طرف پہنچ کر جسے نوباذ کہا جاتا تھا، ان لوگوں پر شدت حملہ کر دیا اور ان کو تباہ و بالا کر دیا۔ اس وقت معتقد کے ساتھ ایک شخص بہترین حدی خوان تھا اس نے دورانِ سفر معتقد کے لیے حدی خوانی کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے:

۱۔ فاجتہشت للنو باذھین رأيته      وهللت للرحمٰن حين رانى

ترجمہ: جب میں نے نوباذ کو دیکھا تو میں زور سے چلانے لگا اور اس نے مجھے دیکھا تو میں اپنے رحمٰن کے نام کی تہیل کرنے لگا۔

۲۔ و قلت لَهُ أَيْنَ الَّذِينَ عَاهَدُوكُمْ      بظلك فسي امنٌ وليس زمانى

ترجمہ: پھر میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہیں تم نے پناہ دے رکھی تھیں اپنے سایہ میں امن اور زمانہ کی موافقت کے ساتھ۔

۳۔ فَقالَ مصوا و استخلفوا في مكانتهم      ومن ذا الَّذِي يبقى على الحدثان

ترجمہ: تو اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور اپنی جگہ کا مجھے قائم مقام بنانے لگئے اور ہے کوئی جو ہمیشہ جوانی کی عمر میں باقی رہا ہو۔

اسی موقع پر معتقد نے حلوان کی گھٹائی کے پست کرنے کا حکم دیا اور اس کام پر میں ہزار دینار خرچ کر ڈالے، کیونکہ لوگوں کو اس سے سخت تکلیفیں تھیں۔

پھر اسی سال اس نے جامع منصور کی توسعہ کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اسی میں منصور کے گھر کو بھی شامل کر لیا جائے، اور اس کام پر بھی میں ہزار دینار خرچ کرنے کا حکم دیا، چونکہ وہ گھر اس کے سامنے کی سمت میں پڑتا تھا اس لیے اسے ایک مستقل مسجد

بنا نے کام حکومتی اور ان دونوں کے درمیان سڑتہ درداڑے کھلوائے تھے اسی نسبت میں بھروسہ اور محروم کے رخ کو مسجد کی طرف منتقل کر دیا۔ تاکہ سب دستور وہ جامع مسجد کے مقابلہ کی سمت رہے اس کے بعد معتقدنے کے غلام بدر نے قلعہ منصور کی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ اسی مناسبت سے وہ عمارت بدریہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔

### اس وقت بغداد میں دارالخلافہ کی تعمیر:

اس سال اس کی بنیاد سب سے پہلے معتقدنے رکھی ہے۔

اس میں قیام کرنے والے خلفاء میں سب سے پہلے یہی معتقدنے ہیں، بعد میں سارے خلفاء اس میں قیام کرتے آئے یہ محل سب سے پہلے حسن بن سہل کا گھر تھا، جو قصر حسنی کے نام سے مشہور تھا، پھر یہ عمارت اس کی لڑکی بوران کی ملکیت بن گئی، جو کہ مامورن کی اہمیت تھی، اس وقت اس نے اس کی تعمیر کی، پھر معتقدنے خود ہی اس مکان کو خالی کرنے کا حکم دیا، چنانچہ بوران نے اسے خالی کر دیا، اس وقت اس مکان میں جہاں کہیں بھی کمزوری اور خرابی آگئی تھی یا کوئی جگہ قبل مرمت تھی، سب کی مناسب مرمت کر دی۔ اس کے بعد بوران نے خود اپنی مرثی سے اس میں رنگ برنگ موقع کے مناسب فرش بچائے، اور غلاموں اور باندیوں کی جتنی ضرورت تھی، انہیں اس میں آباد کیا، مزدہ دار موگی کھانے پینے اور بچلوں وغیرہ سے اسے سجادا یا، اور جو کچھ اس میں جمع کرنا ممکن تھا، سب جمع کر دیا، پھر اس کی چاہیاں معتقدنے کے پاس بھیج دیں، وہ اس میں داخل ہو کر اس کی زیادہ عمدہ چیزیں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ پھر اس نے اسے وسعت دی اور اس کے چاروں طرف چهار دیواری بنوادی، بڑھتے بڑھتے اس شہر کی حد شیراز تک پہنچ گئی، پھر ایک بہت بڑا میدان بنوایا اور اس میدان کے ایک طرف دجلہ کے قریب بھی ایک اونچا محل بنوایا، بعد میں ملکفی نے اس میں نقش و نگار بنوائے، پھر مقدار نے اپنے دور افتادار میں اپنے میں بڑے پیانے پر اضافہ کیا، اس علاقہ کی اس قدر ترقی اور شان و شوکت سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا اور اس کی اینٹ ایسی بھی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور یہ پختہ بھی نہ چلتا تھا کہ اس جگہ کبھی بھی کوئی تعمیر ہوئی تھی، تاتاریوں کے زمانہ تک اس کے آثار باقی تھے، پھر انہی لوگوں نے اسے اور شہر بغداد کو بھی دیران کر دیا اور وہاں کے آزاد لوگوں کو بھی قیدی بنالیا، اس کی تفصیل ۲۵۶ھ کے واقعات میں اپنی جگہ پڑائے گی۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ گذشتہ بیانوں سے متعلق زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ بوران نے اپنی عمارت معتقدنے کو نہیں دی تھی بلکہ معتمد ہی کو دی تھی، کیونکہ وہ معتقدنے کے زمانے تک زندہ بھی نہیں رہی تھی، اس کی تاریخ وفات پہلے گزر چکی ہے، جس سے معاملہ کی تحقیق ہو سکتی ہے۔

اس سال اردیل میں چھ مرتبہ زلزلہ آیا، جس سے اس کی ساری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئیں، بمشکل تمام اس میں ایک سو کے قریب مکانات باقی رہ گئے، عمارتوں سے دب کر مرنے والوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔

الحمد لله رب العالمين

رثراوں کے بخوبی میں دن اس کے سارے کتوں خشک ہو گئے تھے جس سے یافی کا شدید تھا تو گی تھا، یہاں تک کہ تمدن، طبع پانی ایک رہنماؤ فروخت کیا جاتا اسی طرح دن اسے نہیں بہت اڑاں ہو گئے تھے۔

اس سال ۱۴۷ میں بن احمد سامانی نے راز کے علاقوں پر تمدن کیا اور ان کے شامی علاقوں کو فتح کر لیا اور اس کی وجہ سے ایسا شہر اور اس علاقوں کے باپ کو بھلی قید کر دیا، ان کے علاوہ تقریباً اس بنادر، گوس، بندر امام، ہال کے گھوٹے سے سراہان، ہال، ہال دو ولت بے حساب ابطور غنیمت حاصل کیئے، چنانچہ ایک ایک گھر سوار کو ایک ایک ہزار درہم حصے میں دیجے گئے۔

اس سال ابو بکر محمد بن ہارون بن اسحاق العباسی نے لوگوں کو جو کرایا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ حضرات ہیں:

احمد بن یسیار بن ایوب الفقیہ الشافعی، جوزہد اور عبادت میں بہت مشہور تھے، اور احمد بن ابی عمران، موسیٰ بن عیسیٰ ابو جعفر البغدادی، جو حفیہ کے اکابرین میں سے تھے، انہوں نے فقه کی تعلیم محمد بن سماعہ سے حاصل کی جو کہ ابو جعفر طحاویٰ کے استاذ تھے، مگر ناپینا تھے اور حدیث علی بن الحجود غیرہ سے سُنِّتِ حق، مصر آ کر زبانی حدیث سنانے لگے، اس سال ماه محرم میں وفات پائی، ابھن یونس نے اپنی کتاب تاریخ مصر میں ان کو وفات کھاہے۔ اور وفات پانے والوں میں:

احمد بن عیسیٰ بن الازہر:

بھی ہیں، جو کہ واسط کے قاضی تھے، انہوں نے ایک مندرجہ ذیل کی تھی، مسلم بن ابراہیم اور ابو سلمہ الجبوذی کی اور ابو نعیم اور ابوالولید وغیرہ محدثین سے حدیث کی ساعت کی، محدثین کے نزدیک یہ ثقہ کہ اور ثابت کی صفتیں سے متصف تھے، انہوں نے فقہ کی تعلیم ابو سلیمان الجوز جانی سے حاصل کی جو کہ محمد بن الحسن کے شاگرد تھے اور معزز کے زمانہ خلافت میں بغداد کے مشرقی حصہ پر حکومت کی اور جب موقن کا وقت آیا تو اس نے ان سے اور قاضی اسماعیل سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس تینیوں کے مالوں میں سے جو کچھ موقوفہ مال اور جانیداد وغیرہ ہے، سب ہمارے حوالہ کر دیں، تو قاضی اسماعیل نے فوراً اس کی بات مانتے ہوئے ساری امانتیں لا کر اس کے حوالہ کر دیں۔ لیکن دوسرے صاحب یعنی ابو العباس البرقی قاضی واسط نے اس سے کچھ مہلت مانگی اور اس عرصہ میں جتنے سنتی تینیوں کو پایا ان سب کو وہ ساری امانتیں جلدی تقسیم کر دیں، اس کے بعد دوبارہ جب اس نے ان سے

۱۔ طبل پارہ او قیہ کا ایک وزن جو چالیس تولہ کے برابر ہوتا ہے۔ (المصباح، مترجم)

۲۔ اس جگہ سے مضمون بعض مصری نسخوں کا ہے۔

۳۔ ثقہ ثابت حافظ، جو اور حاکم وغیرہ الفاظ محدثین کرام کے اصطلاحی اور اعرازی اوصاف اور خطابات ہیں، جو لائق اور مناسب حضرات کو ان کی طرف سے دیجے جاتے ہیں۔

امانتوں کا مطالبہ کیا تو جواب دیا کہ اب میرے یا اس کچھ بھی امانت کا مال باقی نہیں ہے، جو کچھ تھا میں نے ان کے مستحقین کو دے کر حتم کر دیا ہے۔ یہ جواب سن کر اسے سخت غصہ آیا اور ان کو عبده قضاۓ سے برطرف کر دیا، اس کے بعد یہ اپنی گھر بیو زندگی اور مہادت میں مشغول رہنے لگے، پہاں تک کہ اس سال ماوڑی الحجہ میں وفات ہائی۔

بعد میں انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے دربار میں حاضر ہو گئے، انہیں، کیوں کہ خود رسول اللہ ﷺ چل کر ان کے پاس تشریف لائے، ان سے مصافحہ کیا، اور ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا: اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جس نے میری سنت اور طریقہِ عمل کیا۔

اس سال وفات پانے والوں میں جعفر بن معتصد ہیں، یہ اپنے والد سے رات کے وقت قصہ گوئی کرتے رہتے تھے، نیز موفق کے غلام الدینیور، جن کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا، مگر ان کی لعش بنداد لے جائی گئی، نیز عثمان بن سعید الداری، جنہوں نے ایک کتاب بنام ”الرَّدُّ عَلَى بَشَرِ الْمَرِيسِيِّ فِيمَا ابْتَدَعَهُ مِنَ التَّاوِيلِ لِمَذَهَبِ الْجَهَمِيَّةِ“ (نَدْهَبُ جَهَمِيَّةٍ كَتَابٌ تَاوِيلٌ مِنْ مَرِيسِيٍّ) نوشیا کیا تھا۔

نیز مسرو راخادم جو بڑے امراء میں تھے، نیز محمد بن اسما علیل ترمذی جو بہت سی عمدہ تصانیف والے ہیں، باخصوص ماوراء رمضان کے سلسلہ میں نیکی کے کام بھی ان کی تصانیف ہے۔

نیز ملال بن المعلاء جو مشہور محدث ہے اور ہمیں بھی ان کو کچھ حدیثیں ملی ہیں اور وفات مانے والوں میں:

## نحویوں کے استاد سیپویہ:

بھی ہیں۔ ان کی تاریخ وفات میں اتنے مختلف اقوال ہیں ۱۲۸۸ھ، ۱۳۰۷ھ، ۱۳۰۴ھ، ۱۳۰۳ھ، ۱۳۰۲ھ، ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۰ھ، ۱۲۹۹ھ، ۱۲۹۸ھ۔ واللہ اعلم بالصواب۔  
ان کا نام ہے ابو بشر عمر بن عثمان بن قفسہ جو کہ قبیلہ حارث بن کعب کے غلام تھے دوسرا قول یہ ہے کہ ربيع بن زیاد الحارثی البصری کے غلام تھے، ان کے لقب سیبویہ کی وجہ ان کی خوبصورتی اور رخساروں کی سرخی تھی کہ وہ دو سیب معلوم ہوتے تھے، اور فارسی زبان میں سیب کی خوبی کو سیبویہ کہتے ہیں، وہ اپنے زمانہ سے آج تک تمام نبویوں کے شیخ اور سب سے بڑے عالم مانے گئے سارے لوگ اس فن میں ان کی مشہور کتاب (الکتاب) کے احسان سے دبے ہوئے ہیں، اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں، کم ہی افراد اسے ہیں جنہوں نے اسے نورے طور سمجھا بھی ہو۔

سیبو ہے نے یہ علم خلیل بن احمد نجوی سے حاصل کیا اور بیشہ ان کی خدمت میں لگے رہے۔

جب یہ اپنے استاذ خلیل کے پاس جاتے تو وہ انہیں دیکھ کر کہا کرتے، خوش آمدید! اے ہمیشہ آتے رہنے والے جو کبھی ناراض نہ ہو۔

ان کے علاوہ عیسیٰ بن عمر، یونس بن حبیب، ابو یزاد انصاری، ابوالخطاب الاحفشنگر، ابوالکعب وغیرہم سے بھی فن نحو کا حصول کیا۔

یہ بصرہ سے بغداد س وقت آئے جبکہ امام کسائی امین بن الرشید کی تعلیم و تربیت کر رہے تھے، اتفاقاً ان دونوں اماموں کا

اجماع ہوا اور کسی خوبی مسئلہ پر دونوں میں مناظر و قائم ہو گیا، دورانی گفتگو میں یہاں تک پہنچی کہ کسانی نے کہا کہ عرب یوں بولا کرتے ہیں:

کَتَبَ اللَّهُ نُورًا إِلَيْهِ لِسْعَامَ السَّجْلَةَ فَإِذَا هُوَ يَأْتِي

”میں بھڑکو شہد کی مکھی سے زیادہ ڈسنے والا گمان کیا کرتا تھا، مگر تجوہ بنے اب نظر ثابت کردی۔“

تو سیبویہ نے کہا، میرے اوتھارے درمیان فیصلہ کن اس دیہاتی کی بات ہو گی، جس نے شہری لوگوں سے جدید الفاظ عربی نہ سیکھے ہوں مگر امین بن الرشید قدرتی طور سے اپنے استاذ کسی کی برتری اور ان کی مدد کے خواہاں تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کے لیے ایک دیہاتی کو بلوا کر اس کی رائے معلوم کی تو اس میں بھی سیبویہ کی ہی تائید کر دی، جس سے اس امین اور اس کے استاذ کی تکمیل ہوئی، اور اسے ناپسند کیا اس لیے اس نے اس دیہاتی سے کہا کہ یہ بڑے استاذ کسانی تو تمہاری بات کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس نے سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ وہ جو کہتے ہیں میری زبان پر نہیں آتا اور ہماری گفتگو میں نہیں ہے، تب امین نے کھل کر اس سے یہ کہہ دیا کہ تم دوبارہ میرے پاس آ کر میرے استاذ کسانی کے کلام کی تائید کر دو۔ چنانچہ اس نے اس کی بات مان لی اور کسانی کی تائید کر کے مجلس سے رخصت و گیا، اس طرح دیہاتی کے فیصلہ کے مطابق کسانی کی کامیابی ہو گئی، اس عمل کو سیبویہ نے اپنے لیے ہٹک عزت تصور کیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس طرح آپ لوگوں نے میرے خلاف تعصباً سے کام لیا ہے، اس کے بعد وہ بغداد سے نکل گئے اور شیراز کے بیضانامی ایک گاؤں میں پہنچ کر انتقال کیا۔

اس سلسلہ میں دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی ولادت ان ۱۹۲ھ کے اقوال ہیں اور غالباً چالیس برس سے کچھ زائد عمر پائی اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف بیس سال کی عمر پائی ہے۔ واللہ اعلم۔

کسی نے ان کی قبر پر یہ اشعار پڑھے ہیں۔ اشعار:

۱۔ ذهب الاحبة بعد طول تزاور وناء المزار فالسلموك واقشعوا

تیسرا جملہ: طویل ملاقات کے بعد سارے احباب رخصت ہو گئے، اور ملاقات کی جگہ بہت دور ہو گئی اور دوستوں نے تم کو ایک جگہ ڈال دیا اور خود منتشر ہو گئے۔

۲۔ تركوك او حش ماتكون بقفرة لما يُؤنسُوك و كربة لم يدفعوا

تیسرا جملہ: تم کو ایک دھشت ناک مقام میں ڈال کر چھوڑ کر چلے گئے، جس جگہ تم سے کوئی تعلق باقی نہ رکھا اور ایسی تکلیف میں تم کو ڈال کر چلے گئے، جس کا کوئی علاج ملاش نہیں کیا۔

۳۔ قضى القضاء و صرت صاحب حفرة عنك الاحبة اعرضوا وتصدعوا

تیسرا جملہ: فیصلہ کرنے والے نے تمہارے بارے میں فیصلہ دے دیا اور تم ایک گڑھے کے مالک بن کر رہ گئے، تمہارے دوستوں نے تم سے منہ موڑ لیا اور منتشر ہو گئے۔

## واقعات — ۲۸۱

اس سال روم کے علاقوں میں مسلمان فاتحانہ داخل ہو گئے اور وہاں غنیمت کا مال خوب لونا اور صحیح و سالم رہے۔

اس سال ری اور طبرستان کے علاقوں میں زین اور کنوئیں کا پانی بالکل خشک ہو گیا تو غلوں کی سخت گرانی ہو گئی اور لوگوں کو انتہائی پریشانیاں ہو کیں فاقد کی کثرت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگئے یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کھا جاتا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

اس سال مقتضد نے تلعہ مار دین کا محاصرہ کیا جو کہ حمدان بن حمدون کے قبضہ میں تھا۔ بالآخر نہیں مجبور رک کے اس پر فتح پالی اور اس میں جو کچھ دولت تھی، سب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسے ڈھادینے کا حکم دیا اور وہ قلعہ ویران کر دیا گیا۔

اس سال مصری علاقوں کے بادشاہ خمارویہ کی لڑکی قطرالندی بہت ہی بناو سنگار اور حشم و خدم کے ساتھ بغداد پہنچی، اس کے ساتھ جہیز کا سامان بے حد حساب تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اس کے جہیز میں چاندی کے علاوہ صرف سونے کے ایک سو ہاؤن تھے، ان کے علاوہ معمولی اشیاء میں لوازم ایت زندگی کے سامان بھی بے شمار تھے، پورے سامان کے حساب اور خرید و فروخت کے بعد اس کے والد نے دس لاکھ پچاس ہزار دیناں اور نقد دینے تاکہ ان سے عراق سے ان سامانوں کی خرید کی جائے جو وہاں ملتے ہوں اور یہاں نہ ملے ہوں۔

اس سال مقتضد بلا د الجبل کی طرف گیا اور اپنے لڑکے علی المکفی کو ری، قزوین، آذربایجان، ہمدان اور دینور کے علاقوں کا والی بن کر احمد بن الصفع کو اس کا میراثی بنادیا، اور عمر بن عبد العزیز بن ابی دلک کو اصفہان، نہادنہ اور کرخ کا والی بنایا، پھر بغداد کی طرف لوٹ آیا۔

اس سال محمد بن ہارون بن اسحاق نے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال حجاج کو مقامِ اجزر میں زبردست بارش کا سامنا ہوا، جس سے بہت سے جاج ڈوب کر ختم ہو گئے اور رستلے علاقوں میں بھی بارش کی رہت کی وجہ سے لوگ اس طرح ڈوبنے لگے کہ اس سے لکنے سے مجبور ہو گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے حضرات یہ ہیں:

ابراهیم بن الحسن بن دیزیل الجاظظ، جن کی کتاب کا نام "کتاب المصفات" ہے، ان میں سے ایک مستقل کتاب بڑی جلد میں جنگ صفين سے متعلق ہے۔

اور احمد بن محمد الطائی، جن انتقال مقامِ کوفہ میں ماہ جمادی الاولی میں ہوا۔ اور وفات پانے والوں میں:

### اسحاق بن ابراہیم:

جسی ہیں جو اپنے اخْلَقَ کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے احادیث سن لیں تو انہیں میں نہ ہوتے۔ یعنی یہ نہ اور حفظ کے اعتبار سے معروف تھے، وفات پائے والوں میں

### ابو بکر عبد اللہ بن ابی الدنیا القرشی:

ہیں جو نبی امیہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

**نام :** عبد اللہ بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس ابو بکر بن ابی الدنیا الحافظ۔ ہر من میں کتاب میں تصنیف کی ہیں۔ اس بات میں یہ بہت ہی مشہور ہیں کہ بہت سی مفید بڑے پایہ کی ہر جگہ پائی جانے والی کتابوں کے مصنف ہیں جو تعداد میں سو سے بھی زیادہ ہیں، بعضوں نے تین سو بھی تصنیفات بتائی ہیں اور بعضوں نے اس سے بھی زائد اور بعضوں نے ان سے کم بھی تعداد بتائی ہے۔

ابن ابی الدنیا نے ابراہیم بن المندز الخراجمی اور خالد بن خراش اور علی بن الجعد اور کثیر دوسروں سے بھی حدیثوں کی سمعت کی ہے، یہ مقتضداً اور اس کے بیٹے علی، جس کا القب الْمُكْتَفَى بِاللَّهِ تَعَالَى، دونوں کو علم و ادب سکھاتے، اس سلسلہ میں اسے ہر روز ان کی طرف سے پندرہ دینار ملا کرتے تھے اور قوتِ حافظہ کے مالک، بہت ہی سچے اور بہت ہی جوانمردی کے مالک تھے، لیکن صالح ابن محمد حزرہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے: "لیکن یہا یہ شخص سے بھی روایت کرتے تھے جسے لوگ محمد بن اسحاق البلخی کہتے ہیں، حالانکہ وہ شخص بڑا جھوٹا بلکہ ناموں کے بینی اسناد اور احادیث کے لیے بھی اسناد اپنی طرف سے گھر لیتا تھا، اور منکر احادیث روایت کرتا تھا، ایک موقع پر ابن ابی الدنیا کی ملاقات کے انتظار میں ان کے کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ نہیں تو ملاقات کی جائے، اچاکن زور دار بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات کے لیے نکانا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے یہ چند اشعار فی البدیہ کہے اور کسی کا غذر پر لکھ کر کسی کی معرفت ان لوگوں تک پہنچا دیئے۔ اشعار:

۱۔ اَنَا مَا شَاقَ إِلَيْ رُؤْيَاكُمْ      يَا أَحَلَّاَيْ وَسْمَعِي وَالْبَصَرِ

تشریحہ: میں آپ لوگوں کی ملاقات کا متنبی اور متنبی بیھا ہوں، اے میرے گھرے دستو! اے میرے کان، اور اے میری آنکھوں۔

۲۔ كَيْفَ أَنْسَاكِمْ وَ قَلْبِي عَنْدَكُمْ      حَالٌ فِيمَا يَبْنَنَا هَذَا الْمَطْرُ

تشریحہ: میں آپ لوگوں کو کس طرح بھول سکتا ہوں، جبکہ میرا دل آپ لوگوں کے پاس ہے مگر میری مجبوری یا آن پڑی ہے کہ یہ بارش ہم میں حائل ہو رہی ہے۔

اسی سال ستر برس کی عمر پا کر ماہ جمادی الاولی میں بغداد میں وفات پائی اور یوسف بن یعقوب قاضی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور شو نیز یہ میں دفن کیے گئے۔ رحمہ اللہ۔

اور وفات پانے والوں میں عبد اللہ بن عمر و ابوزرعة مصری مشتی ہیں، جو حافظ بکیر تھے، اور ابن المواز الفقيہ المالکی کے نام سے مشہور تھے، مالکی مذهب کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے یہ نماز کی حالت میں رسول اللہ ﷺ پر درور سمجھنے کو واجب سمجھتے تھے۔

## واقعات — ۲۸۲

اس سال دریج الاول روز سہ شنبہ کو معضد نے اپنی الہمی قطرالندی کے ساتھ جو کہ خمارویہ کی لڑکی تھی، خلوت میں وقت گزارا۔ یہ اپنے پچاڑ اور ابن الجحاص کے ساتھیوں کے ساتھ بغداد پہنچی تھی، اس وقت خلیفہ بغداد سے باہر تھا، اس کے بغداد میں آنے والوں میں سخت انتظار تھا، وہاں کے سارے افراد حشم برآ رہتے۔ لوگوں کی بھیز بہت ہو جانے کے خطرہ کے پیش نظر مخصوص راستوں سے عوام کا گزرنام منوع کر دیا گیا تھا۔

اس سال معضد نے عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو سیوں کے طریقہ کے مطابق نیروز کے دن اظہار خوشی کے طور پر جگہ جگہ آگ روشن کرنا، پانی بہانا، کاشنکاروں کی طرف سے مخصوص لوگوں کو ہدا یا بھیجننا، اور دوسرے لوازمات جو کیے جاتے ہیں، اب اس دن کچھ نہ کیا جائے، اور اب یہ تمام کام موخر کر کے گیا رہوں یہی حزیراں کو کیے جائیں، اس دن کا نام حزیراں معضدی رکھ دیا جائے، اور یہ فرمان اپنے سارے علاقوں میں بھجوادیا۔

### بادشاہ خمارویہ کے قتل کا واقعہ:

اس سال ذوالحجہ کے مہینے میں ابراہیم بن احمد الماذراتی نے دمشق سے آ کر خلیفہ کو یہ خبر سنائی کہ خمارویہ پر اس کے ملازمین نے حملہ کر کے اس کے بستر پر ہی اسے ذبح کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے لڑکے عنش کو اس کا قائم مقام کر دیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے گھر کا سارا سامان لوٹ لیا، اس کے بعد لوگوں نے دوسرے بیٹے ہارون بن خمارویہ کو اس کا قائم مقام بنادیا، جس نے اپنے اوپر یہ لازم کیا کہ وہ ہر سال خلیفہ کو پندرہ لاکھ دینار بھیجے گا۔ اس بنا پر معضد نے اس کی نیابت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کی جگہ جب مکلفی نے لی تو اس نے اس سے انکار کرتے ہوئے اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر محمد بن سلیمان الواشقی کو بحال کر دیا۔ اس طرح اس نے طولوں یوں کے مال کو اپنے لیے منتخب کر لیا؛ اور اس کی یہی گفتگو ان لوگوں سے آخری معاملہ کی تھی۔

اسی سال اس نے اکتوبر نام احمد بن طولون کو قید سے آزاد کر دیا، تو وہ انتہائی ذلت کے ساتھ مصراویٹ گیا، حالانکہ وہ اس سے پیشتر سب سے زیادہ مال، عزت اور مرتبہ کا مالک تھا۔

اس سال اسی امیر نے جس کا تذکرہ گزر گیا ہے، لوگوں کو حج کرایا۔



۱۔ حزیراں سال روی کا نواسہ مہینہ موافق ماہ اس اڑھ کے تھوڑے تفاوت سے۔ (کشوری، مترجم)

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں ان حضرات کا انتقال ہوا احمد بن داؤد ابو حینیہ اللہ یتھری اللہ یتھری جو کتاب النبات کے مصنف بھی تھے۔ اور

### اسماعیل بن اسحاق:

ابن اسماعیل بن حماد بن زید ابو اسحاق الازدی القاضی نے بھی اسی سال وفات پائی؛ اصل کے اعتبار سے یہ بصرہ کے تھے، مگر بغداد میں پہلے پھولے۔

اور مسلم بن ابراہیم اور محمد بن عبد اللہ الانصاری اور عینی اور علی بن المدینی سے حدیث کی ساعت کی یہ یہ زیرے حافظ اور فقیہ تھے، اور مالکی مذهب کے پیر و تھے، ابہوی نے بہت سی احادیث جمع کیں، ان کی کتابیں تصنیف کیں اور مذاہب کی تشرع کی۔

علاوه ازیں تفسیر حدیث اور فقہ وغیرہ فنون میں بھی ہی تصنیفات مکمل کر لیں، متوفی کے زمانہ میں سوار بن عبد اللہ کے بعد عبدة قضایا پر مأمور کیے گئے، پھر معزول کردیے گئے، اس کے بعد دربارہ قاضی بناء گئے، آخر میں تمام قاضیوں کے قاضی بنادیے گئے، ان کی وفات اچانک ہوئی، چہار شنبہ کی شب اور ذی الحجہ کی بائیسیں تاریخ تھی اور عمر اسی برس سے متزاوہ ہو گئی تھی۔

اور وفات پانے والوں میں الحارث بن محمد بن ابی اسامہ بھی ہیں، ان کی ایک مندرجہ مشہور ہے۔ اور

### خمارویہ بن طولون:

بھی ہیں۔ جو ۲۷۰ھ میں اپنے والد کے بعد بہت سے مصری شہروں کے مالک بنے اس نے اپنے والد الموقن کی جن حیات میں معتقد کے ساتھ رملہ کے علاقے میں زبردست لڑائی لڑائی دوسرا قول میں السعید کے علاقے میں معتقد ہوا تھا، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر لزر چکی ہے۔ اس کے بعد جب خلافت سے معتقد کو نوازا گیا تو اس نے خمارویہ کی لڑکی سے شادی کر لی، اور آپس کے لگزشتہ تمام اختلافات بھلا دیئے۔

اس سال کے آخر میں ماہ ذی الحجه میں پچھلے غلاموں نے سرکشی کر کے خمارویہ پر حملہ کر دیا اور اس کے بستر پر ہی ذبح کر دیا، کیونکہ خمارویہ نے اسے اپنی کسی باندی کے ساتھ مبتهم کیا تھا، بتیں برس کی عمر میں وفات پائی، اس کے بعد اس کے بیٹے ہارون بن خمارویہ نے اس کی حکومت سنہجاتی اور یہی شخص طولو نیوں کا آخری تاجدار ثابت ہوا۔

ابن الاشیر نے ذکر کیا ہے کہ:

### عثمان بن سعید بن خالد ابو سعید الدارمي:

نے اسی سال وفات پائی ہے۔ مسلم شافعی تھے اور امام شافعی نے شاگرد ابو طی سے علم فقہ حاصل ہے۔ وادی المیہ اور ہم نے پہلے ہی ایک مقام میں فضل بن عینی بن محمد بن امسیب بن موسی بن زہیر بن یوسف بن نیسان بن یاداہمی وفات کا تذکرہ کر دیا ہے جو کہ یمن کا بادشاہ تھا بادام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام تپول کر لیا تھا اور وفات پانے والوں میں:

### ابو محمد الشعراوی:

بھی ہیں، جو ادیب فقیہ، عابد، حافظ اور طلب علم میں دور دراز علاقہ میں سفر کرچکے تھے، یحییٰ بن معین کے شاگرد تھے، کتاب الغواہ فی الجرح والتعدیل وغیرہ میں ان سے روایتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح احمد بن حنبل اور علی بن المدینی رحمہما اللہ سے بھی احادیث حاصل کیں، خلف بن ہشام الباری سے باضابطہ پڑھا ہے اور علم اللغو کو ابن الاعرابی سے حاصل کیا جو کہ بہت ہی قابل اعتماد تھے۔

ان کے علاوہ

### محمد بن القاسم:

بن الحلا و ابوالعینا البصري الضرير بھی ہیں جو کہ شاعر، ادیب، بلغ صاحب لغتہ اور اصمی کے شاگرد تھے، ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب العیناء تھا، اس لقب سے پکارے جانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان سے لفظ عیناء کی تغیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو عیناء بتلایا تھا، ان کو ادب، حکایات اور مزاجیہ فنون میں پوری مہارت حاصل تھی۔ البتہ فن حدیث سے تعلق پکھ کر تھا۔



## واقعات — ۲۸۳

### ہارون الشاری الخارجی کا قتل:

اس سال مادھرم میں ہارون الشاری الخارجی سے موصل کے علاقہ میں قفال کے لیے خلیفہ مقضد بغداد سے نکلا اور اس پر حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، وہاں سے بغداد لوٹنے کے بعد ہارون الشاری کو چھانسی دینے کا حکم دیا، اس کو سولی دینے کا کام تمام ہونے کے بعد مقضد نے کہا:

لا حکم الاله ولو کرہ المشرکون.

”مشرکین پسند کریں یا نہ کریں مگر غلبہ اللہ کے نام کو ہو کر رہے گا۔“

اس قفال کے زمانہ میں حسن بن حمدان نے خوارج کے خت مقابلہ میں خلیفہ کا پورا پورا ساتھ دیا، اس لیے خلیفہ نے اس کے والد حمدان بن حمدون کو جیل خانہ سے آزاد کر دیا، جو کہ قلعہ مار دین کے ختنے کے زمانہ سے جیل خانہ میں مقید پڑا تھا، اسے آزاد کرنے کے علاوہ خلعت بھی بخشا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا۔

اسی زمانہ میں مقضد نے اپنے تمام علاقوں میں فرمائی جاری کردیا کہ مرنے والے کے مال متزوکہ میں اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہوئے ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد بھی اگر ترکہ فتح جائے اور کوئی عصبه قدرانہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا متزوکہ مال اس کی ذوی الارحام کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور یہ حکم ابو حازم القاضی کے فتویٰ کی بنابرنا فذ کیا گیا۔ ساتھ ہی قاضی نے اپنے فتویٰ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکم تمام صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ کی بناء پر ہے، صرف حضرت زید بن ثابتؑ کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورت میں بچا ہوا مال، بجائے ذوی الارحام کے دینے کے بیت المال

لے ذوی الفروض: میت کے وہ خاص رشتہ دار ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر ہے اور یہ چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں۔ (۱) شوہر۔ (۲) باپ۔ (۳) رادا (بصدق) (۴) ماں شریک بھائی۔ (۵) بیوی۔ (۶) بیٹی۔ (۷) بُوٹی (نیچے تک) (۸) حقیقی بہن۔ (۹) باپ شریک بہن۔ (۱۰) ماں شریک بہن۔ (۱۱) ماں۔ (۱۲) دادی (جدہ صحیح)۔

عصبہ: میت کے وہ خاص رشتہ دار ہیں جن کو قرآن و حدیث نے وارث تو بنا یا ہے لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، جیسے ہیں، مذکورہ ذو الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ پچے قرب و بعد اور وقت قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں کل وے دیا جائے گا۔

ذوی الارحام: میت کے وہ تمام داوھیائی اور ناہیائی رشتہ دار جو نہ ذو الفروض ہوں اور نہ عصبات ہوں، جیسے نواسے۔ فن فرائض میں مترجم کی کتاب سراجی کمال سے مترجم انوار الحجۃ قابی۔

میں آئیں مردیاں تھے اور یہ کہ موجودہ فتویٰ کی موافقت میں بن محمد بن الی شوارب بن الی حازم نے بخشی کی تھیں قاضی یوسف بن یعقوب نے انہوں حضرات فی محاجہت اور صحرت زید بن ثابت نے مدد یافت اسی نتائج پر مقصود نے صحت زید بن ثابت سے قوال ہی طرف مظہراً تمہارے کی اور نبی قاضی یوسف بن یعقوب نے فتویٰ پر فتحی نیا۔ ان سے ہجت بن حازم نے فتویٰ کو نامہ کر دیا۔ ان ہاتھوں سے باہ جو یوسف بن یعقوب کو مشتری صاحب کا قاضی مقرر کر دیا اور یہی خلعت دے رہا تھا نواز۔ اسی طرح ابو حازم کو دوسرے علاقوں کا قاضی بنادیا۔ یونکہ انہوں نے ابن الی شوارب کی موافقت فی اور ان سے ابو حازم کو بھی قیمتی جوڑوں کا بہدی پیش کیا۔

اسی سال مسلمانوں اور رومیوں کے قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا کیا چنانچہ رومیوں کے قبضہ سے دو ہزار پانچ سو چار مسلمان قیدی چھڑائے گئے۔

اس سال مغلبیوں نے قسطنطینیہ میں رومیوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس لیے مجبور ہو کر بادشاہ روم نے ان مسلمان قیدیوں سے مدد چاہی جو اس کے قبضہ میں تھے اور انہیں پورا تھیار مقابلہ کے لیے دیا چنانچہ ان مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا اور ان کا مقابلہ کیا تو وہ مقابلہ شکست کھا کر بھاگ گئے، اس کے بعد بادشاہ روم کو ان میں سے کچھ مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہیں مختلف شہروں میں منتشر کر دیا۔

اس سال عمر بن الیث نیشاپور سے اپنی تھی خاص ضرورت کی بات پر نکلا، چلتے وقت وہاں اپنا قائم مقام رافع بن ہرثمه کو بنا دیا، لیکن اس نے بر سر منیر محمد بن زید امظہری اور اس کے بعد میں کے حق میں دعا کی۔ اس بر سر عالم دعا کی خبر پا کر عمر و اس کی طرف لوٹ آیا اور محمد بن زید کا محاصرہ کیا، اس وقت تک کہ اس سے اس شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پھر رافع کو شہر کے دروازہ پر قتل کر دیا۔

اور اس سال خلیفہ نے اپنے وزیر عبد اللہ بن سلیمان کو عمر بن عبد العزیز بن الی دلف سے قوال کے لیے بھیجا، جو نبی عبد اللہ اس کے قریب گیا فوراً عمر بن عبد العزیز نے اس سے امان چاہا تو عبد اللہ نے اسے امان دے دیا، اور اسے پکر کر اپنے ساتھ خلیفہ کے پاس لے گیا، وہاں تمام امراء نے اس کا استقبال کیا اور خلیفہ نے اسے خلعت سے نوازا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں یہ حضرات ہیں ابراہیم بن مہران ابو احراق استقیم السراج النیشاپوری۔ ان کے گھر میں امام احمد بھی تشریف لا یا کرتے تھے وہ گھر مغربی جانب قطعہ الربيع میں تھا، وہاں آنے سے انہیں

۱۔ صقلب، صقلی، صقلابی، ایک قوم جو بلغار اور قسطنطینیہ کے درمیان رہا کرتی تھی اور بعد میں یورپ میں پھیل گئی۔ (المصباح، مترجم)

بڑی سر بیوں ملے۔ اور آکر بھی کہا کرتے رہے تاہل اعتماد اور نیک عالم۔ میں شمار جو تے تھے اس حوالے میں  
وفات یاں اور وفات پانے والوں میں اسحق بن ابراہیم بن محمد بن حازم ابوالقال مانگیں تھیں جنہیں یہ زادتیں ہیں جن کا  
گذشتہ سانوں میں تذكرة ہوا تے انہوں نے داؤد بن عمر اور علی بن ابی بعد نے معاویہ دوسرے بہت تر دوں سے حدیت کی  
سماحت فرمائے۔ امام دارقطنی نے انہیں زندگی میں اپنے صرف تھے کم آرٹیلیا بے اور کہا ہے کہ کوئی قومیں کھلی تاہل اعتماد، انہیں میں تقریباً اس  
برس کی عمر میں وفات پائی ہے نیز سلیمان عبد اللہ بن یوسف تستری ابو محمد بھی ہیں جو صوفیہ کے اماموں میں سے ایک ہیں انہوں نے  
ذوالون مصیری سے ملاقات کی ہے ان کے اتنے کلاموں میں یہ جملہ بہت پندیدہ ہے کہ گذشتہ کل کا دن مر چکا ہے آج کا دن  
حالت نزع میں ہے اور آئندہ کل ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ لہذا کوئی دن بھی تاہل بھروسہ باقی نہ رہا یہ جملہ ویسا ہے جیسا کہ اسی  
شاعر نے کہا ہے ۔

**ما ماضٍ فاتٍ والمُؤمَلُ غَيْبٌ وَلِكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا**

ترجھتا ہے جو دن گر رہیا وہ فوت ہو کیا آنے والے وقت کی صرف امید موبہم ہے اور تمہارے اختیار کا دن اور وقت صرف وہ ہے جس میں تم موجود ہو۔

ندورہ بزرگ ہمیں ہن عبد اللہ نے اپنے بھرپور شیخ سے تربیت حاصل کی ہے ان کا نام محمد ہن سوارت ہے ان کی وفات کے مسلمان میں ایک قدم پر راستے کا چھوٹا نہیں تھا وفاکوہ بھائی ہے وہ ایسا اعممہ انصوب۔

وفات پانے والوں میں یہ حضرت ادريس علیہ السلام نے اس سنت میں سمیعہ بن خراش اور ابوبکر علیہ السلام کی بحث میں حضور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سیاں اور سچے کہنے نے والوں میں سے تھے اور حدیث میں وہ کہا گیا اور جزوی تعداد میں مدد میں لفظ لکھنے کرنے والوں میں بھی شارب ہوتے تھے۔ ان پر یہ جو شیعیتِ الزم ایگا جاتا تھا، وہ اللہ اعلم۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ انہوں نے آنہ تک اسے ان لوگوں کے بڑوں سے پائی مرتباً یہ اپنے صلیٰ بنے مطلب یہ ہوا کہ طلب حدیث کے ذریعے مبلغ پر وہ علی بن محمد بن ابی الشوارب کے پاس جانے پر مجبور ہوئے۔ اور اس سال ان لوگوں نے بھی وفات پائی۔ عبد الملک اموی بھسری جو سامرا کے قصیر تھے اور ہے گا ہے قاضی القضاۃ تھے عبدہ پر بھی وہ فائز کئے گئے اور وہ ثابت میں سے تھے انہوں نے ابوالولید اور ابو عمر الحصی سے حدیث کی سماعت کی ہے اور خود ان سے نجاداً بن صالح نے روایت حدیث کی اس کے مارواہ بھی بہت سے ونوں نے ان سے بہت سے علوم حاصل کیے۔

ابن الرومي الشاعر:

یہ اشعار میں اپنے ایک مستقل دیوان کے مالک ہیں۔ ان کا نام ہے علی بن العباس بن بنت آنور اس دیوان کی روشنی سے مشہور ہیں۔ عبد اللہ بن جعفر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ فی البدایہ اشعار کتبے میں مشہور تھے ان کے پیدا شرعاً یہ ہیں

**ترجمہ:** جب تم بخیلوں کی تعریف کرو گئے تو تم ان کی ان عادات کو پڑھ کر، اسے جوان بھی فضائل کے بامواہیں۔

**۲۔ و تهدی لهم غصا طويلاً حسرةٌ** فسان من معناه امتنك النوال في العذار

**ترجمہ:** اور تم ان کو طویل غصہ اور حرست لی طرف لے جاؤ گے ایسی صورت میں اکڑو، تم کو دادو، باش دار ہیں تو انصاف ہی کی بات ہو گی۔

اور یہ بھی کہا ہے:

**۳۔ اذا ما كساك الدهر سر بال صحةٍ** ولم تخل من قوة يلدو يعذب

**ترجمہ:** جب زمانہ تم کو سخت کا لباس پہنانے ساتھ ہی تم کو اچھے اور مزدہ دار کھانے پینے کی چیزوں کے پسا ہونے کا تصور بھی نہ ہو سکے۔

**۴۔ فلا تغبطن المترفين فانهٗ** على قدر ما يكسوهم الدهر يسلبُ

**ترجمہ:** تو تم سرکشوں اور اورڈیگر مارنے والوں پر ہرگز رشک نہ کرو کیونکہ زمانہ جس انداز سے انہیں پہناتا ہے اسی انداز سے چھینتا بھی ہے۔

**۵۔ عدوك من صديقك واستفاد** فلا تستكثرن من الصحاب

**ترجمہ:** تم کو دشمن تھا رے دوستوں سے ہی ملیں گے لہذا پہنچا دوستوں کی تعداد ہرگز نہ بڑھاؤ۔

**۶۔ فسان الـداء اكتـرمـا تراـه** يكون من الطعام او الشراب

**ترجمہ:** اس لیے کہ تم کو اس بات کا تجربہ ہو گا کہ بیماریاں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔

**۷۔ اذا انقلـب الصـديـقـ غـدا عـدوا** مـيـنـا وـالـامـورـ الـى انـقلـاب

**ترجمہ:** جوں ہی کسی دوست کی دوستی میں فرق آئے گا وہ دشمن ہو جائے گا، کھلمن کھلا اور سارے معاملات الٹ جائیں گے۔

**۸۔ ولو كانـ الكـثـيرـ يـطـيبـ كـانتـ** مـصاحـبةـ الـكـثـيرـ منـ الصـوابـ

**ترجمہ:** اور اگر کسی چیز کی زیادتی ہی اچھی بات ہوتی تو زیادہ لوگوں کی دوستی بھی بہتر ہوتی۔

**۹۔ ولـكـنـ قـلـ ماـ اـسـكـثـرـتـ الاـ** وـقـعـتـ عـلـىـ ذـئـابـ فـيـ ثـيـابـ

**ترجمہ:** لیکن تھا رے چھ دوست تو کم ہی ہیں جن کو تم نے زیادہ سمجھ رکھا ہے مگر اس صورت میں کہ تم ایسے بھیڑیوں میں پھنس جاؤ جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوں۔

**۱۰۔ فـدـعـ عـنـكـ الـكـثـيرـ فـكـمـ كـثـيرـ** يـعـافـ وـكـمـ قـلـيلـ مـسـتطـابـ

**ترجمہ:** لہذا تم زیادہ دوستوں کو خود سے علیحدہ کرو کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بر اجان کر چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑے ہی ایسے ہوتے ہیں جو عمده سمجھتے ہیں۔

۱۰. وَكُفِّرَ الَّذِي فِي النَّطْفِ الْعَذَابُ

ترجمہ: اور بزری موصیں ہیں ہماس کر جائے، ای نہیں ہوتی ہیز بلکہ، وہ خوش منظر جو ابھی نہد کی شکل میں ہو وہی تکلیف پہنچانے کے لیے کافی ہے۔

۱۱. وَمَا الْحَسْبُ الْمُوْرُوثُ الْأَدْرَدُ رَهْ

ترجمہ: اور نہیں ہے خاندانی حسب کا دعویٰ مگر وہ تو منہ کا بول ہے وہی شمار ہو گا جس کے ساتھ اس کی اپنی حاصل کی ہوئی کمائیاں بھی ہوں۔

۱۲. فَلَا تَكُلُ الْأَعْلَى مَا فَعَلْتَهُ

ترجمہ: لہذا تم بھروسہ کر دیگر صرف اسی کام پر جو تم نے کیا ہے، اور تم کسی کی ذاتی شرافت کو خاندانی اعتبار سے قابل و راثت نہ سمجھو۔

۱۳. وَلَا تَحْسِنِ الْمَحْدُورِثَ كَالنَّسَبِ

ترجمہ: کیونکہ کوئی شخص بھی سردار نہیں مانا جاتا مگر اس کے اپنے کام سے اگر چوہ شمار کرتا ہو اپنے شریف باپ دادوں بڑے خاندان والوں کو۔

۱۴. فَلَيْسِ يَسُودُ الْمَرءُ الْأَبْفُلُهُ

ترجمہ: اس لیے کہ جب کوئی درخت سوکھ کر لکڑی بن جائے تو اکر چاصل کے اعتبار سے وہ درخت پھل دینے والا ہو لیکن اب تو لوگ اسے لکڑی ہی شمار کریں گے۔

۱۵. إِذَا لَعُودَ لَمْ يَشْرُوْانْ كَانَ أَصَاهَ

ترجمہ: اس لیے کہ جب کوئی درخت سوکھ کر لکڑی بن جائے تو اکر چاصل کے اعتبار سے وہ درخت پھل دینے والا ہو لیکن اب تو لوگ اسے لکڑی ہی شمار کریں گے۔

۱۶. وَلَلَّمَحْدُورِثَ كَوَامُ وَلَمْ يُعْنُوا بَأَمَّ وَلَا بَابُ

ترجمہ: اور بزرگی کے لائق وہی قوم سمجھی جاتی ہے جس نے اپنی شریف ذاتوں کے ساتھ اسے بلند کیا ہو اور وہ لوگ صرف اپنے والدین کی بناء پر بڑے نہ شمار کیے گئے ہوں۔

۱۷. لَوَّاً مِنْ اشْكُوْالِيْهِ رَحِيمُ

ترجمہ: میرا دل بیار آنکھ کی وجہ سے (دیکھ کر) بیمار ہے کاش میں جس کے پاس شکایت لے کر جاؤں اس کے اندر رحم کا مادہ ہوتا۔

۱۸. فِي وَجْهِهَا ابْدًا نَهَارٌ وَاضْخُ

ترجمہ: اس محبوبہ کے چہرہ میں چمک کی وجہ سے ہمیشہ چمکدار سورج ہے اور اس کے کالے بالوں کی وجہ سے اس کے سر پر کالی رات ہے۔

۱۹. اَنْ اَقْبَلَتْ فَالْبَدْرُ لَاحُ وَانْ

ترجمہ: اگر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا چہرہ چودھویں رات کا چاں ہے اور اگر وہ چلتی ہے تو زماں کت کم وجہ سے

محکم شاخ تھے اور اگر سنگتی بتوہ سفید ہنی تھی۔

۲۰. نعمت بھا عین فضل عاذبها      نکم عنده فدحته ام اعمم

ترجمہ: اس سے میرن آنکھ بند ہوئی ایں اس کی تکلیف شویں ہوئی اور تمہاری تکلیف وائیں ہے نے فتوں نے حاصل کیا ہے۔

۲۱. نظر فاقص دلت الغواص بسمہما      شم اثنت سحوی فکذث اهیم

ترجمہ: جب وہ دیکھتی ہے تو میرے دل کو بھی اپنے تیر کا نشانہ بناتی ہے پھر جب وہ میری طرف رخ موڑتی ہے تو قریب ہوتا ہے کہ میں حیران و پریشان ہو جاؤں۔

۲۲. وبلہ ان نظرت و ان ہی اعرضت      وقوع السهام و وقوعهن الیم

ترجمہ: اس کے لیے برائی ہے جبکہ وہ نظر ڈالے اور جب وہ منہ موڑے تو تیروں کی بوچھاڑ ہے اور ان کی بوچھاڑ انتہائی تکلیف دہ ہے۔

۲۳. سا مستحل دمی محروم رحمتی      ما الصدف التحلیل والتحریم

ترجمہ: اے میرے خون کو جلال جانے والی اور مجھے یہ رحم کرنے کو حرام کرنے والی تو تیرے حلال بھٹکنے مجھ پر انصاف کیا اور منہ حرام بھٹکنے انصاف کیا ہے۔

۲۴. آراء کم و وجوہ کم و سیوف کم      فی الحادیات اذا زحرن نجوم

ترجمہ: تمہاری رائیں تمہارے چیزوں اور تمہاری تکواریں جب حادیات کے وقت مقابل میں آ جائیں تو وہ مثل تاروں کے ہیں۔

۲۵. منها معانم للهدى و مصابح      تحلو الدُّجَى و الأُخْرَيَاتُ رجوم

ترجمہ: کہ ان تاروں میں کچھ تو مسافروں کے راستوں کے لیے نشان راہ اور چراغ ہیں، جو تاریکیوں کو دور کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شیطانوں کے لیے مار بنتے ہیں۔

### سبب وفات:

کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت ۲۲ھ میں ہوئی اور اسی سالی روایا میں ان کی وفات ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کے سال میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۲۲ھ میں ہوئی ہے۔ ان کی وجد وفات کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ معتقد کا ایک وزیر قاسم بن عبد اللہ ان کے بھوپالی اشعار اور ان کی زبان سے بہت ذر تھا اس لیے ایک مرتبہ اس نے ان کے کھانے میں ان کی موجودگی میں کوئی زہر یعنی چیز چھپا امر ملا دی اس کو جب انہوں نے کھایا اور زہر کو پے حلق میں محبوس کیا تو یہ اس دسترنوں سے انھوں کھرے ہوئے جس پر وزیر نے ان سے کہا کہ آپ کھانا چھوڑ کر کہاں پڑے؟ جواب دیا کہ جس جگہ تم نے بھیجا ہے وہیں جا رہا

ہوں (مرنے کو) تو زیر نے کہا، اجھا تو مال پہنچ کر میرے والدین کو سلام کہدا ہے۔ جواب دیا میں جہنم کے قریب نہیں جاؤں گا جہنم وہ جہنم میں جاؤں ہے۔

اور وفات یا نہ والوں میں

### محمد بن سلیمان:

بن الحرب ابو مکر البا غندی الواسطی: جو حفاظ حدیث میں سے تھے اور ابو داؤد ان سے حدیث کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے اس کے باوجود دوسرے محمد شین نے ان کے سلسلہ میں چہ میگوئیاں کی ہیں اور انہیں ضعیف بھی بتایا ہے۔

### اور محمد بن غالب بن حرب:

ابو جعفر الفضیل جو تہذیم سے مشہور تھے انہوں نے سفیان، قبیصہ اور قعنی سے احادیث کی ت ساعت کی ہے اور ثقات میں سے تھے، مگر دارقطشن نے کہا ہے کہ گاہے یہ غلطی بھی کر جاتے تھے۔  
نوے بر س کی عمر پا کرو فات پائی۔ اور

### بختی شاعر:

بھی اس سال وفات پانے والوں میں ہیں، جو مشہور دیوان کے ماں ہیں، اصل نام ولید ابن عبادہ تھا اور انہیں ابن عبید بن بکری ابو عباد الطائی البختی الشاعر بھی کہا جاتا تھا، ان فتحا نہیں بخ کا تھا، لیکن بنداد میں منتقل ہو گئے اور وہ باں خلیفہ وقت کے علاوہ دوسرے امرا اور حکام کی مدح سراتی میں اشعار کہنے لگے، انہوں نے مدحیہ اشعار اپنے مرشیہ اشعار سے زیادہ اچھے کہے ہیں، ان کے ساتھ جب یہ حقیقت ظاہر کی گئی تو کہنے لگے کہ لائج اور احمد میں تو مدحیہ اشعار کہنے مگر دوستی اور تعلقات کا حق ادا کرنے کے لیے مرثیے کہے ہیں اور ان دونوں میں کافی فاصلے ہیں، ان کے اشعار مبرد ابن دستور یہ اور ابن المرزبان نے استدلال میں پیش کیا تھا ایک موقع پر ان سے کہا گیا کہ آپ ابو تمام شاعر سے بھی بڑے شاعر ہیں تو جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے اگر ابو تمام نہ ہوتے تو میں اس شاعر سے روئی نہ کھا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ہمارے استاد تھے۔ یہ بختی فی البدیہ یہ شاعری کرنے والے اور بہت انسان فتح اور بلغ تھے جب یہ اپنے وطن لوئے تو سال رواں میں ویس ان کا انقال ہو کیا، اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے بعد ۱۰۰۰ میں انقلاب ہوا۔



## واقعات — ۲۸۳

اس سال ماه محرم میں رافع بن ہرثمه کا سر بغداد لایا گیا، تو خلیفہ کے حکم سے اس شہر کے مشرقی حصہ میں اس سرکو ظہر تک عوام کو دکھانے کو لٹکا کر رکھا گیا۔

اس سال ماہ ربیع الاول میں قاضی ابن ابی الشوارب کی وفات کے پانچ ماہ اور چند دنوں کے بعد ان کی جگہ اس عہدہ قضا پر محمد بن یوسف بن یعقوب کو فائز کیا گیا، ان پانچ مہینوں تک یہ عہدہ خالی رہا۔

اس سال ماہ ربیع الآخر میں ایک دن مصر میں دن کے وقت اچانک اندھیرا چھا گیا اور آسمان کے کنارے بالکل سرخ ہو گئے، اس حد تک کہ جب کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا تو ہر ایک کو دوسرا سرخ معلوم ہوتا، صرف انسان ہی نہیں بلکہ درود یا روحی سرخ نظر آنے لگے تھے۔ یہ کیفیت عصر سے رات تک رہی اس لیے لوگ بھرا کر شہر سے نکل کر میدانی علاقے میں چلے گئے، اور وہاں اللہ کے دربار میں کافی دیر تک آہ و زاری اور توبہ و انتغفار میں رہے، تو یہ کیفیت دور ہوئی۔

اس سال خلیفہ مقتضد نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے نام پر بر سر منبر لعن کرنے کے لیے حکم دینے کا ارادہ کیا، مگر ان کے وزیر عبد اللہ بن وہب نے ایسا کرنے سے ڈرایا، اور کہا کہ عوام ان ہاتوں کو دل سے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بازاروں اور اپنی جامع مسجد اور اجتماعات کے موقع پر ان کے ترجم اور ترضیہ (رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے) مگر مقتضد نے اپنے وزیر کی مخالفت پر کوئی دھیان نہ دیا اور اپنا حکم نافذ کرنے کے لئے نقول ملک کے تمام خطیبوں کے پاس بھجوa دیئے، اس طرح پر کہ وہ اپنے خطبوں میں معاویہ پر لعن کریں اور خود ان کی اور ان کے بیٹے یزید بن معاویہ بن ابی سفید اور ان کی جماعت کی برائیاں اچھی طرح بیان کریں اور اپنی تائید میں حضرت معاویہ بن ابی سفید کی برائیوں سے متعلق من گھڑت روایتیں بھی ان میں لکھ دیں، چنانچہ بغداد کے دونوں حصوں میں ان احکام کی تعمیل ہونے لگی اور عوام کو حضرت معاویہ بن ابی سفید کے نام سے ترمیم اور ترضیہ کرنے سے روک دیا گیا۔ مگر وہ وزیر خلیفہ سے اپنی بات برابر کہتا ہی رہا، یہاں تک کہ دوران گفتگو یہ بھی کہہ دیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ کا یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے انگلے خلقاء میں سے کسی نے بھی ایسا کبھی نہیں کیا ہے، اور آپ کے اس طرزِ عمل سے عوام آپ سے ناراض ہو کر ان حضرات کے مانے والوں سے بن جائیں گے، اور ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے، بالآخر مقتضد اپنے ملک پر بغاوت کا نظرہ حسوس کر کے اپنی حرکت سے بازاً گیا، اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھنے کے وہ درحقیقت عقیدہ صابی تھا اور حضرت علی بن ابی شہود کو کافر کہا کرتا تھا، اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ مقتضد کا اس حرکت پر آمادہ ہونا خود اس کے اپنے خیالات کی انجی ہے۔

اس سال مد شہروں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ فرضی قصے بیان کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر حالات بتانے والے اور

لیکن جھگڑا اکتنے والوں کی پار لگائے محمد بن علی بھی سمجھا ہے اگرچہ اور یہ بھی سمجھا ہے کہ نوروز کے معاملہ میں اہتمام نہ کر جائے، مگر بعد میں نوروز کی ممانعت کا علم ختم کر دیا اس کے بعد تو وہ لوگ زیادتی پر اتر آئے اور رہائی مسافر کو بھی پانی سے بھاگنے لگئے اس سے بھی بڑھ کر فوجوں اور پولیس والوں پر بھی پانی ذاتے لگئے یہ حراثت بھی معتقدنی لوتا ہیوں میں شمار ہوئی۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال نجومیوں نے دعویٰ کیا کہ اکثر مالک میں جائز ہے کے موسم میں باش اور بیلب کی زیادتی کی وجہ سے ندیاں اور نالے سب امنڈ آئیں گے۔ یہ وحشتناک خبر سن کر رُور کے مارے لوگ پیاڑوں کی چوٹیوں اور کھو ہوں میں منتقل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نجومیوں کی پیشینگوں کو بالکل جھٹلا دیا، اس طرح کہ اس سال سے کمر بارش اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، تدیوں اور نالوں کا پانی بھی بہت کم ہو گیا، اور سارے علاقوں میں قحط سامی ہو گئی، مجبور ہو کر لوگوں نے بندرا اور دوسرے شہروں میں بھی پار بار استقاء کی نمازیں ادا کیں، اور ابن الجوزی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سال دارالخلافہ میں رات کے وقت ایک شخص ہاتھ میں نگلی تکوار لیے ہوئے چکر کھاتے ہوئے دیکھا جاتا، لوگ اسے جب پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ نجف لکھتا، پھر دوسرے گھروں میں کھیتوں اور باغوں اور دارالخلافہ کے آس پاس کے علاقوں میں نظر آتا، لہذا اس کی کوئی صحیح خبر نہیں پائی جاتی۔ بالآخر معتقدن کو اس بات سے زبردست حیرانگی ہوئی، یہاں تک کہ حفاظتی انتظام کے طور پر اسے دارالخلافہ کی چهار دیواریوں کو ازسرنو بنانے اور محافظین کے درمیان ازسرنو انتظامات کرنے پڑے، مزید برآں چاروں طرف محافظین کا پھرہ سخت کر دیا، مگر کسی مقام کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا، تب اس نے متزیر پڑھنے والوں جادوگروں اور نجومیوں سے بھی اس عقدہ کو حل کرنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے بھی اپنی بھرپور کوششیں کیں اگر سب لا حاصل ہوئیں اور سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔

اس طرح بہت دنوں کے بعد واقعہ سے پردہ چھٹا اور صحیح نہیں مانے آئی، تو یہ معلوم ہوا کہ وہ خادموں میں سے ایک خصی خادم ہے اور معتقد کی بہت ہی خاص باندیوں میں سے کسی ایسی باندی پر دہماشق ہے جہاں اس جیسے کی پہنچ بلکہ اس تک دور سے بھی نظر کرنا اس جیسے کے لیے ناممکن ہے، لہذا اس نے مختلف سائزوں اور رنگوں کی ڈاڑھیاں اکٹھی کر کے ہر رات ایک ایک طرح کی وہ اپنے چہرے پر لگا کر آتا، اور لباس بھی ڈرانے نہ نقصہ کے اس نے بنا کر تھے، جن میں سے ہر رات کو پہلے حصوں میں وہ پہن کر باندیوں کے پاس پہنچ جاتا اور انہیں ڈر کے مارے جیسے دیکھ کر نے لیں اور نوکر چاکر اس پر ہر طرف سے دوڑ پڑتے، ایسے وقت میں کسی کونے میں جھپپ کروہ اپنی مصنوعی داڑھی اور لباس کو اتار کر اپنی آستین میں لے لیتا یا کہیں ادھر ادھر ایسی جگہ پھینک دیتا جس کا وہ پہلے سے اختیاب کیے ہوتا، پھر خود کو اس طرح ظاہر کرتا کہ وہ بھی ان خادموں اور محافظوں میں سے ایک ہے، اور بناوٹی سوال کرنے لگتا کہ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور اس انداز سے تکوار ہاتھ میں لے لیتا کہ وہ بھی ان باتوں سے گھبرا یا ہوا ہے، اس بھیز بھاڑ میں جب ساری باندیاں جمع ہو جاتیں تو اسے اپنی مطلوبہ، محبوبہ پر نظر ڈالا ممکن ہو جاتا اور اشاروں اور کنایوں میں دنوں میں دل کی باتیں کچھ زبان پر آہی جاتیں، یہی معاملہ مقتدر کے زمانے تک چلتا رہا، تب مجبور ہو کر اسے طرسوں کے علاقے میں لڑائی کے لیے جانے والی فوج میں بھیج دیا گیا، اس وقت یہ باتیں اسی باندی نے ظاہر کیں اور حقیقت حال واضح کی۔ بالآخر اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔

کوں سال پہلے اس سال نہادی یا یہ تھے تھے صرفِ حضرت اُنہیں بیٹھنے لگی تھیں اس لیے اس کے بعد تمادی یا یہ کام کوں  
لے اس سے بہت سامنہ معاشرت کی تھیں بھائیت کے لیے مقرر کرو دیا۔ اس کا نام مولانا حضرت بن ابرار شافعی اس نے مشترک بنا اور عوام کے  
کام پڑھتا ہے اور مولانا حضرت اکرم رضیٰ کے حالت پر قابو پایا جلد تھا۔ یہ کے انتقال کے بعد اسے نام صدیق بن حبیب کی سبقتی بھی باختصار  
لوگوں نے ہیئت نہیں کی تھیں اور ان میں بہت زیادہ بے تھیں آگئی تھیں اس لیے بدرا جماعتی اور اسن بن احمد اماز رانی کی مکرانی  
میں بھارتی اختر بھیج دیا۔ ان دونوں نے سب حالات درست کر دیئے اور طلحہ بن خلف کو نائب حاکم بنا کر مصری علاقوں میں  
دونوں والپیں آ گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال وفات پانے والوں میں مشہور حضرات یہ ہیں:

### احمد بن المبارک ابو عمر المستملی

ابن ابی انس شاپوری اُن کا لقب حکومیہ العابد تھا، قبیہ احمد اور اسحاق وغیرہم سے احادیث کی اساعت میں بھی  
سال تک احادیث اقل کرتے رہنے یہ دنیاوی اعتبار سے اختم بحال اور دنیا سے کنارہ کش تھے ایک دن ابو عثمان سعید بن اسما علی  
کی محفل میں یہ ایسے وقت میں پہنچ جبکہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول تھے ان کی یہ حالت دیکھ کر ابو عثمان روا کر  
فرما۔ لئے کہ تھے ایک ایسے شخص کو ابھی دیکھ کر رونا آرہا ہے جس کے پہنچے بدتر حالت میں ہیں مگر وہ خود ہرے ہی علم و فن  
و ایسا نہیں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اُن کی یہ تقریر سنتے ہی حاضرین اپنی اپنی انکوٹھیاں کپڑے اور نقد دینا رہ  
ورہم شیخ ابو عثمان کے پاس جمع کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ان کے پاس امدادی سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا تو وہی ابو عمر المستملی اپنی  
گلہ سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ حضرات ایسی ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں اس شیخ نے اپنی گفتگو  
میں ابھی تذکرہ رکھا ہے اکر رکھتے یہ بات مکروہ نہ معلوم ہوتی کہ ان پر غلط بیانی کا الزام لگایا جائے تو جیسا کہ انہوں نے مجھے ظاہر  
نہیں کیا۔ میں بھی نو دو کو ظاہر نہ کرتا۔ تو شیخ کو ان کے اس اخلاص سے گفتگو کا بہت اثر ہوا اس کے بعد تمام جمع شدہ مالہ ابو عمر و نے  
لے لیا اور مسجد کے دروازہ پر پہنچتے ہی سارا مال فقراء اور حاجتمندوں میں اسی وقت تقسیم کر کے ختم کر دیا۔ ان کی وفات اسی سال  
جماعی الآخری کے نبیہہ میں ہوئی۔

وفات ہائے والوں میں۔

### اسحاق بن الحسن

بھی ہیں۔ نام اہن مبیون بن سعد ابو یعقوب الحربی ہے۔ انہوں نے عثمان اور ابو نعیم وغیرہما سے حدیث کی اساعت کی  
ہے۔ یہ ابراہیم الحربی سے تین سال بڑے تھے۔ بہب ان اسحاق کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کا اعلان کردیا گیا تو اعلان سنتے

یہ شہر والے جنازہ کی نماز تین شرکت کے لیے ان کے گھر پر جمع ہونے لئے گھر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم اُمریلی کا انتقال ہوا ہے اور اسی خاطر نہیں وہاں نے صور پر چھٹے ان سے مذاکرات ہوئے یہ لوگوں نے کہا تھا اب توک عدالت پر آئے ہیں اسیکی وجہ سے اپ توکوں کو آتا ہوا کا۔ جنما پھر اس سے بعد ایک ماں جس دو زندگی رہ دیتے۔ اور ایک دوست یہے والوں تھیں۔

### اسحاق بن محمد بن یعقوب:

الزہری میں، نوے سال کی عمر پائی، ثقہ اور نیک تھے اور اسحاق بن موسی بن عمران الفقيہ ابو یعقوب اس فرائیمی شافعی بھی ہیں، یہز عبد اللہ بن علی بن الحسن بن اسما علیل ابو العباس بالشی ہیں بغداد میں اس وقت ان کی یہ شہرت تھی اور انہیں جامع الرصادف کی امامت بھی حاصل تھی اور عبد العزیز بن معاویہ العتابی جو عتاب بن اسید بصری کے خاندان اسے تھے بغداد میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور ازہر سان اور ابو عاصم التبلیل سے احادیث بیان کی ہیں اور یہز بن الحیثم ابن طہمان ابو خالد الدقاقد جو الہاد کے نام سے مشہور تھے، ابن الجوزی نے کہا ہے بہتر بات یہ ہے کہ ان کو الہاد کی جگہ الہادی کہنا چاہئے، کیونکہ یہ جزویں پیدا ہوئے تھے اور پیدائش کے وقت دلوں میں اول یہی تھے انہوں نے یہی بن معین وغیرہ سے روایت کی ہے اور یہ شفہ اور نیک تھے۔



## واقعات — ۲۸۵

اس سال صالح بن مدرک الطافی نے الاجفر کے مقام پر حجاج پر حملہ کیا اور ان کے مال اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا، کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ان سے مجموعی طور پر دس لاکھ دینار کی قیمت کا سامان لوٹا تھا، اور اسی سال ماہ ربیع الاول کی بیسویں تاریخ کو کوفہ کے دیہاتی علاقوں میں اولاد اتار کینی صدے زیادہ چھائی تھی، پھر بھل اور زبردست کڑک کے ساتھ اتنی زیادہ بارش ہوئی جس کی نظر سخنے میں نہ آئی تھی۔ بعض دیہاتوں میں بارش کے ساتھ سفید اور سیاہ رنگ کے پتھر بھی گرے تھے اور الوں میں ایک ایک اولڈ ڈرہ سود رہم کے وزن کا بھی گرتا تھا، اور طوفانی ہواں نے بہت سے بھجور کے درخت اور ان درختوں کے جو جلد کے آس پاس تھے سب کو بالکل جز سے اکھاڑ پھینکا تھا، وجد کا پانی اتنا زیادہ امنڈ آیا کہ بغداد کے ڈوب جانے کا، ہی خطرہ ہو گیا تھا۔ اسی سال موفق کے آزاد کردہ فلیم راغب الخادم نے رومی شہروں پر حملہ کر کے بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا اور بے شمار بچوں کو قید کر لیا، اور تین ہزار مرد جو اس کے پاس قیدی تھے سب کو قتل کر دیا۔ پھر صحیح و سالم کامیاب فتح مند ہو کر لوٹ آیا، اس سال محمد بن عبد اللہ الہاشمی نے لوگوں کو حج کرا یا۔

### مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں، احمد بن عیسیٰ بن اشیح صاحب آمد ہیں، ان کے بعد ان کے لڑکے محمد نے ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ تب معتضد اور ان کے لڑکے المکتفی باللہ نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا، مجبور ہو کر اس نے ان کے سامنے گھٹنے لیکر دیئے، اور ان کی اطاعت قبول کر لی، اس لیے معتضد نے بھی اس کے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے کر خلعت سے نوازا اور اس کے خاندان والوں کا اعزاز و اکرام کیا اور اپنے بیٹے المکتفی کو اس کا خلیفہ مقرر کر دیا، پھر قسرین اور عواصم کے علاقوں میں چلا گیا، اور ان علاقوں کو ہارون بن خمارویہ سے اپنے قبضہ میں لے لیا، پھر اسے کچھ اختیارات دیئے، اور کچھ مصلحت کر لی۔

اسی سال ابن الاخید نے رومیوں کے علاقہ میں طرسوس والوں سے جنگ کی اور اللہ نے اس کے ہاتھوں بہت سے قلعے فتح کر دائے، اس لیے اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔  
او مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں

ابراهیم بن اسحاق:

بھی ہیں، جن کا نام ابن بشیر بن عبد اللہ بن رستم ابو اسحاق الحرمی ہے، جو فتنہ وحدیث وغیرہ کے فون کے اماموں میں سے

ایک ہیں اور وہ زادہ عابد بھی ہیں، احمد بن حنبل سے مسائل پیکھے اور ان سے بہت ای رہ، تیس بیان کی ہیں۔  
درست قطبی نے ہے ہے تو ابراہیم المخرجی، یام وقت، مشفق، بری، ملکہ نہ صاف علم میں ماہر انتہائی پیچے تھے۔ نہ  
یہ بیزگاری اور علم میں ان کو امام احمد بن حنبل جیسا سمجھا جاتا تھا۔

ان کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ”ساری امت کے سارے عقول، نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو شخص اپنی  
تقدیر پر ارضی نہ ہو گا وہ اپنی روزی سے مطمئن ہو کر سونہیں سلتا ہے“ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بہادر مردوں ہے جو  
اپنے غم کو صرف اپنے اوپر ہی باقی رکھے اور اپنے گھروالوں پر بھی ظاہرنہ کرے چنانچہ چالیس سال میں آدھی سیسی سر کے درد کے  
مرض میں بتلار ہاگر میں نے اپنے گھر کے بھی کسی فرد پر اسے ظاہرنہیں کیا، اور اپنی زندگی کے ستر برس سے بھی زائد عمر میں کبھی بھی  
اپنے گھروالوں سے نہ دن کا کھانا ناٹکا اور نہ رات کا۔ بلکہ اگر کھانے کو گھروالوں نے کچھ دے دیا تو کھالیا اور نہ صبر کر لیا۔ لوگوں  
نے بیان کیا ہے کہ کسی رمضان کے مہینہ میں اپنے اور گھروالوں کے لیے ڈیزی ہدایم خرچ کرتے تھے، ان کے باور پری خانوں  
میں دوسرے لوگوں کی طرح کھانے نہیں پکتے تھے، بلکہ بھونے یا ابلے ہوئے بیگن یا موی کا شور بہ یا ایسی ہی چیزیں ہوا کرتیں،  
ایک مرتبہ امیر المؤمنین معضدنے ان کے پاس دس ہزار درہم ہدایہ بھیجے، تو انہوں نے ان کے لینے سے انکار کر دیا، اور وہ واپس  
کر دیئے، دوبارہ خلیفہ کا آدمی وہ درہم لے کر آتا، اور کہا کہ خلیفہ نے کہا ہے کہ آپ یہ درہم اپنے محلے کے ان لوگوں میں تقسیم کر  
دیں جنہیں آپ غریب سمجھتے ہوں، جواب دیا کہ میں نے ان کا نہ شمار کیا ہے اور نہ اس بارے میں ہم سے بروز قیامت سوال کیا  
جائے گا، اس لیے ان درہم کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور اب تم امیر المؤمنین سے  
یہ کہہ دو کہ آئندہ اس قسم کی کوئی بات ہم سے نہ کہیں بلکہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ورنہ ہم اس علاقہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے  
جائیں گے۔

ان کے مرض موت کے دنوں میں ان کے کچھ احباب ان کی عیادت و گھر میں آئے تو کسی بھی نے ان کے سامنے اپنی  
پریشانیوں کا حال بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کھانے کو سوکھی روٹی اور نمک کے علاوہ کچھ بھی میرنہیں ہوتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے  
کہ نمک بھی میرنہیں ہوتا۔ یہ ان کرانہوں نے بیٹھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنی فقیری اور محتاجی سے ذریتی ہو دیکھو میری کتابوں  
کے انبار ہیں، بارہ ہزار اجزا امیرے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں، تم ہر روز ان میں سے ایک جزو، ایک درہم میں بھی پیچو (جو آسانی  
فروخت ہو جائیں گے) تو اس طرح جس کے پاس بارہ ہزار درہم ہوں وہ کیونکہ فقیر ہو سکتا ہے؟

ان کی وفات اس سال تھیوں میں ذی الحجه کو ہوئی، اور یوسف بن یعقوب القاضی نے باب الانبار کے پاس ان کے جنازہ  
کی نماز پڑھائی، جنازہ میں بے شمار نمازوں نے شرکت کی اور وفات پانے والوں میں:

المبرد الخوی:

بھی ہیں۔ نام یہ ہے: محمد بن یزید الاکبر ابوالعباس الازدی الشاذلی ہے اور المبرد الخوی سے مشہور ہیں، بصرہ کے رہنے

والے، فتن لغت اور زبان سرپری کے امام تھے انہوں نے یہ معلوم مازنی اور ابو عاصم الجحتانی بیسے اماموں سے حاصل کیا۔ یہ قتل نعوم میں شفیق اور فاضل اعتماد تھے، تلمذانی ہیں یہ مازنی کا مخالف تھا۔ تھے انہیں ائمہ امام اکاں فی ۱۷۰ ب بینے ان کا مامہہ وہ ششہن وجہ تسمیہ یہ ہے کہ امداد کے ذریعے انہوں نے امام حاتم سے یہاں ایک دارخواز تھے یعنی چبپ رہ جان پڑائی تھی۔

میرہ نے نہیا ہے کہ ایک مرتبہ ہنس رو میں اپنے پچھا جناب سے سماں تھو پاگل خانے میں پاگھوں کے پاس پہنچا تو، یہاں کر ان میں ایک نوجوان اچھی صورت و شکل اور ایک بس میں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں ابھی نووارد ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی سلام کیا اور دریافت کیا کہ آپ لوگ کس جگہ کے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ”ہم عراقی ہیں“ اس نے کہا میں اپنے والد کو عراق اور اس کے باشندوں پر فدا کرتا ہوں۔ اب آپ ہمیں پچھا شاعر سنائیں یا میں آپ لوگوں کو سناؤں، ہم نے کہا: آپ ہمیں سنائیں، تب وہ یہا شاعر سنانے لگا:

۱. اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي كَمْ لَا إِسْطَبْعَ بِثَمَّةِ

ترجمہ: اللہ ہی جانتا ہے کہ میں غم کا مارا نہ ہمال ہوں، میں اپنی اندر ورنی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں۔

۲. رُوحَانِ لَى رَحْضَمَنَهَا بَلَدُو اخْرَى حَازَهَا بَلَدُ

ترجمہ: میری دور و صیل ہیں ایک پر ایک شہر فرض قصہ کر رکھا ہے اور دوسرا کو دوسرے شہر نے اپنے اندر سمیت رکھا ہے۔

۳. وَارِي الْمَقِيمَةِ لِيُسْ بَدِعَنَهَا صَبَرُوا لَا يَقُولُ لَهَا جَلَدٌ

ترجمہ: اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری روح جو اس شہر میں موجود ہے اس کو کسی طرح بھی صبر نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی بہادری کے اظہار سے اسے قوت حاصل ہو سکتی ہے۔

۴. وَاظْنَ غَابِتَسِي كَحَاضِرَتِي بِمَكَانَهَا تَحدِ الدِّيْنِ اَحَدٌ

ترجمہ: اور یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ میری روح جو غائب ہے وہ بھی اسی طرح ہے جو ابھی میرے پاس ہے اپنی جگہ موجود ہے اس جگہ تم بھی وہی کیفیت محسوس کر رہے ہو جو میں محسوس کر رہا ہوں۔

۵. لَمَّا آتَاهُوا قَبِيلَ الصَّبِيجِ عَيْرَهُمْ وَ حَسَلُوهَا هَشَارَتْ بِالْهَوِيِ الْأَبِيلِ

ترجمہ: جب ہماری محبوبہ کے قبیلہ والوں نے آخری شب میں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور میری محبوبہ کو اس پر سوار کر دیا تو وہ محبت کی وجہ سے اونٹ پر سے گود پڑی۔

۶. وَ ابْرَزَتْ مِنْ خَلَالِ السُّجَنَفِ نَاظِرَهَا تَرْنُوا إِلَيْيَ وَ دَمْعَ الْعَيْنِ بِنَهْمَلِ

ترجمہ: تو اس نے پردوں کے درمیان سے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اپنا پھرہ ظاہر کر دیا، اور انکلی باندھ رمیری طرف دیکھنے کیلئے، اس حال میں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بنتے جا رہے تھے۔

۷. وَ دَعَتْ بِينَانَ عَقْدَهَا عَنْمَ فَادِيتْ لَا حَمِلتْ رَجْلَكَ بِالْجَمْلِ

ترجمہ: اور اپنی ایسی انگلی کو دنیوں سے دبائے ہوئے جس کے پورے عنم (مہندی کے رنگ سے سرخ ہو رہے تھے) تو میں نے

پکار کر کہا: خدا کرنے کے یہ اونٹ تیر اووزن نہ اٹھا سکتیں) اور تو سفر میں جا کر ہم سے دور نہ ہو سکے۔

۸۔ ویدی میں اسیں مادا حل سی و بھیه من باری اللہ حالتیں و بیحثوا

ترجمہ: تم کو ان جو ایسے پچھڑ رہا تھا تو آفت نہ تھے پر کی ہے جو، سے اور ان جانے والوں کے درمیان غر جدائیگی داشت ہوئی اور وہ لوگ سفر میں دور نکل گئے۔

۹۔ یا راحل العیس ععقل کی اودعہم یا راحل العیس فی ترحالک الاجل

ترجمہ: اے بھورے رنگ کے اونٹ والے مسافر! جلدی کروتا کہ میں انہیں رخصت کروں؛ اے اونٹ کے مسافر! تیرے غر پر چلنے میں میری موت ہے۔

۱۰۔ انى على العهد لم انقض موَدَّتهم فلیت شعری يطول العهد ما فعلوا

ترجمہ: میں تو اپنے وعدہ پر قائم ہوں، میں ان سے لیے ہوئے وعدہ کو توڑنیں سکتا ہوں، اے کاش کوئی مجھے یہ بتا دے کہ پرانے وعدہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوا۔

تو میرے ساتھیوں میں سے ان لوگوں نے جو اس سے نفرت کرتے تھے یہ کہہ دیا کہ ”وہ لوگ تو مر گئے“، تو اس نے جواب دیا: جب تو مجھے مر جانا چاہئے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پھر کہہ دیا کہ اگر چاہتے ہو مر جاؤ (کون روکتا ہے) اتنا سنتے ہی اس شخص نے انگڑائی لی اور ایک ستون سے جو اس کے قریب تھا، نیک لگائی اور اس کی جان نکل گئی، اس کے بعد اس کی تکفین اور تدفین ہونے تک اس کے پاس رہے۔ بالآخر ہم اسے دوں گئے کہ ہی رخصت ہوئے اللہ اس پر رحمت کرے۔  
مرد نے ستر برس کی عمر پا کر وفات پائی۔



## واقعات — ۲۸۶

اس سال ربیع الآخر کے مہینے میں ابن اشیخ کی جانب سے "آمد" پر بقینہ کرنے کا واقعہ ہوا، مصر سے ہارون بن احمد بن طلوبن کا معتقد کے پاس ایک خط آیا، اس وقت جبکہ وہ اپنے خیمہ میں "آمد" میں مقیم تھا، کہ یہ قفسر یعنی اور عاصم کو اس کے پسروں کر دے گا، اس شرط پر کہ مصری شہروں پر اس کی حکومت کو برقرار رکھنے معتقد نے قبول کر لیا۔ پھر "آمد" سے عراق کی طرف روانہ ہو گیا اور یہ حکم دے گیا کہ اس آمد شہر کی چہار دیواری پوری ڈھادی جائے، چنانچہ کچھ دیوار توڑی گئی، مگر سب کو توڑنا ممکن نہ ہوسکا۔

اس موقع پر ابن المعتز نے "آمد" کے قلعہ ہونے پر مبارکبادی میں یہ اشعار کہے:

۱۔ اسلام امیر المؤمنین و دُم فی غطبه و لیهَنِكَ الدهر

ترجمہ: تم امیر المؤمنین کو حوالہ کر دو اور تم ہمیشہ عوام کی طرف سے غبطہ کی حالت میں رہو اور زمانہ تم کو مبارکبادی دیتا رہے۔

۲۔ فلرَبْ حادثة نهضت لها متقدماً فتأخر الدهر

ترجمہ: کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے مقابلہ کو تم نے گے بڑھے تو زمانہ پیچھے ہٹ گیا۔

۳۔ لیثٌ فرائسهُ الليوث

ترجمہ: وہ خود شیر ہے اور اس کے شکار بھی شیر ہی ہوتے ہیں، اس کے ناخون ان شیروں کے خون کرنے کی وجہ سے سفید نہیں ہوتے۔

اس کے بعد خلیفہ جب بغداد سے واپس لوٹ آئے تو اس کے پاس نیشاپور سے عمرو بن الیث کا ہدیہ یہ پہنچا جس کی مجموعی قیمت چالیس لاکھ درهم تھی اور گھوڑے ان کے زین اور ہتھیار کے علاوہ دوسری چیزیں ان درہموں سے خارج تھیں۔

رافع بن ہرشمہ کا قتل:

اسی سال اسماعیل بن احمد السامانی اور عمرو بن الیث کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ عمرو بن الیث نے جب رافع بن ہرشمہ کو قتل کر کے اس کا سر خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا اور اس سے یہ فرمائش کی کہ خراسان کے علاقے جو ابھی تک اس کے قبضہ میں ہیں، ان کے علاوہ ماوراء النہر کے علاقے بھی اسے دے دیئے جائیں، جسے خلیفہ نے قبول کر لیا۔ اس خبر سے ماوراء النہر کے نائب گورنر اسماعیل بن احمد السامانی کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، اور اس بے چینی کے عالم میں اس نے عمرو بن الیث کو ایک خط لکھا کہ تم ایک لمبی چوڑی دنیا کے حاکم ہو، ان ہی علاقوں پر اکتفا کرو، اور ان علاقوں پر نظر نہ ڈالو جو میرے قبضہ

میں ہیں لیکن اس نے اس کی درخواست پر کوئی توجہ نہ دی۔

اساً میل بن احمد اور عمرو بن الیث میں قفال نے بعد عمروؑ زبردست شکست:

محجور ایسا میل بہت بہت بہت لے رہا تھا، جن الیث کے مقابلہ میں کیا اور سچ کرے قریب پہنچ آ رہا تو اس نے اس کا لکھرے ہوئے میں مقابلہ ہو گیا۔ میچ میں عمر شکست لھا کیا اور قیدی نالیا کیا۔ اس حال میں جب اسے اسما میل نے یاس لایا کیا تو اس نے اس کا لکھرے ہوئے استقبال کیا اور اس کی پیشانی کو بوس دیا، اور اس کے چہرہ کو دھویا اور بیاس فاخرہ دیا اور اسے امن دے کر مطمئن کر دیا۔ ان تمام کاموں کے بعد اس نے خلیفہ کو اس کے بارے میں ایک خط لکھا، اور اس میں اس کے متعلق حالات بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ان علاقوں کے باشندے اس عمر و سے انتہائی برگشتہ ہیں اور اس کی حکومت سے سخت نالاں ہیں۔ اس خط کے جواب میں خلیفہ کا ایک خط اسما میل کے پاس آیا کہ اس عمر و کی ساری جانیداد مال و دولت سب پر قبضہ کر لیا جائے، چنانچہ اس کی ساری چیزیں ضبط کر لی گئیں۔ اس طرح اس عمر و کی بالکل کایا پلٹ ہو گئی کہ ابھی چند دن پہلے تک صرف اس کے جیل خانے کے باور پری خانہ کا سامان چھسواؤنوں پر لدا ہوتا تھا، اور اب بالکل کسی پر میری کا عالم تھا، اس پر تعجب خیز بات یہ بھی تھی کہ اس وقت بھی اس کے ساتھ پچھاں ہزار لڑاکا فوج تھی، ان میں سے ایک کو بھی نہ قید کیا گیا اور نہ کچھ پوچھا ہی گیا۔

در اصل یہ اس شخص کی سزا تھی جس پر لاپچ غائب آپ کا تھا اور اسے حرص ہی نے اس کا رہبر بن کر اسے فقر کے گذھے میں ڈال دیا، اور یہ تو اللہ کا پرانا قانون ہے، اس لاپچی نئے بارے میں، جس کا وہ حقدار نہ ہو اور جو کوئی دنیا میں ضرورت سے زیادہ لاپچی ہو گیا ہو۔

### ابوسعید البخاری کاظہور:

جو کہ قرامطہ کا سردار جہشی خبیث سے بھی زیادہ احیث اور اس سے می بڑھ کر فسادی تھا۔

اس کاظہور اس سال بصرہ کے علاقے میں ماہ جمادی الاول میں ہوا تھا، اس کی خبر پا کر دیہاتی وغیرہ بہت سی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی بیبیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے ارد گرد کے بہت سے دیہاتیوں کو قتل کر دیا، پھر بصرہ کے قریب قطیف کی طرف متوجہ ہو گیا، تو خلیفہ معتصد نے وہاں کے اپنے نائب کو لکھ بھیجا کہ اس کی پوری چہار دیواری مضبوط کر دی جائے، چنانچہ قریب یا چار ہزار دینار خرچ کر کے اس کی دیواریں مضبوط کیں اور بہت سی اہم چیزوں کا اضافہ کیا۔ اس بنا پر قرامطہ وہاں داخل ہونے سے مجبور ہو گئے۔ مگر یہ ابوسعید البخاری اور اس کے ساتھی قرامطہ نے ”بھر“ اور اس کے آس پاس کے شہروں پر غالب آ کر اس علاقے میں زبردست فساد پھیلایا۔

اس ابوسعید کی حقیقت یہ تھی کہ در اصل غلوں کی خرید فروخت کا دلال تھا اور چیزوں کی قیمتوں کو طے کیا کرتا تھا۔ اس نے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی لوگوں کو دعوت دی۔ چنانچہ ایک شخص جس کا نام علی بن العلاء بن الزبادی تھا، اس نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مہدی کی دعوت قبول کرنے پر اس نے پورا ذور صرف کر دیا۔ اس لیے وہ شیعہ جو قطبیف کے علاقے میں تھے، انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی، ان ہی لوگوں میں یہ ابوسعید البخاری بھی تھا، اللہ اس کا برا کرے۔ رفتہ رفتہ یہ شخص ان

لوگوں پر حادی ہو گیا اور قرامطہ کا بھی ان میں ظہور ہوا اور سب نے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے تبع ہونے کے بعد اس کا اعلان کیا اس شہر کا پانصدہ تھا اسے جناب کہا جاتا تھا۔ غفرانیہ اس کا اور اس کے ماننے والوں کا تذكرة ہو گا۔

نتیجہ میں لکھا ہے لاس سال کا یہ واقعہ بہت ہی اہم تھا اس سند سے یہ واقعہ بیان لیا جاتا ہے لایک ہجرت زمیں کے پاس آئی اور اس نے اپنے شہر پر اپنے مہر کا دعویٰ کیا، لیکن شوہرنے اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے وہ اپنے موافق گواہ لے آئی، مگر ان لوگوں نے کہا کہ پہلے اپنے چہرہ سے نقاب دور کر لوکہ ہم لوگ تمہیں دیکھ پہچان کر گواہی دے سکیں کہ واقعہ تم اس کی بیوی ہو اور اپنے اس مطالبہ پر وہ لوگ مصر ہو گئے ان کا اصرار دیکھ کر شوہرنے کہا کہ آپ لوگوں کو چہرہ دیکھنے اور میرے خلاف گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں از خود اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیتا ہوں تاکہ تم لوگ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکو۔ اس بات سے اس عورت پر اثر پڑا کہ وہ اب بھی مجھ سے ہمدردی رکھتا ہے تاکہ میرے چہرہ کو غیر نہ دیکھ سکیں، اس لیے اس نے بھی از خود اسے کہہ دیا کہ تم اب دین و دنیا ہر جگہ میری طرف سے بری ہو، میں نے تمہیں بالکل معاف کر دیا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال جن مشہور لوگوں نے وفات پائی وہ یہ ہیں:

احمد بن عیسیٰ ابو سعید الخراز، جس کا ذکر ہمارے شیخ المحدثین نے کیا ہے، اور ابن الجوزی نے اس کی تاریخ وفات دو سو ستر ہجری بتائی ہے۔

اسحاق بن محمد بن احمد بن ابیان:

کنیت ابو یعقوب لتوحی الاحمر۔ اس کی طرف شیعوں کا ایک فرقہ اسحاقیہ منسوب ہے اور ابن النوخنی خطیب اور ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ یہ شخص حضرت علی بن ابی ذئب کی خدائی کا معتقد تھا، ان کے بعد وہ خدائی ان سے منتقل ہو کر پہلے حضرت حسن بن علی پھر حضرت حسین بن علی میں آگئی تھی، جس کا ظہور ہر وقت ہوا کرتا تھا، اس کے اس کفریہ عقیدے کے ماننے والوں کی بھی اچھی تعداد قبیلہ حر سے جمع ہو گئی تھی، اللہ اس کی پوری جماعت کا خاص کر اس کا حشر برآ کرے۔

اسے احراس لیے کہا جاتا تھا کہ اسے برص کی بیماری ہو گئی تھی اس لیے اس کے داغ کو چھانے کی غرض سے اپنے جسم پر کچھ رنگ کی ماش کیا کرتا تھا تاکہ رنگ بدلا ہو انظراً تھے۔ النوخنی نے اس سے متعلق اس کے بہت سے کفریہ عقائد اور اقوال ذکر کیے ہیں۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ مازنی اور ان کے ہم زمانہ لوگوں سے اس سے متعلق بہت سے قصے اور لاطینی متنوں ہیں، اس جیسا دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا کمیشہ یا ذیل شخص ہو کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہو تو برائی ہی سے۔

بھی بن مخلد بن یزید:

اب عبد الرحمن الاندلسی جو کہ حافظ اور مغرب کے علماء میں سے ایک ہیں ان کی تفسیر، منہ، سنن اور آثار لکھی ہوئی ہیں،

ابن رحیم نے ان کی تفسیر کا تفسیر اپنے بھرپور مصنف کو مدد ادا کیا ہے اور مصنف اپنے ایشیاء پر فضیلت دیتے ہیں۔ مگر ابن حزم کا یہ فیصلہ غور طلب ہے کیونکہ حافظ ابین حجز نے اپنی تاریخ میں ان کے حالات بیان کرتے ہوئے انہیں اچھے کلمات سے یاد کیا ہے اور حفظ اور اتقان فی صفتیں سے انہیں متصف کیا ہے یہ تجذب الدخوات تھے ان لی وفات انی سال چھتر سال کی عمر میں ہتھی ہے۔

### حسن بن بشار:

ابوالعلی خیاط، انہوں نے ابو بلال الاشعري سے اور ان سے ابو بکر الشافعی نے روایت کی ہے، روایت حدیث میں ثقہ تھے، ایک وقت انہوں نے اپنی بیماری کے زمانہ میں خواب کی حالت میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”تم ”لا“ کھاؤ اور ”لا“ سے ماش کرو۔

اس کی تعبیر میں پریشان ہوئے اور آخر میں یہ تعبیر نکالی کہ اس سے اس آیت مثل نورہ کمشکوہ فیها مصباح میں لا شرقیۃ ولا غربیۃ کی طرف اشارہ ہے (جز زیتون کے تبلی کی صفت ہے) اس لیے انہوں نے زیتون کو کھانا اور اس کے تبلی کی ماش شروع کر دی، پھر انچہ بفضلہ تعالیٰ بیماری سے شفا حاصل ہو گئی۔

### محمد بن ابراہیم:

ابو جعفر الانماطی جو مریع سے مشہور ہے، بھی بن معین کے شاگرد ثقة اور حافظ حدیث تھے۔

ان کے علاوہ عبد الرحیم الرقی اور محمد بن وضاح المصنف اور علی بن عبد العزیز البغوي، جنہوں نے حدیث میں ایک کتاب مندرجہ تصویف کی ہے، نے بھی وفات پائی ہے۔

### محمد بن یوس:

ابن موسیٰ بن سلیمان بن عبید بن ربیعہ بن کدمیم ابوالعباس القرشی البصری الکدی، جونوح بن عبادہ کی اہلیہ کے بیٹے تھے، ایک سوترا سی بھری میں ان کی ولادت ہوئی، انہوں نے احادیث عبداللہ بن داؤد الخریبی، محمد بن عبد اللہ الانصاری، ابو داؤد الطیالی کی اور الاصمعی کے علاوہ اور بھی مختلف لوگوں سے سنی ہیں، اور ان سے ابن السمک اور بنجاد نے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں ابو بکر بن مالک اقطیفی بھی ہیں، یہ حافظ حدیث تھے اور بہت زیادہ غریب روایتیں بیان کیا کرتے تھے، اس لیے کچھ محمد شین نے ان کے بارے میں عیب جو یاں کی ہیں، ہم نے ان کے حالات اپنی کتاب ”الشکمیل“ میں ذکر کیے ہیں، اسی سال جمادی الآخری کی پندرھویں تاریخ بروز جمع نماز جمعہ سے قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایک سو سال سے زائد عمر پائی ہے اور یوسف بن یعقوب قاضی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے۔

لعقوب بن اسحاق بن نجاشہ:

ابو یونف الواطنی، انہوں نے یزید بن مارون سے احادیث کی روایت کی ہے یہ بقدر انتشاریف اے اور صرف چار حدیثوں کی روایت کی امدادیہ روایتوں کے لیے آنکھہ روز کا لوگوں سے وعدہ کرئے اتنے مگر وقت آئے سے پہلے ہی رات کو انتقال فرمائے ایس سوارہ برس کی عمر پائی۔

الولید ابو عبادہ الجھری:

ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات گزر چکے ہیں، تراسی برس عمر پائی جیسا کہ ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے۔  
والله عالم۔

واقعات — ۲۸۷

اس سال ابوسعید الجنابی کے مابینے والوں نے ماہ ربیع الاول میں زبردست ہنگامے برپا کیے، بھر کے علاقہ میں لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پورے علاقہ میں بد امنی پھیلا دی، اس لیے خلیفہ نے ایک زبردست فوج اکٹھی کی اور ان پر عباس بن عمرو الغنوی کو سردار مقرر کر کے یمامہ اور بحرین کا امیر مقرر کر دیا تاکہ اس خوبیت ابوسعید کی بخش کرنی کرے۔ چنانچہ دونوں فریق میں مقابلہ ہوا، حالانکہ ابوالعباس کے ساتھ دس ہزار لڑنے والے جوان تھے، پھر کہیں اس ابوسعید نے اس طرح پوری فوج کو قید کر لیا کہ ایک بھی ان میں سے بھاگ نہ سکا، پھر سوائے ابوالعباس کے بقیہ تمام ایک ایک کر کے سب اس کے سامنے قتل کر دیئے گئے، یہ واقعہ انتہائی تجھ خیز ہے اور عمرو بن الیث کے واقعہ کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس کی فوج میں پچاس ہزار جوان تھے اور سوائے عمرو بن الیث کے ان میں سب کے سب بچ گئے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ابوسعید نے جب لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ابوالعباس ایک طرف کھڑا ہو کر سب کو قتل نہوتا دیکھتا ہا، اور یہ بھی ان تمام قیدیوں میں شامل تھا، لیکن اسے اپنے پاس چند روز روک رکھا، پھر کئی منزل تک اسے پہنچا کر چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ تم اپنے خلیفہ کے پاس پہنچ کر یہاں کا چشم دید واقعہ بتا دو۔

یہ واقعہ ماہ شعبان کے آخری دنوں کا ہے۔ اس قیامت خیز واقعہ کو سن کر علاقہ کے سارے باشندے گھبرائے اور سخت پریشان ہو گئے، بصرہ والوں نے تو اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرا جگہ منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا، مگر وہاں کے نائب حاکم احمد واثقی نے ان سب کو روکا۔

اسی سال رومیوں نے طرسوں کے علاقہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ ایک برس پہلے وہاں کے نائب حاکم ابن الانشید کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ شعر کے علاقہ کا ابوثابت کو نائب حاکم مقرر کر دیا۔ اس لیے روی بادشاہ کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوئی اور اپنی فوج جمع کر لی، اس لیے ابوثابت نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا لیکن مقابلہ میں کامیاب نہ ہوا۔ آخر رومیوں نے ان کی

ایک جماعت کو قتل کر دیا اور باقہ لوگوں کو امیر کے ساتھ قید کر لایا اس لے ملادت کے لوگوں نے متفق ہو کر ۱۳۴ عالی کوایضاً ساکھ مفتر کر لیا۔ یہ واقعہ مادر نبیؐ آنحضرت کا تھے۔

### محمد بن زید العلوی:

جو طبری تاں اور رسلیم کا حاکم تھا، اسی سال قلس کر دیا گیا۔ وہی یہ ہوتی کہ اس اعمالی سماںی بہب تمروہ بن المیث کے مقابلہ میں کامیاب ہو گیا تو محمد بن زید نے یہ گمان کیا کہ یہ اساعیل اپنے علاقے سے آگے نہ بڑھے گا، اور خراسان کا علاقہ خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ شخص اپنے علاقے سے نکل کر خراسان کی طرف روانہ ہو گیا مگر وہاں اس کے پیشجئے سے پہلے ہی اساعیل پہنچ گیا اور اسے خط لکھا کہ تم اپنے علاقے پر قابض رہو اور غیر کے علاقے کو اپنے علاقے میں ملانے کا ارادہ نہ کرو۔ لیکن اس نے قبول نہیں کیا، اس لیے اساعیل نے محمد بن بارون کی سرکردگی میں جو کر رافع بن بہشمہ کا نائب تھا ایک لشکر محمد بن زید کے مقابلہ میں روانہ کر دیا، جب مقابلہ ہوا تو دھوکہ دینے کے لیے محمد بن بارون میدان سے بھاگ گیا، یہ دیکھ کر دوسرا فوج نے اس کا پیچھا کیا، پکھھ دوڑ کر محمد بن بارون نے پلٹ کر ان لوگوں پر زبردست حمل کر دیا، نتیجہ میں یہ لوگ شکست کھا گئے اور لشکر میں جو کچھ سامان تھا، سب پر اس نے قبضہ کر لیا، اس مقابلہ میں محمد بن زید کو سخت چوٹ آئی اور اسی چوٹ کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی، ساتھ ہی اس کے لڑکے محمد کو بھی قید کر لیا تھا، جسے بعد میں اس اعمالی من احمد کے پاس بھیج دیا، اس نے اس لڑکے کا اکرام کیا اور اس کو انعامات دینے کا حکم دیا۔

یہ محمد بن زید فاضل، دیندار اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن اس میں شیعیت کا مادہ تھا۔

ایک موقعہ پر اس کے سامنے دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک کا نام معاویہ اور دوسرا کا نام علی تھا۔ دونوں کے نام سن کر محمد بن زید نے کہا کہ آپ کا فیصلہ تو ظاہر ہے (کہ علی کے حق میں ہوگا) یہ فیصلہ سن کر معاویہ نے کہا، اے امیر آپ ہمارے ناموں کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آئیں، کیونکہ میرا بابا پ تو سر برآ اور دہ شیعوں میں سے تھا، البتہ ہمارے شہر کے اہل سنت کی مدارات کے طور پر میرا نام معاویہ رکھ دیا تھا اور اس دوسرے شخص کا بابا پ تو سر برآ اور دہ ناصیح تھا، مگر آپ لوگوں کے ذریعے اس کا نام علی رکھ دیا تھا۔ اس حاضر جوابی پر محمد بن زید کے چہرہ پر مسکرا ہٹ آگئی اور ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

ابن الاشیر نے اپنی کتاب ”الکامل“ میں کہا ہے کہ اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں اسحاق بن یعقوب بن عمر بن الخطاب العدوی عدی ربیعہ ہیں، یہ جزیرہ دیار ربیعہ کے امیر تھے، مگر ان کی جگہ پر عبد اللہ بن الحیثم بن عبد اللہ بن المعتز کو حاکم بنادیا گیا۔

اور علی بن عبدالعزیز البغوي جواب عبید القاسم بن سلام کے شاگرد تھے اور مہدی بن احمد بن مہدی الازدي الموصلي جو مشہور لوگوں میں تھے۔

ابن زید بن ابی شیراء، ابو الفرج بن الجوزی، و نواف نے کہ کیا ہے کہ فقط اللہ می خداوند، یعنی احمد بن سلمان کی بیٹی، مختصر لی یہی تھی اس نے بھی اسی سال وفات پائی ہے۔

ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ یہ اسی سال ساتوں رجب کو وفات بالبر صافہ کے قلعے اندر مدفون ہوئی۔

اور یعقوب بن یوسف بن ابی بکر المطوعی نے بھی وفات پائی ہے۔ انہوں نے احمد بن حنبل اور علی بن المدینی سے احادیث کنی ہیں اور ان سے الجاد اور الخندی نے روایت کی ہے۔ یہ ہر روز بطور وظیفہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک قول کے مطابق اکتنی ہزار اور دوسری روایت کے مطابق اکتا لیں ہزار پار پڑھا کرتے تھے۔

میں (صاحب کتاب) کہتا ہوں کہ اس سال وفات پانے والوں میں السنۃ اور دوسری مصنفات والے:

### احمد بن عمر و بن ابی عاصم الفضحاک:

ابن النبیل بھی ہیں۔ حدیث میں ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، ان میں سے ایک کتاب "السنۃ فی احادیث الصفات علی طریق السلف" بھی ہے۔ یہ حافظ حدیث تھے اور صالح بن احمد کے بعد اصحابان کے عہدہ تھا اپنے پر مامور کیے گئے تھے۔

اس سے پہلے طلب حدیث میں بہت سے شروں کا دورہ کیا تھا، مشائخ صوفیہ میں سے ابو تراب الحشی وغیرہ سے صحبت اختیار کی ہے۔

ان کی ایک زبردست کرامت اس طرح ثابت ہوئی کہ اور ان کے علاوہ دو اور بھی صلحاء حالت سفر میں تھے، ایک جگہ سفید ٹیلہ پر قیام کیا، اتنے میں یہی ابو بکر اسے اپنے ہاتھوں سے بوسے دے کر کہنے لگے۔ اے اللہ! اسی ٹیلہ کی طرح سفید حلوہ کا رزق ہمارے لیے بھیج دئے تاکہ ہم اسے اپنے دن کا کھانا بنالیں۔ کچھ زیادہ درینہیں گزری تھی کہ ایک دیہاتی ہاتھ میں ایک پیالہ لیے ہوئے سامنے آیا، جس میں اسی ٹیلہ کی طرح سفید حلوہ تھا، جسے سب ساتھیوں نے مل کر کھایا۔

وہ اکثر کہا کرتے تھے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری مجلس میں کوئی بدعتی، متکبر، لعن طعن کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، فحش گو اور شافعی مسلک سے انحراف کرنے والا اور اصحاب حدیث میں سے کوئی حاضر ہو۔

اسی سال اصحابان میں انہوں نے وفات پائی۔

کسی نے انہیں ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا معاملہ کیا گیا؟ جواب دیا کہ میرے رب نے میری موانت کر کے میری وحشت ڈور کر دی۔



## واقعات — ۲۸۸

اس سال مختلف قسم کے آفات و بلیات کے نزول کا اتفاق ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رویوں نے مذکور دل فوج کے ساتھ خشکی اور سمندری ہر راستہ سے رود کے شہروں پر حملہ کر کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور تقریباً پندرہ ہزار بچوں کو قید کیا۔ دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ آذربایجان کے شہروں کے باشندوں میں زبردست وبا پھوٹ پڑی، جس سے اتنے افراد کی موت ہوئی کہ مردوں کو دفن کرنے والا کوئی باقی نہ رہا، اس لیے ایسے مردے یوں ہی سڑکوں پر کھلم کھلا چھوڑ دیئے گئے۔

ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اردتیل کے علاقہ میں عصر کے بعد سے تباہی رات گزرنے تک تیز آندھی چلتی رہی، پھر زوردار زلزلہ آ گیا اور یہی کیفیت مسلسل کئی دنوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں وہاں کے مکانات، بلڈنگز، ٹوٹ پھوٹ گئیں اور کچھ علاقے کی زمینیں ڈنس گئیں، اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ انا اللہ وانا الیه راجعون۔

اور اس سال قرامط بصرہ کے بہت قریب آئنے تھے، اس لیے ان کے خوف سے وہاں کے باشندوں نے علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کا تھیہ کر لیا تھا، مگر وہاں کے نائب حامی بنے بہت سمجھا بجا کر ان کو اپنے ارادہ سے باز رکھا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہورین میں وفات پانے والے یہ حضرات ہیں:

**بشر بن موسیٰ بن صالح ابو علی الاسدی:**

ان کی ولادت ۱۹۰ھ میں ہوئی، اور روح بن عبادہ سے صرف ایک حدیث سنی اور زیادہ تر ہود بن خلیفة، حسن بن موسیٰ الاشیب، ابو نعیم علی بن الجعد اور اصغریٰ وغیرہم سے احادیث سنی ہیں، ان سے ابن المنادی، ابن مخلد، ابن صاعد، نجاش، ابو عمر والزادہ، خلدبی، اسلامی، ابو بکر الشافعی اور ابن الصواف وغیرہم نے روایت کی ہے، روایت حدیث کے معاملہ میں یہ شفہ امین اور حافظ حدیث تھے۔ بڑے اشراف میں سے تھے امام احمد بھی ان کی عزت کرتے، ان کے اشعار میں سے یہ چند اشعار ہیں:

۱۔ ضعفت و من جاز الشعانيين بضعف و ينكر منه كل ما كان يعرف

**بنزرجہم:** میں کمزور ہو چکا ہوں اور جو کوئی بھی اسی برس سے تجواذ کرتا ہو کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسی تہام چیزوں کو جنمیں وہ جانتا پہنچتا تھا اب ان سے جاہل اور انجان بن جاتا ہے۔

۲۔ و يمشي رويداً كالا سيد مقيداً يدانى خطوه في الحديد ويرسف

**ترجمہ:** اور آہستہ آہستہ اس قیدی کی طرح چلتا ہے جس کے یاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ان کے قدموں پر بھی میں جگہے ہوئے کی  
ذمہ پر فریب فریب پڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ و چھترارہتا ہے۔

### ثابت بن قرہ، بن ہارون

ان بھی کاموں زبردست ہیں ثابت بن کوام بن ابراہیم الصابین الفیلسوف الحرامی بھی کہا جاتا ہے یعنی تسانیف کے ماہر ہیں، ان کی مصنفات میں سے فن القلیدس کی وہ کتاب بھی ہے جسے خین بن اسحاق العبادی نے عربی زبان میں منتقل کیا ہے۔ دراصل یہ ایک صوفی منش انسان تھے مگر اسے ترک کر کے علم الاوائل کے حصول میں مشغول ہو گئے پھر وہ اس فن کے ماہرین کی نظروں میں اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گئے، اس کے بعد بغداد گئے جہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی یہ میجموں کے ساتھ غلیفہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا کرتے مگر عقیدہ یہ اپنے مسلک صباء پر ہی قائم رہے، ان کے پوتے ثابت بن سنان کی ایک تاریخ ہے جس میں اپنی شان پیدا کی ہے اور بہت نام پایا ہے وہ بڑا بلغ ماہر اور انتہائی کمال کو پہنچنے والا تھا۔ اسی طرح ان کا بچہ ابراہیم بن ثابت بن قرہ بھی ایک بہت نامور طبیب اور عارف تھا۔ قاضی ابن خلکان نے ان تمام لوگوں کے حالات اسی تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔

### احسن بن عمرو بن الجهم:

ابو الحسن الشیعی، منصور کی جماعت میں ہونے کے اعتبار سے شیعی کہلانے کی وجہ یہ رواضیں میں سے نہ ہنہوں نے علی بن المدینی سے حدیث کی روایت کی ہے اور بشر بن الحافی سے بھی کچھ و اتفاقات ذکر کیے ہیں، ان سے ابو عمر بن السماک نے روایت کی ہے۔

### عبداللہ بن سلیمان:

بن وہب جو معتقد کا وزیر تھا، معتقد کی نظر میں بہت ہی مقبول تھا، اس کی موت خلیفہ کو بہت شاق گز ری تھی۔ اس کی جگہ خالی ہو جانے سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی اس کے بعد اس سے سب سے بڑی فکر یہ لاحق ہو گئی تھی کہ اس کی جگہ پر کسے مقرر کرے بالآخر اس کے القاسم بن عبد اللہ کو ہی اس کی خالی کرسی پر بحال کیا تاکہ اس کی تکلیف کا کچھ مدوا ہو سکے۔ اور

### ابوالقاسم عنان:

بن سعید بن بشار جو الامری کے نام سے مشہور تھے، شافعیہ کے بڑے اماموں میں سے ایک تھے، ہم نے ان کے حالات طبقات شافعیہ میں ذکر کیے ہیں۔ اور

### ہارون بن محمد:

بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ ابو موسیٰ الہاشمی جنہوں نے حج کے موسم میں متواتر کی برس تک لوگوں کی امامت کی، مصر ہی میں حدیث کی ساعت کی، پھر روایت کی اور وہیں اسی سال ماه رمضان میں وفات پائی۔



## واقعات — ۲۸۹

اس بارہ قرامط نے کوفہ کے باشندوں کی طرف پیش قدمی کی تو کوفہ کے آپر حکام نے ان قرامط کی ایک جماعت کو قبضہ کر کے ان کے سردار ابوالفوارس کو معتضد کے پاس بھیج دیا۔ وہاں خلیفہ نے ان کے ڈاڑھوں اور اس کے ہاتھوں کے اکھیزدینے کا حکم دیا جس پر عمل کیا گیا، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیئے گئے اور آخر میں بنداد کے اندر اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔

اس سال قرامط نے مذہبی دل جماعت لے کر دمشق پر چڑھائی کی تو وہاں کے نائب طغی بن بھٹ نے ہارون بن خمارویہ کی طرف سے ان لوگوں سے مقابلہ کیا لیکن ان قرامط نے اس نائب کو بارہ شکست دی اور وہاں لوگوں کی حالت ابتر ہو گئی اور یہ سب کچھ تیکی بن زکرو یہ بن بھرو یہ کی مرضی سے ہوا یہ وہی شخص ہے جس نے قرامط کے درمیان اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ محمد بن عبد اللہ بن اسماعیل بن جعفر بن جعفر بن علی ابن احسین بن علی بن ابی طالب ہے، حالانکہ اس دعویٰ میں وہ جھوٹا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک لاکھ آدمیوں نے اس کی اخبار کر لی ہے اور یہ کہ اس کی اونٹی مجانب اللہ مامور ہے، جس جانب بھی وہ جائے گی اسی جانب کا میابی حاصل ہو گی، اور یہ دعوے ان لوگوں میں مشہور ہو گئے، اس لیے ان لوگوں نے اس کا لقب اشیخ رکھ دیا اور بنی الاصغر کی ایک جماعت نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی تو ان کا نام فاطمین رکھ دیا گیا۔ تب خلیفہ نے ان سے مقابلہ کے لیے ایک زبردست فوج بھیجی جسے ان لوگوں نے شکست دے دی۔ پھر وہاں سے انہوں نے رصافہ کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں کی جامع مسجد میں آگ لگادی۔ اس کے بعد جس جگہ سے وہ لوگ آگے بڑھتے وہاں کے باشندوں اور دیہاتوں کو لوٹا جاتا اور یہی ان کی عادت ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دمشق پہنچ گئے تو وہاں کے نائب حاکم نے ان کا مقابلہ کیا وہاں بھی ان لوگوں نے اسے بارہ شکست دی اور وہاں کے بہت سے باشندوں کو قتل کر کے ان کے مال و متعار لوٹ لئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان پر یہاں کن حالات میں ہی خلیفہ معتضد کی وفات اس سال ماہ ربیع الاول میں ہو گئی۔

### خلیفہ المعتضد :

یہ احمد بن الامیر ابی احمد الموفق اور لقب ناصر دین اللہ ہے اور ان کے والد کا نام محمد ہے اور کہا گیا ہے کہ والد کا نام طلحہ بن جعفر التوکل علی اللہ بن المعتضد بن ہارون الرشید ہے، کنیت ابوالعباس المعتضد بالله ہے ان کی ولادت سن دوسو یا لیس اور دوسرے قول میں دو سو تین تا لیس ہے۔ ان کی والدہ ام لولد تھیں۔ یہ گندمی رنگ ڈبلے بدن اور درمیانی قد کے تھے۔ چہرہ کے

لے ام و لد ایک باندی کو کہا جاتا ہے جس کو اس کے آقے سے اولاد ہوئی ہوا لیکن اولاد تو پہلے دن سے ہی آزاد متصور ہو گئی لیکن اسکی باندی اپنے آقا کی زندگی تک تو اس کی باندی رہے گی مگر اس کے مرتے ہی از خود آزاد ہو جائے گی۔ (انوار الحقائقی)

بالوں کی جزوں میں پیچیدی آنکھ تھی اور بڑاں کے سامنے کے حصہ تھیں ایسا لیکن تھی۔ اور اس کے پر کے انگلی حصے کے بالوں پر بھی پیچیدی تھیں ایسی خلافت کی بیعت بروز موسم ایمی ویں رجب و ۲۷ حج کو ہوئی پھر عبد اللہ بن عتبہ بن سلیمان کو پانچ اور یہ سنا یا اور قضاۓ کے عہد و پر اسما علیل بن اسحاق یوسف بن یعقوب اور ابن الی الشوارب کو مأمور کیا۔ ان کے بچا معمدؑ کے زمانہ میں خلافت میں بہت کمزوریاں واقع ہو گئی تھیں۔

جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے تمام امور سلطنت کو از سر نورست کیا اور اس کی پختگی پیدا کی۔ یہ بہت بہادر نظر تھے۔ دانائی، ولیری، دوراندیشی اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے قریش کے نامور انسانوں میں تھے۔ ایسے ہی ان کے والد بھی تھے ابن الجوزی نے اپنی سند کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ معتقد سفر کرتے ہوئے ایک دیہات میں گلزاری کے کھیت کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس کھیت کا مالک خلیفہ کو پکار کر مخاطب کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے بلوا کر وجد دریافت کی تو اس نے بتایا کہ آپ کے کچھ فوجیوں نے جو آپ کے غلاموں میں سے ہیں، میری کچھ گلزاری زبردستی توڑ کر لے گئے ہیں، خلیفہ نے پوچھا کہ تم ان لوگوں کو پہچان سکتے ہو؟ تو اس نے کہا: جی ہاں! میں پہچان سکتا ہوں۔ تب خلیفہ نے اپنے غلاموں کو بلوا کر اسے انہیں شناخت کرنے کو کہا، تو اس نے ان میں سے تین کو پہچان لیا۔ اسی وقت ان تینوں کو گرفتار کرنے اور قید میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے ان تینوں کو سڑک کے چورا ہے پر پھانسی میں لٹکا ہوا پایا۔ لوگوں نے اس کو بڑا واقعہ خیال کیا اور اس سے ناگواری کا اظہار کیا اور خلیفہ کی عیب جو یاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خلیفہ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ معمولی سی گلزاری لینے پر تین آدمیوں کو پھانسی دے دیا۔

اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد چند اہم شخصیتوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ خلیفہ کے سامنے اس وقت جب کہ حکام اور وزراء موجود ہوں اس واقعہ کی برائی ظاہر کی جائے، اور گفتگو میں کچھ نرم لہجہ اختیار کیا جائے، چنانچہ ایک نمائندہ رات کے وقت پختہ ارادہ کے ساتھ خلیفہ کے سامنے آیا، اسے دیکھتے ہی خلیفہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اس سے کہا میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے اور تم کیا کہنا چاہتے ہو، اچھا خود کہہ لو کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں جان بخشی کی شرط کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: "منظور ہے"۔ تب اس نے کہا: عوام آپ کے اس فیصلہ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ پھانسی دینے کے معاملہ میں آپ نے بہت جلد بازی اور ظلم سے کام لیا ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا: اللہ کی قسم خلافت کی ابتداء سے اب تک میں نے کسی شخص کا ناجتن خون نہیں بھایا ہے۔ تو اس نے کہا: اچھا تو احمد بن الطیب کو جو کہ آپ کا خادم تھا اور اس سے کبھی خیانت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، آپ نے کیوں قتل کیا ہے، خلیفہ نے جواب دیا کہ اس نے مجھے اللہ کے ساتھ الخاد اور کفر کی بہت ہی خاموشی کے ساتھ دعوت دی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں صاحب شریعت کا چچازاد بھائی ہوں اور ان کے عہدہ پر ان کا قائم مقام ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں صاحب شریعت کا چچازاد بھائی ہوں اور ان کے عہدہ پر ان کا قائم مقام ہوں، تو کیا میں کفر اختیار کر کے ان کے قبیلہ اور خاندان سے نکل جاؤں۔ اس لیے میں نے کفر اور زندقہ کی دعوت کی بنا پر اسے قتل کیا ہے۔ دوبارہ سوال کیا کہ اچھا آپ نے معمولی گلزاریوں کے

معاملہ میں آپ نے تمیں آدمیوں کو یوں قتل کیا؟ خلیفہ نے جواب دیا و اللہ یہ تینوں مقتول وہ نہیں ہیں جنہوں نے لکڑیاں چرائی تھیں۔ بلکہ یہ لوگ تو چور اور رذیعت تھے جنہوں نے لوگوں کے مال نوٹے اور انہیں قتل ہوئی تھی تھا اس نے اپنے ان کا قتل واجب ہوا تھا۔ چنانچہ ان کا اہم اور نتیجی خانہ سے نکلا اثر میں نے قتل کر دیا اور لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں نہیں نے لکڑیاں چرائی تھیں تاکہ فوج پر اس کا اچھار دعس ظاہر ہو اور وہ آندہ ہوام پر ایسی حرکت کرنے کی بھت نہ کر سکیں اور لوگوں پر زیادتی نہ کریں اور نقصان پہنچانے سے باز رہیں اور لکڑی چرانے والے تینوں کو قید خانہ سے نکلوانے کا حکم دے کر ان سے آئندہ کے لیے توبے کر آزاد کر دیا۔ ساتھ ہی کچھ انعام و اکرام کیا اور ان کی ذمہ داریوں پر انہیں بحال بھی کر دیا۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مقتضد نے گھر سے نکل کر باب المسما سے پر قیام کیا اور اپنے تمام فوجیوں کو کسی کے بھی باغ، کسی قسم کی بھی چیز لینے سے بختنی کے ساتھ منع کر دیا۔ اتنے میں ایک جبشی کو پکڑ کر اس کے سامنے لا یا گیا، کیونکہ اس نے کھجروں کا گچھ کسی باغ سے توڑ لیا تھا، خلیفہ نے اسے غور سے دیکھ کر اس کی گردان اڑھادیئے کا حکم دے دیا، اس کے بعد وہ اپنے حکام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ عام لوگ تو میرے اس فیصلہ کو ناپسند کریں گے اور کہیں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ بچلوں اور معمولی چیزوں پر ہاتھ کا شے کا حکم نہیں ہے، مزید براں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ نے اس کے ہاتھ کا شے کی سزا پر ہی اکتفا کیوں نہ کیا، بلکہ ظلم صریح کے ہاتھ قتل کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسے اس چوری کی سزا میں قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جبشی درحقیقت خبیث جبشی کا ساتھی تھا۔ جس نے میرے والد سے امن چاہی تھی۔ ادھر اس نے ایک مسلمان سے لڑائی کی اور اس مسلمان کو مارا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جس کے نتیجے میں وہ مسلمان مر گیا تھا، مگر میرے والد نے ان جبشوں کی دلجوئی کے دلائل سے اس کے خون کا بدلہ اس سے نہیں لیا تھا۔ اس موقع پر میں نے قسم کھار کھی تھی کہ جب کبھی بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کے خون کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا۔ اس دلائل کے بعد سے انہی مجھے موقع ملے ہے اس لیے میں نے اس مسلمان کے خون کا بدلہ لیا ہے۔

ابو بکر خطیب نے کہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا ہے محمد بن احمد بن یعقوب نے ”کہا کہ مجھ سے بیان کیا ہے محمد بن نعیم عبلی نے اس نے کہا کہ میں نے ابوالولید حسان بن محمد الفقیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابوالعباس سرتیح کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میں نے قاضی اسماعیل بن اسحاق کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میں المعتضد کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب کہ اس کے پاس خوبصورت رومی چھوکرے موجود تھے۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور مقتضد نے مجھے ان کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھ لیا، جب میں نے اس کے پاس سے واپس آنے کے لیے گھر رہے ہوئے کا ارادہ کیا تو مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ میں مزید کچھ دیر بیٹھا رہا۔ جب اسے تہائی کا موقع ملا تو اس نے اپنی صفائی کرتے ہوئے مجھے کہا کہ اے قاضی صاحب اللہ کی قسم! آج تک میں نے کسی حرام کام کے لیے اپنا پامجماد نہیں کھولا ہے، (مطلوب یہ ہے کہ میں نے ان بچوں کی طرف بری نیت کے ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ان کے ساتھ کوئی بری حرکت کی ہے اس لیے آپ کو میری طرف سے بدگمانی نہیں ہونی چاہئے)۔

بیہقی نے حاکم سے اور انہوں نے حسان بن محمد سے اور انہوں نے ابن سرتیح قاضی اسماعیل بن اسحاق سے بیان کیا ہے

کہا ہے کہ ایک دن میں خلیفہ معتقد کے یا سپینجا تو اس نے مجھے ایک کتاب دیکھئے کوئی جس میں علماء کی لغزشوں اور برائیوں کو اسی نے جمع کیا تھا اسے ایک نظر، لمبے کریں نے خلیفہ سے کہا: اے امیر المؤمنین! اسی زندگیں بد دین لے یہ واقعات نہیں ہیں۔ اس نے کہا: آپ نے ایسا، عومنی اس طرح کیا؟ میں نے کہا: جس عالم نے مبقاء جانہ فراز، ایسا ہے اس نے کمال کیا جائے نہیں کہا ہے۔ ایسی صورت میں جس کی نے عالم کی غلطیوں نوبت لیا اور خود ان پر عمل کیا تو خود جان بوجھو رائیا اُترنے سے تو اس کا دین ہی بر باد ہو گیا، یہ سنتے ہی اسے اطمینان ہو گیا اور اس کتاب کے جلا دینے کا حکم دیا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ صافی فی الجرمی الخادم سے نقل کیا ہے، کہا کہ میں خلیفہ معتقد کے ساتھ تھا، وہ چلتے ہوئے ایک ویران اور بلندے علاقے میں آ کر رک گیا۔ اور دیکھا کہ وہاں پر اس کا بینا جعفر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً دس ہم عمر اور خوبصورت بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے ایک چاندی کے طبق میں انگور کے خوشے رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس زمانہ میں انگور کم یاب تھے۔ اس کا لڑکا ان میں سے ایک انگور خود کھاتا اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو کھلاتا۔ یہ دیکھ کر معتقد وہاں سے نکل کر ایک گھر کے کنارے میں معموم ہو کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کو کیا ہو گیا (اچانک مغموم ہو کر کیوں بیٹھ گئے)؟ اس نے کہا تمہاری کم کجھی پر تمہارا برا ہو۔ اللہ کی قسم! اگر (قتل عمر کی بنابر) جہنم کی آگ کا اور لوگوں سے (اپنے کسن بچے کو قتل کرنے کے سلسلہ میں) شرم دلانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس لڑکے کو ضرور قتل کر ڈالتا، کیونکہ ابھی اس کے قتل کر دینے سے مستقبل میں امت مسلمہ کی بھلائی ہے۔ تو میں نے کہا:

اے امیر المؤمنین! اللہ آپ کو آپ کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ خلیفہ نے کہا: اے صافی! تمہاری کم فہمی پر افسوس ہے، دیکھو یہ لڑکا انتہائی تجھی ہے، جیسا کہ ان دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس کے معاملہ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بچوں کی طبیعت سخاوت پسند نہیں کرتیں۔ اور اس میں سخاوت کا مادہ حد سے زیادہ ہے میرے بعد لوگ میری اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ میرے بعد مصالحتکنگی کو ہی خلیفہ مقرر کریں گے۔ مگر وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ وہ ایک مرض مہلک، مرض خزر میں متلا ہے، اس کے بعد یہی لڑکا جعفر خلیفہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد وہ بیت المال کی ساری رقم اپنی لوٹیوں میں لٹادے گا۔ کیونکہ اسے ان لوٹیوں سے بے حد محبت معلوم ہوتی ہے اور ان کی صحبت کا زمانہ قریب کا ہی گزرا ہوا ہو گا، اس طرح مسلمانوں کے معاملات سارے درہم برہم ہو جائیں گے، ملک سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ فتنے مار کاٹ بھڑک جائیں گے۔ خوارچ اور فتنہ پر داز زور پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد صافی نے کہا کہ خلیفہ نے جو کچھ با تین کیس میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک کر کے ان سمجھوں کو دیکھا۔

ابن الجوزی نے معتقد کے کسی خادم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دن دو پھر کے وقت خلیفہ معتقد سویا ہوا تھا اور ہم لوگ اس کے تخت کے آس پاس ہی موجود تھے، اچانک وہ نیند سے گھبراہٹ کے ساتھ اٹھا، پھر ہم لوگوں کو باہر بلند پکارا۔ تو ہم اس کے پاس دوڑے ہوئے گئے۔ اس نے کہا: غور سے سنوا تم بہت جلد جلد کی طرف جاؤ اور سب سے پہلے آتی ہوئی خالی کشتی جو ملے اس کو روک کر اس کے ملاج کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ اور اس کشٹی کی اچھی طرح حفاظت کرتے رہو، چنانچہ ہم لوگ

بہت ہی غلبت کے ساتھ و بال پہنچ گئے اور واقعہ ایک خالی کشتی اس طرف آتے ہوئے دیکھی تو اسے روک کر اس کے ملاج کو کپڑا اٹر خلیفہ کے پاس لے آئے جیسے تھی اس کی نظر خلیفہ پر پڑی وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو خلیفہ نے اُر جدار آواز میں است پکارا جس سے اور بھی اس سی وجہ نکل کے قریب ہو گئی۔ تب خلیفہ نے اس سے کہا: اے ملعون! جس عورت کو تو نہ آتی قتل کیا ہے اس کا حق و القہ میرے سامنے بیان کر۔ ورنہ فوراً حی کر دن اُڑا دوں گا۔ تو وہ راخا موسیٰ ہوا پھر کہنے لگا: جی ہاں اے امیر المؤمنین! آج صحیح سویرے میں فلاں گھاٹ پر تھا، وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت ایسی عورت پر نظر پڑی جس کے بدن پر بہت قیمتی کپڑے جوڑے تھے اور بہت سے زیورات اور ہیرے جو ہاہر بھی تھے۔ اسے دیکھتے ہی میری طبیعت للپا گئی اور حیلہ بہانہ سے اس پر قابو پالیا پھر اس کے منہ کو بند کر کے اس کے بدن کے سارے کپڑے ہیرے جو ہاہر اور زیورات اتار کر اسے دریا میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں یہ سب اپنے گھر لے جاؤں گا تو بات چھپ نہ سکے گی سارے علاقوں میں مشہور ہو جائے گی۔ اس لیے میں وہ سب لیے ہوئے واسط کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں آپ کے ملازم نے مجھے پکڑ لیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ وہ زیورات اور سامان سب کہاں ہیں؟ اس نے کہا: کشتی کے نیچے میں اس کے تھوڑے کے نیچے ہیں۔ اسی وقت خلیفہ نے ان سارے زیورات کے حاضر کرنے کا حکم دیا تو وہ لائے گئے، جن کی مجموعی قیمت بہت زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ اس ملاج کو اسی جگہ لے جا کر پانی میں ڈبو دیا جائے جہاں اس عورت کو اس نے ڈبوایا ہے اس کے بعد اس نے اس اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اس عورت کے جو جائز وارث ہوں وہ آئیں اور یہ سب سامان لے جائیں، تین دنوں تک بغداد کی سڑکوں اور گلیوں میں اس کا اعلان ہوتا رہا، چنانچہ تین دنوں کے بعد اس کے درشت آئے، تب جو کچھ اس عورت کا سامان موجود تھا سب انہیں دے دیا گیا۔ وہ ملاج ان میں سے کچھ بھی نہ لے سکا۔ اس تھہ کے بعد خلیفہ کے حاضر باشون نے اس سے دریافت کیا کہ یہ ساری باتیں آپ کو کس طرح معلوم ہو گئی تھیں؟ تب اس نے کہا: نہیں نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال اور کپڑے سارے کے سارے بالکل سفید تھے اور وہ آواز دے رہے تھے اے احمد! اے احمد! جلد از جلد آتی ہوئی سب سے پہلی کشتی پکڑا اور ملاج سے اس عورت کے بارے میں دریافت کرو جئے اس نے آج ہی قتل کیا ہے اور مقتولہ کا سارا سامان اٹا رکھا ہے۔ اس کے بعد اس پر قانوناً حد جاری کرو اس کے بعد جو کچھ ہو وہ سب تم لوگوں نے دیکھا اور سنائے ہے۔

جعیف اسر قندی دربان خلیفہ نے بیان کیا ہے کہ ابک مرتبہ میں اپنے آقا معتقد کے ساتھ شکار کے سفر میں تھا اتفاق سے وہ اشکر سے نکل گیا۔ ایسے وقت میں میرے علاوہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہ تھا، اچانک ہمیں اپنی طرف آتا ہوا ایک شیر نظر آیا تو خلیفہ نے مجھ سے کہا: اے جعیف! کیا آج تمہیں اپنی جان کی خیر معلوم ہوتی ہے؟ میں نے کہا: نہیں! اور کیا تم بہتر نہیں سمجھتے ہو کہ میں اپنے گھوڑے پر سے اتر جاؤں، اور میرے گھوڑے کو پکڑے رہو۔ کہا: جی ہاں! بہتر ہے۔ اس کے بعد دربان نے کہا کہ خلیفہ گھوڑے پر سے اتر پڑا اور اپنے دامن کو اپنے پکے میں ڈال دیا اور اپنی تلوار سونت لی اور اس تلوار کا نیام میری طرف پھیک دیا۔ اس کے بعد آہستگی کے ساتھ وہ شیر کی طرف بڑھتا چلا گیا، ایک دم شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نے تلوار سے اس پر دار کر

دیا جس سے شیر کا ایک باتحکمت گیا اور اب وہ خود بے قابو ہو کر بینچ گیا۔ اس کے بعد اس نے شیر کے سر پر تکوار ماری جس سے اس نے دماغ ہٹا دیا۔ اب وہ تیر فوراً اکڑ پڑا۔ اب خیش نے اس کی پیٹھ کے ہاؤں سے اپنی تلوار کا حوش مانف کیا اور اسے اپنے ہیام میں ڈال دیا۔ پھر ٹھوڑے پردار ہو گیا اور تمہرے ہونی روایت ہو کہ لشکر نے آٹے ہائے اس کے بعد اس کی ایک اونچی کوئی بعد سے میں غیظہ کی زندگی میں برا بر اس کے ساتھ رہا۔ مگر بھی جسی میں نے نہیں سننا کہ اس نے اسی سے اس واقعہ بیان یا تواتر میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ کون یہ چیز تجھ بخیر ہوئی کہ اپنی بہادری کی وجہ سے یا اپنی شہرت نہ چاہئے کی وجہ سے یا مجھ سے یا انہمار ناراضگی نہ کرنے کے خیال سے میں نے شیر کے مقابلہ میں اپنی جان بچائی اور اس کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ کی قسم اس نے مجھ پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔

ابن عساکر نے ابو الحسین النوری سے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ (النوری) ایک ایسی کشتی کے پاس سے گزرنا جس میں شراب بھری ہوئی تھی تو میں نے اس ملاج سے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس کے لیے ہے تو ملاج نے کہا کہ یہ معتقد کی شراب ہے۔ یہ سن کر وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور ایک لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی اور ان ملکوں کو توڑ کر رکھ دیا، آخر میں صرف ایک کو چھوڑ دیا۔ ایسے موقع پر ملاج زور زور سے چیخ رہا تھا جس کی آواز سن کر پولیس وہاں پہنچ گئی اور اسے پکڑ کر معتقد کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، معتقد نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون کم؟ اس نے کہا میں محکم ہوں۔ اس نے کہا تمہیں اس عہدہ پر کس نے مأمور کیا ہے؟ جواب دیا اے امیر! تو متین! اسی نے مجھے بھی مأمور کیا ہے جس نے آپ کو خلافت کے عہدہ پر مأمور کیا ہے یہ سن کر خلیفہ نے اپنا سر جھکایا، تھوڑی دریے بعد سرا اٹھایا اور اس سے سوال کیا کہ تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ جواب دیا: آپ پر شفقت کے خیال نے تاکہ جہنم کی آگ آپ سے دور ہو جائے۔ تب اس نے دوبارہ اپنا سر جھکایا، تھوڑی دریے کے بعد اپنا سر اٹھا کر پھر دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایکیں ملکہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب دیا کہ میں نے محض اللہ کی برائی کے خیال سے یہ بت کی تھی۔ اسی لیے میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب میں اس آخری برلن تک پہنچا تو میرے دل میں یہ برائی آئی کہ میں نے آپ جیسے خلیفہ کے مقابلہ میں یہ جرأت کر لی ہے اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، تب معتقد نے اس سے کہا، اب تم آزاد ہو اور اب ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی عند اللہ ناپسندیدہ کام ہوتے ہوئے دیکھو، اس سے روک دیا کرو۔ یہ سن کر نوری نے کہا: اب اپنے پہلے خیال سے باز آتا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا اب کیوں؟ جواب دیا کہ اب تک میں محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے روکا کرتا تھا، مگر اب میں ایک محکم اور پولیس کی حیثیت سے رُک سکتا ہوں۔ معتقد نے کہا: اچھا اب تم کو کوئی ضرورت ہو وہ مانگو۔ اس نے کہا: میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے سامنے سے صحیح و سالم واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ اسے اجازت مل گئی اور وہ وہاں سے نکل کر بصرہ کی طرف چلا گیا اور وہاں گمانام ہو کر زندگی گزارنے لگا، محض اس خوف سے کہ کوئی مجھے معتقد تک اپنی مقصد کی برآ ری کے لیے نہ لے جاسکے۔ معتقد کی وفات کے بعد وہ بغداد واپس آگیا۔

قاضی ابو الحسن محمد بن عبد الواحد الباشی نے کسی بڑے تاجر کا اس کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ میرا کسی بڑے حاکم کے پاس

بہت سامال تھا، اور وہ مجھے دینے میں ناک مثول کرتا رہتا تھا، حق دینا نہیں چاہتا تھا، جتنا ہی میں اس سے اپنا حق مانگتا اسی قدر وہ مجھے اپنے پاس پہنچنے سے بھی روکتے ہی تو شش مرتبہ رہتا تھا، اور اپنے عازمین تو حسم دیتا کہ وہ مجھے ہر ممکن طرح سے ستابے رہتے۔ مجبور ہوئے ہی سے میں نے اس لیے شکایت کی تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اسی دکام سے پاس بھی جائیداد کا یہی لیکن انہوں نے بھی مجھے مطمئن نہیں لیا۔ آہستہ آہستہ اس کا انکار زیادہ ہوتا رہا، اور میری مخالفت زیادہ سے زیادہ کرنے لگا۔ اس لیے میں اپنے حق کی وصولی سے تقریباً میوس ہو گیا اور میں بے چین ہو کر رہ گیا۔ میں اسی حالت میں یہ سوچنے لگا کہ کہ کس کے پاس فریادی بنوں اچانک ایک شخص نے مجھ سے کہا تم فلاں درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ ضرور جاؤ، کہ وہ فلاں مسجد کا امام بھی ہے، میں نے کہا: اتنے بڑے ظالم کے مقابلہ میں یہ معمولی درزی میری کیا مدد کر سکے گا۔ جب کہ ارکان دولت بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تب اس شخص نے کہا جن لوگوں کے پاس تم گئے ہو وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ان سب کے مقابلہ میں یہی شخص اس کے لیے بیت ناک ہے، خوفناک ہے۔ تم اس کے پاس ضرور جاؤ۔ وہاں جا کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر انہیں لارپواہی اور بے یقینی کے ساتھ میں درزی کے پاس چلا گیا، وہاں پہنچ کر میں نے اس سے اپنا پورا واقعہ بالتفصیل بیان کر دیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھ لے چلا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی اس ظالم کی نظر پڑی وہ فوراً بہت عاجزی انکساری کے ساتھ اس کے پاس آیا اور بہت زیادہ اس کا احترام کیا اور میری پوری رقم اس نے ایک ایک پائی کر کے فوراً ادا کر دی، حالانکہ میرے بارے میں اس درزی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ اس شخص کا حق ادا کر دو ورنہ میں اذان دوں گا، اتنا سنتے ہی اس ظالم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور میرا حق ادا کر دیا۔

اس کے بعد اس تاجر نے کہا کہ مجھے اس درزی کے معاملہ میں سخت حریت ہوئی کہ اس معمولی شکل و صورت پر اُن پھٹے کپڑوں کے باوجود وہ ظالم حاکم کیونکہ اس کے سامنے سر نگوں ہو گیا۔ وہی میں میں نے خوش ہو کر اس کے سامنے کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہا، جسے اس نے مُنکر کر دیا۔ اور کہا کہ اگر میں اسی قسم کی رقم لیا کرتا تو میں اس وقت بہت بڑا دولت مند انسان ہو گیا ہوتا۔ پھر میں نے اس سے اس کے حالات دریافت کیے اور اپنی دلی کیفیت اس کے سامنے ظاہر کی اور اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ پھر میں نے اپنے سوال میں اصرار کیا کہ مجھے حقیقت واقعہ ضرور بتائیں۔ تب اس نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ایک شخص ہمارے پڑوں میں رہتا تھا اور وہ ایک ترکی حاکم اور بہت ہی بڑے اختیارات کا مالک تھا۔ پورا جوان اور انہیں حسین تھا۔ ایک رات اس کے قریب سے ایک حسین عورت اس حالت میں گزری کہ وہ جام سے نکل کر آ رہی تھی اور اس کے بدن کے اوپر اٹھے ہوئے قیمتی کپڑے تھے یہ شخص اس عورت کے پاس نشہ کی حالت میں جا کر اس سے چمٹ گیا اور اپنے گھر کے اندر لانے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ انکار کرتی رہی اور پاواز بلند چیختی چلاتی رہی۔ یہ کہتے ہوئے کہ اے مسلمانو! میرا شوہر موجود ہے اور یہ شخص بری نیت کے ساتھ زبردستی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ ادھر میرے شوہرنے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں اس کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ رات نہ گزاروں اور اگر میں آج رات یہاں رہ گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی اور کسی قیمت پر میری یہ شرمندگی دھل نہ سکے گی۔ اس کے بعد اس درزی نے کہا کہ میں اٹھ کر اس شخص کے پاس گیا، اسے شرم دلاتے ہوئے برا بھلا کہا۔ پھر میں نے اسی

۳۔ فصلی مسما مصلی و سکون شس سکوت سرور سارب ثوابنا حضرت

ترجمہ: آپ اُزربانے والی چیز پر تسلی دیتے رہے ہیں اور یہ کہ ہو چینی بھی پہلے خوشی کا جب تھی اب ثواب عظیم کا سبب ہو گئی

- ۴ -

۴۔ قد رضینا بار نموت و تحيي اُن عندي في ذلك حطا عظيمها

ترجمہ: ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم سر جائیں اور آپ زندہ رہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اس میں بہت بڑی خوشی ہے۔

۵۔ من يمت طائعاً مولاه فقد أعطى فوزاً و مات موتاً كريماً

ترجمہ: جو کوئی بھی اپنے آقا سے راضی رہ کر مرتا ہے وہ بڑی کامیابی پاتا ہے اور اس کی موت بہت عمده ہوتی ہے۔ ابوالعباس عبدالله بن معزز العباسی بن عمر المعتهد کسی حسینہ کی وفات پر مرثیہ کہتا ہے۔ اشعار:

۱۔ يا دهر ويحل ما انيت لى احدا رضيت بالله ربّا واحدا صمدا

ترجمہ: اے زمانہ! ابراهو کہ تو نے میر سے لیے کسی کو بھی بچا کر نہیں رکھا، تم بدترین بادپش ہو کہ تم خود ہی اپنے بچوں کو کھا جاتے ہو۔

۲۔ استغفرالله بل ذا كله فار رضيت بالله ربّا واحدا صمدا

ترجمہ: استغفر اللہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ یہ سب تو اللہ کی تقدیر ہے، میں ایسے اللہ سے راضی ہوں جو رب ہے، ایک ہے بے نیاز ہے۔

۳۔ يا ساكن القبر في غراء مظلمة بالظاهرية مقصى الدار منفردا

ترجمہ: اے گھنٹوں گھنٹا نار کی کی قبر میں رہنے والے۔

۴۔ اين الجنوш التي قد كنت تشحنتها اين الجنوш التي لم تحصها عددا

ترجمہ: وہ شکر کھاں گئے جن سے تم کینہ رکھتے تھے وہ خزانے کھاں گئے جن کو تم گن بھی نہیں سکتے تھے۔

۵۔ اين السرير قد كنت تملؤه مهابة من رأته عينه ارتعدا

ترجمہ: وہ تخت شای کھاں گیا جس کو تم نے بیت ناک بنا کر کھاتھا ہے ہر دیکھنے والا کاپ اخٹھا۔

۶۔ اين القصور التي شيدتها فعلت ولاج فيها سانا الابريز فانقدا

ترجمہ: وہ محلات کھاں گئے جنہیں تم نے اوپنچا کیا تو وہ اوپنچے ہو گئے، اور سونے کی چک دمک سے وہ روشن ہو رہا تھا، اب وہ بے مرمت ہو گیا ہے۔

۷۔ قد اتبعوا كل بر قال مذكرة و جناء تنشر من اشد افها الزبداء

ل۔ "الصول میں ایسا ہی ہے، لیکن دیوان نمکور میں ہم نے اس قصیدہ کو نہیں پایا ہے۔

ترجمہ: انہوں نے ایسی تیر رکارڈیوں و قبیلہ دیتا ہوا قتال شہزادوں سے بر تھیں، مٹ لگھیں اور اپنے ہمچڑوں سے بجاگ اڑاتی تھیں۔

۸. ایں الاعدادی الائٹی غلت سعیہم ایں الایر نے ایسی صیغہ تھا (۱۷۵)

ترجمہ: وہ قدیم دشمن کہاں گئے، جن کے پہلو انوں کو تم نے زیر لر رکھا تھا وہ تیر کہاں گئے جن و تم نے بالکل لزور کر دیا تھا۔

۹. ایں الوفود علی الابواب عاکفة ورد فقط اضرع ما جمال و اطردا

ترجمہ: وہ وفد اور نمائندے کہاں گئے جو براہ ریتے دروازے پر پھرنا کرتے تھے۔

۱۰. این الرجال قياماً في مراتبهم من راح منهم ولم يطمر فقد صعدا

ترجمہ: وہ جوان کہاں چلے گئے جو اپنے مرتبوں کے لحاظ سے کھڑے رہتے تھے ان میں سے جو لوگ چلے گئے اور اچھل کو دنہ کیا وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے۔

۱۱. این الحجاء التي حجلتها بدم و كن يحملن منك الضيغم الا سدا

ترجمہ: وہ عمدہ گھوڑے کہاں گئے جنہیں خون سے تم نے رنگیں بنادیا تھا، اور تم میں شیروں اور بہادروں کو پیچھے پر اٹھائے پھرتے تھے۔

۱۲. این السراح التي غذيتها مهاجاً مذمت ما وردت قليباً ولا كبدا

ترجمہ: وہ نیزے کہاں گئے جن کی غذا تم نے دشمنوں کے دلوں کے خون کو بنایا، جب سے تمہارا انتقال ہوا ہے اس وقت سے وہ نہ کسی دل میں اور نہ کسی جگہ میں پیوست ہوئے ہیں۔

۱۳. این السیوف و این النبل مرسلة يصبن من شئت من قرب و ان بعداً

ترجمہ: وہ تواریں کہاں گئیں وہ سیدھے تیر کہاں گئے، جوان نشانوں پر پہنچ جاتے تھے جہاں تم چاہتے خواہ قریب میں ہوں یا دور میں۔

۱۴. این المحاديق امثال السیبول اذا رُمِّیْنْ حائِطٌ حصِّنْ فائِیْ قَدَا

ترجمہ: وہ گھوپھٹے کہاں گئے جو سیلا بکی مانند جاتے قلعے کی ان کھڑی دیواروں پر جہاں انہیں پھینکا جاتا وہ بیٹھ جاتیں۔

۱۵. این الفعال التي قد كفت ثبِّدُهَا ولا ترى ان عفواً نافعاً ابداً

ترجمہ: وہ تمہارے عمدہ کام کہاں گئے جو نت نے انداز سے تم کیا کرتے اور تم یہ سوچتے بھی نہیں کہ غنو کرنا بھی شدی نافع ہوا کرتا ہے۔

۱۶. این الجنان التي تحرى جداً منها الطائر الغدا و يستحبب اليها الطائر الغدا

ترجمہ: وہ باغات کہاں گئے، جن کی نالیاں بھیشی ہی بہتی رہتی تھیں اور گانے والے پرندے ان میں آتے رہتے تھے۔

۱۷. این الوصائف كالغزلان رالحة يسبحن من موشيءه جلداً

بردباری کی بہت تعریف کی اور اس کا شکر یہ ادا کیا۔ پھر خلیفہ نے کہا اس شخص سے جو کچھ سرزد ہو گیا، اس میں اس کے اختیار کو کوئی خل نہیں ہے۔ اسے تو اونچا آئی تھی سزا کا حق تو بالقصد جرم لرنے والا ہوتا ہے، غلطی اور بھول کر کرنے والے و سرزائیں دی جاتی ہے۔ چیز سمر قندی دربان نے کہا ہے کہ معتقد کے پاس اس کے اپنے وزیر مبید اللہ بن سلیمان کی موت کی خبر تپنگی تو دیر یقین وہ سجدہ میں پڑا رہا ب بعد میں جب اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ وزیر تو آپ کا خادم اور انتہائی مخلص تھا، اس کی موت کی خبر سن کر آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ جواب دیا کہ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میں نے اسے نہ مغزول کیا اور نہ بھی اسے تکلیف دی (بلکہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا) چونکہ یہ وزیر ابن سلیمان بہت اچھی سمجھ اور رائے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس لیے اس کے کوتوال نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ اس وزیر کے بیٹے قاسم بن عبد اللہ کو اس کی جگہ مامور کر دیا جائے، جب کہ خود خلیفہ کی خواہش تھی کہ دوسرے شخص احمد بن محمد بن الفرات کو مامور کیا جائے مگر کوتوال نے اپنے مشورہ پر اصرار کیا، بالآخر خلیفہ کو راضی کر لیا اور اسے اس کے لڑکے کے پاس باپ کی تعزیت کرنے اور اس کی جگہ وزارت پر مامور ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیا، یہ قاسم بن عبد اللہ زیادہ دونوں تک عہدہ وزارت پر قائم نہ رہ سکا، بلکہ معتقد کے بعد اس کی جگہ پر اس کے بیٹے المکتبی بالله کے خلیفہ مقرر ہونے اور سپہ سالار بدر کے قتل ہونے تک ہی وزیر رہ سکا۔ کیونکہ معتقد ان دونوں (بدر اور قاسم) کے درمیان کی دشمنی کو باریک پر دے کے پیچھے سے دیکھ دیا تھا۔ یہ بات اس کی انجامی اور دور بینی پر دلالت کرتی ہے۔

ایک مرتبہ معتقد کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کا مفت مہ پیش کیا گیا جو کسی بڑے گناہ کے کرنے میں متفق تھے، اس لیے ان کے بارے میں اپنے وزیر سے مشورہ کیے تو وزیر نے مشورہ دیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو سولی دی جائے اور کچھ لوگوں کو آگ سے جلا دیا جائے، یہ جواب پاکر خلیفہ نے کہا: تمہارا براہو کہ تم میں سخت اور غلط مشورہ دے کر ان کے خلاف میرے غصہ کی آگ ٹھنڈی کر دی، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے پاس ان کی رعایا اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے، اور قیامت کے دن ان بادشاہوں سے ان کی رعایا کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ بالآخر وزیر کے مشورہ پر عمل نہیں کیا اور اسی نیک نیت کی برکت کی وجہ سے جب کہ یہ مند خلافت پر بیٹھے تھے تو بیت المال مال سے بالکل خالی تھا، ملکی حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور عرب والے ملک میں ہر طرف بد امنی پھیلارہے تھے، مگر اس کی اچھی سمجھ اور اچھے انتظام کی بدولت مال کی فراوانی ہو گئی اور تمام اطراف و جوانب میں حالات درست ہو گئے، اس کی باندی کی وفات پر بطور مرثیہ اس کے یہ چند اشعار ہیں:

۱۔ يَا حَبِيبًا لَمْ يَعْدُ لِهِ عِنْدِي حَبِيبٌ

ترجمہ: اے میری محبوبہ کہ میرے لیے اس کے برابر، وہ اکوئی محبوب نہیں۔

۲۔ اَنْتَ عَنْ عِنْسَىٰ بَعِيدٌ وَ مِنَ الْقَلْبِ قَرِيبٌ

ترجمہ: اگرچہ تم میری آنکھوں سے دور ہو مگر دل سے بہت قریب ہو۔

۳۔ لَيْسَ بِعِدْكَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْهُوَ نَصِيبٌ

ترجمہ: تمہارے بعداب کسی بھی لہو و لعب میں میرا حصہ نہ رہا۔

۴. لَكَ مِنْ قُلْبِي عَلَى قُلْبِي وَإِنْ غَيْرَتْ رِيقَبْ

ترجمہ: تمہاری طرف سے میرا ہی قلب میرے قلب کا رقبہ بنتا ہے اگرچہ تم غائب ہو۔

۵. وَ حَسَانَى مَصِيبَتْ حَسَانَةً لَا تُحِبُّ

ترجمہ: تمہارے غائب ہونے کے بعد سے میری زندگی بالکل بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔

۶. لَوْتَرَانَى كَيْفَى لَى سَعْدَكَ عَوْلَ وَ نَحِيبْ

ترجمہ: اے کاش اگر تم یہ دیکھ پاتے کہ تمہارے بعد سے میں کس طرح روتا ہوں اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہوں۔

۷. وَ فَوَادِي حَشْوَةً مَنْ حَرَقَ الْحَزَنَ لَهِيبْ

ترجمہ: اور غم کے جلانے کی وجہ سے میرے دل کا پردہ شعلوں میں جل رہا ہے۔

۸. مَا أَرَى نَفْسِي وَ إِنْ طَيْ بَتَهَا عَنْكَ تَطْيِبْ

ترجمہ: میں اپنے دل کو اس لاائق نہیں پاتا ہوں کہ وہ کسی دم بھی خوش رہ سکے اگرچہ تم خود اسے خوش رہنے کو کہو۔

۹. لَيْسَ دَمْعَ لَى يَعْصِيَنِى وَ صَبْرَى مَا يَحِبْ

ترجمہ: میرے آنسو میری مخالفت نہیں کرتے اور میرا صبر میری بات قبول نہیں کرتا ہے۔

اور اسی کے بارے میں یہ چند اشعار بھی کہے ہیں:

۱۰. لَسْمَ اَبِكَ لِلسَّدَارِ وَ لَكَنْ لِمَنْ قَدْ كَادَ فِيهَا مَرَّةً سَاكِنَا

ترجمہ: میں اپنے گھروں پر نہیں روتا ہوں بلکہ اس شخص پر جو اس میں ایک بار مقیم تھا۔

۱۱. فَخَانَى الدَّهْرَ بِفَقْدَاهِ وَ كَنْتُ مِنْ قَبْلِ لَهُ آمِنًا

ترجمہ: اس کے گم ہو جانے کی وجہ سے زمانہ نے بھی مجھ سے خیانت کر لی ہے حالانکہ اس سے قبل اس کے بارے میں میں بالکل مطمئن تھا۔

۱۲. وَ دَعَتْ صَبْرَى عَنْهُ تَوْدِيعَهِ وَ بَانَ قُلْبِي مَعَهُ ظَاعِنَا

ترجمہ: اس کی طرف سے میں نے اپنے دل کو رخصت کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرا دل مسافر بن کر چلا گیا ہے۔

اس کی اس مصیبت میں گرفتار ہونے پر معز کے بیٹے نے یہ اشعار لکھ کر اس کی تعریت کی ہے:

۱. يَا اَمَامَ الْهَدَىٰ! حَيَاتِكَ طَالَتْ وَ عَشَتْ اَنْتَ سَلِيمًا

ترجمہ: اے امام برحق! آپ کی حیات دراز ہو اور آپ لمبیش صحیح و سالم رہیں۔

۲. اَنْتَ عَلَمْتَنَا عَلَى النَّعْمَ الشَّكْرِ وَ عَنِ الدِّمَائِبِ التَّسْلِيمَا

ترجمہ: آپ ہی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نعمت پا کر شکردا کریں اور مصیبت میں گرفتار ہونے پر صابر ہیں۔

۳. اُو رَأَيْكَ مَصْرَى نَجَمَ مِنْ يَوْنَ بَأْءَ اَمَامَ برْحَقَ اِيْمَمَ هُمْ بِرَنَازِلَ بُوْبَأْ بَأْ پَرْنَيْنَ۔

عورت کو اس کے ہاتھوں سے چھڑا لینے کی کوشش کی، اس لیے اس نے مجھے اس لو ہے کے اس ڈنڈے سے مارا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے میرا سر بولہاں ہو گیا اور اس عورت پر پورے سورپر فابوپا مرد برہق اپنے گھر سے جانے تھے میں ہے سیاہ دوستی۔ مجبوراً میں دماس سے لوٹ آیا۔ اینا خون دسویا اور اپنے سر پر پیٹی باندھی اور لوگوں کو عذر، کی نماز پڑھائی۔ بعد نماز میں نے اپنے نمازوں کو فتح طب کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جو کچھ یادہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا گی۔ اب آپ اُگ میرے ساتھ چلیں اور ہم اس کی برائی کریں اور عورت کو چھڑا کر لے آئیں۔ چنانچہ تمام نمازی میرے ساتھ چلے اور ہم سب نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس لیے اس کے اپنے نوکر چاکرا پنے ہاتھوں میں چھریاں اور لو ہے کے ڈنڈے لے کر نکلے اور ہم لوگوں کو پیٹنے لگے اور اس شخص نے خاص کر مجھے تاک کر بے حساب مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے مجھے لہو لہاں کر دیا اور ہم سبھوں کو اپنے گھر سے انتہائی ذلت کے ساتھ نکال باہر کیا۔

دہاں سے میں اپنے گھر لوٹ آیا مگر درد کی شدت اور خون نکل جانے کی وجہ سے میں بھی راستہ نہیں پہچان رہا تھا۔ پھر کسی طرح میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا مگر مجھے نیند نہ آئی اور میں پریشانی کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ کس طرح آج رات ہی اس عورت کو اس ظالم کے ہاتھ سے نکال کر اس کے اپنے گھر تک پہنچا دوں۔ تاکہ قسم کی وجہ سے اسے طلاق واقع نہ ہو سکے۔ اچانک میرے دل پر یہ الہام ہوا کہ آدھی رات میں حق میں اٹھ کر نماز کے لیے اذان دے دوں تاکہ وہ شخص اس خیال سے گھر سے نکل جائے کہ صحیح ہو چکی ہے، پھر اس عورت کو بھی اپنے ہاتھ سے نکال باہر کر دے۔ اور وہ رات ہی کو اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے۔ چنانچہ میں مسجد کے مینارہ کے اوپر چڑھ کر اس شخص کے گھر کے دروازہ کی طرف دیکھتا رہا، اور حسب عادت قدیم قبل اذان لوگوں سے با تین کرتار ہا کہ شاید وہ گھر سے نکلتی ہوئی نظر آجائے۔

پھر میں نے اذان بھی دے دی، پھر بھی وہ عورت اس کے گھر سے بھرنے لگی، پھر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ فوجر کی نماز پڑھا دو۔ تاکہ صحیح طور پر ہو جائے۔ میں اس طرح اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب بھی وہ اس کے گھر سے نکلی یا نہیں۔ اتنے میں راستوں اور سڑکوں پر گھوڑے سواروں اور پیادہ پاؤگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کہا ہے جس نے اس طرح بالکل بے وقت اذان دی ہے، تو میں نے خود ہی ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے ہی اذان دی ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ شاید وہ لوگ میری اس طرح مدد کریں گے۔ تب انہوں نے مجھے نیچے اترنے کو کہا۔ چنانچہ میں نیچے آ گیا۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین کے دربار میں چلو۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ اس وقت میں بالکل بے جان اور بے حس ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اس کے دربار میں لے جا کر گھر اکر دیا۔ اس وقت جیسے ہی میں نے غلیفہ کو اس کی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا میں خوف کے مارے کا پنچے لگا، اور بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ اس طرح خلیفہ نے مجھے دیکھ کر اپنے قریب بایا تو میں قریب ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہا، تم پریشان نہ ہو، اور اپنی گھبراہٹ دور کر لو، اور دل کو مطمئن کر لو، پھر بھی وہ مجھے طرح طرح سے دلاسا دیتے رہے، یہاں تک کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا اور دل سے میرا ذر نکل گیا، تب اس نے مجھ سے کہا تم نے ہی اس طرح بے وقت اذان دی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! امیر المؤمنین۔

اس نے پوچھا کہ آخرت نے ایسا کیوں کیا ہے اور بے وقت اذان کیوں دی ہے؟ حالانکہ ابھی بھی آدمی رات سے زیادہ راست ہوتی ہے۔ اس طرح تم اپنی دومن سے رو رے دوسرے صفر نہ رہی، غیرہ۔ سب کو ختنہ دھونکہ دے رہے ہوئے نے چہا اگر میری جان بخشی کا امیر امومتین وعدہ کریں تو میں اصل قصہ پورا کا پورا بیان کر دوں، بواب دیا گھیک ہے، تمہاری جان بخشی کی گئی، تب میں نے اس کے سامنے پورا قصہ ذہرا یا یہ سنت ہے اسے سخت غصہ آیا اور فوراً اس حکمِ ظالم اور عورت کو دربار میں عاضر کرنے کا حکم دیا، خواہ وہ جس حال میں بھی ہوں چنانچہ فی الفور وہ دونوں حاضر ہیکے کے۔ پھر اس نے اپنی خاص معقیب اور ذمہ دار عورتوں کے ساتھ اس عورت کو اس کے شوہر کے گھر بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے شوہر کو بھی وہ میری طرف سے یہ حکم پہنچا دیں کہ وہ اس عورت کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اس کی غلطیوں سے درگز رکرے، کیونکہ اس پر زبردستی کی گئی ہے اور یہ معدود ہے۔ پھر اس نوجوان حاکم کی طرف متوجہ ہو کر اس سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کتنی جائیداد اور لکھنا مال ہے اور کتنی باندیاں اور کتنی بیویاں ہیں۔ تب اس نے بہت سی چیزوں کو ظاہر کیا، خلیفہ نے کہا: تیرا حال براہو، کیا اللہ کی دی ہوئی اتنی ساری نعمتیں بھی تیرے لیے کافی نہیں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ کی حد میں بھی تو نے قدم بڑھا دیا، اور اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ پھر بادشاہ کے خلاف اس طرح جرأت کا اظہار کیا اور تمہارے لیے اتنی بات بھی کافی نہ ہوئی یہاں تک کہ اس شخص کو جس نے تیرے سامنے امر بالمعروف اور نهي عن المنهك کا تلقی اسے بھی مارا، اس کی توہین کی اور مار کر اس کا خون بہادیا، وہ شخص ان باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکا، بالکل خاموش رہا۔ اس لیے فرمائی شاہی کے مطابق اس کے مطابق اس کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں پھندن اذال کر کپڑے میں لپیٹ کر لو ہے کے ڈنڈے سے اسے پیٹا گیا، یہاں تک کہ خود مجھے ڈر لگنے لگا۔ پھر جلد میں اسے ڈال دیا اور یہی اس کا آخری حشر ہوا۔ پھر خلیفہ نے بدر نامی سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں جو کچھ بھی بیت المال کا مال اور سامان ہو سب چھین لے۔ پھر اس نیک درزی کو خاطب کر کے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی، ناجائز کام ہوتے ہوئے دیکھو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ کسی پولیس آفیسر ہی کے خلاف ہو اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو تم فوراً مجھے اطلاع دو۔ اگر اس وقت آسائی مجھے تمہاری ملاقات ہو سکتے تو بہتر ہے ورنہ ہمارے درمیان ملاقات کا سامان بھی اذان ہے۔ جس وقت بھی ہو یا اسی جیسی رات کا وقت ہو اس پورے واقعہ کے بیان کرنے کے بعد اس درزی نے کہا کہ اب میں ارکان دولت میں سے بھی جس کسی کام کا حکم دیتا ہوں وہ لوگ فوراً اسے مجاہاتے ہیں اور جس کسی کام سے انہیں روکتا ہوں وہ فوراً کر جاتے ہیں، اس خلیفہ مختصہ کے خوف سے۔ لیکن اس کے بعد سے آج تک اس جیسی اذان دینے کی مجھے بھی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے۔

عبداللہ بن سلیمان بن وہب وزیر نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں خلیفہ مختصہ کے پاس تھا اور ملازم کھڑے ہو کر اس کے سر سے ہاتھ کے پکھوں سے کھیاں اڑا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ لگنے سے خلیفہ کے سر سے ٹوپی گرگئی میں نے تو سمجھا کہ انہائی خراب بات ہو گئی ہے اور اب مجھے اس کی جان کا خطرہ بھی ہونے لگا۔ لیکن خلیفہ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بلکہ اپنی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی لی اور اپنے کسی ملازم سے کہا کہ جھلنے والے سے کہہ دے کہ وہ جا کر سور ہے، کیونکہ اسے جھلتے ہوئے اونگھک آگئی تھی اور ان ملازمین کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ انہیں آرام کا پورا موقعہ مل سکے۔ یہن کرہم نے خلیفہ کی اس

ترجمہ: وہ نہیں کی ماند، و شیرا کی خشمہ میں بھرتی ہوئی کہاں گئی؟ جو شے نے گوت لگے ہوئے جوڑوں کو بدن پر  
وال کر انہیں کھینچ پھرتی تھیں۔

۱۸. این الملاهي و این الراج تحسبها

ترجمہ: وہ کھیل کے سامان کہاں گئے اور وہ شراب کہاں گئی جنہیں تم یاقوت سے بنی ہوئی ایسی زرد سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر  
سے چاند کی چادرِ دل دی گئی ہے۔

۱۹. این الوثوب الى لاعداء مبتغاها

ترجمہ: کہاں گیا تمہارا دشمنوں پر حملہ کرنا بی العباس کی حکومت کی اصلاح کی غرض سے جبکہ اس میں فساد ابھر رہا ہو۔

۲۰. ما زلت تقسر منهم كل قصورة و تحطم العانى الحار المعتمدا

ترجمہ: ان میں سے ہر ایک بہادر شیر کو تم ہمیشہ مجبور کر دیا کرتے تھے اور تم چور کر کے رکھ دیتے تھے سرکش، زبردست، ضدی  
و شمن کو۔

۲۱. ثم انقضیت فلا عین ولا اثر حتى كانك يوماً لم تكن احداً

ترجمہ: اب تم ایسے ہو گئے ہو کہ نہ تمہاری ذات رائقی رہی نہ نشان ہی رہا، ایسے ہو گئے گویا تم کبھی کبھی نہ تھے۔

۲۲. لا شيء يبقى سوى خير تقدمه مadam ملك لانسان ولا خلدا

ترجمہ: کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی سوائے اس نیکی کے جو تم اپنی زندگی میں کر گزروئے خود انسان کبھی ہمیشہ رہا ہے اور نہ اس کی  
حکومت ہمیشہ رہی ہے۔

اس قصیدے کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

ایک رات مقصد کے پاس اس کے درباری موجود تھے جب ان کی خوش گپیاں ختم ہوئیں اور سب اپنی باندیوں کے  
پاس چلے گئے اور قصے سنانے والے سو گئے تو ایک خادم نے آ کر ان سب کو جگا دیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ  
تمہارے چلے آئے کے بعد ان کی نیندا اچٹ گئی اور اسی حالت میں ایک شعر ایسا بن گیا ہے کہ اس کا دوسرا شعر نہیں بن رہا ہے،  
اب تم میں سے جو کوئی بھی اس کا دوسرا شعر کہہ دے گا وہ انعام پائے گا، اور وہ شعر یہ ہے:

ولما انتهينا للخيال الذى سرى اذا الدار قصر والمزار بعيد

ترجمہ: رات میں کچھ خیال آ جانے کی وجہ سے جب ہم جاگ گئے تو دیکھا کہ گھر تو چیل میدان ہے اور محبوب کی ملاقات  
بہت دور موہوم ہے۔

کہنے والے نے کہا کہ وہ سب اسی وقت اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے اور دوسرا شعر کہنے کی فکر میں لگ گئے، فوراً ہی ان  
میں سے ایک شخص نے یہ شعر کہا:

لعل حبلاً طارقاً سَيَعُودُ

عقل لعینی عاوِدِ النوم واهجعی

تشریح: تو میں نے اپنی آنکھ سے کہہ دیا کہ تو سونے کی کیفیت پیدا کرنا اور گھری غیند سو جا، شاید رات کو وہ خیال دو بارہ واپس آ جائے۔

وہی دماس شاعر کو اکر جب خلیفہ کے پاس آیا تو اسے یہ شعر بہت پسند آیا اور بیش قیمت انعام دینے کا حکم دیا۔  
اک دن مقتضد کو مخصوص شعرا میں سے سن بن میر المازنی البصری کے یہ اشعار بہت پسند آئے۔

١- نصف علم من اطار النوم فامتنعا و زاد قلبى على اوحاجه و جعا

**پڑھجہاں:** افسوس ہے مجھے اس شخص پر جس نے میری نیندا اچاٹ کر دی اور دُور ہا، اور میرے دکھیارے دل کے دکھ کو اس نے اور بھی بڑھا دیا۔

٢- **كائنما الشمس من اعطافه طلعت** حسنا او البدر عن اروانه لمعا

**تشریحیہ:** گوکہ سورج کا حسن اسی کی مہربانیوں سے جگگا یا ہے پاس کی آستین کی بدولت چودھویں رات کا چاند چمکا ہے۔

٣٠. فَوْجِهٖ شَافِعٌ يَمْحُو إِسَاءَتَهُ  
مَنِ الْقُلُوبُ وَجِيَهَا إِنْ مَا شَفَعَا

**تہذیب:** اس کے چہرہ میں وہ بھولا پن اور سفارشی انداز ہے، جس کی وجہ سے شریفوں کے دلوں سے اس کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، جس جگہ بھی وہ سفارش کر دے۔

اس سال ناہ ربيع الاول میں جب معتقد کا درد بڑھا، تو اعلیٰ حکام یونس خادم جیسے لوگ وزیر قاسم بن عبد اللہ کے پاس جمع ہوئے اور متفقی باللہ علی بن معتقد باللہ کے ہاتھ پر تجدید بیعت کا اشارہ کیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور بیعت پختہ ہو گئی، ایسا کرنے مصلحتی تھیں۔ جب معتقد کی موت کا وقت بالقریب آیا تو اس نے خود اپنے لیے یہ اشعار کہے:

١- تَمْتَعُ من الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَبْقَى  
وَلَا يُحِدُّ صُفُوهَا مَا إِنْ صَفَتْ وَدَعَ الرَّفِقا

**تہذیب:** دنیا سے جو کچھ لینا ہے لے لو کیونکہ تم اب زندہ نہ ہو گے اور اگر اس دنیا میں کچھ بھی عمدگی ہے تو تم اسے حاصل کر لواہر گندگی کو چھوڑ دو۔

**٢- ولا تأمنن الدهر إنّي ائمّته** فلم يبق لى حالا ولم يرع لى حقاً

تہجیہ: اور اب زمانہ پر بھروسہ نہ کرو کہ میں نے اسے امین سمجھا، لیکن اس نے میرا کوئی حال باقی نہ رکھا اور میرے کسی حق کی رعایت نہ کی۔

٣- قتلت صناديد الرجال فلم ادع عذراً ولم امهل على خلق علقا

**تشریح:** میں نے بڑے بڑے بھائیوں کو بھی نہ چھوڑا، اور مخلوق پر میں نے کسی تالہ کو بھی باقی نہ رکھا۔

فشردُّهُمْ غرباً و مزقُهُمْ شرقاً

تہذیب: اور ملک کے ہر گھر سے ہر مخالف کو نکال باہر کیا اور انہیں مغرب کی جانب بھی نکال باہر کیا اور مشرق کی جانب بھی پیسا کیا۔

لیے حلال سمجھا۔

اسی سال طبری کی سرہ والوں کی شکایت نے کل میہد سے منتشر ہی بیان کی جگہ پڑا یو یا مر احمد بن سہر کم بنا یا نبی۔  
اس سال فضل بن محمد عباسی نے نوگوں کوچ کرایا۔

## مشہورین کی وفات

اور اس سال مشہور لوگوں میں ان حضرات نے وفات پائی ہے۔

عبداللہ بن احمد بن خبل:

ابو عبد الرحمن الشیبانی، یہ ایک بڑے امام محدثین میں قابل اعتماد، حافظ حدیث، ثبت، بہت زیادہ روایت حدیث کرنے والے تھے والد کے علاوہ دوسرے محدثین سے بھی ابن المنادی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب سے ان سے بڑھ کر کسی دوسرے نے روایت نہیں کی ہے۔ اپنے والد سے تمیں ہزار مندا اور تفسیر کی ایک لاکھ بیس ہزار روایت کی ہے ان میں سے براہ راست بھی سنی ہوئی ہیں اور کچھ کی بطور احاجزت روایت حاصل کی ہے ان میں سے الناصح اور النسوخ اور المقدم والمؤخر بھی ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے بھی ہے اور تاریخ سے بھی۔ حدیث سبعہ، کرامات القراء، النساک الکبیر، الصغیر اور حدیث الشیوخ وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور ابن المنادی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے شیوخ کو یہ دیکھتے آئے کہ ان کے بارے میں یہ گواہی دیتے تھے کہ یہ محدثین کی شناخت حدیث کی خرابیوں اور ان کے ناموں اور کنیتوں کی شناخت کی اچھی صلاحیت رکھتے تھے اور عراق وغیرہ میں ہمیشہ طلب حدیث میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اسلاف بھی ان باقوں کا اقرار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض تو معرفت حدیث کے سلسلہ میں ان کی تعریف میں اسرا ف سے کام لیتے تھے اور یہ کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی زیادہ احادیث سنی ہیں۔ جب یہ بیمار پڑے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو جواب دیا کہ مجھے سندھج سے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس علاقہ میں کوئی نبی مدفون ہیں اس لیے یہیں دفن ہونا مجھے اپنے والد کے قریب مدفون ہونے سے زیادہ محبوب ہے ان کی وفات اس سال ماہ جمادی الآخرہ میں ستھر سال کی عمر میں ہوئی ان کے والد کی مانند ان کے جنازے میں بے شمار نمازی شریک ہوئے۔ ان کے بھتیجے زہیر نے جنازے کی نماز پڑھائی، باب اتنیں کے مقبرہ میں دفن کئے گئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

عبداللہ بن احمد:

بن سعید ابو جرار بالطی المرودزی، ابو تراب الحشمتی کی صحبت میں رہے۔ جنید بہت مدح و شنا کیا کرتے تھے۔

عمربن ابراہیم:

ابو بکر الحافظ ابوالاذان کے نام سے مشہور تھے۔ ثقہ اور ثابت تھے۔

محمد بن الحسین:

بن غفرن ابو نصرہ الہمدانی من آنی اپنی ایک سندھی مشہد تھا۔ مخصوصاً میں ایک تھے۔

محمد بن عبد اللہ ابو بکر الدقاق:

سو فیوں کے بڑے امیوں اور عابدوں میں سے ایک تھے۔ بنیہ روایت کی ہے کہ مکہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا اس طرح پر کردہ بالکل نیکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح انسانوں سے تجھے شرم نہیں آتی ہے اس نے جواب دیا میں ان کو انسان خیال نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ انسان ہوتے تو بچوں کی گیند کی طرح میں ان سے کس طرح کھلیتا انسان تو ان کے علاوہ چند وسرے حالات ہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا وہ شویزی کی مسجد میں ہیں کہ انہوں نے میرے دل کو زد بدا اور میرے بدنا کو تھکا دیا ہے۔ میں جب بھی ان کے بہکانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ اللہ عزوجل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جس سے میں جلنے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے کپڑے بد لے اور اسی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا اس میں تین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر چادروں سے اپنے سرچھپائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے میری طرف اپنارکیا اور کہا اس خبیث کی بات سے دھوکہ میں نہ آؤ اور تم تو اتنے سید ہے ہو کہ جو بات بھی تم سے کہی جاتی ہے سب مان لیتے ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی ابو بکر الدقاق ہیں اور دوسرے ابو الحسین النوری اور تیسرے ابو حمزہ محمد بن علی بن علویہ بن عبد اللہ الجرجانی الفقیہ الشافعی ہیں جو مرنی کے شاگرد تھے یہ واقعہ ابن الاشیر نے بیان کیا ہے۔



احمد بن محمد المعتقد بالله:

ان پر مرشد بد مرد اجی کا غلبہ ہوا اور شرست جماعتی وجہ سے بد نگل گیا تھا۔ اس سلسلہ میں تکمیل جتنی بھی ایسی دو ائمہ تھیں جن سے ان کے بدن میں تازگی آتی یا اس کی مخالفت ہی کرتے یہاں تک کہ آبہ بن سنت تو متقابلہ بواب دے گئی اور ختم ہو گئے۔

سپہ سالار بدر کا قتل:

جو معتقد کا وفادار غلام تھا موجودہ وزیر القاسم نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ امورِ خلافت کو معتقد کے خاندان سے نکال لے جائے گا اس لیے اس نے اس بدر سے بھی گفتگو کی تو اس نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی اب جب کہ المتفقی بن المعتقد کو خلافت مل گئی تو اسے اپنے قتل کے جانے کا خطہ محسوس ہوا اس لیے وزیر نے المتفقی خلیفہ کے کان بھرنے شروع کئے کہ اس بدر کے قتل کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ آخر المتفقی نے اس وقت جب کہ بدر واسطہ میں تھا اس کی ساری آمدن اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور وزیر کو اس کے پاس امام دے کر بھیجا جب بدر واپس آیا تو اسی سال ماوراء رمضان کی ۲۷ تاریخ روز جمعہ کسی شخص کو اس کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ پھر اس کا سرکاٹ برقیہ بدن اس کے گھروں کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اسے تابوت میں رکھ کر مکہ معظزہ بھیج دیا اور دفن کر دیا کیونکہ اس نے اس برقیہ کی ان لوگوں کو وصیت کی تھی۔ اس نے اپنی وفات سے پہلے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا اور جب لوگوں نے اس کے قتل کا ارادہ کی تو اس نے مسنون طریقہ پر دور کعت نماز پڑھ لی تھی۔ رحمہ اللہ الحسین بن محمد:

ابن عبد الرحمن بن الأفہم بن محزاز ابن ابراہیم الحافظ البغدادی، ابہوں نے ابن ہشام، یحییٰ ابن معین، محمد بن سعد وغیرہم سے حدیثیں سنیں ہیں ان سے احتلطی اور الطوادی نے یہ عموماً لوگوں کو احادیث سنانے سے احتراز کرتے تھے صرف ان لوگوں کو سنانے جوان کا دامن نہ چھوڑتے، یہ اخبار، نسیب، شعر گوئی اور اسماء الرجال تمام فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ عقیدہ مسائل فقہ میں عراقیین کے مذهب کے متعلق تھے۔ دارقطنی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی روایت قوی نہیں ہوتی تھی۔

عمارة ابن وثیمہ بن موسیٰ:

ابورفاضل الفارسی نے سفن پر تاریخ لکھی ہے۔ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی، ابو صالح کاتب الیث وغیرہ سے حدیث بیان کی ہے۔

ہارون بن الیث:

الصفار بڑے مالداروں میں سے ایک تھے۔ یہ محل خانہ میں اس وقت قتل کردیئے گئے تھے جب کہ المتفقی سب سے پہلے بغداد آئے تھے۔



## واقعات — ۲۹۰

اس سال تھی بن زکریہ بن مہرویہ ابو القاسم القرمطی جو اسخن سے مشہور ہوا اس نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ "رقہ" کے علاقے میں زبردست فتنہ و فساد پھیلایا اس کے مقابلہ کے لیے خلیفہ نے بھی دس ہزار سواروں کا لشکر بھیجا۔

اس سال خلیفہ نے بغداد سے آ کر سامرا میں مستقل سکونت کا ارادہ کیا مگر اس ارادہ سے ان کے وزیر نے باز رکھا اس لیے وہ پھر بغداد واپس آ گئے۔ اس سال دمشق کے دروازہ پر تھی بن زکریہ قتل کیا گیا۔ مغرب کے باشندوں میں سے کسی نے آگ سے لہبھا تے ہوئے نیزہ سے اس پردار کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت سے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ اور اسی نیزہ کو اس سے چھین کر اس کو جلا ڈالا۔ یہ مغربی شخص مصری لشکر کا ایک فرد تھا۔ اس کے بعد قرامطہ کے معاملات لے کر اس کا بھائی الحسین کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا نام احمد کنیت ابوالعباس اور لقب امیر المؤمنین اختیار کیا تھا۔ قرامطہ نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا اس لیے وہاں کے باشندوں نے مال دے کر اس سے مصالحت کر لی۔ پھر وہ حمس کے علاقے میں گیا اور اسے فتح کر لیا۔ وہاں نمبر پر اسی کا نام لیا جانے لگا پھر ان کے اطراف اور معراجہ العمان میں جا کر وہاں کے باشندوں پر بزور غائب آ گیا۔ ان کے مال اور ان کی عورتوں کو اپنوں کے لیے مبارج کر دیا وہ جانوروں کو قتل کر دیتا اور پکوں کو مکاہبوں میں داخل کر لیتا اور جو اس کے ساتھ ہوتے ان سب کے لیے دوسروں کی عورتوں کو حلال کر دیتا۔ بسا اوقات ایک ایک عورت سے مردوں کی ایک جماعت ہمپستہ ہوتی۔ اگر اس حرکت سے کوئی بچہ ہو جاتا تو ہر ایک مرد و سرود کو اس کی مبارک بادی دیتا۔ تھک آ کر لوگوں نے خلیفہ کو اس ملحوظ کے تکلیف دہ حالات سے مجبور کیا، تب خلیفہ نے ان کے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر بھیج دیا اور اس میں بہت سی دولت صرف کر دی۔ ماہ رمضان میں سوار ہو کر رقہ کے علاقے میں پڑا ڈالا۔ اور ان قرامطہ کے مقابلہ کے لیے ہر طرف سے فوج سے چڑھائی کر دی۔

یہ قرمطی اپنے لوگوں کو جب بھی کوئی خط یا ہدایت نامہ لکھتا تو اپنے لیے اس قدر طویل القاب استعمال کرتا کہ "یہ خط عبد اللہ کی جانب سے ہے جس کا لقب المهدی ہے اور اس کا نام احمد بن عبد اللہ ہے کہ اس کا باپ بھی المهدی ہے اور اس کا لقب المنصور اور اللہ کے دین کا ناصر ہے اللہ کے احکام قائم کرنے والا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حکم جاری کرنے والا ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والا ہے اللہ کے ممنوعات سے لوگوں کو دور رکھنے والا ہے رسول اللہ کی اولاد میں پسندیدہ ہے اور وہ اسی بات کا بھی دعویٰ کیا کرتا کہ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہؓ کی اولاد سے ہے۔ حالانکہ اس دعویٰ میں وہ جھوٹا اتهام رکھنے والا اور بڑا مجرم تھا۔ اللہ اس کا حشر خراب کرے کیونکہ تمام انسانوں میں قریش کا سب سے بڑا شمن ان کے بعد بنی ہاشم کا دشمن تھا اس نے سلمیہ میں پہنچ کر کسی بھی ہاشمی کو زندہ نہ چھوڑا ایک ایک کر کے ان تمام کو اور ان کی اولاد کو قتل کیا اور ان کی ازویج کو اپنے

۵. فنسا سمعت الحجم عزماً و رفعه  
و صارت رفاقت الحجف لى اجمع رف  
ترجمہ: اب بندھ میں ہڑت اور مرتبے بلند ستارہ تک پہنچ گیا اور ساری حقوقی اُردو میں میرے سامنے جھٹ گیا۔

۶. رمانی اُردو میں فا خمس حضرتی  
فہا انا دافعی حضرتی عاجلاً انقی

ترجمہ: تو ہلکت کے تیر نے مجھے ایک ایسا نشانہ بیا جس نے میری زندگی کی پنکاری بھی بجاوی اب میں بہت جدا ہیں قبر میں  
ڈال دیا جاؤں گا۔

۷. ولم يعن عنى ما جمعتْ وَلِمْ أجدْ  
لدى ملليٌّ آلا حانياً حبها رفقاً

ترجمہ: جتنا بھی میں نے جمع کیا اس نے مجھے بے نیاز نہ کیا اور میں نے کسی بھی باہشاہ کے پاس جو کچھ پایا اس کی محبت نے مجھے  
زی کے قریب کر دیا۔

۸. وَفَسَدَ دُنْيَايِ وَ دِينِي سَفَاهَةٍ  
فمن ذا الَّذِي مثَلَى بِمَصْرِعِهِ اِشْقَى

ترجمہ: اور میں نے اپنی دنیا اور اپنے دین سب کچھ اپنی بے وقوفی پر برداشت دیا ہے کوئی ایسا جو میری طرح اپنے بستر پر بد قسم  
ہو کر پڑا ہوا ہو۔

۹. فِيَالِيتْ شِعْرِي بَعْدِ مَوْتِي قَلْ أَصْرَ  
إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ أَمْ فِي نَارِهِ الْقُنْى

ترجمہ: کاش مجھے کوئی بتاتا کہ میں اپنی موت کے بعد اللہ کی رحمت کی طرف جاؤں گا یا اس کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا  
جاؤں گا۔

ان کی وفات اسی سال ماه ربیع الاول کی بائیسویں تاریخ سو دری کی رات کو ہوئی، انہوں نے پچاس سال کی بھی عمر نہ پائی  
اور مدتِ خلافت صرف نو برس نو میں تیرہ دن ہوئی۔ تین بیٹے علی المکفی، جعفر المقتندر اور ہارون کو چھوڑا اور گیارہ بیٹیاں اور ایک  
قول میں سترہ بیٹیاں چھوڑیں۔ اور بیت المال میں سترہ کروڑ دینار چھوڑے۔ بے موقع بے ضرورت کبھی خرچ نہ کرتے اسی لیے  
کچھ لوگ انہیں بخیل بھی کہتے تھے اور کچھ حضرات انہیں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی مردی حدیث جس میں خلفاء راشدین کا تمذکرہ آیا  
ہے اسی میں انہیں بھی شمار کرتے تھے۔

### ابو محمد المکفی بالله کی خلافت:

علی بن المعتصم بالله امیر المؤمنین کی اس سال ماه ربیع الاول میں والد کی وفات کے بعد ان کی خلافت کی بیعت لی گئی  
گندشیت تمام خلفاء میں سے کسی کا نام بھی علی نہ تھا سو ائے ان کے اور حضرت علی بن ابی طالب شیعو کے نام کے اور ان میں سے  
کسی کی بھی کنیت ابو محمد نہ تھی سو ائے ان کے اور حسن بن علی بن ابی طالب اور الہادی اور المکفی بالله کے۔ ان کی خلافت کی کرسی  
پر بیٹھتے ہی ملک میں فتنے اور انتشار، بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس سال ماه رمضان میں بہت زبردست زلزلہ آیا اور ماه رمضان میں  
آسمان سے بہت زیادہ ستارے آفتاب نکلنے تک ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ جب خلافت ان کے پروردگار ہی جاری تھی اس وقت یہ

”رقو“ بیس تھے تو میرزا ابوالبکار امانت نے لکھ کر خبری امویہ پر وقت بگدا، پہنچ گئے۔ ۷۰ ہمام ہماں کی آسمیں تاریخ اور سیاست کا دن تھا۔ اسی دن عمرہ بن الایث الصفار کے قتل کا حکم دیا۔ اسی وقت تک وہاں کے والد کے جیل خانہ میں قیدی تھا۔ اور ان کے والد نے قیدیوں کے لیے جتنے جیل خانے بنوانے تھے ان سب کوڈھادیئے اور انہی جلد جامع مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اور اسی روز اپنے وزیر اعظم بن عبید اللہ بن کوچھ تحقیقی ضرعت دیئے اور ایک تلوار ان کے لگے میں لکھا دی۔ خلافت پانے کے وقت ان کی عمر پہیس سال چند مہینے کی تھی۔

اسی سال قرامطہ تمام اطراف میں پھیل گئے اور حاجیوں پر ڈیکیتی کرنے لگے۔ ان میں سے بعضوں نے اپنا نام امیر المؤمنین رکھ لیا تھا۔ تب الحکمی نے ان کے مقابلہ کے لیے بہت بڑی فوج بھیجی اور ان لوگوں پر بے شمار مال خرچ کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ فتنوں کو دبادیا۔

اس سال محمد بن ہارون نے اسماعیل بن احمد السامانی سے بغاوت کر لی۔ اور ”رمی“ والوں نے اس کو قتل کر کے محمد بن زید الطالبی سے خط و کتابت کر کے اسے اپنے پاس بلایا چنانچہ وہ ان لوگوں کے پاس گیا اس وقت ان لوگوں نے شہر کی ذمہ داری اس محمد بن زید کے حوالہ کر دی اور وہ شہر کا حام ہو گیا اس کے بعد محمد بن اسماعیل بہت سے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور ان سبھوں کو مغلوب کر لیا اور انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ اسے شہر سے نکال باہر کیا۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب **امتنظم** میں لکھا ہے کہ ہر سال لوگوں نے ذوالحجہ کی نوین تاریخ عصر کی نماز اس طرح پڑھی کہ گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے ان کے بدن پر خشندے کپڑے کپڑے تھیجاتے تھے میں بہت زیادہ خشندی ہوا چلی اتنی چلی کہ لوگ آگ جلا کر اس سے گرمی حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے اور موسم سردی کے گرم کپڑے اپنے بدن پر ڈال لیے۔ سردی کے موسم کی طرح پانی جم گیا۔

ابن الاشیم نے کہا ہے کہ حمص کے شہر میں بھی یہی حال ہوا۔ بصرہ شہر میں اتنے زور کا طوفان آیا جس نے وہاں کھجور کے بہت سے درختوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ اور ایک علاقہ زمین میں دھنس گیا جس کی وجہ سے سات ہزار افراد وہاں دب کر مر گئے۔ ابن الاشیم اور ابن الجوزی دونوں نے کہا ہے کہ اس سال ماہ رب جب میں بغداد شہر میں بارہا زلزلے آئے پھر سکون ہوا اس سال فضل بن عبد الملک نے لوگوں کو حج کرایا۔ اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے حضرات یہ ہیں۔

## مشہورین کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے حضرات یہ ہیں:

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم:

جو بڑے صوفیائے کرام میں سے ایک تھے۔ ابن الاشر نے کہا ہے کہ یہ سری عطی کے ہم عصروں میں سے تھے، ان کا مقولہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی تم اللہ کی فکر میں لگ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا و مافیہا سب سے بہتر ہے۔

## واقعات — ۵۹۱

اس سال سب سے اہم واقعہ یہ ہوا کہ قریامطہ اور خلیفہ کے لشکر کے درمیان مقابلہ ہوا۔ لشکرنے بالآخر قریامطہ کو شکست دے کر ان کے سردار الحسن بن زکریہ ذوالشامہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد اس کے سرکردہ ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ سب کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا وہاں اسے ایک مشہور ہاتھی پر سوار کر کے بغداد میں لا یا کیا۔ وہاں خلیفہ نے بہت اوپنی خاص جگہ بنانے کا حکم دیا اور اس پر اسے بخایا گیا اور ایک ایک کر کے اس کے ساتھی اس کے سامنے لا کر قتل کیے جاتے رہے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اس عرصہ میں اس کے منہ میں ایک کھڑی لکڑی جو اس کے تالو سے مل رہی تھی رکھ دی گئی۔ آخر میں اس پر سے اسے اتار کر دوسوکھے مارے گئے۔ پھر یکے بعد دیگرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر بقیہ اعضاء کو گرم لوہوں سے داغ دیا گیا۔ پھر جلا دیا گیا۔ اور اس کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر بغداد کے سارے علاقوں میں گشت کرایا گیا۔ یہ واقعہ اسی سال ماہ ربیع الاول کا ہے۔

اسی سال ترکیوں نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ماوراء النہر کی طرف رخ کیا وہاں مسلمانوں نے انہیں اپنے گھروں میں رات کو ٹھہرنا کی جگہ دی تو ان لوگوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قیدی بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے عصہ میں بھرا ہوا مٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوتی۔ (پارہ ۲۱، سورہ احزاب، آیت ۲۵)

اسی سال روی باڈشاہ نے مسلمانوں کے خلاف دس بڑے جنڈے بے تیار کیے جن میں سے ہر ایک کے ماتحت دس ہزار فوجی تھے ان لوگوں نے آس پاس کے علاقوں میں خوب لوٹ مار مچائی اور بہت سوں کو قتل کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔

اس سال طرسوں کے نائب حاکم نے روی شہروں پر حملہ کر کے انطا کیہ شہر کو فتح کر لیا جو سمندر کے ساحل پر ایک بڑا شہر ہے اور قسطنطینیہ شہر کے برابر ہے۔ اور وہاں سے پانچ ہزار مسلمان قیدیوں کو چھڑایا اور رومیوں کی ساٹھ جنگی کشتوں پر قبضہ کر لیا اور بے حساب غنیمت کا مال حاصل کیا اس طرح کہ ہر غازی کو ایک ایک ہزار دینار حصہ میں ملا۔ اس سال فضل بن عبد الملک الہاشی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال ان مشہور لوگوں کی وفات ہوتی۔

احمد بن یحییٰ بن زید بن سیار:

ابوالعباس الشیبانی کیوفہ یہ ان کے غلام تھے۔ ان کا لقب تعلب تھا۔ فن نحو اور لغت میں کوفیوں کے امام تھے۔ دوسو

۲۹۲ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ محمد بن زیاد اعرابی اور الزیر بن بکار اور القواریری وغیرہم سے احادیث کی سماعت کی، ان سے اہن الانباری اتنے عرب ابو نمر والزادہ روایت لی ہے یہ آنکہ اور جمیع بھی تھے۔ دیندار نیک سپاٹی اور حفظ میں مشہور تھے۔ لہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے القواریری سے ایک الکوہ عدیث سنی ہے۔

اس سال ماہ جماڈی الاولی میں ستر ہوئی تاریخ بفتہ کے دن انہوں نے وفات ہلی۔ اس وقت ان کا نو برس تھا۔ اہن خلکان نے ان کی موت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جامع مسجد سے نکلتے وقت ان کے ہاتھ میں کتاب تھی چلتے ہوئے۔ آرہے تھے کہ وہ کان کے بالکل بہرے بھی ہو گئے تھے۔ کسی گھوڑے سے ٹکر ہوئی اور ایک گذھے میں گر گئے جس سے ان دماغ کی رگ پھٹ گئی اور دوسرا دن وفات پا گئے۔

کتاب الفصیح کے مصنف تھے جو اگر چہ غنائمت کے اعتبار سے چھوٹی ہے مگر بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ کتاب المصون، اختلاف الخوبین، معانی القرآن، کتاب القراءات معانی الشعرو ما شکن فیہ العامہ کے علاوہ اور بھی مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں۔

اذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فكم تلبت النفس التي انت قوتها

تترجمہ: جب تم اپنے نفس کی غذابے رہو پہنچ پا کس سے چھوڑ دو تو وہ نفس اور کتنے دن زندہ رہے گا جس کے قم غذابے ہوئے تھے۔

سيقى بقاء البت في الماء او كما اقام يدى ديمومة الماء صوتها

تترجمہ: وہ نفس اتنا ہی باقی رہے گا جتنا کہ کوئی گھاس پانی میں رکھی ہے یا جتنا کہ مسلسل پانی گرتے وقت اس کی آواز رہتی ہے۔

إغرك انى قد تصبرت جاهداً وفي النفس مني منك ما سيميتها

تترجمہ: تمہیں اس بات نے دھوکہ میں رکھا ہے کہ میں نے اسے انکار کے باوجود برداشت کر لیا ہے حالانکہ میرے نفس کو تمہاری طرف سے وہ تکلیف پہنچی ہے جو اسے عنقریب ختم ہی کر لے گی۔

فلو كان مابي بالصخور لهدها وبالريح ما هبت وطال صفوتها

تترجمہ: اگر میرے بدن میں وہ سختی ہوتی جو سخت پتھروں میں ہوتی ہے تو اسے ایک دھماکہ کے ساتھ گرا دیتا اور ان ہواؤں سے بھی جو چلتی ہیں اور اس کے نشانات بھی طویل باقی رہ جاتے۔

فاصبراً العلَّ اللَّهُ يَجْمِعُ بَيْنَنا نَاشِكُو هموماً منكَ فِيكَ لَقِيتُهَا

تترجمہ: اب مجبوراً میں صبراً اختیار کرتا ہوں شاید کہ اللہ ہم کو اکٹھا کر دے تو اسی وقت میں تمہارے سامنے ان تکالیف کی شکایت کروں گا جو مجھ کو تم سے پہنچی ہیں۔

### القاسم بن عبد اللہ وزیر کی وفات:

اسی سال القاسم بن مسیمہ اللہ ان سلیمان بن وہب وزیر کی وفات ہوئی جو مقتضد کے آخری دنوں میں اپنے والد کے بعد اُس کی بجائی پر نامہ موقر انتخاب کے بعد اُس کے لئے امکنی بالہ کو غافل پرائی تھی۔ یہ بھی اسی سال رضاخان کے نبیہ میں بیمار ہوا۔ اسی حالت میں اس نے خود یا کہ قید خانوں میں بختی بھی مطلبی خانہ ان کے چیز سب رہا کر... یہجاں تکہ... یہجاں تکہ... بیت المال میں وفات پائی۔ اس وقت تنہیں برس کے قریب ہر ہوئی تھی خلیفہ کی نگاہ میں یہ بہت محبوب تھا۔ خلیفہ نے اپنے آخری وقت بیت المال میں سات لاکھ دینار کے برابر مال چھوڑا۔

### محمد بن اسما عیل:

بن شداد ابو عبد اللہ البصري جو واسط کے قاضی اور جرمونی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے مسد علی بن المدینی اور ابن نیر وغیرہم سے احادیث کی روایت کی ہے۔ یہ بڑے ثقہ بڑے قاضی، بھی، عادل اور امینوں میں سے ایک تھے۔

محمد بن ابراہیم البخشی محمد بن علی الصانع کے علاوہ قنبیل نے بھی وفات پائی جو مشہور قراء اور علماء کے اماموں میں سے ایک تھے۔

### ۲۹۲ واقعات —

اس سال خلیفہ امکنی بالہ کی جانب سے محمد بن سلیمان تقریباً دس ہزار فوجوں کو لے کر ہارون بن خارویہ سے قتل کے لیے مصری علاقوں میں داخل ہوئے تو ہارون نے ان کا مقابلہ کیا بالآخر محمد بن سلیمان اس پر غالب آئے۔ اور آل طولون جو سترہ ہزار تھے وہ بھی مقابلہ میں آئے جنمیں انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے مال اور ملکیت سب پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت مصری علاقوں سے طولانیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور خلیفہ امکنی کو فتح کی بشارت بھیج دی۔ اس سال الفضل بن عبد الملک الہاشی نے لوگوں کو حج کرایا جو گذشتہ سالوں میں بھی حاج کے معاملات کے نگران تھے۔

### مشہور لوگوں کی وفات

اوہ بھی مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں  
ابراہیم بن عبد اللہ بن اسلام الکنجی:

ہیں جو عمر مشائخ میں سے ایک تھے۔ ان کی مجلس میں دوات و قلم کے ساتھ بیٹھنے والے بچاں ہزار ہوا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دیکھنے اور صرف سننے والوں کی تعداد علیحدہ تھی۔ ان سے سن کر دوسروں کو لکھوانے والوں کی تعداد سات تھی جن میں ہر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ کچھ تو کھڑے کھڑے بھی احادیث لکھتے تھے۔ یہ جب دس ہزار احادیث سنادیا کرتے تو خاص صدقہ ادا کیا کرتے تھے۔ جب اپنی تمام سنن کو سنانے سے فارغ ہو جاتے تو دسترخوان بچایا جاتا جس پر ایک ہزار دینار خرچ

کیے جاتے تھے اور کہتے کہ آج میں نے رسول اللہ ﷺ کے یاں گواہی دی اور تھا میری شہادت قبول کر لئی تھی اس لیے اللہ پاک ۱۹۱۰ء سے ۵ میں تاہم بیوی نے بروائی۔

او انجوں فی وہ رخیب نہ اُس سمِ اُنچ سے رواست میں بہا اہوں۔ لیکن بھاراں اسے میں جاندے تھے کیا اس میں ایک حمام کے پاس تھے رہا تو اس نے اس کے قدمدار سے دریافت یا کہ یا بھت سے پہلے اس میں ابھی لوٹی کر بے اُس نے کہا: اسی تک کوئی نہیں کیا ہے اس لیے تب میں اس میں داخل ہو گیا اور جب میں نے حمام کے اندر وہی کو کھولا تو اسی کہنے والے ہو یہ کہتے ہوئے سنائے: اے ابو مسلم! اسلام لا و سالم رہو گے۔ پھر یہ اشعار کہنے لگا: -

١. لَكَ الْحَمْدُ إِمَاءَ عَلَى نَقْمَةٍ تَدْفَعُ  
وَأَمَاءَ عَلَى نَقْمَةٍ تَدْفَعُ

**تشریحہ:** اے اللہ! بہر صورت تیری حمد کرتا ہوں خواہ کسی نعمت کے دینے پر ہو یا کسی مصیبت کے ذور کرنے پر ہو۔

٢. تشاءف فعل ما شئتُهُ و تسمع عن حيث لا يسمعُ

**مترجمہ تھا:** تم جو چاہتے ہو مرضی کے مطابق کرتے ہو اور تم اس طرح سن لیتے ہو جو عموماً سانحیں جاتا ہے۔

کہنے لگے کہ یہ سن کر میں جلدی سمجھو باہ سے نکل آیا اور میں نے اس ذمہ دار سے کہا تم نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں ابھی تک کوئی نہیں لیا مگر وہاں تو میں نے کسی کو یہ شعار کہتے ہوئے سنائے۔ اس نے کہا، کیا واقعۃ آپ نے ایسا سنائے؟ میں نے کہا ہاں ضرور سنائے۔ تب اس نے کہا وہ ایک شخص ہے جو کبھی بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اشعار سنانے لگتا ہے اور نصیحت آمیز با تین بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم نے بھی اس کے کچھ اشعار یاد کئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں! اپھر اس نے یہ اشعار پڑھ کر مجھے سنائے:

**١- ايه المذنب المفترض مهلا** **كم سادى تكسب الذنب مهلا**

**تشریحیہ:** اے گنگا کار! گناہوں میں ڈوبا ہوا ذرا تھبیر! نادانی کی وجہ سے بڑھ بڑھ کر تم کتنے گناہ کرتے رہو گے۔

٢٠. كم دكم تسخط الجليل بفعل سمج و هو يحسن الصنعة فعلاً

**تشریحیہ:** آخر کتنا اور لکھتا اپنے رب کو اپنے برے کاموں سے ناراض کرتے رہو گے حالانکہ وہ تو صرف بہتری کے کام کرتا ہے۔

٣٣. كيف تهدا جفون من ليس يدرى أرضي عنده علم العرش أم لا

**اس شخص کے پلک کی وجہ سے جھکتے ہیں جو سبھی نہیں جانتا کہ عرش والا اس سے راضی ہے ماہی۔**

عبدالحميد بن عبد العزيز:

ابو حاتم القاضی الحنفی، جو عمده قانصیوں، بڑے فہمیوں اور علماء کے اماموں میں سے ایک تھے۔ بہت پرہیز گار، صاف سترے، گناہوں سے بچنے والے بہت دیانتدار اور امانت دار تھے۔ ابن الجوزی نے منتظم میں ان کے اچھے حالات اور عمده افعال کا تذکرہ کیا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔



## واقعات — ۲۹۳

اس سال الحسین القرمطی جو ذوالشامہ کے نام سے مشہور تھا جس نے گذشتہ سالوں میں بھی بہت سے انسانوں کو قتل کیا تھا اس سال بھی اس کے ارد گرد فرات کے راستے میں بہت سے قرامطہ جمع ہو گئے اور لوگوں میں زبردست فساد پھیلایا۔ پھر طبریہ کی طرف گئے تو ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا مگر یہ وہاں زبردستی داخل ہو گئے اور بے حساب مردوں کو قتل کر دیا اور بہت سامال لوٹ لیا پھر دوبارہ دیہات کی طرف گیا۔ پھر دوسری جماعت ان سے سرف گئی اور وہاں چند افراد کو چھوڑ کر تقریباً تمام کو قتل کر دیا اور ان سے بھی بے شمار مال لوٹ کرتیں ہزار اونٹوں پر لاد کر لئے۔ اس وقت الحنفی نے ان کے مقابلہ کے لیے ایک لشکر بھیجا جس نے ان سے قبال کر کے ان کے رئیس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑادی۔

### الداعیہ کا ظہور:

پھر یمن میں قرامطہ میں سے ایک شخص نمودار ہوا جسے الداعیہ کہا جاتا تھا اس نے صنعا کا محاصرہ کیا اور وہاں وہ بزرور داخل ہو گیا اور بے شمار باشندوں کو قتل کر دیا پھر نبی کے دوسرے شہروں کی طرف گیا وہاں بھی بہت سے انسانوں کو قتل کیا تب صنعاہ والوں نے بھی اس کا مقابلہ کیا بالآخر کامیاب ہوئے اور اسے شکست دی تب اس نے کچھ دوسرے شہروں میں جا کر لوٹ مار مچائی۔ اس وقت خلیفہ نے اس کے پیچھے مظفر بن جاجہ کو نائب بننا کر بھیجا۔ وہ اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔

عید الحشی کے دن قرامطہ کی ایک جماعت کو فہر میں داخل ہوئی اور آواز لگائی: اے حسین کے مقتولین! اس طرح وہ ان لوگوں کی یاد دلاتے تھے جو اس سے پہلے بغداد میں قتل کر دیے گئے تھے انہوں نے اپنی شناخت کے لیے یا احمد یا محمد کے الفاظ مقرر کر رکھے تھے اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ قتل کر دیے گئے تھے یہ مکن کر کچھ لوگ عیدگاہ سے نکل کر کوئہ جانے لگے اور ان کے پیچھے لگ گئے تب عام مسلمانوں نے انہیں پھردوں سے مارنا شروع کیا اور جانے والوں میں سے تقریباً بیس آدمیوں کو قتل کر دیا تب بقیہ لوگ ذلت اٹھائے ہوئے اپنی جگہ واپس آگئے۔

### خلیفیہ کا ظہور:

اس سال مصر سے بھی ایک شخص ظاہر ہوا جس کو خلیفیہ کہا جاتا تھا۔ اس نے بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ فوجیوں کی ایک ٹولی رہنے لگی اس لیے خلیفہ نے احمد بن کنفلغ جو کہ دمشق میں نائب حاکم تھے اسے اور اس کے حکام کو اس کام پر متعین کر دیا تب اس نے اس کا چھالیا اور مصری علاقہ میں دونوں میں مقابلہ ہوا مگر اس خلیفیہ نے ان لوگوں کو بربی طرح شکست دے دی۔ اس لیے خلیفہ نے دوسرا لشکر بھی اس کے پیچھے روانہ کیا اس وقت اس نے ایجی کو شکست دی اور اسے گرفتار کر لیا تو خلیفہ نے اسے امیر

کے حوالہ کر دیا۔ پھر اس کا کچھ یہ نہ چل گیا۔ اس وقت رشادی شکر مصری شہروں کے معاملات میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت فرمط نے بھی اپنا ایک شکر ایک شخص کی سر برداگی میں جس کا نام عبد اللہ بن عیید تھا جو بچوں کو پڑھایا کرتا تھا بصری کی طرف روانہ نیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وہ بصری اذ رعات اور بھیجی کی طرف گئی تو ان لوگوں نے اس سے مقابلہ کیا کیا تو ان نے نو دن ان لوگوں کو اسیں دے کر ناموش کر دیا مگر جوں ہی ان پر پورے طور پر قابو پایا پہلے کے تمام مقامات کرنے والوں کو قتل کرو یا اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اور پہلے دمشق کا رخ کیا تو وہاں کے نائب حاکم احمد بن کفان نے اس کا مقابلہ کیا۔ اسی کا نام صالح بن الفضل بھی تھا اس معرکہ میں، قرمطی نے اس حاکم کو شکست دی اور نتیجہ میں جو مقتول ہوئے ان میں یہ حاکم بھی تھا پھر دمشق کا حاصرہ کر لیا مگر اسے فتح کرنا ممکن نہ ہوا کہ الہاذ طبری کی طرف لوٹ گیا۔ اور وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے ان کا سامان وغیرہ سب لوٹ لیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں۔ پھر اس نے ہیئت کا رخ کیا۔ یہاں بھی حسب و سور قتل و غارت کیا۔ پھر عید الحنی کے دن کوفہ کا رخ کیا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہ سارے ہنگامے زکر دیا ہے بن مہرویہ کے اشارے سے ہوتے رہے اور وہ خود قوم فرمط کے درمیان اپنے ہی شہر میں چھپا رہا۔ جب کوئی اس کی طرف رخ کرتا وہ فوراً اس کنوں میں چلا جاتا جسے اس نے اسی مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ اور اس کے منه پر ایک تنور لگا دیا تھا۔ اس موقع پر فوراً کوئی عورت اس تنور کو گرم کر کے اس میں روٹی پکانے لگتی اس طرح کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چل سکا اور کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے۔

پالا خر خلیفہ نے ان کے مقابلہ کے لیے ایک شکر بھیجا تھا، زکر دی خود اور اس کے تمام ماننے والوں نے شکر کا مقابلہ کیا اور خلیفہ کے شکر کو شکست دے کر ان کے بے حساب مال و سامان لوٹ لیا۔ اس طرح اس کی قوت اور بھی بڑھ گئی اور زور زیادہ ہو گیا تب خلیفہ نے دوسری مرتبہ اور بڑا شکر ان کے مقابلہ کو بھیجا اب کے واقعات کو آئندہ کسی موقع پر ہم بیان کریں گے۔

اسی سال خراسان ماوراء انہر کے نائب حاکم نے اسماعیل بن احمد السامانی نے ترکی، شہروں کے بڑے علاقے کو ویران کر دیا تھا۔ اور اس سال حلب کے عمال پر غارت گری کر کے لوگوں کو قتل کیا، لوٹ مار کیا اور قید کیا، اس سال فضل بن عبد الملک ہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی۔

### حالات ابوالعباس الناشی الشاعر:

نام عبد اللہ بن محمد ابوالعباس المعتزلی ہے اُن کا اصل تعلق انبار سے تھا مگر بغداد میں پکھدن اقامت کر لی تھی پھر مصر چلے گئے اور وہ ہیں وفات پائی۔ بہت زیادہ ذہین تھے۔ شعراء کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے۔ منطقیں اور فروضیں پر اعتراضات کرتے تھے۔

شاعر تھے البتہ عقل کے ہلکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے نسب میں ان کا ایک بہترین قصیدہ ہے۔ جسے ہم نے اپنی کتاب

الله تعالیٰ ہے

اُن خلکاں سے کہا ہے اُن مخالفِ محمدؐ ہم تھے جو ان میں ایک قحطی تھی ہے۔ اسی طرح آئیں۔ مثیل (قافیہ کو مرغ) فتوح میں ایک پرائصہ ہے، اس میں جاریہ اشعار ہیں۔ اسی تے عابوہ اور جو منعقد، تصانیف اور بے شمار اشعار، تھیں جیسے عبید بن محمد بن خلف۔

ابو محمد الہر اربنو نورؓ کے شاگردوں میں ایک سربرا آور دہ فقیہ ہیں۔ اور ابو نورؓ کی فقہ کے حق حاصل تھے۔ اعلیٰ درجے کے ثقات میں سے تھے۔

### نصر بن احمد بن عبد العزیز:

ابو محمد الکندی الحافظ جو نصرؐ کے نام سے مشہور تھے مشہور حفاظت میں سے ایک تھے نائب بخاری امیر خالد بن احمد الدہلی نے ان کو اپنی طرف مالیا تھا ان کے نام کی ایک منڈ تصنیف کی ہے اسی سال بخاری میں وفات پائی ہے۔

## واقعات — ۲۹۳

اس سال ماہ محرم میں خراسان والے جب کمرہ سے واپس آ رہے تھے اس وقت زکرویہ ان کے سامنے آ گیا اور ایک ایک کر کے سمجھوں کو قتل کر دیا ان کا سارا مال چھین لیا ہے کی جمیعی قیمت بیس لاکھ روپیہ تھی اور ان کی عورتوں کو قیدی بنالیا۔ ان قرامط کی عورتیں زخمی حاجیوں کے پاس اس طرح چکر لگا رہی تھیں کہ ان کے ہاتھوں میں پانی کے برتن تھے جس سے وہ ظاہر کرتی تھیں کہ ان زخمی پیاسوں کو وہ پانی پلا رہی ہیں۔ اس دھوکہ میں اگر کوئی زخمی ان سے با تین کرتا تو وہ اسے قتل کر دلتیں۔ اللہ ان عورتوں اور ان کے خادنوں سب کے اوپر لعنت کرے۔

### زکرویہ لعنة اللہ علیہ کے قتل کا ذکر:

خلیفہ کو جب ان حاجیوں کے قتل اور ان کے لوٹ مار وغیرہ کی تفصیلی خبر پہنچی تو اس نے ان کے مقابلہ میں ایک زبردست لشکر بھیجا، دونوں میں مقابلہ کے بعد بہت زبردست مقتالہ ہوا جس میں قرامط کے طرفداروں کے چند افراد کے سوتقریباً سب قتل کر دیئے گئے۔ یہ واقعہ اس سال ربیع الاول کا ہے۔ پھر ایک شخص نے خود کروڑی کے سرپر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا جس سے وہ تلوار اس کے دماغ کے اندر لکھ گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا مگر پانچ ہی دنوں کے بعد وہ مر گیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا اور اس کے سر کرده ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسے بھی بگدا بھیج دیا گیا۔ اس وقت خلیفہ کے لشکر نے اس تمام مال و متاع کو چھین لیا جوان لوگوں کے پاس تھا۔ پھر خلیفہ نے القرمطی کے قتل کا حکم دیا اور یہ بھی کہ اس کے سرکو خراسان کے تمام شہروں میں گشت کرایا جائے۔ تاکہ لوگ آئندہ حج کے موقع میں کوئی فتنہ کھڑا کریں اور ان قرامط کی عورتیں اور بچے جو قیدی بننے تھے سب کو آزاد کر دیا۔

اس سال دشتر کے ناس سکم احمد ہی لگلغہ نے طریقہ کا طرف سے میر کٹھا ہے۔ میر حمل کر کرنا۔ آئندہ باری میں افراد کا قتل کیا اور ان نے تقریباً پنجاں ہزار بھروسی عوامیں ایسا کیا۔ ان نے بھروسے وہیں کیا۔ اس کا نام قبول ہوا۔ میر مسٹر جوانانے قیدی بنے ہوئے تھے وہ آزاد ہو گئے۔ تب روم سے باہت شدہ اس نے دریوں کی ترقی کی ہے جیسے اب برائٹنہر ہیجا اور ان پاڑیوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ماتحت ردمیوں کے لشکر پڑھلک کر کے ان کے بڑاؤں کو قتل یا اسی طرح ان سے بہت سامال نہیں تھیت بھی حاصل کیا۔ جب وہ لوگ خلیفہ کے دربار میں پہنچ تو خلیفہ نے ان کا بہت اکرام کیا اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ان کی مانگی نمراد پوری کی۔ اس سال شام کے علاقہ میں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سفیانی ہے۔ جسے کپڑا نے کے بعد بغداد روانہ کر دیا گیا۔ مگر وہاں اس نے دعویٰ کیا کہ اسے دوسرا کا مرض ہے۔ لہذا اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس سال فضل بن ملک بأشی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں:

احسین بن محمد:

بن حاتم ابن یزید بن علی بن مروان ابو علی جو عبید اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ حافظ حدیث بہت زیادہ روایت کرنے والے اور سندات کے حفظ میں لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ انکی سال ماہ سفر میں وفات پائی۔

صالح بن محمد:

بن عمرو بن حمیب ابو علی الاسدی جس کا تعلق قبیلہ مزیہ سے تھا۔ یہ حرز کے نام سے مشہور تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے پڑھا تھا جس کے پاس خرزہ (پوچھ) ایسی چیز جس سے بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے مگر غلطی سے انہوں نے اس خرزہ ( نقطہ والے حاء ) کی بجائے نقطہ والے حاء سے حرزہ کہہ دیا اور یہ بات مشہور ہو کر ان کا لقب ہی حرزہ ہو گیا۔ یہ حافظ حدیث اور بہت زیادہ روایت کرنے والے اور طلب حدیث میں ذور دراز علاقوں میں بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے۔ شام مصرا اور خراسان وغیرہ کا بھی سفر کیا، پھر بغداد میں سکونت اختیار کی پھر وہاں سے بھی منتقل ہو کر بخاری چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ روایت حدیث میں قابلِ اعتماد بہت سچے اور امانت دار تھے۔ ان کی بہت سی روایتیں تیجی بن معین سے ہیں اور بہت سے سوالات بھی منقول ہیں۔ رقہ میں ۲۱ حصہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔

اس سال ان لوگوں نے وفات یافتی ہے۔

محمد بن علی بن محمد:

بن عبد اللہ بن علی بن عبداللہ ابن عباس جو ایاضی کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ غایفہ کی مجلس میں اس حال میں پنچتھے کہ ان کے بدن پر سفید کپڑے تھے۔ تو غایفہ نے انہیں دیکھ کر سوال کیا یہ (سفید کپڑوں والے) ایاضی کون صاحب ہے؟ اس

وقت سے اسی نام سے مشہور ہے گئے۔ ابتو انبار کی اور ابتو عقہم سے رواست کی ہے۔ اتر سالار قد امطہنے انہیں تقدیر کر دیا۔

### محمد بن الامام:

اسحاق بن راجوی انہوں نے اپنے والد اور احمد بن سبل و نبی ہما سے روایت حدیث فتنی ہے۔ یہ فقا اور حدیث دونوں کے علماء تھے اچھے مسلک اور اچھی خصلت کے آفی تھے انہیں ہی قرامط نے ان لوگوں میں قتل کیا یونہ سے واپسی میں قتل یے گئے تھے۔

### محمد بن نصر ابو عبد اللہ المرزوqi:

ولادت بغداد میں ہوئی اور نیشاپور میں جوان ہوئے، سر قند کو اپناوطن بنایا، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد آئے کرام کے اختلافات کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ احکام کے بھی بڑے عالم تھے۔ دنیا کے ذور دراز علاقوں کا سفر کیا، بہت سے مشائخ سے احادیث سنی ہیں۔ اور بہت سی مغزید جامع اور نافع کتاب میں تصنیف کی ہیں۔ سب سے اچھی نمازیں پڑھتے اور ان میں بہت زیادہ خشوع کرتے۔ نماز سے متعلق بہت موٹی کتاب تصنیف کی ہے۔ خطیب نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کمکمہ کے ارادہ سے مصر سے لکھا اور میں دریا میں سوار ہو گیا میرے ساتھ ایک باندی بھی تھی اتفاق سے وہ کشتی ڈوب گئی جس سے یہ ایقینی مال ڈوب گیا۔ لیکن میں اور میری باندی فوج کے پھر ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں ہم نے پانی حلاش کیا تو نہ ملا۔ اس لیے میں پنچ زندگی سے مایوسی کی حالت میں اپنی باندی کی ران پر اپنا سر کھکھ میں سو گیا۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں پیالہ لیتے ہوئے ہماری طرف آیا اور مجھ سے کہا "یلو" میں نے بھی اس سے لے کر پیا اور باندی بھی اس سے سیراب ہو گئی۔ پھر وہ شخص پڑا گیا۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کوہر سے آیا اور کہاں گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص مدد فرمائی اور اس مصیبت سے نجات دی۔ تو تمام انسانوں سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ سمجھی تھے۔

اساعیل بن احمد اور ان کے بھائی اسحاق بن احمد اسی طرح اہل سر قند بھی سب سالانہ چار چار ہزار درہم انہیں بطور بہرہ دیا کرتے تھے لیکن یہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ آڑے وقت کے لیے کچھ بھی بچالیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ تو فرمایا کہ میں مصر میں سالانہ میں ہزار درہم خرچ کیا کرتا تھا مگر میں نے دیکھا کہ اس مال سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور سال میں میں درہم بھی جمع نہیں کر سکا۔

یہ محمد بن نصر مردی جب باہشا اساعیل بن احمد السامانی کے پاس جاتے تو وہ ان کا بہت اکرام کرتے اور کھڑے ہو جاتے۔ اس بات پر ان کے بھائی اسحاق نے ان کی ملامت کی اور ان سے کہا کہ آپ تو خراسان کے بادشاہ ہیں آپ اپنے تختِ شاہی پر بیٹھے ہوئے ایک معمولی انسان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اساعیل کہتے ہیں کہ میں بھائی کی باتوں سے پریشانی کے عالم میں سو گیا جب کہ یہ دونوں ہی خراسان اور ماوراء النہر کے بادشاہ تھے۔ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ فرمائے ہیں اے اساعیل! محمد بن نصر کی تنظیم کرنے کے سبب سے تمہاری اولاد کی بادشاہی برقرار

ربی اور محمد بن نصر کی توبہ کرنے کی وجہ سے تمہارے بھائی کی سلطنتی بر باد ہو گئی۔ ایک مرتبہ مصر کے کسی شہر میں محمد بن نصر، محمد بن جریر الطبری اور محمد بن الحنفہ رائیک ساتھ ہمیشہ اللہ رہے تھے اس دن ان کے پاس اتفاق سے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی اس لیے ان لوگوں نے اس بات پر قرآن داری کی کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جانتے اور کہاں رہتے ہا کہ یہ سب میں کر کھائیں اس میں ان ہی محمد بن نصر کے نام قرآنی لکھا ہوا اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر اللہ عزوجل سے دعا کی۔ یہ دو پھر کا وقت تھا اور قیدولہ میں لوگ مصروف تھے اتنے میں نائب مصر طولوں اور ایک قول کے مطابق احمد بن طولوں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا وہ فرمایا ہے ہیں کہ جاؤ ان محمد شین کی مد کرو کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے وہ فوراً نیند سے بیدار ہوئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقہ میں محمد شین کون کون ہیں؟ لوگوں نے ان تینوں کا نام لیا تو اس سے فوراً ہزار دینار لے کر اپنا آدمی روانہ کر دیا چنانچہ وہ شخص جب وہاں پہنچا تو اللہ نے ان لوگوں کی تکلیف ذور کر کے آسانی پیدا کر دی اور اس طولوں نے اس کو خرید کر وہاں مسجد بناؤالی اور اسے محمد شین کی طرف منسوب کر دیا اور اس کی آمدی کے لیے بہت سے اوقاف مقرر کر دیے۔

ان محمد بن نصر کی عمر کافی ہو جانے کے باوجود اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ سے اولاد کے لیے دعاء کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و شناکی اور کہا اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیلؑ کا عنایت کیا۔ اس سے حاضرین کوئی باتوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک یہ کہ اللہ سے مانگنے رہنے کے بعد اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے پیدائش کے دن ہی لڑکے کا نام رکھ دیا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صاحبزادہ ابراہیم ﷺ کی پیدائش کے دن ہی ساتویں دن آنے سے پہلے نام رکھا تھا۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی اقتداء کی کہ انہوں نے اپنے پہلے لڑکے کا نام اسماعیل رکھا تھا۔

### موی بن ہارون بن عبد اللہ:

ابو عمران کران کے والد اجمال کے نام سے مشہور تھے ۲۱۷ھ میں ان کی وفات ہوئی اور احمد بن حنبلؓ اور یحییٰ بن معینؓ کے علاوہ اور دوسروں سے بھی احادیث کی ساعت کی حفظ حدیث اور معروف رجال کے معاملہ میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔ یہ ثقہ بڑی یادداشت کے مالک تھے، بہت زیادہ پرہیزگار اور بڑے رعب دا ب والے تھے عبد الغنی بن سعید المخافظ المصری نے کہا ہے کہ حدیث پرسارے انسانوں کے مقابلہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے ان کی تعریف علی بن الحدیثی پھر موی بن ہارون، بھردار قسطنطی سب نے ان کی بہت تعریفیں کی ہیں۔



## واقعات — ۲۹۵

اس سال رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ رومیوں کے قبضہ سے جتنے مسلمان مجموعہ چھڑائے گئے وہ عورتوں اور مردوں کو ملا کر تقریباً تین ہزار اشخاص تھے۔

اس سال ماہ صفر کے وسط میں اسماعیل بن احمد السامانی کی وفات ہوئی جو خراسان اور ماوراءالنهر کے امیر تھے یہ بہت عاقل، عادل، اچھی سیرت اور رعایا کے لیے بربار اور سخنی تھے۔ یہی وہ ہیں جو محمد بن نصر المرزوکی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ ان کی تنظیم الram اور احترامِ حرمت اور اپنی مجلس میں ان کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے لڑکے احمد بن اسماعیل السامانی گورنر بنائے گئے اور خلیفہ نے ان کی عزت افزائی کے لیے کچھ تکمیل تھا کافی بھیجے۔ ایک دن لوگوں نے ان اسماعیل ابن احمد کے سامنے کہہ دیا کہ بڑائی نسب کی بناء پر ہے تو کہنے لگے کہ نہیں یہ بڑائی اپنے اعمال کی بدولت ہے اور یہ مناسب ہے کہ انسان ذاتی شرافت رکھے صرف خاندانی شرافت کا مدعا نہ ہو لیعنی یہ بات مناسب ہے کہ انسان اپنی ذات پر فخر کرے اپنے نسب اپنے شہر اور اپنے باپ دادا پر فخر نہ کرے جیسا کہ ان نے کہا ہے کہ میں بلندی تک اپنی ذاتی کوششوں سے پہنچا ہوں اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے نہیں۔ اور ووسرے نے کہا ہے:

۱۔ حسبی فخارا و شیمتی أدبی و لست من هاشم ولا العرب

پہنچنا: میری ذاتی شرافت ہی میرے لیے باعث فخر ہے اور میری شاختہ میری ادب ہے کہ نہیں ہائی ہوں نہ عربی ہوں۔

۲۔ ان الفتی من يقول هَا آنَا ذَا و لیس الفتی من يقول كَانَ أَبْيَ

پہنچنا: یقیناً بہادر وہ ہے جو پکارا گئے میں یہ ہوں اور بہادر وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے ابا بہادر تھے۔

اس سال ذاتی عقدہ کے مہینہ میں مقضد کے بیٹے:

المکفی بالله ابو محمد:

ابن المعتضد کی وفات ہوئی۔

یہاں ان کے حالات زندگی اور وفات کا بیان ہے۔

امیر المؤمنین المکفی بالله بن المعتضد بن الای ابی احمد الموفق بن المتوكل علی اللہ اس سے پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ خلفاء میں کوئی ایسے نہیں گزرے جن کا نام علی ہو سوائے ان کے اور حضرت علی بن ابی طالب رض کے۔ اور یہ کہ خلفاء میں ایسے بھی کوئی نہیں گزرے جن کی کنیت ابو محمد ہو سوائے ان کے اور الحسن بن علی بن ابی طالب رض کے۔ ان کی پیدائش ۲۶۳ھ میں ہوئی ان کی بیعت ان کے والد کے بعد اور خود ان کی زندگی میں بھی جمعہ کے دن ماہ ربیع الاول کی گیارہویں تاریخ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُورٌ وَلَمْ يَرَأْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذَرُ اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ مَنْ سَعَى إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْجُنُوبَ وَإِلَيْهِ مَا دَرَأَ وَلَمْ يَرَأْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ۔ لَمْ يَرَأْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ۔

۱۔ اجل السرزایا ان یسموت امام و امن اندھی طسا یا ان یعموم امام

ترجمہ: سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ امام وقت مر جائے اور بہترین بخشش یہ ہے کہ دوسرا امام اس کی جگہ پر آ جائے۔

۲۔ فاسقی الذی مات الغمام و جودہ و دامت تحيات لہ وسلام

ترجمہ: اس لیے جو مر چکا ہے رحمت خداوندی کی بدی اس کے وجود کو سیراب کرتی رہے اور ان کے لیے ہمیشہ دعاء و سلام قائم رہے۔

۳۔ وَابقى الذى قام الاله و زاده لواہب لا یفنی لهن دوام

ترجمہ: اور اللہ اس قائم مقام کو ہمیشہ باقی رکھے اور اس کے لیے نہ ختم ہونے والے عطیات ہمیشہ باقی رہیں۔

۴۔ وَتحت له الامال و اتصلت بها فوائد موصول بهن تمام

ترجمہ: اور اس کی تمام آرزوئیں پوری ہوں اور اس کے پورے فوائد ملٹے رہیں اور اس سے پورے فوائد ملٹے رہیں۔

۵۔ هو المكتفى بالله يكفيه فاما عناه برکن منه ليس برام

ترجمہ: ایسا شخص لکھنی بااللہ ہے اللہ اس کی کفایت کرے جب کبھی بھی اس پر کوئی اہم کام غیر متوقع طور پر آن پڑے۔

یقیدہ من کر خلیفہ نے اسے قیمتی انعام دیا، وہ اکثر اشعار گنگاتے رہئے جن میں ان کے اپنے اشعار چند یہ ہیں:

۱۔ من لى ياعلِم اعلم ما القى فنصرف مني الصباوة والعشاقة

ترجمہ: وہ کون ہے جسے میں یہ بتاؤں جو میں جھیل رہا ہوں کہ وہ میری محبت اور عشق کو پیچاں سکے۔

۲۔ مازال لى عبداً و حبى لة صيرنى عبداً لـه رقا

ترجمہ: وہ میرا ہمیشہ غلام رہا لیکن میری محبت اس سے ایسی باقی رہی جس نے مجھے اپنا خالص غلام بنا کر رکھا۔

۳۔ العتق من شأنى ولكنى من حبه لا املك العتقا

ترجمہ: میری فطرت میں آزادی ہے لیکن میں اس کی محبت کی وجہ سے آزادی کا مالک نہ بن سکا۔

اس کے گنیہ میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: على المستوكل على ربي، "میں علی ہوں اور اپنے رب پر توکل کرنے والا ہوں"۔ ان کے بیٹے یہ تھے محمد، جعفر، عبد الصمد، موسیٰ، عبد اللہ بارون، فضل، عیسیٰ، عباس اور عبد الملک۔ ان ہی کی خلافت کے دوران انطا کیہ فتح ہوا۔ اس میں بہت زیادہ مسلمان قیدی موجود تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے بھائی

ابوالفضل جعفر ابن المعتضد کو ملائکہ کیا ۱۱ کو یقین ہو پکا تھا کہ وہ بلوغ کو پہنچ ہے ہیں۔ اس لیے گیارہویں تاریخ ماہ ذوالقعدہ وہ زخم انہیں اور قاصبوں کو اپنے سامنے بلوایا اور انہیں ان کے بارے میں تواہ بنایا کہ میں نے اپنے بعد خلافت ان کے پر اُتر دی ہے اور ان کا لقب المقتدر باللہ رخا ہے۔ اس کام کے تین دنوں کے بعد وفات پائی۔ اور یہ تھی لہا لیا ہے کہ ہفتہ نے دن بعد مغرب اور ایک قول میں ظہر اور عصر کے درمیان ہارتویں ذوالقعدہ کو وفات ہوئی محمد بن عبد اللہ بن خاہر کے گھر میں مدفن ہوئے۔ اس وقت تینیس سال کی عمر تھی مدت خلافت چھ برس چھ ماہ انہیں دن ہوئی ذاتی ماں میں سے چھ لاکھ دینا رصدقة دینے کی وصیت کی جسے اپنے بچپن سے جمع کرتے آئے تھے ان کی بیماری کنٹھ مالایا خنازیر کی تھی۔ رحمة اللہ تعالیٰ

### المقتدر باللہ ابوالفضل جعفر بن المعتضد کی خلافت:

ان کے بھائی کی وفات کے بعد اسی سال یعنی ۲۹۵ چودھویں ذوالحجہ کو سحر کے وقت ان کی بیعت کی تجدید کی گئی۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ برس ایک ماہ اکیس دن ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی بھی کم عمری میں خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا۔ مند خلافت پر بیٹھنے کے بعد ہی چار رکعت نمازِ نفل پڑھی باواز بلند استخارہ اور دعا مانگی اس کے بعد لوگوں نے عام بیعت کی اور تمام رجڑوں اور اہم مقامات میں ان کا نام المقتدر باللہ لکھ دیا گیا۔ اس وقت خاص مال کے گھر میں ڈیڑھ کروڑ اور عام بیت المال میں چھ لاکھ دینار سے کچھ زائد تھے اور قیمتی جواہر کی آمدنیاں بنی بنوامیہ اور بنو عباس کے وقت سے جمع ہوتی چلی آ رہی تھیں جنہیں یہ اپنی محبوباؤں اور مصالحبوں میں خرچ کرتے ہے یہاں تک کہ وہ سب ختم کر دیا۔ یہ حال بچوں کا اور بے قوف امراء کا ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح رجڑ میں وزیروں کی تعداد بھی بہت بڑھاتے رہے، جن میں ابو الحسن علی بن محمد بن الفرات بھی ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ حاکم بنا کر بغیر کسی خاص وجہ کے معزول بھی کر دیا پھر سابق عہدہ پر بحال کیا پھر معزول کیا آخر میں قتل بھی کر دیا، ان تمام چیزوں کو ابن الجوزی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بے شمار ملازمین شہانہ رعب دا ب کے لوازمات اور دربان وغیرہ بھی بہ کثرت تھے۔ ویسے یہ فطرۃ بہت تھی اور ان میں عبادت گزاری کا مادہ بھی بہت تھا۔ چنانچہ بہت زیادہ نماز پڑھتے اور بہت زیادہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ اپنی حکومت کے پہلے عرف کے دن انہوں نے تیس ہزار کبریاں اور گائیں اور دو ہزار کے اوپر لوگوں میں قسمیں کیے۔ بنی عباس کے ابتدائی دنوں میں جتنے رسوم، طور طریقے، وظیفے وغیرہ تھے سب بحال کر دیئے تھے جن کو چھوڑنا ممکن تھا ان سب کو چھوڑ دیا۔ اور اس کام کی ذمہ داری قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کو سپرد کر دی تھی۔ ان کے لیے کشادہ جگہوں میں بہت سی عمارتیں بنوائی گئیں تھیں جن کی نگہداشت کاما ہوا رخچ ایک ہزار دینار تھا، ان تمام کو منہدم کر کے ان جگہوں میں عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے سڑکوں کی توسعی کا حکم دیا، ان کے حالات زندگی میں مزید ان کے حالات آئیں گے۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال ان مشہور لوگوں کی وفات ہوئی:

ابوالحاق المزکی.

ابراہیم بن محمد بن یحییٰ بن سخنونیہ بن عبداللہ ابواسحاق المر کی الفاظ از ابد جو معرفت حدیث، معرفت رجال حدیث اور علی حدیث کے سلسلہ میں اپنے زمانہ میں پورے نیشاپور میں امام تھے۔ بڑے بڑے بہت سے مشائخ سے احادیث کی سماعت کی۔

امام احمدؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مذاکرات کیے۔ ان کی مجلس بہت بارعب ہوا کرتی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسجیب الدعوات تھے۔ ان کی ملکیت میں صرف ان کا اپنا ایک گھر تھا جس میں رہتے اور ایک دو کان تھی جس سے ماہوارستہ درہم کی آمد فی ہوتی۔ اسی کو اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کرتے۔ کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ ان کے لیے سرکہ میں ڈال کر گا جو رپکائی جاتی اسی کو جاڑے کے موسم میں ہمیشہ کھایا کرتے۔ ابوعلی الحسین بن علی الحافظ نے کہا ہے کہ میری آنکھوں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔

ابوالحسین النوری:

جو صوفیاء کرام کے اماموں میں سے ایک تھے۔ ان کا نام احمد بن محمد تھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں محمد بن محمد بھی کہا ہے مگر قول اول ہی زیادہ درست ہے۔ یہ ابن البغوی سے مشہور تھے۔ اصل نہ خراسان کے باشندہ تھے۔ سری سقطیؓ سے حدیث کی ساعت کی اپنی قوم کے بڑے اماموں میں سے ایک ہو گئے۔ ابواحمد المغازل ماقول ہے کہ میں نے ابوالحسن النوری سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزارنہیں پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنید بغدادی کو بھی نہیں؟ جواب دیا نہ جنید کو اور نہ کسی دوسرے کو۔ کسی دوسرے کا بیان ہے کہ انہوں نے نہیں برس اس طرح روزے رکھے کہ کسی کو یہاں تک کہ خود گھروالوں کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ مسجد میں چادر پیشی ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا جس کا علم لوگوں کو چاردن سے پہلے نہ ہو سکا۔

اسماعیل بن احمد بن سامان:

خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ ان ہی نے عمرو بن الیث الصفاری الخارجی کو قتل کیا تھا اور اس کی اطلاع المعتمد کو پہنچی۔ تو انہیں خراسان کا حاکم بنادیا۔ پھر مکفی بالله نے ”ری“، ماوراء النہر اور ترکی کا گورنر بنادیا۔ انہوں نے ان شہروں میں جہاد کیا اور ان پر زبردست حملہ کر کے انہیں مرعوب کر دیا، انہوں نے اہم شہروں میں مسافر خانے بنائے تھے ان میں سے ہر مسافر خانہ میں ایک ہزار گھوڑ سوار تھہر نے کی گنجائش رکھی تھی۔ ان کے اخراجات کے لیے ان کے نام بہت سی جائیدادیں وقف کر دی تھیں، ان کے پاس طاہر بن محمد بن عمرو بن الیث نے بہت سے قیمتی بدایا پہنچیے ان میں تیرہ موتی ایسے تھے جن میں سے ہر

ایک کا وزن سات مثقال سے دس مثقال تک تھا ان میں سے رنگ کے اعتبار سے کچھ تو سرخ اور کچھ نیلے تھے جن کی قیمت ایک رانہ دینا رائج تھی انہوں نے اپنے عیقہ خاص کے پاس تھیں کہ رانے کے بارے میں سارش آئی تو انہوں نے انہیں یہ بتاتے تھے جن کی قیمت میون سری۔ جب ان اساعیل بن احمد کا اتفاق وادا ممکن تھی خدیفہ و اس کی اصلاح کیتی تو بدو اس کے اس شہر نے مونہ بن کے نام پر حجت میہب میہب سے حجت

ترجمہ: زمان بھی بھی ان جیسے کوئیں پھوڑتا ہے۔ ہائے افسوس ان کی شان ہی ایک نرالی تھی۔

### ال عمری الحافظ:

یہی کتاب عمل ایوم والدیہ کے مصنف ہیں ان کا نام الحسن بن علی بن شعیب ابو علی ال عمری الحافظ ہے۔ انہوں نے سفر کر کے بہت سے شیوخ سے احادیث سنیں۔ اور بہت سے مشہور لوگوں سے ملاقات کی جن میں چند یہ ہیں: علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، اور ان سے ابن سعد النجاشی الجلدی نے روایت کی ہے۔ یہ علم کے سمندر اور حدیث کے حفاظ میں سے تھے۔ بہت سچے بہت زیادہ قابل اعتماد تھے۔ بڑھاپے میں اپنے دانتوں کو سونے کی تار سے بندھوا لیا تھا۔ کیونکہ یہ اسی سال کی عمر سے بھی تجاوز کر چکے تھے۔ (ابتداء اپنی کنیت ابو القاسم پھر ابو علی رکھی تھی اور برلنی کے محل اور اس کے حکام کا انہیں قاضی مقرر کیا گیا تھا) ان کی والدہ ام الحسن ہیں جو بنت ابی سفیان تھیں اور یہ عمر بن راشد کے شاگرد تھے اس مناسبت سے انہیں عمری کہا جانے لگا۔ ابن عمری نے دن اور رات کے بیان میں ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے محروم کی انسیوں تاریخ جمعہ کی رات کو وفات پائی ہے۔

### عبداللہ بن الحسن:

بن احمد بن ابی شعیب۔ ابو شعیب کا نام عبد اللہ بن مسلم ابو شعیب الاموی الحرانی ہے۔ بڑے ادیب اور محدث ابن محمدث ہیں۔ ان کی ولادت ۲۸۲ھ میں ہوئی۔ اپنے والدہ دادا عفان بن مسلم اور ابو خثیہ سے احادیث کی سماحت کی ہے۔ روایت میں بہت ہی سچے قابل اعتماد اور بڑے امین تھے۔ اسی سال ذوالحجہ میں وفات پائی۔

### علی بن احمد المکتبی بالله:

ان کا ذکر پہلے گز رپکا ہے۔

### ابوجعفر الرتمذی:

محمد بن محمد بن نصر ابو جعفر الرتمذی الفقيہ الشافعی ہوئے عالم اور زادہ تھے۔ دارقطنی نے ان کی توثیق اور تائید کی ہے۔ بڑے امین اور عابد تھے۔ قاضی احمد بن کامل نے کہا ہے کہ عراق میں شافعی کے شاگردوں میں ان سے بڑھ کرنا مورا اور پرہیز گار کوئی نہ تھا۔ بہت ہی کم خواراک اور فقر پرہیز گاری اور صبر کے اندر کے بڑے مرتبہ کے تھے۔ ہر مہینہ میں یہ چار درہم خرچ کرتے اور کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ آخری عمر میں ان پر بدحوابی طاری ہو گئی تھی۔ ماہ محرم میں وفات پائی۔

۱۔ یہ عبارت مصری نہج میں زائد ہے۔

## — واقعات — ۲۹۶

اس سال ماہ ربیع الاول میں تمام ایران، لشکر اور امراء سب مقندر کو ظافت سے برخواست کرنے اور عبد اللہ بن المعتز کو مند خلافت پر لانے میں متفق ہو گئے تو انہوں نے خون خراہ سے بچنے کے خیال سے لوگوں کی بات مان لی۔ ایک مرتبہ یہ جب کوئی لاٹھی کا کھلی کھیلنے کے لیے نکلے تو حسن بن محمد ان بھی ان کو دھوکہ سے ختم کر دینے کے لیے نکلا۔ اتنے میں مقندر نے پچھشوڑو غوغائی سنا تو فوراً دارالخلافہ کی طرف جا کر لشکر کے ساتھ اس کا دروازہ بند کر لیا۔ اوہر تمام امراء سر بر آور و حضرات اور قاضیان وقت سب محرمی کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ عبد اللہ بن المعتز کے نام پر بیعت کر لی۔ انہوں نے خلقت کے لیے ایک خطبہ بھی دیا اور اپنے القبضی باللہ رکھا۔ صولی نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس کا لقب المخصف باللہ رکھا انہوں نے ابو عبد اللہ محمد بن داؤد کو اپنا وریر بنالیا۔ اور مقندر کو دارالخلافہ سے نکلنے، طاہر کے گھر کی طرف منتقل ہو جانے کا حکم دیا تو یہ بات بھی اس نے نہی خوشی مان لی۔ ادھر دوسرے دن الحسن بن محمد ان جب دارالخلافہ پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں گیا تو مقندر کے ملازمین اور وہاں کے موجودہ تمام لوگوں نے اس سے زبردست مقابلہ شروع کر دیا اور اسے وہاں داخل نہ ہونے دیا اور شکست دے کر اسے نکال باہر کیا۔ اس طرح وہاں سے نکلنے اور اپنے لوگوں اور اپنے سامان کو باہر لانے میں بھی اسے بہت دقت ہوئی پھر وہ عجلت کے ساتھ موصل چلا گیا۔ اس طرح ابن المعتز اور اس کی جماعت کا سارا نظام درہم برکم ہو گیا۔ اس کے بعد المعتز نے ارادہ کیا کہ اب وہ سامرا چلا جائے مگر اس کے ماننے والے امراء میں کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ مجبوراً ابن الجصاص کے گھر میں داخل ہو کر اس سے پناہ چاہی تو اس نے پناہ دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی کی بناء پر شہر کے اندر لوٹ مارکاز ورہو ہو گیا اور باشندوں میں انتشار پیدا ہو گیا اس بناء پر مقندر نے ابن المعتز کے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے بالآخر وہ پکڑا گیا اور اس کے اکثر ساتھی قتل کر دیئے گئے۔ اور ابن الفرات کو دوبارہ وزارت کا عہدہ سونپا گیا۔ مقندر کی بیعت بھی دوبارہ لی گئی بعد میں ابن الجصاص کے گھر بھی کچھ لوگوں کو بھیج کر اس پر قبضہ کیا اور ابن المعتز اور ابن الجصاص دونوں حاضر کیے گئے تو ابن الجصاص نے فوراً تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ درہم دے کر اپنی جان چھڑائی لیکن ابن المعتز گرفتار ہی رہا ربیع الاول کی دوسری تاریخ لوگوں کو واچاک اس کی موت کا علم ہوا تو اس کی لاش نکلوا کراس کے لوگوں کے پرد کر دی گئی ان لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد مقندر نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے معتز کا اس قند میں ساتھ دیا سب کو معاف کر دیا۔ تاکہ لوگوں کی نیتیں خراب نہ ہوں۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ کسی خلیفہ کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ عبده سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کے بعد دوبارہ بر سر اقتدار آ گیا ہو سوائے اس مقندر اور امین کے۔ چھبیسویں ربیع الاول ہفتہ کے دن بغداد میں زبردست ژالہ باری ہوئی یہاں تک کہ گھروں کی چھتوں پر چار چار انگلی اولے جمع ہو گئے تھے۔ بغداد کے لیے یہ واقعہ انتہائی نادر ہوا وقت سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی قحط سالی اس وقت تک

دور نہ ہوئی جب تک کہ دہلی کے باشندے نماز استقاء کے لیے نہ نکلے۔  
اس سال ماہ شعبان میں یونس خادم کو خلعت ہے اور طرسوس کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر رہنمیوں سے جہاد کریں  
اسی سال تھتہ رئے خامع حکم دیا کہ یہود و نصاریٰ میں سے کسی کا بھی نام ملازم میں کے جزو میں نہ لکھا جائے اور سمجھوں کو اپنے  
گھروں میں اپنے سروں پر خاص روپ وال بندھنے اور دونوں موٹہوں کے درمیان خاص قسم کے ٹلڑے لگانے کا حکم دیا تاکہ وہ  
آسانی سے پہچانے جائیں جہاں کہیں رہیں معمولی طور پر رہیں۔  
اس سال فضل بن عبد الملک الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔ حج کے لیے جانے والوں میں سے بہت سے پانی کی کمی کی  
شکایت کی بنا پر راستہ سے ہی واپس لوٹ آئے۔

### مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں یہ حضرات ہیں:

#### احمد بن محمد بن زکریا:

بن ابی عتاب ابو بکر البغدادی الحافظ جو اخویوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ نصر بن علی الجیضی وغیرہ سے حدیث  
کی روایت کی ہے اور ان سے طبرانی نے روایت لی ہے یہ روایت حدیث سے بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے البتہ مذاکرہ کے  
وقت ان سے احادیث کا سننا ممکن ہوا جاتا تھا۔ ماہ شوال میں وفات پائی۔

#### ابو بکر بن الاشرم:

احمد بن محمد ہانی الطائی الاشرم امام احمد کے شاگرد تھے۔ عفان، ابوالولید قعینی اور ابو نعیم کے علاوہ اور دوسرے لوگوں سے  
بھی حدیث کی ساعت کی ہے۔ یہ حافظ حدیث روایت میں صادق اور بہت جلد یاد کر لینے والے تھے۔ ابن معین ان کے بارے  
میں کہا کرتے تھے کہ ان کے والدین میں سے کوئی ایک جنی ہوں گے کیونکہ یہ بہت جلد سمجھ لیتے اور یاد کر لیا کرتے تھے۔ علی اور  
نائخ و منسون میں ان کی بہت سی کتابیں تصنیف کی ہوئی ہیں ویسے یہ تمام علوم میں سمندر تھے۔

#### خلف بن عمرو:

بن عبد الرحمن بن میسلی ابن محمد العکبری احادیث کی ساعت کی تھی بہت پر مذاق تھے ان کے پاس تیس انگوٹھیاں اور تیس  
ایسے ڈڑے تھے جن میں نیچے کی جانب پھل لگے ہوئے تھے۔ ہر مہینہ میں ایک ایک تاریخ ایک انگوٹھی پہنچتے اور ایک ڈڑہ اپاٹھ  
میں رہتے تھے۔ اس طرح ایک مہینہ ختم ہو جانے کے بعد دوسرے مہینے میں پھر اس طرح شروع کرتے ان کا ایک کوڑا ہمیشہ گھر  
میں ایک جگہ لٹکا رہتا تھا جب ان سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی تو کہا، تاکہ لڑکے ذرستے رہیں۔

#### المعتر شاعر کا لڑکا اور خلیفہ:

عبداللہ بن المعتز بالله محمد بن التوکل علی اللہ جعفر بن المختصم بالله محمد بن الرشید ان کی کنیت ابوالعباس الہاشمی العباسی تھی فی

المدیہہ شاعر فتح و بلغ اور صاحب الرائے تھے۔ بڑے بہادر لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف لے جانے والے اور برائیوں سے انہیں دور رکھنے والے تھے۔ انہوں نے احادیث المبرد اور تعلب سے سنی تھیں۔ ان سے علموں اور آداب میں بہت سی بائیک میتوں ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: مددوں کی ناسیم انہوں کا سبب ہے۔ زیادہ اسے سواری ہیں ان کے سوتے ہوئے حالت میں ان پر غر کیا جاتا ہے اُلٹ نیند بیداری جاتی ہے ہوتی نہیں ہے اُلٹ پانی پینے والے لواس کی سیرابی سے یہلے ہی اچھوٹ جاتا (سرک جاتا) ہے جو اپنی ضروری آدمی سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت دولت مند ہو جانے سے بھی مستعفی نہیں ہو سکتا ہے مال سے تعلق رکھنے والوں کی جس قدر عظمت بڑھے گی اس مال سے اس کی مصیبت اور بھی زیادہ ہو گی۔ جس شخص کو لالج سفر پر لے جائیگی اس کی یہ خواہش اسے بیمار کرے گی۔ اور دوسرا روایت میں ہے کہ اسے کمزور کرے گی۔ انسان کے اندر لاٹھ کا مادہ اسے کم مرتبہ بناتا ہے لیکن اصل حصہ میں کچھ بھی زیادہ نہیں کرتا۔ انسان میں سب سے زیادہ بدجنت انسان وہ ہے جو بادشاہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جیسا کہ آگ کے بہت قریب کی چیز جلنے کے بہت قریب ہوتی ہے۔ جو شخص بادشاہ کے شریک ہوتا ہے اس کی دنیاوی عزت پانے میں اور آخرت کی ذلت پانے میں بھی اس کا دیے ہی شریک ہوتا ہے حاسد کو برا بحث کے لیے اتنی بات تمہیں کافی ہو گی کہ تمہاری خوشی کے وقت اسے غم ہو گا فرست اور موقع جلد ختم ہو جانے والی اور دیرے آنے والی روشنی ہے۔ رازوں کے محافظ جب زیادہ ہو جائے تو گوشہ نشینی تمہیں حاکموں کی گمراہی سے بچاتی ہے۔ خزع فرع کرنا صبر کے مقابلہ میں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ غور گزر کے چہرے جھٹکی کی چھینیں نہ مارو۔ میت کا ترک و رشد کی عزت کا سبب ہے لیکن خود اس کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ان کے کلام اور حکمتیں ہیں۔ ان کے اشعار میں سے معنی کے مناسب چند یہ ہیں:

۱. بادر اللی مثالک ورثہ ما المرء فی الدنیا ببلات

ترجمہ: اپنے مال کے پاس جلدی پہنچو اور اسے استعمال کر کے بوسیدہ کر دو کہ انسان کو دنیا میں ثبات نہیں ہے۔

۲. کم جامع یحق اکیاسه قد صار فی میزان میراث

ترجمہ: اور بہت سے لوگ عقلمندوں کو جمع کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بالآخر وہ عقلمند ہی اس کا گلگھونٹ دیتے ہیں اور وہ خود میراث کے ترازو میں پہنچ جاتے ہیں۔

۳. یا ذوا الغنی والسطوة القاهرہ والدولۃ الناهیۃ الامرۃ

ترجمہ: اے دولت اور زبردست دبدہ والے! اور نہیں اور ہاں کے احکام جاری کرنے والے۔

۴. ویا شیاطین بنی ادم ویا عبید الشہوہ الفاجرة

ترجمہ: اور اے انسانوں کے شیطانو! اور اے بے ہودہ خواہشات کے غلامو!

۵. انتظروا الدنيا و قد ادیرت و عن قلیل تلد الا اخرة

ترجمہ: دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اس نے پیٹھ پھیر لی ہے اور عنقریب آخرت کو لے آئے گی۔

اور یہ بھی اشعار ہیں :

۶۔ ابٹ سا سس و ہائی سوبہ فر ٹھممات  
تیرجھتا افسوس دا اور تو بارے بارے نوت آنے پتا۔

۷۔ قلی ان یفھعننا الده سس و شمات  
تیرجھتا: اس سے پہلے کہ زمانہ ہم میں اچاک جدائیگی اور پرانگی کو ہمارے سامنے لے آئے۔

۸۔ لاتخونیسی اذا میت و قامت بی نعاتی  
تیرجھتا: اس وقت تو میرے ساتھ خیانت نہ کرنا جب کہ میں مرنے لگوں اور لوگ مجھ پر روانا شروع کر دیں۔

۹۔ انما السوفی لعهدی من وفی بعد وفاتی  
تیرجھتا: مجھ سے وعدہ وفا کرنے والا تو صرف وہی شخص ہے جو میری وفات کے بعد بھی مجھ سے وفا کرے۔

صوی نے کہا ہے کہ ابن المعتز نے اپنے والد خلیفہ کی زندگی میں ایک باندی کو دیکھا تو وہ پسند آگئی اور بالآخر اسی کی محبت میں بیمار ہو گیا، اس کی بیماری کی حالت نہ اس کے والد اس کی عیادت کو اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ابھی کیا محسوس کر رہے ہو تو اس نے یہ اشعار کہے : -

۱۔ ایهالعاذلون لا تعذلم نی و انظروا احسن وجهها تعذر و نی  
تیرجھتا: اے میرے ملامت کرنے والو! مجھے ملامت نہ کرو، اور ان کے چہرہ کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے مخذول سمجھو۔

۲۔ و انظروا اهل ترون احسن منها ان رأيتم شبيهها فاعذلونی  
تیرجھتا: اور دیکھو کیا اس سے بڑھ کر تم کسی کو حسین پاتے ہو اگر تم اس جیسا حسین پا لو تو تم مجھے ملامت کر سکتے ہو۔

یہن کر خلیفہ نے حقیقت حال دریافت کی تو باندی کی خبر اسے پہنچائی گئی، اس نے اس باندی کو اس کے مالک سے سات ہزار دینار سے خرید کر اپنے لڑکے کے پاس بھیج دیا۔

اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں تمام امراء اور قاضیوں نے مقدار کو خلافت سے معزول کر کے اسی عبداللہ بن المعتز کو خلیفہ بنانے پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے المرتضی اور المخصف بالله کا لقب بھی دے دیا گیا تھا لیکن ایک دن یا اس سے بھی کم ہی وقت اس کی خلافت باقی رہ گئی۔ اس کے بعد مقتدر اس پر غالب آگیا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو قتل کر دیا جو مخالف ہو کر ابن المعتز کے ہمتوں ہو گئے تھے۔ اور یہ ابن المعتز اس کے پاس گھر میں مقید کر دیا گیا پھر یونس خادم کو اس پر مسلط کر دیا چنانچہ اس نے ربیع الآخر کی دوسری تاریخ کو اسے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن بیماری کی حالت میں یہ اشعار کہے ہیں:

۱۔ بـا نـفـس صـبـرـا العـلـ الخـير عـقاـبـك خـانتـك مـن بـعـد طـول الـامـن دـنيـاك  
تیرجھتا: اے نفس صبر کر شاید تیری عاقبت بہتر ہو تیری دنیا نے بہت دنوں تک تیر اساتھ دے کر تجوہ سے خیانت کی ہے۔

٢. مررت بنا سحرًا طير فقتلت لها طوباك

ترجمہ: اس کے وقت ایک پرندہ میرے پاس تے اڑ کر جانے لگا اور میں اس سے بہت تیرے تھے لیکے ہوئی مبارک بادی ہے کاش مجھے بھی ہزاری میسر، آئی تجھے ہی طوبی بہارک۔

٣. ان کان فصلن شرقاً فالسلام على

ترجمہ: اُگر تیرے اسغیر شرق کی جانب کا ہوا تو میری طرف سے سلام پہچاہے صراحت کے کنارے والوں کو بشرطیہ وہی تیر امتحانے سفر ہو۔

٤. عن موشق بالحنایا لا فکاک له يسکی الدماء على الف له باك

ترجمہ: جو شخص موت پر بھروسہ کرنے والا ہو خدا کرے اسے اس سے چھکارہ نہ ملے اس سے محبت کرنے والا خون کے آنسو روئے گا۔

٥. فربت امنة جاءت منيتها و رب مفلته من بين اشراب

ترجمہ: کیونکہ بہت سے مطمئن حضرات ایسے ہیں کہ ان پر موت آچکی ہے اور بہت سے جال میں پھنسنے ہوئے رہا ہو چکے ہیں۔

٦. اظنه اخر الايام من عمرى و اوشك اليوم ان يسکى لى الباكي

ترجمہ: میں آج کے دن کو اپنی زندگی کا آخری دن بھروسہ ہوں اور شاید ہی مجھ پر کوئی رونے والا روئے۔

٧. فقل للشامتين بنارويدا امامكم المصائب والخطوب

ترجمہ: مجھ پر خوش ہونے والے غمنوں کو تم کہہ دو ذرا خبہر و کہ تمہارے ساتھ بھی مصائب اور آفات ہیں۔

٨. هو الدهر لا بد من ان يكون اليكم منه ذنب

ترجمہ: وہی زمانہ ہے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے تمہارے پاس بھی مصائب آئیں۔

اس کے بعد دوسری ربيع الآخر کو ان کے قتل کیے جانے کا لوگوں کو علم ہو گیا۔ ابن خلکان نے ان کی بہت سی تصنیفات کا ذکر کیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں، طبقات الشعراء، کتاب اشعار الملوك، کتاب الآداب، کتاب المدیع، کتاب فی الحفاء، وغيرها اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ امراء کی ایک جماعت نے مقتدر کو خلافت سے کنارہ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جو صرف ایک دن اور ایک رات باقی رہی پھر ان میں انتشار پیدا ہو گیا تو ابن الجھاص الجویری کے گھر میں پناہ لی اور جب اس کا پیدا چل گیا تو اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا لیکن ابن الجھاص نے دو بڑا دینار دے کر اور چھلا کھد دینار کا وعدہ کر کے جان پہچائی۔

یہ ابن المعتز گندم گونی رنگ اور گول چہرہ کا تھا سیاہ خضاب لگایا کرتا تھا، پچاس سال کی زندگی پائی۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی ان کے کلام اور اشعار کا ذکر کیا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ

محمد بن الحسین:

بن صبیب ابو حسین الوداعی القاضی۔

ان کی ایک سہ بیوی کے باشندوں میں سے تیس بھندا آئے اور وہاں انہوں نے ایک بیوی تھیں جنہیں عبدالممید بن دل بن والق ہے حدیث کی ساعت کی اور ان سے ابن صادع النجاشی اور الجمالی نے روایت کی ہے۔ افغانی نے کہا ہے کہ یہ حق تھے کوفہ میں وفات پائی۔

محمد بن داؤد بن الجراح:

ابو عبد اللہ الکاتب وزیر علی بن عینی کے پیچا تھے۔ اخبار اور ایام الخلفاء کے سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی تصنیفات میں۔ عمر بن شیبہ وغیرہ سے روایت حدیث کی ہے ان کی وفات اس سال ماہ ربیع الاول ترپن برس کی عمر میں ہوئی۔

## واقعات — ۲۹۷

اس سال قاسم بن سیمانے الصاقۃ رحمہ جہاد کیا اور یونس خادم نے ان مسلمان قیدیوں کو جو دمیوں کے قبضہ میں تھے فدیہ دے کر چھڑایا۔ ابن جوزی نے ثابت بن سنان رحمہ پر واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بغداد میں مقتدر کے دور حکومت میں ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے نہ دونوں ہتھیلیاں تھیں اور نہ دونوں بازوں تھے بلکہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اس کے دونوں مونڈھوں سے ملے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ ان دونوں سے کسی فہم ناکوئی کام نہیں کر سکتی تھی لیکن اپنے دونوں پیروں سے وہ تمام کام جو عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں مثلاً سوت کاتا، تاگر بنا، لکھی کرنا وغیرہ، وہ سب کر لیتی تھی۔

اس سال بغداد میں بالکل بارش نہ ہوئی جس کی وجہ سے وہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور رواں یوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اس سال مکہ معظمه میں اتنا زبردست سیلا ب آیا تھا کہ اس سے خانہ کعبہ کے ستون بھی ڈوب گئے چاہ زم زم بھر کر ابل پڑا اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ فاضل ہاشمی نے اس سال لوگوں کو حج کرایا۔

## مشہور لوگوں کی وفات

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں۔

محمد بن داؤد بن علی:

ابو بکر الفقیہ ظاہری کے بیٹے، زبردست نامور عالم تھے۔ ادیب، شاعر، فقیہ ماہر بھی تھے۔ ان کی مصنفوں ایک کتاب زہرہ ہے۔ اپنے والد کا پیش اختیار کیا اور ان کے ہی مدھب اور مسلک کی اپیال کی اور جو طور طریقے انہوں نے اپنائے تھے وہ سب انہوں نے بھی اپنا کر ان کی رضا مندی حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح ان کے والد بھی انہیں بہت محبت کرتے اور اپنے قریب ہی ہر

وقت ساتھ رکھتے رویم بن محمد نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایک، ان ان کے والد والواد کے یاں موجود تھے کہ ان کے ہی لڑکے ان کے پاس روتے آئے تو انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جواب دیا کہ کچھ لڑکوں نے میرا قب عصفور الشوک (کائنوں کی چیزیا) رکھ دیا ہے۔ یہ ان کرآن کے والد نہیں پرے۔ ان کی بُنی سے اس چیز کا خصہ اور اسی بُنرک اٹھا اور کہنے لگے مجھے ان کے مقابلہ میں آپ سے زیادہ اکھو جوا ہے۔ یہ کہ ان کے والد نے انہیں اپنے سینے سے چھٹا لیا، اور کہا (اللہ اک اس قسم کے القاب اللہ کے عطیات ہوتے ہیں جو آسمانوں سے نازل کیے جاتے ہیں) اے میرے بیارے بیارے بچے تم فی الواقع عصفور الشوک (کائنوں میں رہنے والی چیزیا) ہی ہو۔

ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی بند پر انہیں بٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا، کسی نے ایک دن ان سے یہ دریافت کیا کہ نشرہ کی حد کیا ہے، جواب دیا جب کہ اس کی وجہ سے سمجھ کی صلاحیت ختم ہو جائے اور ازبستہ ظاہر ہو جائے، اس جواب کو تمام حاضرین نے بہت پسند کیا اور اس کی وجہ سے ان میں ان کی عظمت بڑھ گئی۔

ابن الجوزی نے <sup>المختشم</sup> میں لکھا ہے کہ یہ ایک بچہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، جس کا نام محمد بن جامع یا محمد بن زحرف تھا، لیکن اس کی محبت میں اپنی پا کدا منی اور اپنے دین کو بالکل بچا کر رکھا۔ ساری زندگی میں یہی کیفیت رہی بالآخر اسی حالت میں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں کہ وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل رہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس رض سے مرفوعاً اور موقوفاً بھی منقول ہے کہ ”تم سے کوئی کسی کے عشق میں بدلنا ہو جائے اور پاکہ اسن باقی رہتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہو کر مرے گا“، ان کے متعلق منقول ہے کہ وہ پاکدا منی کی شرط کے ساتھ عشق کرنے کو مباح سمجھتے تھے۔ ان کے راز سر بستہ کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ اپنے بچپن ہی سے عشق کیا کرتے تھے اور اپنے بچپن میں اسی وجہ سے کتاب الزہرہ کی تصنیف بھی کی ہے۔ ان کے والد نے اس میں جن بچہوں میں نشان لگا رکھا تھا اس کا رد کیا۔

یہ اکثر قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کی موجودی میں ابوالعباس بن شریح سے مناظرہ کیا کرتے تھے، یہ مناظرہ اور انداز بیان حاضرین کو بہت بھاتا تھا۔ ایک دن دورانِ مناظرہ ابن شریح نے ان سے کہہ دیا، ”تم اپنی کتاب الزہرہ کی وجہ سے حیثیت سے زیادہ مشہور ہو گئے ہو، جواب دیا: آپ مجھے کتاب الزہرہ کی وجہ سے عاردلاتے ہیں، آپ تو اس کے پڑھنے کی خرابیوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، ہم نے تو یہ کتاب بُنی مذاق میں لکھ دی ہے۔ اب آپ سینیگی کے ساتھ اس سے بہتر کتاب لکھ کر دکھادیں۔“

قاضی ابو عمر نے کہا ہے کہ ایک دن میں اور ابو بکر بن داؤد ایک ساتھ سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک لوٹی ان کے ان اشعار کو گاری تھی:

۱۔ اشکو الیک فؤاداً انت ملتفه شکوی علیل الی الف يعلبه

ترجمہ: میں تمہارے پاس اپنے اس دل کی شکایت لے کر آیا ہوں جسے تم نے ضائع کر دیا ہے اس بیمار کی مانند شکایت جو اپنے

اسی مجموعہ میں کہتا ہے جس نے اسے بیمار کہا یا ہے۔

۲۔ سفیر میں تسلیم عائل الارام کئرته و انت فی عرضہ ما انھی تفہیہ

ترجمہ: یہی بیماری دن نزرنے کے ساتھ ساتھ بروٹی جاتی ہے اور تم اس بروٹی بیماری و جس تو میں جیل رہا ہوں گمی جسہ رہے ہو۔

۳۔ اللہ حرم فتنی فی النہوی اسعا وانت بافاتلی ظلمًا تحمله

ترجمہ: اللہ نے تو عشق کے غم میں میرے قتل کو حرام کیا ہے، مگر اے مجھے ظلمًا قتل کرنے والے تم اسے حلال سمجھ رہے ہو۔

ابو بکر نے یہ اشعار سن کر دریافت کیا کہ آخر اس کے لوتانے کی کیا صورت ہے تو میں نے جواب دیا کہ اونٹ سوار مسافر حضرات تو سے ڈر لے بھاگے۔

ان محمد بن داؤد کی وفات اس سال ماہ رمضان میں ہوئی، ابن شریح نے ان کی تعزیت کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال کیا، میں صرف اس مٹی کی تعریف کرتا ہوں جو محمد بن داؤد کی زبان کھا گئی ہے۔ رحمہ اللہ

محمد بن عثمان بن ابی شیبہ:

ابو جعفر جنہوں نے میکی بن معین اور علی بن المدینی اور ان کے علاوہ دوسروں سے روایت حدیث کی ہے۔ اور ان سے ابن صاعد خلدی اور باغندی وغيرہم نے روایت کی ہے۔ ان کی ایک کتاب فی تاریخ میں ہے اس کے علاوہ اور بھی تصنیفات ہیں۔

صالح بن محمد جزرہ وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ لیکن عبداللہ بن الامام احمد نے ان کی تکذیب کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل صاف صاف جھوٹی ہیں۔ اور اس شخص پر تجуб ہے جو اس سے روایت کرتا ہے۔ اسی سال ماہ ربیع الاول میں وفات پائی۔

محمد بن طاہر بن عبد اللہ بن الحسن:

بن مصعب بیت الامارة والخشتم سے تعلق رکھتے تھے، ایک عرصہ تک عراق پھر خراسان کے بھی نائب حاکم رہے، لیکن ۲۸۰ھ میں یعقوب بن الیث ان پر غالب آگئے اور انہیں مقید کر لیا۔ مسلسل چار برس تک ان کے ساتھ ہی سارے علاقوں میں چکر لگاتے رہے۔ پھر کسی موقع سے ان سے رہائی حاصل کر لی اور اپنی جان بچا لی۔ اس کے بعد اس سال وفات پانے تک بغداد میں مقیم رہے۔

موی بن اسحاق:

بن موی بن عبد اللہ ابو بکر الانصاری الحنفی ۲۱۵ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ اپنے والد احمد بن حنبل، علی بن الجعد وغیرہم سے احادیث کی سمعت کی ہے۔ اور ان سے ان کی جوانی کی عمر میں ہی بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ لوگوں نے ان سے

قرآن کریم بھی یہ حادث سے سنبھا لے امام شافعی کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ ابواز کے قاری رستہ رشیق فاضل، بڑے باکے اہن فصح المسان اور بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والے تھے اس سال ماہ محرم میں وفات یافت ہے۔

### یوسف بن ایعقوب:

بن اما عیل بن تماء بن زید قاضی ابو عمر والد تھے انہی نے سجن کے قمقم کا حکم دیا ہے۔ یہ بحث بڑے مذاہ اور سر بر آور دہلوگوں میں سے تھے۔ ۲۰۸ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ سلیمان بن حرب غرو بن المرزوq ہدایہ مسدد جیسے حدیث سے احادیث کی ساعت کی ثقہ تھے۔ بصرہ واسطہ اور بغداد کے شرقی حصہ کے قاضی بڑے پاک دامن اور برائیوں سے بہت زیادہ محظاٹ تھے۔ ایک دن معتقد کا کوئی خاص خادم ان کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آیا، اور اپنے فریق سے برتر ہو کر قاضی کی مجلس میں بیٹھنے لگا تو قاضی کے دربان نے اسے اس کے فریق کے برادر ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ لیکن اس نے حنطہ سے خاص تعلق کی بناء پر اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تو قاضی نے اسے زور دار انداز سے ڈالنا اور کہا کہ غلاموں کے کاروبار کرنے والے کسی دلال کو بلا کر لاوتا کہ اس غلام کو اس کے پاس بھیج دوں اور اس کی قیمت معتقد کو بھیج دوں، لیکن قاضی کے دربان نے بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے فریق کے پاس بٹھا دیا، مقدمہ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد یہ غلام جب معتقد کے پاس واپس آیا تو اس کے سامنے بہت روئے لگا۔ معتقد نے روئے کی وجہ دریافت کی تو اس نے واقعہ بیان کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ قاضی نے مجھے بیٹھ ڈالنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ خلیفہ نے یہ سن کر کہا اگر وہ واقعہ تجھے فروخت کر دیتا لے تو میں اس فروخت کرنے کو جائز قرار دیتا اور پھر کبھی بھی تجھے اپنے پاس واپس نہ لوٹانا۔ کیونکہ میرے نزدیک تمہاری اتنی حکمت و صیت نہیں ہے کہ شریعت کے مرتبہ کو گھٹا دو۔ کیونکہ وہ قاضی بادشاہ کی حکومت کا ستون اور مذاہب کا محافظ ہے۔ ان کی وفات اس سال ماہ رمضان میں ہوئی۔



## واقعات — ۲۹۸

اس سال قاسم بن سیمارومی شہروں سے واپس آ کر جب بغداد پہنچا تو اس کے ساتھ بہت سے قیدی اور کفار تھے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے جن پر سونے کے صلیب بنے ہوئے تھے اور قیدیوں کی ایک خلوق تھی۔

اس سال نائب خراسان احمد بن اسماعیل بن احمد السامانی نے بہت سے ہدایا کیجیے جن میں ایک سو ہیں غلام تھے جوڑا اُن کے خاص ہتھیار دوسرا ہتھیاروں کے علاوہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ تھے۔ پچاس باز پچاس اونٹ جو کپڑوں کے گھٹڑ اور پچاس رطل مشک وغیرہ سے لدے ہوئے تھے۔

اسی سال قاضی عبد اللہ بن علی بن محمد بن عبد الملک بن الشوارب پر فائح کا حملہ ہوا۔ اس لیے ان کی جگہ پر مشرقی کنارے اور بلخ پر ان کے بیٹے محمد کو قاضی مقرر کر دیا گیا۔ اس سال ماہ شعبان میں ایسے دو شخص گرفتار کر کے لائے گئے کہ ان میں سے ایک کا نام ابوالکبیرہ تھا اور دوسرا اسمی میں ایسے دو نوں اس شخص کو مانے والوں میں سے ہیں جو اپنے لیے الوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نام محمد بن بشر ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رومیوں نے لاذقیہ کا رخ کیا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اس سال موصل شہر کی طرف سے ایک زرد ہوا چلی تھی جس کی گرمی سے بے شمار انسان مر گئے تھے۔ اس سال بھی فضل ہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا تھا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں۔

ابن الراؤندی:

جو مشہور بد دینوں میں سے ایک ہے اس کا باپ یہودی تھا مگر اپنا نام ہب اسلام ظاہر کرتا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی نے توریت میں تحریف کی تھی جیسا کہ اس کے بیٹے نے ایک قرآن کو دوسرے قرآن سے مختلف کر دیا اور تحریف کر دی۔ اور اس نے قرآن کی رد میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام الدامغ رکھا ہے۔ اور ایک کتاب شریعت کے رد میں لکھی اس پر اعتراض کیا جس کا نام الزمرد رکھا ہے اور ایک کتاب اور بھی اس مقصد میں لکھی ہے جسے الاتج کہا جاتا ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کتاب الفرید اور ایک کتاب امامۃ المفضول (مفضول کی امامت فاضل کے اوپر) بھی ہے۔ ان کتابوں کے رد میں یہ حضرات کمر بستہ ہوئے۔ الشیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی جو اس زمانے کے معترلہ کاشیخ تھا، اور عمرہ لکھا ہے۔ ایسا ہی اس کے ابو ہاشم عبد السلام بن ابی علی نے بھی لکھا ہے۔ شیخ ابو علی نے کہا ہے میں نے اس ملحد جاہل بے وقوف ابن الراؤندی کی

کتاب یورپی بھی، مگر اس میں سوائے بے وقوفی، جھوٹ اور من گھٹت باتوں کے کام کی کوئی بات مفید نہیں ہے اور یہ بھی کہا سے کہ اس شخص نے ایک حصہ کتاب کا عالم کے قدیم ہونے عالم کے بنانے والے کی تھی، ہر یہ مذہب لی صحیح اور اہل توحید کے روئیں کھانا ہے۔ ایک اور کتاب لکھی ہے شریعت مقامات میں محمد رسول اللہ ﷺ پر، امام رضاؑ پر کتب کی ثابت ثابت کرنے ہیں۔ ایک اور کتاب لکھی ہے یہو، نصاریٰ کے لیے جس میں مسلمانوں اور اسلام پر ان کی فضیلت کا اثبات اور محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوتوں کا ابطال ہے ایسی ہی دوسری باتیں ہیں جن سے اس کا دین سے خارج ہو جانا ثابت ہوتا ہے، ابن الجوزی نے یہ باتیں نقل کی ہیں۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب *المنتظم* میں اس کے کلام سے اس کی بد دینی اور آیات و شریعت پر لعن کے سلسلہ کے نمونے کے طور پر کچھ جملے ذکر کیے ہیں پھر ان کا کچھ رد بھی کیا ہے اس طرح پر کہ یہ بہت مختصر بذریعہ لیل تر ہیں اور اس شخص کی جہالت اس کے کلام میں اس کی بے ہودگوئی، بے وقوفی، ملاوٹ یہ سب اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر کچھ توجہ دی جائے اور اس شخص کی طرف مسخرہ بن استحقار کفر، اور کبارزے متعلق کچھ قصے وغیرہ بھی منسوب ہیں۔ جن میں کچھ صحیح ہیں۔ اور کچھ اس قسم کے مفروضہ باتیں ہیں اور کچھ اس کے طریقے اور کفر میں منت لوگوں کے مطابق اور مسخرہ پن سے ڈھانپ لینے والی ہیں جو ایسے لوگوں کو مسخر قالیوں میں ڈھال دیتی ہیں حالانکہ ان کے دل کفر اور ردۃ سے بھر پور ہیں۔ اور اس قسم کی باتیں اس شخص میں بھری ہوئی ہیں جو اسلام کا مدعی ہے۔ حالانکہ وہ منافق ہے۔ رسول ﷺ اور ان کے دین اور اس کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے:

”آپ ان سے سوال کریں تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو بھی مذاق سے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے بھی تم مذاق کرتے ہوتم مذہب پیش نہ کرو تم نے تو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔“ (پوری آیت)

ابو عیسیٰ دراق اس ابن راوندی کا مصاحب ہو گیا تھا اللہ دونوں کا حشر خراب کرنے۔ جب لوگوں نے ان دونوں کا حال اچھی طرح جان لیا تو سلطان کو خبر دے کر ان دونوں کو بلوایا گیا چنانچہ ابو عیسیٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گیا۔ اور ابن الراؤندی نے دہاں سے بھاگ کر ابن لاڈی یہودی کے پاس جا کر پناہ لی۔ اور وہیں رہتے ہوئے اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام الداعی للقرآن (قرآن کو کچل دینے والی کتاب) رکھا اس کے چند نوں کے بعد وہ مر گیا اللہ اس پر لعنت کرے ایک قول یہ ہے کہ اسے کپڑہ کرسوی دے دی گئی تھی۔ ابوالوفاء بن عقیل نے کہا ہے کہ میں نے انتہائی معیتز اور محقق کتاب میں لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ اپنی مختصر زندگی میں اتنی ساری بے ہودگوں کے بعد بھی چھتیں برس تک زندہ رہا اللہ اس پر لعنت کرے اور برآ کرے اور اس پر حم نہ کرے۔

ابن خلکان نے یہ باتیں اپنی کتاب دفیات میں لکھی ہے اور بھر پور لکھی ہیں، لیکن ان پر کوئی عنوان وغیرہ قائم نہیں کیا۔ گویا کہ کتنے کوکھانے کے لیے آثارے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ علماء اور شعراء کے ذکر میں ان کی عادت ہے۔ تو شعراء ایسے لوگوں کے

عنوانات کو طول دیتے ہیں۔ علماء مختصر سالکہ کر آگئے بڑھ جاتے ہیں اور زنا، ق ان لوگوں کی زندگی کا تنکر و چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن خلکان نے اس کی تاریخ وفات ۲۷۵ھ تھی ہے لیکن یہ سراسر وہم ہے۔ صحیح تاریخ وہی ہے جو ابن الجوزی وغیرہ نے لامبی ہے کہ اس سال اس کی وفات ۴۰۱ھ ہے۔

### الجندید بن محمد بن الجندید

ابوالقاسم الخراز اور ان ہی کو القواریی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ نہادن کے تھے، بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ الحسین بن عرفہ سے احادیث سئیں اور ابوثور ابراہیم بن خالد کلبی سے فقة حاصل کیا ان کی موجودگی ہی میں اس وقت جبکہ یہ صرف میں برس کے تھے فتوے دینے لگے تھے۔ ہم نے انہیں طبقات الشافعیہ میں ذکر کیا ہے، حارث محاسی اور اپنے ماموں سری السقطی کی شاگردگی میں رہنے کی وجہ سے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ ہمیشہ عبادت گزاری میں مشغول رہتے اسی وجہ سے اللہ نے ان پر بہت سے علوم کے دروازے کھول دیئے۔ اور صوفیہ کے طریقہ پر گفتگو کی ہے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر روز تین سور کی تعلیم نماز اور تیسیں ہزار بار تسبیحات پڑھتے اور چالیس برس تک مسلسل کبھی بھی ستر پر نہیں سوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے امور انہیں دیئے جوان کے زمانہ میں کسی دوسرے کو حاصل نہ تھے۔ یہ علم کے سارے فنون سے واقف تھے، جب کبھی کسی فن کے متعلق کوئی گفتوگی پڑھتے تو اس میں کبھی کوئی تامل اور توقف نہ فرماتے، یہاں تک کہ ایک ایک مسئلہ میں اتنی زیادہ صورتیں بیان فرمادیتے جو علماء کے دل پر کبھی نہ گزرتیں، تصوف وغیرہ میں بھی ان کا یہی حال تھا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاویج کرنے لگے، تو کسی نے ان سے کہا، اس نازک وقت میں آپ اگر اپنے نفس کو سکون دیتے تو بہتر ہوتا، جواب دیا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ محتاج حال کوئی بھی نہیں ہے، اب میرے نامہ اعمال کے پیشے کا وقت آگیا ہے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ انہوں نے ابوثور سے فقة حاصل کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفیان ثوری کے مسلک پر عمل کرتے تھے، ابن شریح ہمیشہ ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ان سے فقہ میں ایسی باتیں حاصل کی تھیں جو کبھی ان کے قلب پر نہیں گزری تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے ایک مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس کے کئی جوابات دے دیئے تو اس کہنے والے نے کہا اے ابوالقاسم آپ نے جتنے جوابات دیئے ہیں ان میں سے تین کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہذا آپ انہیں دوبارہ ذکر فرمادیں، تو انہوں نے جوابات دیئے مگر پہلے نہیں بلکہ دوسرے جوابات دیئے تو سائل نے پھر کہا و اللہ میں نے یہ جوابات اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہیں، لہذا آپ یہ دوبارہ ذکر فرمادیں، تو ان کے علاوہ کچھ اور جوابات دیئے تو سائل نے پھر کہا، ان جیسے جوابات تو میں نے کبھی نہیں سنے ہیں۔ لہذا آپ ہمیں یہ لکھوادیں اور ہم انہیں لکھ لیں۔ جنید فرمائے گے کہ اگر وہ جوابات میں اپنی طرف سے دیتا تو میں لکھوادیتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جوابات تو وہ ہیں جو اللہ پاک نے میرے دل پر نازل کر دیئے اور میری زبان سے کھلوادیئے، آخر میں سائل نے پھر سوال کیا آپ نے یہ علوم کہاں سے حاصل کیے؟ جواب دیا اللہ کے دربار میں چالیس برس تک بیٹھنے رہنے کی وجہ سے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ سفیان ثوری کے مذہب اور ان کے طریقہ پر کار بند

تھے۔ واللہ اعلم

جنید سے ایک بار عارفی شناخت دریافت کی تھی تو جواب دیا وہ شخص ہے جو تمہاری اندر وہی بات تمہارے سامنے ظاہر آ رہے اور تم سرف خوش رہواد فرمایا کہ میرا یہ مدح بَحَثَتْ و سنت کے ماتحت تحریک ہے جو شخص قرآن پاپ نہ پڑھتے اور حدیث لکھتا ہے جو اسے نہ مدد بَحَثَتْ اور طریقہ کے مطابق اس کی اقتداء نہیں کرنی چاہئے کسی نے ان کے پاس ایک تسبیح بیکھھی تو ان سے کہا کہ آپ اس مرتبہ تک پہنچ جانے کے بعد بھی تسبیح استعمال فرماتے ہیں۔ فرمائے گئے میں نے اسی کے ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا ہے اس لیے میں اسے خود سے دُور نہیں کر سکتا ہوں۔ ان سے ان کے ماموں سری گنے فرمایا آپ لوگوں سے گفتگو کریں مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا۔ تب انہوں نے جواب میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماء ہے ہیں لوگوں سے گفتگو کرو۔ بیدار ہونے پر اپنے ماموں کے پاس پہنچ تو وہ کہنے لگے تم نے میری بات نہیں سنی آخراً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد سے لوگوں سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان نصرانی مسلمان کی صورت ہنا کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم! رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کہ تھوڑی دری کے لیے انہوں نے اپنا سر جھکایا پھر سر اٹھا کر اس سے کہا اب تمہارے اسلام لانے کا وقت آگیا ہے اس لیے تم اسلام لیے آؤ۔ چنانچہ وہ جوان اسلام لے آیا۔ جنید نے فرمایا ہے کہ جتنا فائدہ مجھے ایک باندی کے گانے سن کر ہوا ہے اتنا کسی اور چیز سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے جسے وہ اپنے کمرہ میں گاہی تھی۔

### ۱۔ اذا اهدى الہم حرلی حلل البالی تقولین لولا الہم حرلی يطب الحب

**ترجمہ:** اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ فراق نے مجھے مصاحب کی جگہوں میں لا کر بخدا دیا ہے تو تم کہتی ہو کہ اگر فراق نہ ہوتا تو محبت میں مزہ نہیں ملتا۔

### ۲۔ و ان قلت هذہ القلب احرقه الجوى تقولین لی ان الجوى شرف القلب

**ترجمہ:** اور اگر میں کہتا ہوں کہ میرے اس قلب کو عشق نے جلا دیا ہے تو تم کہتی ہو کہ عشق ہی تو قلب کی شرافت ہے۔

### ۳۔ و ان قلت ما اذنبت قالت مجيبة حیاتك ذنب لا يقاد به ذنب

**ترجمہ:** اور اگر میں سوال کرتا ہوں کہ میں نے کیا تصور کیا ہے تو وہ جواب دیتی ہے تیری زندگی ہی تو مسلم ایسا گناہ ہے جس پر کسی دوسرے گناہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

پھر اس نے کہا اس کا جواب سنا کر میں جنح مارتے ہوئے بے ہوش ہو گیا یہ سن کر گھر کا مالک انکا اور مجھ سے کہا، اے میرے سردار! آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے جو کچھ سنا تھا سب کہہ سنا یا۔ اس نے کہا میری طرف سے وہ باندی آپ کو بہہ ہے۔ میں نے کہا میں نے اسے قبول کیا اور اب وہ لوجه اللہ آزاد ہے۔ پھر میں نے ایک شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس سے اسے بہت نیک پچ پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر پیدل چل کر تیس رج ادا کیے۔



## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال وفات پانے والے یہ حضرات ہیں۔

سعید بن اسما عیل:

ابن سعید بن منصور ابو عثمان الوعظ ”ری“ میں ان کی ولادت ہوئی اور وہیں جوان ہوئے پھر نیشاپور منتقل ہو کر وہیں آخري زندگی تک مقیم رہے، وہ بغداد بھی آئے تھے، انہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا۔ خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ عبد الکریم بن ہوازن نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ چالیس سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے مجھے جس حالت میں بھی رکھا ہے میں نے اسے ناپسند نہیں رکھا اور اگر دوسرا کیفیت میں مجھے منتقل کر دیا تو میں اس سے ناراض بھی نہیں ہوا ہوں۔ ابو عثمان یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

۱۔ اسأَثُّ وَلِمْ أَحْسَنْ وَجْهْتُكْ هَارِبًا

و این لعبد عن موالیہ مهربُ

ترجمہ: میں نے صرف برا کام کیا ہے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہے، پھر بھی میں تیرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہوں اور کسی بھی غلام کو اپنے آقا سے بھاگ کر جانے کی جگہ کہاں ہوتی ہے۔

۲۔ يَؤْمِلُ غَفْرَانًا فَانْ خَابَ ظُنْنُهُ

فما احمد عنه على الارض احیب

ترجمہ: اس کی طرف سے مغفرت کی امید کی جاتی ہے۔ اگر اس ناگران خراب ہو جائے تو روئے زمین پر کوئی بھی اس سے بڑھ کر محروم نہیں ہے۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ ان سے ایک دن یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ قابل قبول ہے؟ تو جواب دیا کہ ”ری“ میں رہتے ہوئے جب کہ میں پورا جوان ہو گیا تھا اور لوگ میری شادی کرنے کے خواہش مند تھے اور میں انکار کرتا رہتا تھا۔ اتنے میں میرے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی: اے ابو عثمان! میں آپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ آپ کی محبت میں میری نیند اور میرا چین سب ختم ہو گیا ہے۔ اور اب میں مقلب القلوب کا واسطہ اور اس کا وسیلہ بنانا کہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو میں نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والد ہیں تو اس نے کہا جی ہاں! وہ ہیں۔ تب میں نے ان کو بلوایا اور گواہوں کے سامنے رکھ کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد شب زفاف میں جب میں اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کافی، لگڑی بد صورت اور بد سیرت بھی ہے۔ تب میں نے کہا اے خدا میں تیری حمد ہی ادا کرتا ہوں کہ تو نے اسے میرے لیے میرا مقدر بنایا ہے۔ میرے گھروالے اس سے شادی کرنے کی بناء پر مجھے ہمیشہ ملامت کرتے۔ اور میں اس کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک میں زیادتی ہی کرتا رہا۔ اکثر وہ مجھے اپنے پاس روک لیتی تھی اور بعض محلوں میں مجھے جانے سے منع کرتی تھی۔ اس بناء پر میں خود کو آگ کے انگارہ پر پڑا محسوس کرتا۔ مگر بھی بھی اندر وہی کیفیت اس پر ظاہر

نہیں ہونے دی۔ اس حال میں میں نے پورے پندرہ برسِ نگارو دیئے اس لیے میں اس عمل سے بڑھ کر کسی عمل کو زیادہ قابل قبول نہیں مختتا۔ یونانہ میں نے اس کی اس محبت کا پاس باقی رہا جو اسے بھجتے ہوئی تھی۔ اس سال ان کا انتقال ہوا۔

### سمنون بن حمزہ:

ان کو ابن عبد اللہ بھی کہا جاتا ہے مشارخِ صوفیہ میں سے ایک تھے، ان کا ہر روز کا وظیفہ پائچ سو رکعت پڑھنا تھا۔ انہوں نے اپنا نام سمنون الکذاب رکھا تھا ان کے اپنے اس شعر کی وجہ سے۔

فَلَيْسَ لِي فِي سُوَاكَ حَظًّا

تترجمہ: تمہارے سوا مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں ہے، تم جس طرح چاہو میرا امتحان کرلو۔

اتفاق کی بات ہے کہ یہ پیشہ کی کمی کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے وہ مدرسون میں جا کر بچوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے پیچا کو (مجھے) جھوٹا کہہ کر پکار کرو محبت کے سلسلہ میں ان کا بہت عمدہ کلام ہے، آخری عمر میں انہیں وسوسہ کی بیماری ہو گئی تھی، ان کا کلام محبت کے سلسلہ میں بہت درست ہے، اس سال وفات پائی۔

### صافی الحربی:

یہ حکومت عباسیہ کے بڑے کلام میں سے تھے، انہوں نے اپنی بیماری کے زمانہ میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے غلام قاسم پر میرا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کا قاسم غلام وزیر کے پاس ایک لاکھ دینار اور سات سو بیس سونے کے کام کیے ہوئے پلکے لے کر آیا۔ مگر لوگوں نے کچھ بھی قبول نہ کیا، اور سب کچھ اسی کے پاس اسی کے گھر میں رہنے دیا۔

### اسحاق بن حنین:

ابو یعقوب العبادی، ان کی نسبت جزیرہ کے قبائل کی طرف ہوتی ہے طبیب ابن طبیب تھے خود ان کی اور ان کے والد کی بھی اس فن میں بہت سی تقنیفات ہیں۔ ان کے والد ارسطاطالیس وغیرہ کے کلام کو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا کرتے تھے۔ سال روایا میں ان کی وفات ہوتی۔

### احسین بن احمد:

بن محمد بن زکریا، ابو عبد اللہ الشیعی اسی نے مہدی کے لیے دعوت کا کام اپنے ذمہ لیا تھا۔ اس مہدی کا نام عبد اللہ بن میمون تھا۔ وہ اپنے بارے میں فاطمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ بہت سے تاریخ دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراصل یہ شخص یہودی اور قبیلہ سلمیہ کا ایک انگریز تھا۔ فی الحال مقصود یہ ہے کہ یہ ابو عبد اللہ الشیعی افریقیہ کے شہروں میں تھا فقیروں کی حالت میں داخل ہوا کہ نہ اس کے پاس مال تھا اور نہ آدمی کی قوت تھی۔ اس لیے وہ مسلسل کوشش میں لگا رہا یہاں تک کہ تدبیر کر کے ابو نصر زیادۃ اللہ کے قبضہ سے حکومت چھین لی۔ جو کہ افریقی شہروں میں بنی الاغلب کا آخری بادشاہ تھا۔ اور اس وقت اپنے مخدوم مہدی کو مشرقی ملکوں سے نکال کر لانے کی کوشش کی۔ وہ دہاں سے آنے لگا مگر بہت زیادہ مشکلوں کے بعد اس کے پاس

پہنچ کر اتنا سفر میں یہ قیدی بھی بنایا گیا تھا لیکن یہ شیعی بکشکل تمام اسے مصیبت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر اس کے بھائی احمد نے اس بہت زیادہ ملامت کی اور اس سے کہا تم نے یہ کیا سیا۔ تم نے اپنی فلکیوں سے کی اس کے معاملہ میں یوں دل دیا۔ تو اسے شرم مددگار ہوئی اور عہد نئے کے معاملہ میں پکجوانہ کام کرنے چاہتا تھا۔ کہ عہد کی کام کا پتہ جان گیا اور ہبھی اس کے قتل سے بچ کر نکل کر افریقی ملک کے قبریں اُن کے عائق میں رفیق و شہر میں چاگیا۔  
ابن غلکان نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا یہ ماحصل بیان کیا گیا ہے۔

## واقعات — ۲۹۹

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال تین دماد ستارے ظاہر ہوئے تھے ایک تماہ رمضان میں اور وہ ماہ ذی القعدہ میں وہ کچھ دن تک غائب ہو جاتے۔ اسی سال فارس کے علاقے میں مرض طاعون پھیلا تھا جس سے سات ہزار انسان مر گئے تھے۔ اسی سال خلیفہ اپنے وزیر علی بن محمد بن الغرات پر سخت ناراض ہو گیا اور اسے وزارت کی کرسی سے معزول کر کے اس کے گھر کو لوٹ لینے کا حکم دیا چنانچہ بہت بری طرح یہ لوٹ گیا اور اس کی جگہ پر ابو علی محمد بن سیحی بن خاقان کو وہ عہدہ پرداز دیا۔ اس نے معتقد کی ام ولد کو ایک لاکھ دینار دینے کا وعدہ کر لیا تھا اسی بناء پر اس نے اس کے معاملہ میں زبردست کوشش کی۔ اس سال مصر اور خراسان کے علاقوں سے بے حساب ہدایا وصول ہوئے جن میں سے صرف مصر سے پانچ لاکھ دینار آئے تھے جو وہاں کسی خزانے سے ملے تھے جس کے حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوئی تھی جیسا کہ عموماً جہاں اور کمزور عقیدے کے عوام دعوے کیا کرتے تھے اس طرح کمینے لوگوں اور لاپچی اور گنہ کاروں امام سے دھوکے اور فریب دے کر وصول کر کے کھایا کرتے تھے، اس خزانہ میں انسان کے سیند کی ایک پیلی ایسی ملٹھی جس کی لمبائی چار لامائی اور چوڑائی ایک باشت تھی۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قوم عاد کے کسی فرد کی ہڈی تھی۔ واللہ اعلم

مصر کے دوسرے ہدایا میں سے ایک ایسا زکر بھی آیا تھا جس کے دودھ کا حصہ تھا اور اس سے دودھ نکالا بھی جاتا تھا اور ان تھائیں میں جوابن ابی السماح نے بھیجا تھا ایک ایسا فرش تھا جس کی لمبائی ستر ہاتھ اور چوڑائی ساٹھ ہاتھ کی تھی اور وہ دس برسوں میں تیار کیا گیا تھا، وہ انمول تھا، ان کے علاوہ جو میں قیمت ہدایا آئے تھے وہ تھے جو احمد بن اسماعیل بن احمد السامانی نے خراسان سے بھیجا تھا وہ بہت زیادہ تھے اس سال الفضل بن عبد الملک العباسی جوزمانہ دراز سے جبان کا امیر برہا کرتا تھا اس نے لوگوں کو حج کرایا۔



اور مصری نسخہ میں ہے کہ اس کی لمبائی چودہ باشت تھی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے افراد یہ ہیں۔

### احمد بن نصر بن ابراہیم:

ابو عمر والخلفاء الحافظ یہ ایک لاکھ احادیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے جو اسحاق بن راہب یہ اور ان کے زمانہ کے لوگوں سے سنی تھیں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ متوتر تینیں برس سے بھی کچھ زائد روزے رکھتے رہے۔ اسی طرح صدقات بہت ادا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی سائل نے ان سے کچھ مانگا تو انہوں نے اسے دو دینار دیئے۔ اس نے یہ پا کر اللہ کی حمد کی تو انہیں پانچ تاریخیں اس نے پھر اللہ کی حمدادا کی تو اب انہوں نے دس پورے کر دیئے اس نے پھر اللہ کی حمدادا کی اسی طرح یہ بڑھاتے رہے اور وہ اللہ کی حمدادا کرتا رہا یہاں تک کہ سو پورے کر دیئے تو اس نے یہ دعا دی اللہ ان کی برکت سے آپ کے مال کو بچا کر اور بڑھا کر کھے تب انہوں نے اس سائل سے کہا کہ اگر تم حمد ہی ادا کرتے رہتے تو میں بھی درہم بڑھاتا رہتا اگر چہ وہ دس ہزار تک پہنچ جاتے، مگر اب نہیں دوں گا۔

### الپھلول بن اسحاق بن الپھلول:

ابن حسان بن سنان ابو محمد التوفی۔ انہوں نے اسماعیل بن ابی اویس اور سعید بن منصور اور مصعب زیری وغیرہم سے احادیث سنی تھیں اور ان سے بھی ایک جماعت نے احادیث سنیں جن کے آخر میں ابو بکر اسماعیلی الجرجانی الحافظ ہیں۔ یہ شفہ حافظ حدیث، پنجتہ یاد رکھنے والے اور اپنے خلیبوں میں بڑے فضح و بیخ تھے۔ اس سال بچانوے سال کی عمر پا کر وفات پا گئے۔

### الحسین بن عبد اللہ بن احمد:

ابو علی الغرقی جو امام احمد بن حنبل کے مذہب کی فقہ کے ایک مختصر رسالہ کے مصنف ہیں۔ المرزوqi کے خلیفہ تھے۔ عید الفطر کے دن وفات پائی اور امام احمد بن حنبل کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔

### محمد بن اسماعیل:

ایوب عبد اللہ المغربی۔ انہوں نے پیدل چل کر ستانوے رج ادا کیے۔ یہ رات کے وقت تاریکی میں ننگے بیرونیے چلا کرتے تھے جیسا کہ دوسرا دن کے وقت سورج کی روشنی میں چلتا ہے اور رات کے وقت دوسرے پیدل چلنے والے ان کی تقلید کرتے ہوئے چلتے تھے، یہاں تک کہ یہ آسانی کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے۔

اور کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت برسوں نے تاریکی میں محسوس نہیں کی ہے۔ اتنے زیادہ پیدل سفر کرتے رہنے کے باوجود ان کے قدم ایسے تھے گویا کہ وہ کسی نئی بھی ہوتی دلہن کے پیر ہوں ان کے کلام لطف آمیز اور مفید ہوتے تھے۔ مرتبہ وقت انہوں

لئے۔ صیحت کی تھی کہ مجھے میرے شیخ علی بن رزین کی قبر کے بغل میں فن کیا جائے۔ الہذا یہ دونوں پیروں مرید طور پر بازو کے اوپر مدفنوں پر ہیں۔

(ابو یحییم نے کہا ہے کہ ابو عبید اللہ الغزیل اور بھی عمر پانے والوں میں سے تھے۔ لیکنہ ایک دوسری برس لی گئی عمر پر انہوں نے وفات پائی تھی۔ اور ان کی قبر طور سے عین اس کے استاد علی بن رزین کی قبر کے پاس ہے۔

ابو عبد اللہ نے کہا ہے کہ بہترین عمل اوقاف کو آوارگھا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ فقیر و شخص ہے جو صرف اسی کی طرف توجہ دے جس کی طرف سے فقر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کسی طرف توجہ نہ دے تاکہ وہی ذات مدد چاہنے میں اس کی مدد کرے، جیسا کہ اس کی محتاج بنانے میں اس نے مددی ہے۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل وہ فقیر ہے جو دولت مندی کے ساتھ چاپلوٹی اور اس کے ساتھ تو واضح کرنے والا ہو۔ اور سب سے زیادہ باعزم و شخص دولت مند ہے جو فقیر کے سامنے عاجزی اختیار کرتا اور اس کی عزت کرتا ہو)۔

### محمد بن ابی بکر بن ابی خشمیہ:

ابو عبد اللہ الحافظ بن الحافظ، ان کے والد ابی کتاب التاریخ کی تصنیف میں ان سے مدلیا کرتے تھے۔ بہت سمجھدار، ماهر اور حافظ تھے۔ اسی سال ذوالقدر کے مہینے میں وفات پائی ہے۔

### محمد بن احمد کیسان الخوی:

علم الخوی کے حفاظ میں سے ایک اور اس کے مسائل بہت زیادہ بتانے والے تھے۔ یہ بصری اور کوفی دونوں طریقہ الخوی کے ایک ساتھ حافظ تھے۔ ابن مجاهد نے کہا ہے کہ ابن کیسان اپنے دونوں استاد اور دو اور ثعلب سے بھی زیادہ خوی تھے۔

### محمد بن یحییٰ:

ابوسعید دمشق میں سکونت اختیار کی۔ ابراہیم بن مسعود الجوہری، احمد بن مثیع، ابن ابی شیبہ وغیرہ سے روایت ہے، اور ان سے ابو بکر النقاش وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ محمد بن یحییٰ ”کفن بردوش“ کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اس کی وجہ الخطب نے یہ بتائی ہے، کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دے کر کفن فن کر دیا گیا تو رات کے وقت کفن چور نے آ کر ان کی قبر کھو دکرانے کے بعد اسے کفن کھولنے لگا، کفن کھولتے ہی یہ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر گھبراہست کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگنے لگا، تو وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر اپنا کفن اس سے چھین لیا اور اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا کہ ان کے آدمی رور ہے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھلکھلایا۔ گھر والوں نے پوچھا، دروازہ پر کون ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کر دیا، تو

لوگ کہنے لگا ہمارے زخمی دل پر نمک چھڑک کر کوں ستاتے ہو۔ پھر بھی انہوں نے کہا: دروازہ کھولو، اللہ کی قسم! میں فلاں آ دی ہوں۔ جب انہوں نے آوار پہچائی اور جھاکٹ کر پہچان لیا تو انہیں بے حد خوشی ہوتی۔ اللہ نے ان کے فم کو خوشی سے بدل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کفن پورہ کا پورا قصہ سنایا۔ جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ ان پر سُخت طاری ہو گیا تھا اور حقیقتاً صوت طاری نہیں ہوئی تھی۔ اس موقع پر اللہ نے اس کفس چورکو بھیج کر قبر کھود دادی جوان کی زندگی کا سبب ہن گیا۔ اس واقعہ کے بعد وہ کئی برس تک زندہ رہے تھے۔ اب اس سال ان کی وفات ہوئی۔

### فاطمہ القہر مانہ:

مقدار کو اس پر سخت غصہ آ گیا تھا۔ اور اس کے پاس جو مال و اسباب تھا سب چھین لیا۔ جس کی مجموعی قیمت دولا کھدیار تھی۔ اس کے بعد یہ اپنے جہاز میں ڈوب کر مر گئی۔



## واقعات — ۳۰۰

اس سال دجلہ میں پانی بہت زیادہ آگیا تھا، اور بغداد میں زبردست، موسلا دھار بارش ہوئی تھی۔ جمادی الآخرة کی تھیوں یہ تاریخ، بدھ کی رات کو بے شمار ستارے آسمان سے جھٹرے تھے، اس سال بغداد میں مختلف قسم کی بہت زیادہ بیماریاں بھیلی تھیں۔ کئے اور جنگل کے بھیڑیے بھی پاگل ہو گئے تھے جو دن کے وقت لوگوں پر حملہ کر کے کاث لیتے تھے، جس سے ان لوگوں کو کتوں کی بیماری لاحق ہو جاتی تھی۔

اسی سال دینور کا پہاڑ حصہ کر صرف ایک میلہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس کے نیچے سے زوردار پانی بننے لگا، اتنا کہ اس سے کئی دیہات بالکل ڈوب گئے۔ اس سال لبنان کے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر دریا میں گر گیا تھا۔ اس سال خچرنے گھوڑے کا بچہ جنا تھا۔ اس سال حسین بن منصور حجاج کو چانسی دی گئی تھی، اس کے بعد بھی وہ چار دنوں تک زندہ رہ گئے تھے۔ دودن بغداد کے مشرقی جانب، اور دودن مغربی جانب رکھے گئے تھے۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الاول کا ہے اس سال بھی لوگوں کو فضل بن عبد الملک الہاشمی العباسی نے حج کرایا تھا، جو گزشتہ کئی برسوں سے حجاج کے امیر ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں اس کا اجر دے اور ان کے عمل کو قبول کرے۔

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### الاھوص بن الفضل:

ابن معاویہ بن خالد بن غسان ابو امیہ، جو بصرہ وغیرہ کے قاضی تھے، اپنے والد سے تاریخی واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس آ کر ابن الفرات چھپ گئے تھے۔ جب ان کو دوبارہ عہدہ وزارت ملا تو انہوں نے ان کو بصرہ، اہواز اور واسطہ کا قاضی بنادیا۔ یہ پاک طینت اور صاف سترھے تھے۔ اتفاق سے ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی یادداشت میں بصرہ کے نائب حاکم نے انہیں جیل میں ڈال دیا، جہاں یہ زندگی کے بقیہ دن گزارتے رہے۔ آخر وہیں وفات پائی۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے مساوا اور کوئی قاضی قید خانہ میں رہا ہو۔

### عبداللہ بن عبد اللہ بن طاہر۔ ابن الحسین مصعب ابو الحسن المخزاعی:

بغداد کی امارت ان کو پروردگاری گئی تھی، انہوں نے زیر بن بکار سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے الصولی اور الطبرانی نے روایت کی ہے، بڑے ادیب اور فاضل تھے ان کے چند اشعار یہ ہیں:

۱۔ حق التنسائی بین اهل الہوی تکاتب یسخن عین النومی

تشریح: عاشقوں کے درمیان دوری کا حق، خط و کتابت کرنا ہے جو دوری کی آنکھ کو رلاتا ہے۔

۲۔ وفي اللدانى لا انقضى عمره تزاور يشفى غيل الحوى

**تشریح:** اور قراہت کا حق ملاقات ہے اس کی عمر فانہ ہو جو بتلے شخص کی پیاس کو شفاء دیتا ہے۔

ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ان کی ایک باندی کو برف کی خواہش ہوئی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ ہر ف تلاش لرنے سے صرف ایک شخص کے پاس ملی ان کے ویلے نے ایک رطل کا دام پوچھا تو اس نے بینے سے انکار کر دیا اور پوری برف کی قیمت پانچ ہزار روپہ بتائی۔ محض اس وجہ سے کوئے سے برف کی ضرورت کا علم ہو گیا تھا اس لیے وہ وکل مشورہ کرنے کے لیے واپس آگیا۔ انہوں نے جواب دیا، تم پر افسوس ہے جاؤ جتنی قیمت بھی وہ مانگے، اس پر لے آؤ۔ چنانچہ وہ پھر برف والے کے پاس آیا تو اس نے قیمت بڑھا کر ایک رطل کی قیمت درس ہزار مانگ لی اور اس وکیل نے بھی دس ہزار میں ایک رطل خرید لی اس کے بعد اس باندی کے مزاج کی موافقت کی وجہ سے اور برف کی خواہش ہوئی۔ اس لیے دوبارہ جا کر پھر ایک رطل دس ہزار میں خرید کر لے آیا۔

تیسرا بار کی خواہش پر پھر ایک رطل دس ہزار سے خریدی۔ اب مالک کے پاس صرف دو رطل برف باقی تھی۔ اب خود برف والے کی خواہش ہوئی محض یہ کہجے کے لیے میں نے بھی دس ہزار کی قیمت کی ایک رطل برف کھائی ہے۔ اب اس کے پاس صرف ایک رطل برف بچی۔ اب پھر وکیل اس کے پاس ایک رطل برف خریدنے کو آیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں تیس ہزار سے کم میں نہیں بیچوں گا، چنانچہ وہی قیمت دے کر لے آیا۔ اس مرتبہ وہ باندی بالکل تند رست ہو گئی اور اس خوشی میں اس نے بہت سا مال صدقہ کیا اور اس وقت خود برف والے کو بھی بلوا کر اس صدقہ کے مال سے بہت سماں دیا۔ اس طرح وہ شخص بڑا دولت مند ہو گیا۔ پھر اسے ابن طاہر نے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ واللہ اعلم

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

سن تین سو بھری کے قریب ان لوگوں کی وفات ہوئی:

الصنوبری الشاعر:

یہ محمد بن احمد بن براد ابو بکر، افاضی، الصنوبری، الحسنیل ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے کہا ہے کہ یہ بہت عمدہ شاعر تھے۔ علی بن سلیمان الانخفش سے بھی یہی مnocول ہے۔ اس کے بعد ان کے چیدہ اشعار میں سے یہ چند ذکر کیے جاتے ہیں:

۱۔ لا النوم ادری به ولا الارق      یدری بهذین من به رقم

**تشریح:** نہ تو میری نیند نے اسے جانا ہے اور نہ ہی بیداری نے ان دونوں کو وہی جان سکتا ہے جسکے اندر تھوڑی بھی جان ہے۔

۲۔ ان دموعی من طول ما اسبقت      کلت فما تستطيع تستبيق

**تشریح:** یقیناً میرے آنسو طویل عرصہ سے بہتے رہنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں، اب نکل کر آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

۳۔ ولی ملک لم تید صورته      مذکان الاصلت الحدق

**ترجمہ:** میرا ایک فرشت ہے جس کی صورت اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آنکھوں کی سیاہی نے اس کی بہت تعریف کی۔

**۵۔ سویت القبیل ساروجھہ** و حفت ادبو منها فاحتقد

**ترجمہ:** میں نے اس کے رخسار کی آگ کو بوسدیے کا رادہ کیا، مگر میں اساتھ سے ذریغیا کہ اس کے قریب ہوں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ بھی ان کے اشعار ہیں۔

**۶۔ شمس غدا یشبہ شمسا غدت** و فدها فی النور من فده

**ترجمہ:** وہ سورج جو سوریے آیا، مشابہ ہے اس سورج کے جو چلا گیا، اس ذوبنے والے سورج کی رخسار کی روشنی آنے والے سورج کے رخسار سے ہے۔

**۷۔ تغییب فی فیہ ولکنها** من بعد ذا تطلع فی فده

**ترجمہ:** اس کے منہ میں وہ غالب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے رخسار میں طلوع ہوتا ہے۔

حافظ یعنی نے اپنے شیخ حاکم سے اور انہوں نے ابو الفضل نصر بن محمد طوی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر الصنوبری ہمیں یہ اشعار سناتے ہیں۔

**۸۔ هدم الشیب ما بناد السباب** والغوانی ما عصین خضاب

**ترجمہ:** بڑھاپے نے ان تمام کو برداشت کر دیا جن کی جوانی نے تعمیر کی تھی۔

**۹۔ قلب الابنوس عاصحا** فللا عین منه والقلوب انقلاب

**ترجمہ:** آہوں لکڑی ہاتھی دانت سے بدلتی ہے، اس طرح آنکھوں اور دلوں سب میں اس سے انقلاب آگیا ہے۔

**۱۰۔ وضلاک فی الرأی ان يشنا ار** باری على حسنہ و یہوی الغراب

**ترجمہ:** اور ائے میں اس وقت گراہی آ جاتی ہے جبکہ دشمنی کرنے لگیں، باز اس کے حسن سے اور کوئے اس حسن پر گرنے لگیں۔

ان کے اور بھی یہ چند اشعار ہیں جنہیں ابن عساکرنے ذکر کیا ہے۔ اس وقت کہے ہیں، جبکہ ان کا وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا تھا، اور ان کے سینے پر پڑا رورہا تھا۔

**۱۱۔ منعوه احباب شئ اليه** من جمیع الوری و من واللديه

**ترجمہ:** لوگوں نے اس کو ایسی چیز سے روک دیا ہے، حالانکہ وہ ساری مخلوق اور اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

**۱۲۔ منعوه غذاه ولقد کان** مباحالہ و بیس یدیه

**ترجمہ:** لوگوں نے اس کو اس کی اپنی غذائے بھی روک دیا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے مباح ہے اور اس کے سامنے ہے۔

**۱۳۔ عجبالہ علی صغیر السن** هوی فاہتدی الفراق اليه

**ترجمہ:** اس پر سخت تعجب ہے، اس کی اس کم سنی کے باوجود اعاشق ہونے پر لیکن فراق نے اسے اس کا راستہ دکھادیا ہے۔

ابراهیم بن احمد بن محمد:

ابن المولود ابو اسحاق الصوفی الوعاظی الرقیٰ ان کے مشائخ میں سے ایک تھے۔ عبد اللہ ابن الجاء اللہ شدق سے حدیث کی روایت ہے اور ان کی صحبت بھی اختیاری تھی۔ ان کے علاوہ جنید اور دوسرا تھی حضرات سے بھی روایت ہے۔ اور ان سے تمام بن محمد اور ابو تمہار اسلامی نے روایت کی ہے۔ ابن عساکرنے ان کے اشعار میں سے یہ پندذ کر کیے ہیں۔

۱. لَكَ مُنْتَهَى عَلَى الْبَعَادِ نَصِيبٌ

**ترجمہ:** تیری عنائیں خاص ان لوگوں پر ہیں جو میرے مقابلہ میں بہت دور ہیں جنہیں قریب رہئے والا عاشق نہ پاس کا۔

۲. وَ عَلَى الْطَّرْفِ مِنْ سَوَّاكَ حِجَابٌ وَ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ هَوَاكَ وَ ثِيَابٌ

**ترجمہ:** جو تم سے کنارہ رہنے والے ہیں سب سے تم نے آڑ کر کھا ہے، اور تمہارے دل کا ہر وہ شخص رقیب بنا ہوا ہے، جس نے تم سے عشق کیا ہے۔

۳. زَيْنٌ فِي نَاظِرِي فِي مَا هَوَاكَ وَ قَلْبِي وَ الْهُوَيِ فِي مَا رَأَيْتَ وَ مَشِيبٌ

**ترجمہ:** تیرے عشق نے تیرے دیکھنے والے کو اور میرے دل کو بھی مزین کر رکھا ہے، اور اس سے عشق کرنا خوشنگوار اور با مزہ ہے۔

۴. كَيْفَ يَغْنِي قَرْبُ الطَّيِّبِ عَنِ الْأَيْلَةِ اَنْتَ اَسْقَمْتَهُ وَ اَنْتَ الطَّيِّبُ

**ترجمہ:** کسی بیمار کے پاس حکیم موجود رہتے ہوئے بھی وہ اس کے لیے کیونکر مفید ہو سکتا ہے، جبکہ تم نے خود ہی اسے بیمار کیا ہے اور تم ہی اس کے معانج بھی ہو۔

ان کے علاوہ یہ اشعار بھی ان کے ہیں:

۵. الصَّحَّةُ اَمْنٌ مِّنْ كُلِّ نَازِلٍ مِّنْ نَالَهُ نَالٌ اَفْضَلُ الْغَنِمِ

**ترجمہ:** خاموشی انسان کو ہر آنے والی بلا سے محفوظ رکھتی ہے، جس نے خاموشی کی دولت پائی اس نے غنیمت کا بہترین مال پایا۔

۶. مَا نَزَّلَتْ بِالرِّجَالِ نَازِلٌ اَعْظَمُ ضَرِّاً مِّنْ يَفْظُّهُ نَعْمٌ

**ترجمہ:** انسان پر کوئی بھی مصیبت ایسی نازل نہیں ہوتی ہے جو لفظ ہاں کہنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔

۷. عَشْرَةُ هَذَا الْلِسَانِ مَهْلَكَةٌ لِّيسَتْ لِدُنِّيَا كَعَشْرَةِ الْقَدْمِ

**ترجمہ:** اس زبان کے پھسلنے سے اتنی زبردست بر بادی لازم آتی ہے جو اس کے قدم پھسلنے سے بھی نہیں ہوتی ہے۔

۸. اَحْفَظْ لِسَانًا يَلْقِيَكَ فِي تَلْفٍ فَرَبٌ قَوْلُ اَذْلَّ ذَا كَرْمٍ

**ترجمہ:** تم اپنی زبان کی حفاظت کرو جو تم کو بر بادی میں ڈالتی ہے۔ کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک شریف انسان کو خود اس کی بات نے ذلیل کر دیا ہے۔

## واقعات — ۱۰۳۵

اس سال حسین بن حمدان نے صائمه سے جہاد کر کے روئی علاقوں کے بہت سے تلعوں کو فتح کر لیا۔ اور ان کے بے شمار آدمیوں کو قتل کیا۔ اس سال مقتدر نے محمد بن عبداللہ کو وزارت کے عہدہ سے برطرف کر کے اس کی جگہ پر عیسیٰ بن علی کو بٹھایا۔ حالانکہ وہ ان کا بہت پسندیدہ وزیر تھا۔ اور بہت عدل و احسان اور اتاباع کے ساتھ متصف تھا۔ اس سال بغداد میں نمونہ اور آب (جولائی اگست) کے مہینوں میں خون بیماریوں کی بہتان ہوئی، جس سے وہاں بے شمار مخوق کی موت ہوئی۔

اس سال عمان کے گورنر کے ہدایا پہنچے، جن میں ایک سفید چمڑا اور ایک سیاہ ہرن تھا۔ اس سال شعبان کے مہینے میں خلیفہ مقتدر گھوڑے پر سوار ہو کر شناسیہ کے دروازہ تک اتر گیا، پھر اس کے گھر گیا، جو دجلہ کے قریب تھا۔ اس کی بھی سواری پہلی سواری تھی، جو اس نے علی الاعلان کی تھی۔

اس سال علی بن عیسیٰ وزیر نے خلیفہ مقتدر سے اجازت چاہی تا کہ قرامط کے لیڈر ابوسعید الحسن بن بہرام الجنابی کو خط لکھے۔ چنانچہ اس نے اجازت دے دی، تب اس نے اس طویل خط لکھ کر اسے بادشاہ کی اطاعت گزاری اور فرمان برداری کی دعوت دی۔ ساتھ ہی نماز روزہ کو چھوڑ کر نافرمان اور مکرات کا مادی بننے پر اسے بہت ڈانتا، اور ان باتوں پر بھی اسے ملامت کی کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، انہیں تم برا جانتے ہو اور تم لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہو آزاد آدمیوں کو غلام بناتے ہو۔ آخر میں اسے لڑائی کی دھمکی کے ساتھ قتل کی گئی دھمکی دی۔

اس خط کو لے کر جب اس کی طرف آدمی روانہ ہوا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ابوسعید کو قتل کر دیا گیا، جسے اس کے کسی خادم نے قتل کیا تھا۔ اور اس کے کاموں کی ذمہ داری اس کے بعد اس کے بیٹے سعید کو سپرد کی گئی، مگر اس کا دوسرا بھائی ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید اس پر غالب آ گیا۔ اس نے وزیر کا خط پڑھ کر جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض باتیں تم نے ہماری طرف منسوب کی ہیں، وہ سب تم کو صرف ان لوگوں کے ذریعہ پہنچی ہیں جو ہماری برا کیا کرتے ہیں۔ اور اب جبکہ خلیفہ ہمیں کفر کی طرف منسوب ہی کرتا ہے، پھر وہ ہمیں اپنی فرمائیں اور اطاعت گزاری کی کیونکہ دعوت دیتا ہے۔

اس سال میں حسین بن منصور الحجاج کو جو بہت مشہور ہو گیا تھا۔ ایک اونٹ پر سوار کر کے اسے اس طرح بغداد لایا گیا کہ اس کا غلام بھی دوسرے اونٹ پر سوار تھا۔ وہ اس طرح کی آواز لگاتا جا رہا تھا کہ یہ شخص قرامط کے داعیوں میں سے ایک ہے سب اسے پہچان لیں، پھر اسے قید کر کے وزیر کی مجلس میں لا یا گیا۔ اس سے جب گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ تونہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ حدیث نہ نقصہ کو کچھ پہچانتا ہے۔ اسی طرح فن لغت، اخبار اور شعر سے اسے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔ اس پر اعتراض یہ تھا کہ اس کی طرف سے کچھ خطوط ایسے پائے گئے تھے جن میں یہ گمراہی اور جہالت کی طرف لوگوں کو مختلف قسم کے اشاروں اور

کنایوں میں، عورت دیتا تھا۔ وہ اپنے اکٹھ خوطاً میں یوں لکھتا تھا: تاریخ ذہ، اللہ، الشعشعیہ۔ وزیر نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے یہ بات کہیں بہتر تھی کہ تم طہارت اور فرائض کے مسائل سمجھتے۔ حالانکہ اس کے بعد تم اپنے خوطاً لکھتے رہے ہو، جن کے بارے میں تم خود بھی نہیں جانتے لتم آیا تھا ہر ہے ہو۔ اور آخر قسم کو اس قسم کے ادب جاننے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ حکم ہے یا کہ اسے سول دی بائی، مگر صرف دکھانے کے لیے قتل کے لیے نہیں۔ پھر وہاں سے اُسے اتار کر دارالخلافہ میں لا کر بھایا گیا۔ اس وقت اس نے اپنے آپ کو اہل السنّت میں سے ہونا ظاہر کیا۔ اور یہ کہ تو تارک الدنیا ہے۔ اس کی اس حرکت سے دارالخلافہ کے بہت سے جاہل ملاز میں اس کی باتوں سے دھوکہ میں آگئے، اور اس کے کپڑوں سے برکتیں حاصل کرنے لگے۔

اس کے بعد اس سے متعلق یہ تفصیل عنقریب آئے گی کہ تمام فقہاء اور اکثر صوفیہ کے بھی مشورہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس سال کے آخر میں بغداد میں کوئی زبردست و با پھوٹ پڑی، جس کے سبب سے بہت سی مخلوق ختم ہو گئی۔ بالخصوص حریبیہ میں جہاں کے اکثر گھروں کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے۔ اس سال بھی لوگوں کو اس امیر حج نے حج کرایا، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں یہ لوگوں ہیں:

ابراہیم بن خالد الشافعی:

انہوں نے علم اور زہد و نوں کو جمع کیا۔ ابو بکر الاسماعیل کے شاگردوں میں سے تھے۔

جعفر بن محمد:

ابن الحسین بن المستلاض ابو بکر الفریابی، دنیور کے قاضی، طلب علم کے سلسلہ میں بہت سے ملکوں کا چکر لگایا۔ بہت سے مشارک مثلاً قتبیہ، ابو کریب، اور علی بن المدینی سے احادیث سنی۔ ان سے ابو الحسین بن المناوی الجاذ، ابو بکر الشافعی، اور دوسرے لوگوں نے احادیث سنیں۔ بغداد کو اپناوطن بنالیا تھا، ثقہ، حافظ اور حجہ بھی تھے۔ ان کی مجلسوں میں تقریباً تیس ہزار آدمی شریک ہوتے۔ ان سے سن کر لکھوانے والے تین سو سے زائد ہوتے تھے اور دوات لے کر حاضر ہونے والے بھی تقریباً دس ہزار ہوتے۔

چورانوے برس عمر پا کر اسی سال محرم کے مہینے میں وفات پائی، انہوں نے اپنی وفات سے پانچ سال پہلے ہی اپنے لیے قبر کھودوالی تھی، اس کے پاس آتے اور کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس میں دفن نہیں کیے جاسکے۔ بلکہ دوسری قبر میں مدفون ہوئے۔ اللہ ان پر ہر جگہ رحم فرمائے۔

ابو سعید الحنفی القراطینی:

نام الحسن بن بہرام تھا۔ اللہ اس کا حشر برائے۔ یہی قرمط کا سردار تھا۔ حیرین اور اس کے آس پاس علاقوں میں اس کا اثر و رسوخ تھا۔

علی بن احمد الراسی:

واسط سے شہر زور وغیرہ تک کے علاقہ کا حاکم تھا، اپنے پیچھے بے شمار مال چھوڑا تھا۔ جن میں وس لاکھ دینار نقد، ایک لاکھ دینار کے سونے اور چاندی کے برتن، ایک ہزارگا کمیں اور گھوڑے، خچرا اور اونٹ وغیرہ ایک ایک ہزار۔

محمد بن عبد اللہ بن علی:

ابن محمد بن ابی الشوراب جو الاحف سے مشہور ہے۔ المتصور شہر میں اس وقت اپنے والد کی گلہ پر قاضی بنائے گئے تھے۔ جب ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ان کے والد کا ماہِ رجب میں انتقال ہوا اور اس کے تہترنوں بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں ایک ہی دن مدفن ہوئے۔ ان کے علاوہ ابو بکر محمد بن ہارون البروی الحافظ بن ناجیہ نے بھی وفات پائی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم



## واقعات — ۳۰۲

اس سال مولن خادم کا خط اس مضمون کا پہنچا کہ اس نے روم پر زبردست حملہ کیا۔ اور ان کے ذیہ حسواء مراء کو قیدی بنالیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔

اس سال مقتدر نے اپنے پانچ لڑکوں کے ختنے کر دیئے اور چھ لاکھ دینار خرچ کیے۔ ان سے پہلے اور ان کے ساتھ بھی بہت سے غریب میتم لڑکوں کے ختنے کرائے، اور ان کے ساتھ مال اور کپڑوں سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ان شاء اللہ یہ اچھا ثابت ہوگا۔ اسی سال مقتدر نے ابو علی بن الجحاص سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ دینار کا تیمتی برتن اور کپڑوں کے علاوہ زبردستی مطالبہ کیا۔ اسی سال خلیفہ نے اپنے لڑکوں کو کتب میں داخل کیا۔ جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا۔

اس سال وزیر نے بغداد کے بغدادیہ میں شفا خانہ بنوایا، اور اس کام کے لیے بے حساب مال خرچ کیا۔ اللہ سے اچھا بدله دے۔ اس سال بھی فضل ہائی نے لوگوں کو بخ کرایا۔ حج سے واپس لوٹنے والوں سے بدوؤں اور قرامطہ کے کچھ لوگوں نے دنوں راستوں پر ڈیکھتی کی۔ ان لوگوں سے بہت سماں وصول کیا۔ ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور دوسوں سے زائد آزاد عورتوں کو قیدی بنالیا۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔

## اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ حضرات ہیں:

### بشر بن نصر بن منصور:

ابوالقاسم الفہمی، الشافعی، مصری باشندوں میں سے اور غلام عرق کے نام سے مشہور تھے۔ عرق بادشاہ کے ایک خادم کا نام تھا، جس کے ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ ہی بشر بھی مصر آ کر مقیم ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔

### بدعہ جاریہ:

جو بہترین گانے والی تھی، خلفاء میں سے اس کے کسی چاہنے والے نے ایک لاکھ بیس ہزار دینار اس کے عوض اس کے آقا کو پیش کی تھی، مگر اس باندی نے اپنے اس آقا کی جدا یگی پسند نہیں کی تھی۔ اسی بناء پر اس کے آقا نے بھی اپنی موت کے وقت اسے آزاد کر دیا تھا۔ اور وہ اس سال تک زندہ رہی۔ مرتبے وقت تیمتی مال و دولت اتنی زیادہ چھوڑی، جتنی ایک مرد بھی نہیں چھوڑتا ہے۔

## القاضی ابوذر محمد بن عثمان الشافعی:

مصر کے پھر دمشق کے قاضی بنے۔ یہی وہ پہلے قاضی ہیں جنہوں نے شام میں مذہب شافعی کے مطابق فیصلے سنائے اور ان کے مذہب کی اشاعت کی۔ حالانکہ اس کے قبل شام والے امام اوزاعیؑ کی وفات سے سالی روایا تک ان کے ہی مذہب کے پیدا تھے۔ مگر اس کے باوجود بہت سے لوگ اوزاعیؑ کے مسلک کے ہی مانے والے باقی رہے۔ اور ان کے مسلک کو نہیں چھوڑا۔ یہ شفہ عادل اور قاضی القضاۃ میں سے تھے۔ اصلًا یہ اہل کتاب یعنی یہودی تھے، پھر اسلام لا کر بڑے سے بڑے مرتبہ تک پہنچ گئے۔ ہم نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں کیا ہے۔

## واقعات — ۳۰۲

اس سال مقتدر بالله نے حریم شریفین کے لیے بہت مال اور جایزاد وقف کر دی۔ قاضیوں اور اعلیٰ حکام کو بلا کراپنے وقف نامہ کا گواہ بنادیا۔ اس سال ان بدوؤں کی ایک جماعت گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کی گئی، جنہوں نے حاجیوں پر ظلم کیا تھا۔ مگر عوام ان کی زیادتوں کے نوٹر اپنے اوپر قابو نہ پاسکے، اور ان کو قتل کر دیا۔ بعض لوگوں کو پکڑ کر مختلف سزا میں دین، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کی توہین کی تھی۔ اس نال بنداد کے بڑھوں کے بازار میں زبردست آگ لگ گئی تھی، جس سے پورا بازار جل گیا تھا۔ اس سال خلیفہ مقتدر تیرہ دن بیمار پڑا۔ جبکہ پوری مدتِ خلافت میں اس سے پہلے بھی یہاں نہیں پڑا تھا۔

اس سال فضل الہاشی نے لوگوں کو حج کرایا۔ اس سال وزیر کوچاج کے سلسلہ میں جب قرامطہ کی طرف سے خطروہ محوس ہوا تو اس نے ان لوگوں سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ نہیں ایک طرف مشغول رکھے۔ خبرنویسوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس پر تہمت لگائی۔ لیکن بعد میں جب حقیقت حال معلوم ہو گئی زبان کے نزدیک اس کی عزت بہت بڑھ گئی۔

## اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں ان حضرات کی وفات ہوئی:

النسائی احمد بن علی:

بن شعیب بن علی بن سنان بن بحرین دینار، ابو عبد الرحمن النسائی جن کی کتاب السنن مشہور ہے۔ اپنے زمانہ کے امام اور اپنے ہمصریوں اور ہم مسلک لوگوں اور اپنے زمانہ کے تمام فضلاء میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ دور دور علاقوں کا سفر کیا۔ نماز حدیث میں مشغول ہوئے اور ماہرین اماموں اور اپنے ان مشائخ کے ساتھ جن سے دو بدو روایت کی، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم نے ان سب کا تذکرہ اپنی کتاب التکمیل میں کیا ہے۔ اور وہیں ان کے حالات بھی لکھے ہیں۔ ان سے بھی بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ انہوں نے پہلے ایک کتاب السنن الکبیر جمع کی، پھر بارہاں سے مختصر احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ خود مجھے بھی ان کے سنن کا اتفاق ہوا ہے۔

انہوں نے اپنی تصنیف میں حفظ، سمجھ کی پختگی، سچائی، ایمانداری، علم اور عرفان سب کا مظاہرہ کیا ہے۔

حاکم نے دارقطنی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ حدیث سے ان کے زمانہ میں جتنے بھی تعلق رکھتے تھے ان میں ابو عبد الرزمن النسائی سب سے بڑے ہوتے تھے۔ وہ اپنی کتاب "الصحيح" کہتے تھے۔

ابو علی الحافظ نے کہا ہے کہ مسلم بن الحجاج نے اپنی کتاب کے لیے جتنی شرطیں مقرر کی تھیں، ان سے بھی زیادہ شرطیں النسائی نے مقرر کی ہیں، اور یہ کہ یہ مسلمانوں کے امام تھے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ بلا مقابلہ علم حدیث کے امام تھے۔

ابوالحسین محمد بن مظفر الحافظ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مصر والے ان کی افضلیت اور امامت کا اعتراف کرتے ہیں، اور شب و روز زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور حج اور جہاد پر ان کی مدعاومت کرتے رہنے کی کوشش میں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسروں نے کہا ہے کہ یہ امام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ ان کی چار بیویاں اور دو باندیاں تھیں۔ انہیں جماع کی بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی، اچھی صورت اور بارونی چہرہ تھا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ باری مقرر کرنے میں جس طرح آزاد عورتوں کے لیے باری کا خیال رکھتے تھے باندیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی خیال رکھتے تھے۔

دارقطنی نے کہا ہے کہ ابو بکر بن الحداد نے بہت زیادہ احادیث سنی تھیں لیکن نسائی کے سوا کسی اور سے روایت نہیں کرتے تھے۔ کہا کرتے کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان اسی کو جست بنا نے پر راضی ہوں۔

ابن یونس نے کہا ہے کہ نسائی رحمہ اللہ حدیث کے امام شافعی ثبت اور حافظ بھی تھے یہ مصر سے سن تیرہ سو دو و ہجری میں نکلے تھے۔

ابن عدی نے کہا ہے کہ میں نے منصور فقيہ اور احمد بن محمد بن سلامہ اٹھادی دونوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو عبد الرحمن النسائی مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے، اسی طرح ایک سے زائد لوگوں نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اور ان کی فضیلت اور مرتبہ میں سب سے بڑھ جانے کی گواہی دی ہے۔ حفص شہر کے حاکم بنائے گئے۔ یہ بات میں نے اپنے شیخ مزی سے ان کے پارے میں سنی ہے کہ انہوں نے طبرانی سے جسے انہوں نے اپنی کتاب مجمع اوسط میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم سے احمد بن شعیب جو کہ حفص کے حاکم تھے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی چار بیویاں تھیں۔ خود انہائی حسین تھے۔ قندیل کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، یہ روزا نہ ایک مرغ کھاتے اور کشش کا ملاں پاک رس پیتے تھے۔

ان کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی طرف شیعی ہونے کی نسبت کی جاتی ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ مشق پہنچ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت معاویہ بن ابی حیان کے کچھ فضائل سنائیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا معاویہ بن ابی حیان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک سرا ایک سر کے بدله لے جائیں۔ کہا: اس کے بعد بھی ان کے فضائل بیان کرنے ہوں گے، یہ سن کر لوگ ان کی طرف بڑھے اور ان کی خصیتیں میں ٹوکریں مارنے لگے یہاں تک کہ مارتے ہوئے انہیں جامع مسجد سے باہر کر دیا گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر مکہ کر مردہ پہنچ گئے اور وہیں اس سال کے آخر میں وفات پائی۔ پھر وہیں قبر بھی

دیگنی

اسی طرح کا واقعہ حاکم نے محمد بن اسحاق الاصبهانی سے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے بیان کیا ہے۔ اور دارقطنی نے کہا ہے کہ مسرے علاقہ کے اپنے زمانہ میں تمام مشائخ سے زیادہ فقیہ تھے۔ اور ان بھنوں میں احادیث کے انہوں صحیح کو سقیم سے بہت زیاد پہچانے والے تھے۔ اسی طرح محمد بن کوہنی بہت پہچانتے تھے۔

جب وہ عزت کے اس مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا اور ملہ تک نکال باہر کر دیا اور ان سے حضرت معاویہ بن ابی شعده کے فضائل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو یہ خاموش ہو گئے۔ اس بناء پر لوگوں نے انہیں جامع مسجد کے اندر مارا۔ تب انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دو۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیئے گئے حالانکہ وہ اس وقت بیمار بھی تھے، کچھ دنوں بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اسی طرح یہ مقتول اور شہید ہوئے۔ دوسری فضیلیتیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی تھیں، ان کے ساتھ آخری عمر میں شہادت کی فضیلیت کے بھی مالک ہو گئے۔ سن تین سو تین بھری میں وفات پائی۔

حافظ ابو بکر محمد بن عبد الغنی ہی نظر نے ان کے مقید کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اور ان کی تحریر اسی طرح ابو عامر محمد بن سعدون الجدری الحافظ کی تحریر سے یہ بابت نقل کی گئی ہے کہ ابو عبد الرحمن النسائي نے فلسطین کے ایک شہر ملہ میں ۳۰۳ھ کے ماہ صفر کی تیروں سو موادر کے دن وفات پائی اور بیت المقدس میں دفن کیے گئے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسی سال ماہ شعبان میں وفات پائی ہے۔ اور انہوں نے الخصائص نام کی کتاب، جو حضرت علی بن ابی طالب بیٹہ کے فضائل میں ہے، محض اس لیے تصنیف کی تھی کہ یہ جب سن تین سو چودہ بھری میں دمشق پہنچ تو وہاں کے باشندوں کو حضرت علی بن ابی طالب سے نفرت کرتے دیکھا اور وہیں ان لوگوں نے حضرت معاویہ بن ابی شعده کے فضائل کے بارے میں دریافت کیا تو وہ جواب دیا جس کا ابھی ذکر کیا جاچکا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے ان کی خصیتیں میں ٹھوکریں اتنی ماریں کہ بالآخر اس سے وفات پا گئے۔

ایسا ہی ابن یونس اور ابو جعفر طحاویٰ نے ذکر کیا ہے کہ اسی سال ماہ صفر میں فلسطین میں رہتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ ان کی پیدائش تقریباً سن دو سو چودہ یا پندرہ بھری میں ہوئی۔ اس لحاظ سے ان کی کل عمر اٹھاسی برس ہوئی۔

### احسن بن سفیان:

ابن عامر بن عبد العزیز بن العمآن بن عطاء ابو العباس الشیبانی النسوي، خراسان کے محدث تھے۔ ان کے پاس حدیث اور فقہ سیکھنے کے لیے لوگ جماعت بندی کے ساتھ اوپنیوں پر سوار ہو کر ڈور رواز سے آیا کرتے تھے، انہوں نے خود بھی دور رواز جگہوں کا سفر کیا اور ابوثور سے علم فقہ حاصل کیا۔ بعد میں ان کے ہی مذہب کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ علم ادب العصر بن شمیل کے شاگردوں سے سیکھا ہے۔ لوگ ان کے پاس خراسان سے آیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ علم حدیث کے سیکھنے کو جب یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مصر میں موجود تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ پورے ساتھی تین دنوں تک بالکل بھوکے رہے، کھانے کو کوئی چیز انہیں میر نہیں ہوئی۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا سامان نہ تھا جسے فروخت کر کے اپنی

غدائي ضرورت پوری کرتے، یہاں تک کہ اس تنگی نے انہیں لوگوں کے سامنے دست دراز کرنے پر مجبور کرنا چاہا۔ لیکن ان کی طبیعت نے اس سے انکار کیا اور غیرت نے لکارا، اور حقیقی طور پر نہ مانگنے کا مہد کر لیا، لیکن ضرورت انہیں مجبور کرتی رہی۔ بالآخر اس بات پر یہ آمادہ ہوئے کہ قرآن اندازی کر کے کوئی ایک شخص اس تکلیف دہ کام کے لیے آگے ہوئے چنا پھر انہی میں سفیان کے نام قرعہ فال لکا، اب انہوں نے ان لوگوں سے کنارے ہو کر جس مسجد میں یہ موجود تھے، اسی کے ایک کنارے جا کر دور کافت بہت طویل نماز پڑھی اور اللہ عزوجل کے دربار میں بہت زیادہ گریدہ وزاری کی اور اس کے اماء حسنی کو واسطہ بنا کر اس سے مطلب برآری کی درخواست کی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، مسجد میں ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو خوبصورت اور بہت اچھی بیعت اور شکل و صورت والا تھا۔ پوچھنے لگا کہ حسن بن سفیان کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں موجود ہوں۔ تب اس نے کہا کہ امیر طولون نے آپ حضرات کو سلام کہلوا�ا ہے اور خود حاضر نہ ہونے کی معافی چاہی اور یہ سود بینا آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھیجے ہیں۔ تب ہم نے اس سے کہا کہ آخر انہیں اس بات پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج اسے تھا سونے کی خواہش ہوئی اور وہ سونے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہوا میں کوئی گھوڑ سوار اڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آتے ہی اس کے کرہ میں وہ داخل ہو گیا اور نیزہ کا کنار اس کی کوکھ سے چھو دیا۔ اور اس نے کہا کہ تم ابھی فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبرلو کیوں کہہ وہ لوگ فلاں مسجد میں تین دن سے بالکل بھوکے ہیں۔

تب اس امیر نے اس سوار سے پوچھا کہ آخر اپنے کوون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جنت کا دار و غہ ہوں۔ اس گفتگو کے بعد وہ امیر جست پٹ اٹھا، اس حال میں کہ اس کے سر میں سخت تکلیف ہو رہی تھی اور فوراً آپ لوگوں کے اخراجات کے لیے یہ رقم بھیجی ہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی ان کی ملاقات کو آیا، اور اس جگہ کے آس پاس کے علاقوں کو خرید کر طالبان حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اسے بہتر بدلہ دے۔

حسن بن سفیان اپنے فن کے اماموں، شہسواروں اور حفاظ میں سے تھے، ان کے پاس حفاظ حدیث کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی تھی، جن میں ابن جریر الطبری وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھیں، اور ان کی علمی قابلیت کا اندازہ کرنے کے لیے احادیث اور ان کی سندوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ لیکن انہوں نے ہر ایک حدیث کو اس کی اصل سند سے ملا کر پڑھ کر سب کی صحیح کردی، اس وقت ان کی عمر ستر برس کی ہو چکی تھی۔ اس ضعیفی کی عمر میں بھی حدیث کو یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ ان سے ان کی مردی حدیث سے کوئی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ لکھتے بتایا ہے کہ ناموں میں نقطوں کے الٹ پلٹ سے کتنا فرق ہو جاتا ہے، مثلاً العبسی محدث کوئی ہیں اور العبشی بصری ہیں اور العنسی مصری ہیں۔

### رویم بن احمد:

یوں بھی کہا گیا ہے کہ ابن محمد بن ریزید، ابو الحسن اور ابو محمد بھی کہا گیا ہے، صوفیوں کے ایک بڑے امام تھے، قرآن اور اس کے معانی کے بھی بڑے عالم تھے۔ فتنہ میں داؤد بن علی الظاہری کے مسلک پر عامل تھے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ روایم چالیس سال تک دنیا کی محبت کو چھیائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس برس تک صوفی کی زندگی گزاری، لیکن اسماعیل بن اسحاق جب بقداد کے قاضی کے عہدہ پر مأمور ہوئے تو انہوں نے اپنے دروازہ پر محافظت بخدا دیا جس کے بعد انہوں نے صوفیوں کی سورت ترک کر کے ریشمی اور دوسرے قیمتی بیاس اختیار کر لیے اور سواری پر خوار ہوئے طلاق کھانے کھائے اور ہائشی مکانات بھی بنائے۔

### زہیر بن صالح بن الامام احمد بن حنبل:

انہوں نے اپنے والد سے اور ان سے ابو بکر احمد بن سليمان التجاد نے روایت کی ہے۔ ثقہ تھے جوانی کی عمر میں وفات پائی جیسا کہ دارقطنی نے کہا ہے۔

### ابوالعلی الجبائی:

جو معززہ کے شیخ تھے ان کا نام محمد بن عبد الوہاب ابوعلی الجبائی ہے۔ ان کے زمانہ میں اعتزال کرنے والی جماعت کے امام تھے۔ ابوالحسن الاشعربی نے بھی ان کا طریقہ اختیار کیا تھا، مگر بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ جبائی کی ایک بہت مطول تفسیر بھی ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں اور اشعری نے ان باقتوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”گویا قرآن ان جوابوں کی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔“

ان کی پیدائش سن و سو چینیس میں اور وفات ۷۹۱ روایت میں ہوئی۔

### ابوالحسن بن بسام الشاعر:

ان کا نام علی بن احمد بن منصور بن نصر بن الباام البسامی ہے۔ لوگوں کو فی البدیہہ بھوکرنے میں بر تیز طراز شاعر تھے انہوں نے کسی کو بھی بھوکیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے باپ اور اپنی ماں امامہ بنت حمدون اللہ یہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔

ابن خلکان نے ان کے اشعار میں سے بہت سے نقل کیے ہیں۔ ان میں سے وہ اشعار جن میں المتوكل کے حسن بن علی کی قبر کو بر باد کرنے اور اس پر کھیتی کر کے ان کے نام و نشان مٹا دینے کا حکم دیا تھا یہ ہیں:

۱۔ تَالِلَهِ إِنَّكَ أَنْتَ أَمِيَةٌ قَدْ أَتَتْ قتل ابن بنت نبیہا مظلوماً

بترجمہ: اللہ کی قسم! اگر امیہ نے ایک نبی کے نواسے کے قتل کا ظلم ارتکاب کر لیا ہے۔

۲۔ فَلَقَدْ أَتَاهُ بَنُو اِبْرَيْهِ بِمَثْلِهِ هَذَا الْعَمَرُوكَ قَبْرَهُ مَهْدُورًا

بترجمہ: تو تیری زندگی کی قسم! اس کے باپ کی اولاد نے بھی اسی قسم کی حرکت کی کہ اس کی قبر کو ملیا میٹ کر دیا۔

۳۔ اسْفَوْا عَلَى أَنْ لَا يَكُونُوا اشَارَكُوا فِي قَتْلِهِ فَتَبَعُوهُ رَمِيمًا

بترجمہ: ان لوگوں کو اس بات کا سخت افسوس تھا کہ ان کے قتل میں یہ کیوں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے ان کی بوسیدہ ہڈی کے درپے ہو کر بدله لیا۔

## واقعات — ۳۰۳

اس سال مقتدر نے اپنے وزیر ابو الحسن علی بن عبیسی بن الجراح کو معزول کر دیا؛ جس کی وجہ وہ سخت نفرت تھی جو اس کے اور ام موسیٰ القبرمانہ کے درمیان ہو گئی تھی۔ اس بنا پر وزیر نے خود مطالبہ کیا کہ عہدہ وزارت سے اسے سکدوش کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے معزول کر دیا گیا۔ لیکن اس کی جانبدار کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس طرح پانچ برس تک معزول رہنے کے بعد ابو الحسن بن الفرات نے دوبارہ مطالبہ کیا تو اسے سابق عہدہ پر بحال کر دیا گیا اس خوشی میں خلیفہ نے اسے سات خطیں پیش کیں۔ اور تین لاکھ درہم کے علاوہ کپڑوں کے دس بکس اور گھوڑے، خچر، اونٹ کے علاوہ اور بھی دوسری بہت سی چیزیں دیں۔ اور قصر شاہی کے قریب اس کی رہائش کے لیے خاص مکان بھی دیا۔ اور اس رات مہماں نوازی کا خاص انتظام کیا، جس میں چالیس ہزار روپل (تقریباً پانچ سو من) برف کا استعمال ہوا۔

اس سال کے وسط میں بغداد میں یہ جبراہی بھی گئی کہ ایک حیوان جسے زرنب کہا جاتا ہے وہ رات کو نہر میں چکر لگاتا ہے اور بچوں کو پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے آدمیوں پر حملہ کرنے کے بھی ہاتھ کو کبھی عورتوں کے سینے کو کاٹ کر لے جاتا ہے۔ اس ذر سے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر تیل وغیرہ کے ھوکھے برتن پکڑ کر اسے بجا بجا کر اس جانور کو اپنے پاس آنے سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ پورے بغداد میں رات کے وقت پورب سے پچھم تمام چھبوٹیں میں بالکل تالے لگ جاتے۔ اور لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کھجور کی شاخوں کی چھوٹی چھوٹی سی جھونپڑیاں مار کر ان میں بچوں کو رکھتے۔ اس ہنگامہ آرائی کو چوروں نے بہت غنیمت موقع سمجھا، اس لیے چوری اور لوٹ مار میں زیادتی ہو گئی۔ اس فتنہ کو دبانے کے لیے خلیفہ نے حکم دیا کہ دریائی کتوں کو پکڑ پکڑ کر پل پر پھانی دے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ یہ سب دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے لوگوں کا ذرختم ہو گیا۔ پھر وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئے اور پورا سکون ہو گیا۔

اس سال بغداد کے شفاخانوں کا ذمہ دار ثابت بن سنان طبیب کو بنایا گیا۔ وہ شفاخانے تعداد میں پانچ تھے اور یہ طبیب ان کا گمراہ اعلیٰ تھا۔

اس سال خراسان سے ایک خط آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں لوگوں کو شہداء کی قبریں ملی ہیں جو کہ سن ستر بھری میں شہید کیے گئے تھے۔ ان سبھوں کے نام ایک کاغذ پر ان کے کانوں سے بند ہے ہوئے ہیں، اور ان کے بدن بالکل تازہ تازہ دکھائی دیتے ہیں۔

## اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یوگ ہیں:

لبید بن محمد بن احمد:

بن الحیثم بن صالح بن عبد اللہ بن الحسین بن علقمہ بن نعیم بن عطاء و بن حاجب، ابو الحسن الحسینی، جن کا لقب فروجہ تھا۔  
بغداد میں آکر حدیثیں بیان کیں، یہ ثقہ اور حافظ حدیث تھے۔

یوسف بن الحسین بن علی:

ابو یعقوب الرازی، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے احادیث سنیں، اور ذوالنون کی صحبت میں رہے۔ انہیں یہ بات کسی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یہ ذوالنون اللہ تعالیٰ کے "اسم اعظم" کو جانتے ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں رہے تاکہ ان سے یہ علم حاصل کریں۔

ان کا خود اپنا بیان ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کیونکہ میری داروغی لانی، اور میرے ساتھ ایک لانی چھاگل بھی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر ان ذوالنون سے مناظرہ کیا، اور انہیں خاموش کر دیا۔ تب میں نے اس سے کہا، تم ان شیخ کو چھوڑ کر مجھ سے مناظرہ کرو۔ چنانچہ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے مناظرہ شروع کر دیا، اور میں نے اسے خاموش کر دیا۔ یہ دیکھ کر ذوالنون اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے تشریف لائے۔ حالانکہ وہ بزرگ اور میں ایک نوجوان شخص تھا، آ کر مجھ سے بہت عذرخواہی کی۔ اس دفعہ کے بعد بھی میں ایک سال تک ان کی خدمت میں رہا۔ پھر میں نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تو اب وہ ناراض نہیں ہوئے اور مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اسی طرح پھر چھ میں گز رگئے، تب انہوں نے ایک طبق لا کر مجھے دیا جو ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اوپر دو مال بھی پڑا ہوا تھا۔ اور مجھ سے کہا، جاؤ، یہ طبق میرے فلاں آدمی کو دے کر آؤ۔

کہتے ہیں کہ رستہ میں چلتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ کون ہی چیز ہے جو میرے ہاتھ سے ٹھیکی جا رہی ہے۔ جب میں پل پر پہنچ گیا تو اسے کھول کر میں نے دیکھنا چاہا، اچانک اس میں سے ایک چوہیا پھدک کر بھاگ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ اور میں نے دل میں کہا کہ ذوالنون نے تو مجھ سے مذاق کیا ہے۔ اب میں آگ بکولہ ہو کر ان کے پاس واپس آیا تو وہ کہنے لگے تھہرا ابرا ہوئیں نے تو تھہرا امتحان لیا تھا۔ اب جبکہ تم ایک چوہیا کی حفاظت نہ کر سکے تو بدرجہ اولی اسم اعظم کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اب تم میرے پاس سے نکل باؤ۔ آئندہ تم پر میری نظر نہ پڑے۔

ان ابو الحسین الرازی کو ایک مرتبہ ان کی دفاتر کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، یا کہ اللہ یا کہ نبی میرے صرف اس جملہ کی بناء پر مغفرت کر دی ہے جو میں نے اپنی سوت کے قریب کہا تھا کہ اللہ میں نے لوگوں کو ایک بات کی تصحیح کی ہے اور میں نے اپنے نفس کے ساتھ ایک کام میں خیانت کی ہے اس لیے برے کام کی خیانت پر میری تصحیح کے بعد میں مجھے واپس کر دے۔

### یکوٹ بن المزروع بن یکوٹ

ابو بکر العبدی جو قیلہ عبد القیس سے ہیں، یہی ثوری بھی کہلاتے ہیں اور حافظ کے یہ بھانجہ بھی ہیں، بغداد میں آ کر ابو عثمان المازنی، ابو حاتم البختانی، ابو الفضل الرباشی سے حدیثیں حاصل کیں۔ یہ اخبار آداب اور ملاحظت میں انہوں نے نام پیدا کیا تھا۔ اپنا نام یکوٹ بدل کر محمد رکھ لیا تھا، لیکن ان کی شہرت پہلے نام سے ہی باقی رہی۔ یہ جب کبھی کسی یہار کی عیادت کو جاتے اور دروازہ کھٹکھڑاتے، اور گھر والے ان سے پوچھتے کہ دروازہ پر کون ہے تو صرف ابن المزروع سے اپنا تعارف کرتے تاکہ گھر والے ان کے نام سے بد فائی نہ لیں۔



## واقعات — ۳۰۵

اس سال بادشاہ روم کا سفیر قیدیوں کے تابد لئے اور صلح کرنے کے سلسلہ میں آیا وہ بالکل نوجوان تھا اور اس کے ساتھ ان میں ایک بوڑھا شخص، اور بیس غلام بھی تھے۔ بغداد پہنچ کر اس نے یہاں انتہائی حیرت انگیز چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ اس طرح پر کر خلیفہ نے سارے لشکر اور لوگوں کو ایک جگہ مجمع ہونے کا حکم دیا تاکہ اس طرح ایسی چیزوں کا وہ مشاہدہ کر دے جن سے دشمنانِ اسلام کے دل میں ذریثہ جائے۔

چنانچہ اس نے سارے لشکر کو کٹھا کیا، جن کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی، جن میں سوار اور پیل بھی تھے۔ یہ تعداد ان فوجیوں کے مساواتھی جو سارے ملک اور اطراف و جوانب میں مامور تھی۔ یہ سب کے سب پورے تھیاروں کے ساتھ بچ ہوئے تھے۔ خلیفہ کے خاص غلاموں کی تعداد سات ہزار تھی جن میں چار ہزار سفید اور تین ہزار سیاہ تھے۔ یہ لوگ بھی انتہائی قیمتی لباسوں، اسلحہ اور زیوروں کے ساتھ مزین تھے۔ پھرہ دار بھی اس وقت سات سو تھے۔ دجلہ کے کنارے کے آبی پرندے اور دوسرے جانور زیریب اور کرمات وغیرہ بھی نمائش کے لیے کافی تعداد میں تھے۔

وہ سفیر جیسے ہی دارالخلافہ پہنچا، خوفزدہ ہو گیا۔ ان تیار بلوں کو دیکھ کر اسے سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اتنا زیادہ لاؤ لشکر صح دھج سامان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اندر جاتے ہوئے وہ جب دربان کے پاس سے گزر ا تو اس نے اسی کو خلیفہ سمجھ لیا۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ تو دربان ہے۔ آگے بڑھ کر وہ جب وزیر کے قریب پہنچا، تو اس کے شاندار لباس و پوشک اور صح دھج کو دیکھ کر اسے خلیفہ تصور کر لیا۔ اس وقت بھی اسے بتایا گیا کہ یہ وزیر ہے۔

دارالخلافہ کو اس شاندار طریقہ سے سجا یا گیا تھا کہ اس کی نظیر کبھی سنی نہیں گئی تھی، کیونکہ اس میں پر دے ہی تو تیس ہزار آٹھ تھے۔ جن میں ساڑھے دس ہزار پر دے سہرے کام کئے ہوئے تھے۔ اور اس میں بیس ہزار دوایسے فرش، بچائے گئے تھے، جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں بھی نہیں آئے تھے۔ اور وہ طرح کے اس میں وحشی جانور بھی تھے۔ ایک طرح کے تو وہ جانور تھے جو انسانوں سے مانوس ہو کر لوگوں کے ہاتھوں سے اطمینان سے کھاپی لیتے تھے اور ایک سو خاص درندے وحشی جانور تھے۔ پھر اسے مصنوعی باغ میں لے جایا گیا۔ وہ زمین کا ایک ایسا حصہ تھا، جس میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ اس پانی کے پیچ میں سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے درخت تھے، جن میں انحرافہ شاخیں تھیں۔ ان میں سے اکثر سونے کی تھیں، اور ان شاخوں میں گچھے اور سونے، چاندی کے رنگیں پتے اور موٹی اور یا قوت بھی لگے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سے پانی کے جھنڑے گرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی آواز نکل رہی تھی۔ اور جس طرح دوسرے درخت ہلتے ہیں یہ بھی پورے کے پورے مل رہے تھے، جس سے دیکھنے والوں کو ایک خاص قسم کی دہشت پیدا ہوتی تھی۔ اس کو اس جگہ پہنچایا گیا جس کا نام ان لوگوں نے فردوں رکھا تھا۔ اس

میں ایسے سترے اور اسے آلات موجود تھے، جن کی تعداد کی بہت اور حسن کی زیادتی کا بیان بھی موال سے اور اس کی چوکھوں پر انحصارہ ہزار سو نئے کے کام کی ہوئی زریں پڑی ہوئی تھیں۔

وہ شخص اس جگہ سے بھی گزرتا اس سے دہشت ہوتی اور اس کی آنکھیں پچھلی آنکھیں رہ جاتیں۔ اس طرح پڑتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچا جہاں خلیفہ المقتدر رضا ہوس کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جس پر دیباچ و رشم کے ایسے فرش پہنچے ہوئے تھے جن پر شہرے کام بنے ہوئے تھے، اور تخت کی وہنی جانب اور باکیں جانب سترہ تیتی جواہر کے تھے۔ ان میں کاہر گوہر ایسا چمدرار تھا، جس کی روشنی دن کی روشنی سے زائد تھی۔ ان میں کاہر ایک انمول اور اس کا خریدنا نامکن تھا۔ یہاں پہنچ کر اس سفیر اور اس کے ساتھیوں کو خلیفہ سے سوہا تھے کہ فاصلہ پر کھڑا کر دیا گیا۔ وزیر علی بن محمد بن الفرات خلیفہ کے پاس کھڑا تھا، اور ایک مترجم وزیر کے قریب تھا۔ وزیر اس مترجم سے مخاطب ہوتا اور مترجم اس سفیر اور اس کے ساتھی سے کہتا، جب ان کی گفتگو سے فراغت ہو گئی، تو خلیفہ نے ان لوگوں کو خلعت پہنایا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو پچاس پچاس سترق دیئے، جن میں سے ہر ایک میں پانچ کناروں کی سیر کرائی گئی، جہاں ہاتھی، زراؤ، رندے اور چیتے وغیرہ تھے۔ دجلہ کا ایک کنارہ دار الخلافہ کے اندر ورنی حصہ میں بھی تھا۔ یہ سرگزشت اس سال کے انتہائی عجیب واقعہ میں سے ہے۔ اس سال الفضل الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## اس سال وفات پانے والوں میں مشہور لوگوں کے نام

اس سال وفات پانے والوں میں مشہور حضرات یہ ہیں:

محمد بن احمد ابو موسیٰ:

الخوی الکوفی، جو الحافظ کے نام سے مشہور ہے، چالیس برس تک شلب کی شاگردی میں رہے، اور ان کے حلقة میں ان کی قائم مقامی کی۔ غریب الحدیث، خلق الانسان، الوحش والبنات نامی کتاب میں تصنیف کیں۔ دیندار اور نیک تھے۔ ان سے ابو عمر الزائد نے روایت کی ہے۔

اس سال ماہِ ذوالحجہ میں بغداد میں وفات پائی، اور باب اتنین میں مدفن ہوئے۔

عبد اللہ بشرونی الحافظ، عمران بن مجاشع، ابو خلیفہ الفضل بن الحباب، قاسم بن زکریا بن یحییٰ المطر زامقری جوثقة اور شبت محمد شین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ابو کریب، سوید بن سعید سے روایت حاصل کی، ان سے الخلدی اور ابو الجعافی نے روایت کی ہے، اور بغداد میں وفات پائی ہے۔



## و اتفاقات — ۲۰۲

اس سال محرم کی پہلی تاریخ کو وہ شفاعة نامہ جسے خلیفہ المقدور کی محترم والدہ نے بنوایا تھا، اس کا باضابط افتتاح کیا گیا، اور سنان بن ثابت کو اس کا ذمہ دار بنا کر دوسرے حکماء خدام اور کارندے مقرر کیے گئے۔ اس کا ماہوار خرچ چھ سو روپیہ نار تھا، اور سنان ہی نے خلیفہ کے سامنے اس کے بنوانے کا اشارہ کیا تھا، جسے اس نے قبول کر لیا تھا، اور اس کا نام مقدوری رکھا گیا تھا۔ ان ہی دنوں صوانف کے امراء کی طرف سے رومنی شہروں کے قلعوں کے مفتوح ہونے کی مبارک خبریں پہنچیں۔

اس سال عوام کو دہلانے والی منحوس غلط خبر مقدور کی وفات کی ملی تو خلیفہ نے عوام کو دکھانے اور مطمئن کرنے کے لیے بڑے شکر کو لے کر روانہ ہوا اور شریا تک پہنچ کر باب العامد کے پاس سے وہاں کافی دری تک کھڑا رہ کر واپس آیا۔ اس طرح فتنہ دب گیا اور سکون ہو گیا۔

اسی سال مقدور نے حامد بن العباس کی وزارت کے عہدہ پر مأمور کیا اور اسے خلعت سے نواز۔ اور اپنی ذمہ داری سے اس سے کنارہ کیا اور اس کی خدمت گاری کے لیے چار سو خدام دیئے۔ کچھ دنوں تک وقت گزرا، لیکن جب ذمہ دار یوں کی ادائیگی میں اس سے عاجزی ظاہر ہونے لگی تو اس کی مدد نہ لیے علی بن عیسیٰ کو مقرر کر دیا، تاکہ اچھی طرح کام انجام دے سکے۔ یہ ابو علی بن مقلہ ان لوگوں میں سے تھا جو حامد بن العباس وزیر کے فرمانیں لکھا کرتے تھے۔ پھر پوری ذمہ داری علی بن عیسیٰ کو پرورد کر دی گئی۔ اس کے ایک سال بعد اسی کو مستقل طور پر وزیر بنادیا گیا۔

اسی سال مقدور کی والدہ فہرمانہ نے ہر جمعہ کو اس جگہ کھلی پکھری لگانے کا اعلان کیا، جہاں اس نے اپنی قبر پہلے سے بنو رکھتی تھی۔ تاکہ وہ ان مظالم اور شکایات کا انتظام کرے جو اس تک پہنچیں۔ اپنے وہ عام اجلاس کے وقت قاضیوں اور فقیہوں کو بھی موجود رکھتی تھی۔

اس سال بھی الفضل الہاشی نے لوگوں کو حج کرایا۔

### اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال وفات پانے والوں میں یہ حضرات ہیں:

ابراهیم بن الحارث:

ابوالقاسم انکلابی الشافعی، انہوں نے حارث بن مسکین وغیرہ سے احادیث سنیں۔ بہت نیک تھے۔ مذہب شافعی کے فقیہ تھے۔ تھائی اور خاموشی پسند کرتے تھے۔ اس سال ماہ شعبان میں وفات پائی۔

احمد بن الحسن:

سونی حدیث کے ان مشائخ میں سے ایک تھے جو زیادہ روایتیں کرنے والے اور زیادہ عمر بانے والے تھے۔

احمد بن عمر بن سرتیج:

ابوالعباس شیراز کے قاضی انہوں نے تقریباً پارسکتہ میں تصنیف کیں۔ شافعیہ کے اماموں میں سے ایک تھے۔ ان کا لقب البار الأشہب تھا۔ ابوالقاسم الانماطی اور اصحاب شافعی جیسے مزنی وغیرہ سے علم فتح حاصل کیا اور ان سے سامنی دنیا میں مذہب شافعی پھیل گیا۔ ہم نے ان کے حالات کا ذکر ”الطبقات“ میں کیا ہے۔ اس سال ماہ جمادی الاولی میں ستادون سال اور چھ مہینے کی عمر پا کروقات پائی۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ سوموار کے دن پھیسویں ربیع الاول کو ستادون برس کی عمر پا کروقات پائی ہے۔ ان کی قبر کی زیارت کو لوگ آتے رہتے ہیں۔

احمد بن عسکر:

ابو عبد اللہ الجلاعند بغدادی۔ شام میں سکونت اختیار کی۔ ابوتراب الخسی اور ذوالنون مصری کی شاگردی میں رہے۔ ابو عسکر نے ان کی زبانی ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس وقت جبکہ میں جوان تھا، میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اللہ عز وجل کو ہبہ کر دیں، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے ہبہ کیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا اور زمانہ دراز تک غائب رہا۔ آخر ایک رات عشاء کے وقت جبکہ زوردار بارش ہو رہی تھی، اپنے شہر میں پہنچ کر میں نے اپنے گھر کے دروازہ کو کھٹکھٹایا، تو ان دونوں نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں آپ لوگوں کا فلاں لڑکا ہوں۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ ہاں ہمارا ایک لڑکا تھا جسے ہم نے اللہ پاک کو ہبہ کر دیا ہے اور چونکہ ہم لوگ عربی میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ بالآخر انہوں نے ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولا۔

احسن بن یوسف:

بن اسماعیل بن حماد بن زید، قاضی ابو یعلی، جو کہ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کے بھائی تھے، ان کو اردن کے قاضی کے عہدہ پر مامور کیا گیا۔

عبد اللہ بن احمد:

بن موی بن زیاد ابو محمد الجواہیقی القاضی، جو کہ ابدان الہوازی سے مشہور ہیں۔ سن دو سو سو لہجہ میں ان کی ولادت ہوئی، حافظ اور ثبت محدثین میں سے ایک تھے، ایک لاکھ احادیث یاد کی تھیں۔ شائخ اور ابوبکرا کشا کیا تھا۔ انہوں نے بد بہ کامل بن طلحہ وغیرہ سے روایت حدیث کی اور ان سے ابن صاعد اور محاطی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

محمد بن باہشاز:

ابو عبد اللہ البصری بغداد میں رہے اور وہیں عبد اللہ بن معاذ العبری اور بشیر بن معاذ العقدی وغیرہماستے روایت حدیث

کی۔ ان کی مردیات میں غریب اور مکبر احادیث بھی ہیں، اسی سال باہ شمال میں وفات یافتی۔

محمد بن الحسین:

بن شہر یا ابو بدر القطان اسلامؑ کے تھے۔ فلاں اور بشر بن معاذؑ روایت کی ہے اور ان سے ابو بدر الشافعی اور تمدن بن عمر الجعافی نے روایت کی ہے۔ ابن ناجیہ نے ان کی تکمیل کی ہے اور دارقطنیؓ نے کہا، ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محمد بن خلف:

بن حیان بن صدقہ بن زید ابو بکر الفصی القاضی جو کجع کے نام سے مشہور تھے۔ عالم، فاضل، اور لوگوں کے حالات کے عالم، فقیہ، قاری، اور نحوی بھی تھے۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں جن کی کتاب عدد آمی القرآن بھی ہے۔ اہواز کے قاضی تھے۔ حسن بن عرفہ اور زیر بن بکار وغیرہ سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور ان سے احمد بن کامل اور ابو علی الصواف وغیرہ مسلمانے روایت کی ہے۔ ان کے عمدہ اشعار میں سے یہ ہیں:

۱۔ اذا ماغدت طلابة العلم تتبعني من العلم يوما ما يخلد في الكتب

تہذیب: جب طالبان علم ایسے علم کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں جو ہمیشہ کتابوں میں باقی رہ جائے۔

۲۔ غدوت بشمير و جدا عليهم و محبدني اذنى و دفترهما قلبى

تہذیب: تو میں بھی اپنے دامن سمیٹتے ہوئے پوری کوشش کے ساتھ جاتا ہوں، اس انداز سے کہ میری دوست میرے کان اور اس کار جسٹر میرا قلب ہوتا ہے۔

منصور بن اسماعیل:

بن عمر ابو الحسن الفقیر الشافعیہ کے اماموں میں سے ایک تھے۔ اپنے مدھب سے متعلق کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتاب الشراحت بھی ہے۔

ابن الجوزیؓ نے کہا ہے کہ یہ اپنے اشعار میں اپنی شیعیت کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے ایک فوجی تھے، مگر بعد میں آنکھ خراب ہو گئی، اس لیے رملہ میں رہنے لگے، پھر مصر آگئے اور بیہیں وفات پائی۔

ابونصر الحب:

صوفیہ کے مشائخ میں سے ایک تھے۔ ان میں شرافت، سخاوت اور سرووت کا مادہ بھر پور تھا۔ ایک سائل کے پاس سے گزرے جو کہ رہا تھا، آپ کے پاس میرے لیے سفارشی رسول اللہ ﷺ ہیں۔ سنتے ہی انہوں نے اپنی نصف تہذیب چاڑ کر اسے دے دی۔ پھر دو قدم چل کر لوٹے اور وہ دوسرا لگڑا بھی اسے دے دیا اور کہا یہ حقیر شے بھی لے لو۔



## واقعات — ۲۰۳ھ

اس سال کرخ کے علاقہ بالقائین میں بھی انک آگ لگی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر کئے اور اس سال ماہ ربیع الآخر میں کرخ کے ڈیرہ سو قیدیوں کو لے آ کر آئے جنہیں امیر بدر الحمانی نے آزاد کرایا تھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک بہت پچکدار اور بہت بڑا تارہ ٹوٹ کر گرا، جس کے تین نکلوے ہو گئے تھے۔ اور اس کے نکلوے ہونے کے بعد زبردست دل دہلانے والی کڑک سنائی دی۔ حالانکہ بدلتی وغیرہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔

اور ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال قرامط نے بصرہ میں بزور داخل ہو کر زبردست فساد برپا کیا۔

اس سال حامد بن العباس کو وزارت سے سبکدوش کر کے ابو الحسن بن الفرات کو تیسری بار وزارت پیش کی گئی۔ اس سال عوام قید خانوں کے دروازے توڑ کر تمام قیدیوں کو باہر نکال لائے۔ لیکن پولیس نے فرد افراد اہر ایک کو پکڑ کر پھر جیل خانہ میں لوٹا دیا۔ اس سال امام موسیٰ قہرمانہ کے بھائی احمد بن العباس نے لوگوں کو حج کرایا۔

## اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن علی بن امثیلی:

ابو یعلی الموصی، مند مشہور کے جامع امام احمد بن حبلہ اور ان کے طبقہ کے لوگوں کے احادیث کی روایت کی۔ حافظ حدیث اور بہترین تصنیف کرنے والے۔ اپنی مردمیات میں عادل تھے۔ جن روایات کی تحدیث کرتے ان کو اچھی طرح محفوظ رکھتے تھے۔

اسحاق بن عبد اللہ:

بن ابراہیم بن عبد اللہ بن مسلمہ، ابو یعقوب البزار، الکوفی، طلب حدیث میں شام اور مصر کا سفر کیا۔ بہت سی احادیث جمع کیں، ایک مند کی تصنیف کی، بعد ادا کو اپنا وطن بنایا۔ محمد بن حنفیہ کے نزدیک یہ ثقات میں سے تھے۔ ابن المظفر المحافظ سے روایت کی ہے۔ بغداد تشریف لائے۔ اور ان سے حفاظ حدیث میں سے طبرانی اور ازادی وغیرہ مانے روایت کی ہے۔ ثقة حافظ اور عارف تھے۔ اسی سال حلب میں وفات پائی۔

ذکریاب بن یحییٰ الساجی:

الفقیہ الحمد بن سنت اور حدیث میں ابو الحسن الاشعربی کے شیخ تھے۔

علی بن سہل بن الازم:

ابو الحسن الاصبهانی پہلے تو یہ بہت زیادہ دنیادار تھے۔ مگر بعد میں زیادہ عالمی ہو گئے تھے مسلسل بھی کئی دنی کی محنتیں لھاتے تھے۔ اور کہا ترتیب تھے۔ اللہ عز وجل کے شوق نے مجھے لھانے یعنی سے غافل کر دیا ہے۔ کہا ترتیب تھے کہ لوگ بس طرح بیماریوں اور آفاتوں سے مرتے ہیں میں اس طرح نہیں مر دیں گا۔ وہ تو میں جب چاہوں گا اُسما مقبول ہو جائے گی۔ پنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ وہ کسی جماعت میں بیٹھے تھے اچانک لبیک کہا اور وفات پا گئے۔

محمد بن ہارون:

الرویانی۔ مند کے جامع۔ ابن دریج الغیری۔ ابیثم بن خلف۔

## واقعات — ۳۰۸

بغداد میں اس سال غلہ کی سخت گرائی ہوئی جس کی وجہ سے دہان کے عوام تڑپنے لگے اور حامد بن العباس کے گھر کا محاصرہ کر لیا کیونکہ اس نے غلہ کا خلیفہ سے ٹھیکار لیا تھا اور اس بناء پر وہاں اس قدر گرائی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جمعہ کے دن خطیب جمعہ کے خلاف بھی ہنگامہ آرائی کر کے اسے خطبہ دینے سے روک دیا، منبر کو بھی توڑ دیا پولیس والوں کو قتل کیا، دریا کے بہت سے پلوں کو توڑ دیا۔ اس لیے خلیفہ نے عوام کے قتل کا حکم دیا۔ پھر حامد بن العباس سے کیے ہوئے ٹھیکیداری کے معاملے کو منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں گرائی میں کمی آ گئی۔ اور کرنل غلبہ پاچ دنیا سے بھی کم میں فروخت ہونے لگا۔ تب لوگوں کے دل خوش ہوئے اور ان میں سکون آ گیا۔

اس سال ماہ نوموز (جولائی) کی سخت گرمی میں اچانک اتنی زیادہ خشک پڑنے لگی کہ لوگ چھتوں سے اتر گئے اور اپنی لحافیں اور گرم کپڑے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی سال سردی کے موسم میں لوگوں کو بلغم نکلنے کا مرض ہو گیا کیونکہ اس موقع پر شدت کی سردی بڑھ گئی تھی۔ یہاں تک کہ خند سے کھجروں کے باغات کو بھی سخت نقصان پہنچا۔ اس سال احمد بن العباس قہر مانہ کے بھائی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابراهیم بن سفیان الفقیہ:

صحیح مسلم کی روایت مسلم سے کی ہے۔

۱۔ ایک کڑ = ۱۲ وقت۔ ایک وقت = ۶۰ صاع۔ ایک صاع = تقریباً سائز ہے تین سیر۔

علی بن سہل بن الا زہر:

ابو الحسن الاصبهانی پہلے تو یہ بہت زیادہ دنیا دار تھے۔ مگر بعد میں زائدہ معاملہ ہو گئے تھے مسلسل آئندی دن آچکھیں لختات تھے۔ اور کہا کرتے تھے اللہ مزدھل کے شوق نے مجھے کھانے پینے سے نافل کر دیا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ لوگ جس طرح سیاریوں اور آفتوس سے مرتے ہیں میں اس طرح نبی مرسی مروں گا۔ وہ تو میں جب چاہوں گا دعا مقبول ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ وہ کسی جماعت میں بیٹھے تھا اچانک لبیک کہا اور وفات پا گئے۔

محمد بن ہارون:

الرویانی۔ مند کے جامع۔ ابن دریج العکبری۔ الہیثم بن خلف۔

## واقعات — ۳۰۸

بغداد میں اس سال غله کی سخت گرانی ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام تڑپنے لگے اور حامد بن العباس کے گھر کا محاصرہ کر لیا کیونکہ اس نے غله کا خلیفہ سے ٹھیکیداریا تھا، اور اس بناء پر وہاں اس قدر گرانی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جمعہ کے دن خطیب جمعہ کے خلاف بھی ہنگامہ آرائی کر کے اسے خطبہ دینے سے روک دیا، منیر کو بھی توڑ دیا، پولیس والوں کو قتل کیا، دریا کے بہت سے پلوں کو توڑ دیا۔ اس لیے خلیفہ نے عوام کے قتل کا حکم دیا۔ پھر حامد بن العباس سے کیے ہوئے ٹھیکیداری کے معاملے کو منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں گرانی میں کمی آگئی۔ اور کرن غله پاش دنیار سے بھی کم میں فروخت ہونے لگا۔ تب لوگوں کے دل خوش ہوئے، اور ان میں سکون آ گیا۔

اس سال ماہ نوموز (جو لائی) کی سخت گرانی میں اچانک اتنی زیادہ ٹھنڈک پڑنے لگی کہ لوگ بچتوں سے اتر گئے اور اپنی لفافیں اور گرم کپڑے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی سال سردی کے موسم میں لوگوں کو بلغم نکلنے کا مرض ہو گیا کیونکہ اس موقع پر شدت کی سردی بڑھ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ٹھنڈے بھجوروں کے باغات کو بھی سخت نقصان پہنچا۔ اس سال احمد بن العباس قہرمانہ کے بھائی نے لوگوں کو حج کرایا۔

**اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام**

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

**ابراهیم بن سفیان الفقیہ:**

صحیح مسلم کی روایت مسلم سے کی ہے۔

۱۔ ایک کڑ = ۱۲ اوقن۔ ایک وتن = ۶۰ صاع۔ ایک صاع = تقریباً سائز ہے تین سیر۔

## واقعات — یکمین حصہ

اس سال کرخ کے علاقہ بالقائمه میں بھی ایک آگ لگی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے اور اس سال ماہ ربیع الآخر میں کرخ کے ذیل ہو سو قیدیوں کو لے آ کر آئے جنہیں امیر بدر الحمامی نے آزاد کرایا تھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک بہت چکدار اور بہت بڑا تارہ نوٹ کر گرا، جس کے تین ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور اس کے ٹکڑے ہونے کے بعد زبردست دل دہلانے والی کڑک سنائی دی۔ حالانکہ بدلتی وغیرہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔

اور ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال قرامضہ نے بصرہ میں بزور داخل ہو کر زبردست فساد برپا کیا۔

اس سال حامد بن العباس کو وزارت سے سبکدوش کر کے ابو الحسن بن الفرات کو تیسری بار وزارت پیش کی گئی۔ اس سال عوام قید خانوں کے دروازے توڑ کر تمام نہ یوں کو باہر نکال لائے۔ لیکن پولیس نے فرد افراد اہر ایک کو پکڑ کر پھر جیل خانہ میں لوٹا دیا۔ اس سال ام موسیٰ قہرمانہ کے بھائی احمد بن العباس نے لوگوں کو حج کرایا۔

## اس سال وفات پانے والے مشہور لوگوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن علی بن امیثی:

ابو یعلی الموصی، مند مشہور کے جامع امام احمد بن خبل اور ان کے طبقہ کے لوگوں کے احادیث کی روایت کی۔ حافظ حدیث اور بہترین تصنیف کرنے والے۔ اپنی مردویات میں عادل تھے۔ جن روایات کی تحدیث کرتے ان کو اچھی طرح محفوظ رکھتے تھے۔

اسحاق بن عبد اللہ:

بن ابراہیم بن عبد اللہ بن مسلمہ، ابو یعقوب البزار، الکوفی، طلب حدیث میں شام اور مصر کا سفر کیا۔ بہت سی احادیث جمع کیں، ایک مند کی تصنیف کی، بغداد کو اپنا وطن بنایا۔ محدثین کے نزدیک یہ ثقات میں سے تھے۔ ابن المظفر الحافظ سے روایت کی ہے۔ بغداد تشریف لائے۔ اور ان سے حفاظ حدیث میں سے طبرانی اور ازادی وغیرہ مانے روایت کی ہے۔ ثقة حافظ اور عارف تھے۔ اسی سال حلب میں وفات پائی۔

زکریا بن یحییٰ الساجی:

الفقیہ الحمدت، سنت اور حدیث میں ابو الحسن الاشعري کے شیخ تھے۔

احمد بن الصلت:

بن المغلس ابو العباس الحنفی، برواحدیت کے وضع کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ اسہول نے اپنے ناموں جبارہ بن المغلس ابو النعیم، علیم بن ابراہیم، یوبکر بن ابی شیبہ اور ابو عبیدۃ الشاسک بن ملام وغیرہم۔ روایت کی جسے انہوں نے ساری حدیثیں ابو حنیفہ اور مسروں کے فضائل میں لکھی ہیں، اور سخی بن معین، علی بن المدینی اور بشر بن الحارث سے جتنی روایتیں ذکر کی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ ابو الفرج بن جوزی نے کہا ہے کہ محمد بن محمد بن الفوارس نے کہا ہے کہ احمد بن الصلت حدیثیں وضع کرتے تھے۔

اسحاق بن احمد الخزاعی، المفضل الجندی، عبدالله بن محمد بن وہب الدینوری، عبدالله بن ثابت بن یعقوب، ابو عبدالله، المقری، النحوی، التوزی نے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ عمرو بن شہبہ سے روایت کی اور ان سے ابو عمرو بن السمک نے روایت کی ہے۔

ان کے عمدہ اشعار میں سے یہ ہیں:

۱. اذا لم تكن حافظاً واعياً فعلمك في البيت لا ينفع

بترجیہ: جبکہ تم اپنے علم کو یاد رکھنے والے اور حفظ کرنے والے نہ ہو تو تمہارا گھر میں رکھا ہوا علم تم کو نفع نہیں پہنچائے گا۔

۲. و تحضر بالجهل في مجلس و علمك في الكتاب مستودع

بترجیہ: اور تم مجلس میں جہالت کے ساتھ حاضر ہو اور تمہارا علم کتابوں میں اماں رکھا ہوا ہو۔

۳. و من يك في دهره هكذا يكن دهرة الهمقري يرجع

بترجیہ: اور جو شخص زمانہ میں اس طرح رہے گا اُس کا زمانہ اُن لئے پاؤں لو قارہ ہے گا۔



## واقعات — ۳۰۹

اس سال بغداد کے آس پاس علاقوں میں ایک زندیق کے سبب سے ایک زبردست آگ لگ گئی؛ اس لیے کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا تو اس علاقوں کے لوگوں نے بہت سے علاقوں میں آگ کی ہولی کھیلی، تیجیں بے شمار انسان ہلاک ہو گئے۔  
اس سال جمادی الاولی میں المقدار نے موسی خادم کو صراور شام کے شہروں کا ذمہ دار بنادیا، اس کا لقب مظفر رکھا، اور خطوط کے ذریعہ تمام علاقوں میں اس کی خبر پہنچا دی۔

اس سال ماوڑی القعدہ میں ابو حفص محمد بن جریر الطبری عیسیٰ بن علی وزیر کے گھر پر حنابہ سے ایسے سائل میں مناظرہ کے لیے آئے تھے، جن میں ان لوگوں نے ان پر اعتراض کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی حاضر نہ ہوا۔

اس سال حامد بن العباس وزیر نے خلیفہ کو وہ باغ پیش کیا جس کو اس نے بنوایا تھا اور اس کا نام الناعورہ رکھا تھا۔ جس کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی۔ اس کی رہائش جگہوں میں مختلف قسم کے قیمتی فرش لگائے گئے تھے۔

### حسین بن منصور کے قتل کا معاملہ:

اس سال حسین بن منصور حلّاج کے قتل کا معاملہ پیش آیا، یہاں پر ہم اس کے حالات و اقدامات کیفیت قتل کو مختصر طور پر بیان کریں گے۔ اپنے مقصد کو بہت ہی انصاف دیانتداری کے ساتھ دفع کریں گے، جن میں ان کے خلاف کوئی غلط بیانی، ظلم اور زیادتی کو نہ آنے دیں گے۔

### حلّاج کی سوانح:

ہم اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو بات انہوں نے نہ کہی ہو وہ ہم کہیں۔ یا ان کے قول اور فعل میں ان کی طرف غلط طریقے سے منصوب کریں۔ تفصیل یہ ہے:

نام الحسین بن منصور بن محیٰ الہلال ابو مغیث، یا عبد اللہ ہے۔ ان کے دادا بھوی تھے اور ان کا نام محیٰ تھا، ملک فارس کے ”بیضا“ شہر کے باشندہ تھے۔ یہ تشریف یا واسطہ میں جوان ہوئے، بغداد میں آئے، اور مکہ مکرمہ سے آمد رفت قائم کی خواہ موسی سردی کا ہوتا یا گرمی کا وہاں ہمیشہ مسجد کے بیچ میں رہتے۔ کئی سال تک وہاں اسی طرح رہے، اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ ریاضت اور حجہ بڑھ کر تے رہے۔ مسجد حرام کے صحن میں کھلے آسمان کے نیچے رہتے۔ افظار کے وقت، دو ایک نوالہ کھا کر چند گھونٹ پانی پر اکتفا کر لیتے۔ یہ عمل برسہا برس جاری رکھا۔ اور سخت گرمی میں ابو قیس پہاڑ کے نیلہ پر بیٹھے رہنے کی عادت ڈال لی تھی۔ مشائخ صوفیہ، مثلاً جنید بن محمد، عمرو بن عثمان المکی اور ابو الحسین النوری کی صحبت میں رہا کرتے۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں صوفیائے کرام کی رائیں مختلف ہیں، ان میں سے اکثر کی رائے ہے

ہے کہ یہ ان مثالیخ کی صحبت میں بالکل نہیں رہے۔ اور ان میں انہیں شہر بھی نہیں کرتے لیکن حقیقت میں صوفیاء، مثلاً ابوالعباس بن عطاء البغدادی، محمد بن خفیف الشیرازی اور ابراہیم بن محمد النصراباذی، النیسا بوری نے انہیں صوفیاء میں قبول کیا ہے اور ان کے حالات کی تصحیح کی اور ان کے کلام کو اکٹھا کیا۔ یہاں تک کہ انہیں خفیف نے کہا ہے کہ حسین بن منصور یہ سے عالم اور اللہ والے تھے۔

اور ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا ہے جن کا نام محمد بن الحسین تھا کہ میں نے ابراہیم بن محمد بن النصراباذی سے سنا ہے اس وقت جبکہ انہوں نے روح کے بارے میں حلاج کی کوئی بات نقل کی تو کسی نے ان کو کچھ جھوڑ کا تھا تو اس سے کہا کہ اگر نبیوں اور صدیقوں کے بعد کوئی موحد ہے تو وہ حلاج ہی ہے۔

اور ابو عبد الرحمن نے کہا ہے کہ میں نے منصور بن عبد اللہ کو کہتے ہوئے سنائے کہ میں نے شبی کو کہتے ہوئے سنائے کہ میں اور حسین بن منصور ایک ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ دل کی بات ظاہر کر دیتے ہیں لیکن میں چھپائے رکھتا ہوں۔

دوسری روایت سے شبی سے مردی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے حلاج کو سولی کے تختہ پر دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیا میں تم کو لوگوں کے سامنے اظہارِ حقیقت سے منع نہیں کرتا تھا۔

اور خطیب نے کہا ہے کہ صوفیاء کرام ہی سے جن لوگوں نے ان کی حقانیت کی نظری کی ہے وہ منصور کے کاموں کو شعبدہ کی طرف اور ان کے عقیدہ اور خیالات کو بد دینی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ لوگ آج تک ان کو ان ہی باتوں کی طرف منسوب کرتے اور اس میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ حلاج اپنی گفتگو میں بہت شیریں زبان تھے اور ان کے اشعار صوفیہ کے طریقہ پر ہوا کرتے تھے۔ اس بارے میں یہی رائے یہ ہے کہ حلاج کے قتل کے بعد سے ہی آج تک ان کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے ہیں، فقهاء نے بہت سے علماء اور آئندہ کا ان کے قتل کرنے کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے اور یہ کہ وہ حالت کفر میں قتل کیے گئے ہیں اور یہ کہ وہ کافر، جھوٹ، منگھڑت باشیں کرنے والے اور شعبدہ باز تھے۔ اور اکثر صوفیاء نے بھی ان کے بارے میں اسی قسم کی باشیں کی ہیں۔ اور ان کی دوسری جماعت نے جیسا پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں گول باشیں کی ہیں۔ اور ان کے ظاہر نے ان لوگوں کو دھوکہ میں رکھا ہے اور نہ ان کے باطنی قول یا عمل کی ان کو اطلاع ہو سکی ہے، کیونکہ یہ منصور اپنی ابتدائی زندگی میں عبادت گزار، اہل و عیال والے اور اہل سلوک میں سے تھے، لیکن وہ عالم نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی باشیں اور حالات کو اللہ سے ذر نے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے پر منی کیا ہے۔ اسی بناء پر ان کی تحریک کن کام اصلاحی باشیں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔

اس بناء پر سفیان بن عینہ نے کہا ہے کہ ہمارے علماء میں سے جس نے فساد کا کام کیا اس میں یہودی سے زیادہ مشابہت سے ہے اور ہمارے عوام میں سے جس نے فساد کا کام کیا، اس میں نصاریٰ سے مشابہت ہے۔ اسی بناء پر حلاج کے قلب پر طول اور اتحاد کا خیال لاحق ہو گیا۔ اس لیے وہ انحصار اور انحراف کرنے والوں میں سے ہو گیا۔

اور دوسرے ذریعہ سے ان سے منقول ہے کہ ان کے حالات اُنٹ پلٹ ہوتے رہے اور مختلف شہروں میں چکر لگاتے

رسے اور وہ ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں میں یہ ظاہر کرتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت کرنے والوں میں سے ہیں۔

اور تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ یہ ہندوستان جا کر وہاں سے جادو کیجھ کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہندوستان والے اسے مغیث کہہ کر لکھا کرتے ہیں۔ اور خراسان والے منبر کہہ کر خطوط لکھتے، فارس والے ابو عبد اللہ الزراہد اور خوزستان والے ابو عبد اللہ الزراہد حلاج الاسرار کہا کرتے۔ بغداد کے کچھ لوگ جبکہ یہ ان لوگوں میں موجود ہوتا اسے المصطلم کہتے اور بصرہ والے الحیر کہتے۔

حلاج کہنے کی وجہ:

اس کو حلاج کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اہواز والے اس سے اپنے دلوں کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک دن اس نے کسی دھنیے سے کہا کہ تم جا کر میرے فلاں فلاں کام کر دو اس نے جواب دیا، میں دھنیے کے کام میں مشغول ہوں تو اس نے کہا، تم جاؤ، میں تمہارا کام کرتا ہوں چنانچہ وہ گیا اور بہت جلد واپس آ گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر جتنی زوئی تھی، اس نے وہ سب دھن کر کھو دی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ وقتانہ کی طرف صرف اشارہ کرتا اور بیچ سے روئی علیحدہ ہو جاتی لیکن اس دعویٰ کی صحت اور اس کی طرف نسبت کرنا قابل غور ہے، اگرچہ اس قسم کی باتیں منتسب ہوتی رہتیں۔ کیونکہ شیاطین اس کے ساتھیوں کی مدد کرتے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ اس کے والد کا پیشہ روئی دھنے کا تھا اور اس کے طolv کرنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے ابتدائی زمانہ میں ہی بہت سی چیزوں میں ایسے کام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی مضمون کے اشعار بھی ہیں جن میں چند یہ ہیں:

جبلت روحك فى روحى كما يجعل العنبر بالمسك الغنق  
ترجمہ: تمہاری روح میری روح کے ساتھ اس طرح ملا کر بنائی گئی ہے جیسا کہ کوئی نماز میں عنبر کو مشک سے ملا کر ایک کردیتی ہے۔

فإذا مسّك شيءً مسّنى و إذا انت انا لا نفترق  
ترجمہ: اور جب کوئی چیز تم کو مس کرتی ہے مجھے بھی مس کرتی ہے اور اب تم ہم ہو گئے اس طرح کہ اب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔

مرجت روحك فى روحى كما تمزج الحمرة بالماء الزلال  
ترجمہ: تمہاری روح میری روح کے ساتھ اس طرح شیر و شکر کر دی گئی ہے جس طرح شراب صاف پانی سے ملا دی گئی ہو۔

فإذا مسّك شيءً مسّنى فإذا انت انا في كل حال

**ترجمہ:** جب کوئی چیز تم کو سس کرتی ہے تو مجھے بھی سس کرتی ہے اس وقت ہر حال میں "مت تو شدہ تو من شدی" کے مصدقہ ہو جاتے ہیں۔

اور یہ بھی قول ہے:

قد تحقیقتك فی سرى فخاطبک لسانی

**ترجمہ:** میں نے تجھے اپنی تہائی میں تلاش کر لیا تو تم سے میری زبان رو رہو کر خطاب کرنے لگی۔

فاجتمعنا لمعان و افترقنا لمuhan

**ترجمہ:** ہم اپنے چند مطلبوں کے لیے اکٹھے ہوئے اور چند مطلبوں کے لیے ہم منتشر ہوئے۔

ان يکن غيك التعظيم عن لحظ الحيان

**ترجمہ:** اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی وجہ سے تمہارا تعظیم کرنا، تم سے دور رہو گیا ہے۔

فلقد صيرك ابوحد من الاحساء دان

**ترجمہ:** تو تم کو تمہاری خوشی نے آن تو بے قریب کر دیا ہے۔

اور جب این عطا کے سامنے حلّاج کا یہ شعر پڑھا گیا۔

اريذك لا اريذك لثواب و لكنى اريذك للعقاب

**ترجمہ:** میں تمہاری ملاقات چاہتا ہوں، لیکن حصولِ ثواب کے لیے نہیں بلکہ میں حصولِ عذاب کے لیے چاہتا ہوں۔

و كل ماري فدللت منها سبوي ملدوذ و حدى بالعذاب

**ترجمہ:** میں اپنے سارے مقاصد پا چکا ہوں سوائے عذاب کی لذت پاے کی خواہش کے۔

توا بن عطاء نے کہا، اس خواہش سے فریشگی کا عذاب اور عاشق کا جون اور افسوس کی لپٹ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب

عشق صاف ہو اور وفا کرنے والا ہو اس وقت میٹھے چشمے حق کی لگاتار بھیشہ بہتے رہنے والی بارش کی طرف چلا جاتا ہے۔

اور ابو عبد اللہ بن حفیف کے سامنے جب حلّاج کا یہ شعر پڑھا گیا۔

سبحان من اظهر ناسوقة سرسنا لاهوته الشاقب

**ترجمہ:** پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایسے عالم ناسوت یعنی عالم اجسام کو ظاہر کیا۔ جس نے اس کے عمدہ عالم ناہوت یعنی

عالم ذات الہی کی چمک کو چھپا دیا ہے۔

ثم بدا في حلقة ظاهرا في صورة الاكل والشارب

**ترجمہ:** پھر وہ اپنی مخلوق میں بالکل عیاں ہو کر ظاہر ہوا، کھانے اور پینے والے کی صورت میں۔

حتى قد عاينه حلقة كلحظة الحاجب بالحاجب

**ترجمہ:** یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کا واضح طور پر معاينة کیا ہے، ایک شخص کی آنکھ کا دوسرا کی آنکھ کو دیکھنے کی مانند۔

یہ سن کر اس غصیلے نے کہا، ان کی کشیدگی کے لئے کوئی امدادی نہیں، ان ہے کہا گیا کہ یہ تو ماحصلہ کے اشعار میں تو کہنے پڑے گی محوں مولوں کا، اور اس کی طرف یا اشعار بھی مسلسل کیے جاتے ہیں۔

اویشکت تصال عنی دھن دست

بیرونیہ قریب ہے کہ تم نیرے بارے ہیں یہ دریافت کرو کہ تیں کیسرا با، اور تمہارے بعد میں میں نے کس کس غم اور فکر کو جھیلا ہے۔

ولا لا کفت ادری کیف کنت

بیرونیہ: میں نہیں ہوتا اگر میں جان سکتا کہ میں کیسا تھا، اور میں یہ بھی نہیں جان سکتا کہ میں کیوں کرنیں تھا۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ یہ سمنون کے کہے جاتے ہیں حلاج کے نہیں، اور اس کے اشعار میں یہ بھی ہیں۔

فلاء عطیت ما املت و تمنت

بیرونیہ: اگر میری آنکھ تیرے غم کی یاد میں جا گے یا روئے تو خدا کرے وہ جو کچھ امید رکھتی ہو یا تمنا کرتی ہو وہ نہ ملے۔

و ان اضمرٹ نفسی سوکھ فلا دکت

بیرونیہ: اور اگر میں اپنے دل میں تیرے علاوه سکن اور کو جگہ دوں تو تیرے رخسارے سے امید کے باعث نہ تو کھلیں اور نہ اس

کے پھل پھوٹیں۔

اور اس کے اشعار سے یہ بھی ہیں۔

دنیا تغالطنی کانہ

بیرونیہ: یہ دنیا مجھے اس طرح مغالطہ میں رکھنا چاہتی ہے گویا کہ میں اس کے ادھار بالکل نہیں جانتا ہوں۔

حظر الملیک حرماها

بیرونیہ: بادشاہ نے تو صرف اس کی حرام چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے، لیکن میں اس کی حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔

فو جدتھا محتاجہ

بیرونیہ: تو میں نے خود اس کو محتاج پایا، اس لیے میں نے اس کی لذت اسی کو ہبہ کر دی۔

حلاج اپنے بس کے استعمال میں بہت زیادہ رنگ بدلا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی صوفیوں کا بس پہنچ تو کبھی مغلسوں اور

محتاجوں کے کپڑے میں نہیں رہتے۔ کبھی فوجیوں کے بیان اختیار کرتے اور دولت مندوں اور بادشاہوں اور فوجیوں کے ساتھ رہتے۔ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کبھی اس حال میں بھی پایا ہے کہ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ایک ہاتھ میں چھاگل اور

دوسرے میں ڈندا جس میں نیچے پھل لگا ہوا ہے، اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ اے حلاج! یہ کیا صورت

بنارکھی ہے؟ تو ان شعروں میں جواب دیا۔

لئے انسیت فیٹ سے عدبہ لقد لئے اعنی حد تک کہ  
تیرچندہ: اگر میں ایک مفلس کپڑے میں نظر آ رہا ہوں تو کوئی ملاں کی بات نہیں ہے کہ یہ کپڑے ایک شریف آزاد مرد کے مدن پر پرانے ہوتے ہیں۔

فلا يغتررك الا بضررت مسغيرة عن الحال التقديم

تیرچندہ: تم کسی ناطق نہیں میں بتلانہ ہوا کرم نے مجھے ایسی صورت میں پایا ہے جو پرانی صورت سے بد لی ہوتی ہے۔

فلی نفس سستلف او سترثی لعمرك بى امى امر حسیم

تیرچندہ: کیونکہ میرا نفس عنقریب یا تو بر باد ہو جائے گا یا بلند مرتبہ پہنچ جائے گا، تیری زندگی کی قسم! مجھے ایک بہت بڑے معاملہ سے نہتا ہے۔

اس کے بہتر کلاموں میں سے ہے جبکہ اس نے کسی سے کہا، تم مجھے کسی ایسی بات کی وصیت کرو جس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو تو اس کو جواب دیا تم اپنے نفس کا پورا پورا خیال رکھو۔ تم نے حق کاموں میں اسے مشغول نہ رکھا تو وہ تم کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا۔ اور اگر کسی دوسرے نے بھی اسے فصیحت کرنے کو کہا تو جواب دیا، اللہ کے ساتھ رہو، اس حد تک جتنا اس نے لازم کیا ہے۔

خطیب نے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایسا کا یہ مقولہ لکھا ہے کہ تم اگلے اور پچھلے لوگوں کی نصیحتوں کا ماحصل یہ چار باقی ہیں:

① رب جلیل کی محبت۔

② تھوڑے (دنیا) سے دشمنی رکھنا۔

③ قرآن پاک کی اتباع۔

④ اچھی حالت (حالت ایمان) سے بدل دیئے جانے کا خوف۔

گمراں میں میری رائے یہ ہے کہ حلاج نے خود ان میں سے آخری دو باتوں پر صحیح عمل نہیں کیا ہے کہ قرآن پاک کی اس نے اتباع نہیں کی ہے اور دین پر قائم نہ رہا۔ بلکہ میزہ می راہ بدعۃ اور گمراہی میں لگ گیا۔ ہم اللہ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں۔

ابو عبد الرحمن سلیمانی نے عرب بن عثمان کی سے نقل کیا ہے، کہا ہے کہ اس وقت جبکہ میں مکہ مکرمہ میں کسی گلی میں حلاج کے ساتھ چل رہا تھا، اور میں آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس وقت میری تلاوت سن کر اس نے کہا، میرے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ میں بھی اس قرآن کی طرح کی عبارتیں کہہ سکوں۔ یہ سن کر میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔

خطیب نے کہا ہے کہ مجھے مسعود بن ناصر نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے ابن باکو الشیرازی نے کہا ہے کہ میں نے ابو زرعہ طبری کو کہتے ہوئے سنائے کہ لوگ حسین بن منصور الحلاج کے مارے میں دو مختلف الخیال ہیں۔ یعنی کچھ تو اسے قبول کرتے

بیں اور سمجھ دکرتے ہیں۔ لیکن میں نے محمد بن سعید الرازی کو کہتے ہوئے نہایہ کہ میں نے عمر و بن عثمان کو اس بر لعنت بھیجتے اور یہ کہتے ہوئے نہایہ کہ اگر مجھے اس پر قدرت حاصل ہوتی تو میں اسے اپنے باٹھے سے فل کر دیتا۔ میں نے کہا، اس تینخ میں تم نے ایسی کون سی خرابی یا کی؟ تو کہنے لگے کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا یہ ان کراس نے اپنا میرے یہی بات بہت آسان بے کہ اس جیسی کتاب لکھ دیا اور اس جیسا کلام کروں۔

ابوزر العطبری نے کہا کہ میں نے ابو یعقوب القطع کو یہ کہتے ہوئے نہایہ کہ میں نے حسین حلاج کی نیک عملی اور محنت کی خوبی دیکھ کر اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دیا۔ مگر کچھ دنوں بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ جادوگر مکار خبیث اور کافر بھی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح مکہ مکرمہ میں کیا ہے اور یہی ام الحسین بنت ابی یعقوب القطع ہیں اور یہی احمد بن الحسین بن منصور کے لڑکے کی یہ اولاد سے ہیں اور ان کے والد کی سیرت انہوں نے ولیٰ ہی بیان کی ہے جیسی کہ خطیب کے واسطہ سے بیان کی ہے اور ابو القاسم الشیری نے اپنے رسالہ کے باب حفظ قلوب المشائخ میں ذکر کیا ہے کہ عمر و بن عثمان حلاج کے پاس اس وقت گئے جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور وہ کاغذات پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں۔

کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس پر بددعا کرنے لگئے اور وہ اس کے بعد کبھی خوش نہ رہ سکا۔ اور ابو یعقوب القطع کو اس بات پر برا بھلا کہا کہ اس سے اپنی لڑکی کی شادی کیوں کی۔ اور عمر و بن عثمان سارے علاقے میں خطوط لکھ کر اس پر لعن طعن کر کے لوگوں کو اس حلاج سے محتاط ہو کر رہنے کو کہتے۔ اس کے بعد حلاج شہروں میں مارا مارا پھر نے اور داہنے با میں ہنگامہ آرائی کرنے لگا، اور لوگوں میں یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اور اپنے مقصد میں مختلف حیلے اور بہانے سے کام لینے لگا۔ اور اس کا یہ شیوه ہو کر رہ گیا۔ بالآخر اللہ نے اپنا عذاب اس پر اس طرح نازل کر دیا جس طرح اس کے مقابلے بارہ مجرموں پر نازل کرتا رہا ہے۔ یعنی شریعت کی تلوار نے اس کے دنکڑے کر دیئے جو ہمیشہ زند یقون کے موئذھوں پر چلتی رہی ہے، اور اللہ اس بات پر بڑا عادل ہے کہ اسے اپنے کسی دوست پر سلط کر دے آخرا یا کیوں نہ ہوتا کہ اس نے قرآن عظیم پر حملہ کیا اور اس مختتم شہر میں رہ کر جہاں جبریل علیہ السلام اسے لے کر آئے تھے۔ اس نے قرآن پاک سے مقابلہ کا ارادہ کیا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو کوئی اس مقام میں رہ کر بدوئی کے کاموں کا ارادہ کرے گا، ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چلکھائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حلاج کفار قریش کی طرح دشمنی کرنے میں ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ”جب کبھی ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں سن لیں“، اگر ہم اب چاہیں تو ان جیسی آیتیں یہ آسانی بناسکتے ہیں۔ اس میں تو اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔

## حلاج کی کچھ مکاریاں

### حلاج کی مکاریاں:

غطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ حلاج نے اپنے خاص شاگرد کو یہ حکم دیا کہ وہ سیدھا فلاں پہاڑی علاقوں میں جا کر کسی جگہ مصنوعی طور پر اپنی عبادت گزاری، نیکی اور دُنیا سے کنارہ کشی کو لوگوں میں ظاہر کرے۔ جب یہ اندازہ لگائے کہ وہ لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس سے محبت اور اعتقاد کرنے لگے تو ان کے سامنے اپنے اندر ہے ہونے کو ظاہر کرے۔ جب وہ لوگ اس کے علاج معالجہ میں لگ جائیں تو ان سے کہے۔ اے نیک کارو! تم میرے سلسلہ میں جو بھی کرڈا تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر ان کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ اس نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے ہے کہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفاء فلاں قطب کے ہاتھوں سے ہوگی جو عنقریب فلاں مہینہ فلاں دن تمہارے ہاں آنے والا ہے، اور اس کا حلیہ کچھ اس قسم کا ہوگا۔ پھر حلاج نے یہ بھی بتایا کہ فلاں وقت میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ اس فیصلہ کے مطابق وہ شخص ان علاقوں میں جا کر عبادت گزاری، نیکی اور زہد کو ظاہر کر کے خلاوچہ قرآن میں لگ گیا۔ کچھ دنوں اسی طرح کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اس سے اعتقاد اور محبت بھی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے اندر ہے ہونے کو ظاہر کیا اور اسی طرح کچھ دن گزار دیئے۔ پھر اپنے معدود اور اپنے ہونے کو ظاہر کیا تو لوگ اس کے علاج معالجہ کی پوری کوشش کیں گے۔ جتنا ہی علاج ہوا، اُسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تب ان لوگوں سے کہا، اے نیک لوگو! تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہو اور کرو گے، اس سے مجھے ذرا برابر فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ تمہاری بھالائی اور شفاء تو فلاں قطب کے ہاتھوں مقدر ہے اور وہ فلاں دن فلاں مہینے میں یہاں عنقریب آنے والا ہے۔ ان دنوں پہلے تو وہ لوگ اسے پکڑ کر مسجد لے جاتے، پھر گود میں اٹھا کر لے جانے لگے اور اس کے ساتھ اکرام سے پیش آتے اور فلاں بزرگ کے آنے کا انتظار کرنے لگے، جس کا اس کے اور حلاج کے درمیان پہلے طے ہو چکا تھا۔

چنانچہ یہ حلاج چھپ چھپا کر اس شہر میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے بدن پر سفید اونی کپڑے تھے۔ اور ایک مسجد میں داخل ہو کر ایک ستون کے پاس بیٹھ کر عبادت گزاری میں لگ گیا۔ کسی کو بھی نہ دیکھتا۔

چنانچہ لوگوں نے اسے ان اوصاف کے مطابق پالیا، جن کا تذکرہ اس بیمار نے پہلے کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی سب اس کی طرف دوڑے، سلام کیا، ہاتھ پیر چوئے، پھر اس اپاچ کے پاس آ کر اس قطب کے آنے کی خوشخبری سنادی جس سے اس کی شفاء اللہ نے مقدر کر رکھی ہے۔ تب اس نے اس کے مزید حالات دریافت کیے اور انہوں نے بالتفصیل سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس کی خوشخبری ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔ اور یقیناً میری شفاء اسی کے ہاتھوں ہو گی۔ اب مجھے تم لوگ اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے اور اس کے سامنے جا کر اسے رکھ دیا، اور اس

سے کچھ باتیں کیں تو اسے پہچان لیا۔ تب کہا، اے اللہ کے بندے! بزرگ! میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ پھر پورا خواب بیان لیا۔ تب حلماج نے اپنے دونوں ہاتھ انہماں راس کے لیے دعا لی، پھر اپنے ہاتھوں پر کچھ تھوکا اور اس کی دونوں آنکھوں کو ان سے سک کیا۔ اب جو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو بالکل اچھی تھیں، گویا اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں لگی۔ پھر انہا تھوک لے کر اس کے پیروں سے ملا، جس سے وہ فوراً بھلا چنگا ہو گیا۔ اور انہوں کر چلنے لگا۔ گویا اس میں بھی پبلے کوئی بیماری نہیں۔

یہ سارا واقعہ بھرے مجمع میں ہوا۔ پس شہر کے تمام بڑے امراء حکام وغیرہ سب موجود تھے، سبھوں نے مل کر ایک زبردست مل چل مچا دی اور لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لکایا اور اس کی تسبیح کی، اور حلماج کی عزت و عظمت بڑھ گئی۔ کیونکہ اس نے مکروہ فریب کا ریب کا عمل کیا تھا۔ کچھ دونوں تک اس کے پاس رہا۔ جس میں وہ لوگ اس کی انتہائی تقطیم و تکریم کرتے رہے۔ اور اس امید میں رہے کہ شاید یہاں سے اپنی کسی مالی ضرورت کا اظہار کرے۔ آخر اس نے جب وہاں سے چلے آئے کا تھیہ کر لیا تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کے لیے بہت سامال جمع کیا۔ لیکن اس نے کہا، مجھے دنیاوی مال کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تمہارے ان صاحب کو ان کے بھائیوں اور اپنے لوگوں کے لیے، جو کہ ابدال وقت ہیں اور طرسوں کی گھائیوں میں مجاہدے کرتے رہے ہیں، کچھ رقم کی ضرورت ہوتا کہ وہ منج اور صدقات وغیرہ نیکیوں کے کام کر سکیں، اور اپنے مددگاروں اور محتاجوں میں خرچ کر سکیں۔ تب اس فرضی اندھے اور اپاٹج جنتے والے نے بھی اس کے قول کی تائید کی کہ اللہ نے میری آنکھ لوتا دی اور مجھے بالکل تدرست کر دیا ہے، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہتنی اپنی بقیہ زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اپنے ان ابدال اور صالحین، جن کو ہم جانتے ہیں، کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج ادا کریں۔ پھر ان کو زیادہ سے زیادہ اور عمدہ سے عمدہ مال دینے پر آمادہ کر لیا۔

اس کے بعد حلماج وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اور وہ شخص ان لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، سونے اور چاندی کے اکٹھے ہو جانے تک موجود رہا۔ اب جبکہ اس کی خواہش کے مطابق سارا مال اکٹھا ہو گیا تو وہاں سے یہ بھی نکل آیا اور حلماج کے پاس پہنچ کر سارا مال آپس میں تقسیم کر لیا۔

کسی اور نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حلماج کے احوال و کرامات کے متعلق لوگوں میں بہت کچھ سنتا رہتا تھا، اس لیے مجھے خواہش ہوئی کہ میں اسے آزماؤں اور میں اس کے پاس گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے سلام کیا، تو اس نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھ سے ابھی کسی چیز کی فرمائش کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تازہ مچھلی چاہتا ہوں۔ تب وہ اپنے گھر گیا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب رہ کر ہمارے سامنے نمودار ہو گیا، اس طرح پر کہ اس کے ساتھ ایک زندہ ترپی ہوئی مچھلی تھی اور اس کے دونوں پروں پر مٹی گلی ہوئی تھی۔ آ کر اس نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تو اس نے مجھے نالوں کی طرف جانے کا حکم دیا، تاکہ میں یہ مچھلی لے آؤں۔ اور میں اہواز میں داخل ہو گیا، اور یہ مٹی بھی وہیں کی ہے۔

۱۔ بصرہ اور فارس کے درمیان کا ایک علاقہ جو نوآبادیوں پر مشتمل ہے۔ (انوار الحجۃ قاسی ۲۰۔ ۲۷/۵)

میں نے کہا، اگر تم سے ہو سکتے مجھے بھی تم اپنے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوتا کہ میں خود بھی دیکھوں، تاکہ میرا یقین پختہ ہو جائے۔ اگر کوئی راز مجھ پر ظاہر نہ ہو سکا تب میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تب اس نے مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں وہاں داخل ہو کر چکر لگاتا رہا گر اس ایک دروازہ کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ جس کی وجہ سے میں سخت تثیر ہو کیا۔ اتنے میں مجھے ایک پشتہ نظر آیا جو سا گوان کی لکڑی سے بنा ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے حرکت دی وہ کھل گیا۔ اب میں اس میں داخل ہوا، یہاں تک کہ اس راستے سے ایک بہت بڑے باغ تک پہنچ گیا، جس میں نئے اور پرانے ہر قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ان کے باقی رکھنے کا بہت عمدہ انتظام بھی کیا گیا تھا اور اس میں مختلف الانواع کھانے کی بے شمار چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور اس میں ایک تالاب بھی نظر آیا، جس میں چھوٹی بڑی بہت سی مچھلیاں تھیں۔ میں نے اس میں اپنے پیر داخل کر کے ایک مچھلی پکڑ لی۔ اس وقت میرے پیر میں ولیٰ ہی مٹی لگ گئی تھی جیسی کہ اس کے پیر میں لگی ہوئی تھی۔ میں مچھلی لے کر دروازہ کے پاس آیا، اور میں نے کہا، دروازہ کھولو کہ میں تم پر ایمان لے آیا۔ لیکن جب اس نے مجھے بھی اپنی ہی طرح آتے ہوئے دیکھا، میرے پیچے تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، تاکہ مجھے مار کر ختم کر دا لے۔ اس وقت میں نے وہی مچھلی اس کے چہرہ پر پھینک ماری اور کہا، اے اللہ کے دشمن! تم نے تو آج مجھے تھکا مارا ہے۔ اس طرح اس سے چھکا راپانے کے چند دنوں کے بعد وہ جب مجھ سے ملا تو ہنسنے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، تم نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرنا۔ ورنہ میں تم پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو تم کو تمہارے فرش پر ہی قتل کر دے گا۔ چنانچہ مجھے بھی اس بات کا یقین آ گیا کہ اگر اس کے راز کو من طرح ظاہر کر دوں گا تو وہ سب کچھ کر بیٹھے گا جو اس نے کہا ہے چنانچہ اس کے سولی نہ پانے تک یہ باتیں میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہوئے دیں۔

ایک دن حلراج نے ایک شخص سے کہا کہ تم اگر مجھ پر ایمان لے آئے تو میں تمہارے لیے ایک ایسی چیزیاں منگوادوں گا کہ تم اس کی کچھ بیٹھ ایک سیر تابنے میں رکھ دو تو وہ سب سونا بن جائے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے ایک ایسا ہاتھی بھیج دوں گا کہ اگر وہ چت لیٹ کر اپنے پاؤں اور پچے کر دے تو اس کے پاؤں آسمان تک پہنچ جائیں اور اگر تم اسے چھپا لینا چاہو تو اسے اپنی ایک آنکھ میں رکھو۔ یہ سن کر وہ شخص تثیر ہو کر خاموش ہو گیا۔ وہ شخص بعد ادھیجنگ کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا اور لوگوں کے سامنے خلاف عادت کا میوں اور شعبدوں اور شیطانی حرکتوں کا مظاہرہ کرتا۔ اس کا زیادہ اثر رافضیوں پر پڑتا اور وہی اس کے پھنسنے میں آتے۔ کیونکہ وہ عقشن کے کھوٹے اور حق و باطل کی تمیز کے کچھ ہوتے ہیں۔

ایک دن اس نے رافضیوں کے ایک رئیس کو بلا کر اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں فطرۃ زن پرست اور عورتوں پر جان دینے والا ہوں۔ لیکن اب میرے سر کے بال گنجے ہو چکے اور سفید بھی ہو گئے۔ میں بوڑھا ہو گیا جسے عورتیں ناپسند کرتی ہیں۔ اگر تم میری ان دونوں بیماریوں کو دوڑ کر دو تو میں تم پر ایمان لے آؤں اور یہ کہہ دوں کہ تم ہی امام معمصوم ہو اور اگر چاہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ تم نبی ہو۔ بلکہ اگر چاہو تو یہ کہہ دوں کہ تم خدا ہو۔ یہ جواب سن کر حلراج ہکا ہکا ہو گیا، اور اس کا

جواب اس سے نہ بن پڑا۔

شیخ ابوالغرسج ابن الجوزی نے کہا ہے کہ حلاج بہت رنگ بد لئے والا تھا۔ بھی تو وہ کملی اور ہر چیز زر ہیں اور بھی قباد پہنچا کرتا۔ اور وہ ہر قوم کے ساتھ ان کے نہ ہب کے مطابق ملوك کرتا۔ لیکن وہ ہب اہم ازیں بنتا تو وہاں بنتے دراہم نہ رکھ کرتا، ان کو دراہم القدرة کہا کرتا۔

جب ان باتوں کے متعلق شیخ ابوالعلی الجبائی سے دریافت کیا گیا تو جواب دیا اس قسم کا کوئی بھی کام انسان حیلہ اور بشرت کر سکتا ہے۔ اب ایسے کسی گھر میں جس سے نکلنے کا راستہ نہ ہوا سے بند کر کے اس سے کہو کہ ہمارے لیے کائنے کے دوستون کھڑے کر کے دکھادے۔ جب حلاج کی ان باتوں کی خبر ملی، وہ وہاں سے نکل کر اہواز کی طرف چلا گیا۔

خطیب نے کہا ہے کہ ہمیں ابراہیم بن مخلد نے بتایا ہے کہ اسماعیل بن علی الخطیب نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ ایک شخص ایسا ظاہر ہوا ہے جسے حلاج حسین بن منصور کہا جاتا ہے، اسے شکایت کی بناء پر سلطان کے جیل خانہ میں بند کر دیا گیا تھا اور یہ واقعہ علی بن عیسیٰ کی پہلی وزارت کے زمانہ کا ہے۔ اس کے خلاف مختلف قسم کی یہ شکایتیں تھیں کہ وہ گمراہی کی باقیں کرتا رہتا ہے اور مختلف حیلوں، مثلاً شعبدہ بازیاں، جادو، بھوئی نبوت وغیرہ کے کاموں سے لوگوں کو گراہ کر رہا ہے۔ عب علی بن عیسیٰ نے اسے پکڑ کر اس سے ان باتوں کی تصدیق کرائی۔ اور علیہ مقتدر باللہ کو بھی اس کی خبر کر دی۔ لیکن وہاں پہنچ کر اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔ لہذا اسے سخت سزا دی، اور زندہ رکھتے ہوئے اُسے کسی روز تک مستوات صح کے وقت پل کے اوپر کھلی جگہ میں سولی پر لٹکایا جاتا رہا اور اس کی کارگزاریوں کی لوگوں کو اطلاع دی جاتی رہی۔ پھر وہاں سے اتر لیا جاتا اور قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ اس ڈر سے کہ زیادہ دن ہونے کی وجہ سے جیل خانہ کے دوسرے قیدیوں لوگوں کو بھی گراہ نہ کر دے۔ یہاں تک کہ آخری مرتبہ خاص شاہی قید خانہ میں رکھا گیا، جہاں وہ شاہی غلاموں کی ایک جماعت کو مختلف حیلے بہانے سے بہانے اور اپنی طرف سے موہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کی حمایت کرنے لگے اور اس کی طرف سے مقابلے کرنے لگے اور اچھے کھانے اس کے پاس پہنچنے لگے۔ پھر وہاں رہ کر بغداد اور اس کے آس پاس کے لوگوں سے خط و کتابت کے ذریعہ تعلق پیدا کر لیا اور انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔

اس طرح اس کا مرتبہ اور بھی اونچا ہو گیا کہ وہ اس نے اپنی رو بیت کا بھی دعویٰ کر لیا۔ اور اس کے مانے والوں کا ایک وفد باضابطہ طور سے بادشاہ کے پاس گیا۔ لیکن بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اور ان میں سچھ لوگوں کے پاس سے ایسے خطوط ملے، جن سے ان الزامات کی تصدیق ہوتی تھی۔ اور سچھ لوگوں نے اپنی زبانوں سے ہی ان کا اقرار کر لیا۔ اس طرح یہ خبر بہت پھیل گئی اور اس کے قتل کرنے کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، اس لیے خلیفہ نے اسے حامد بن العباس کے حوالہ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے معاملہ کو قاضیوں اور علماء کے سامنے پیش کیا جائے، اور اسے اور اس کے مانے والوں کو اکٹھا کیا جائے، اس طرح بہت سی تقریریں بھی ہوئیں، جن سے بادشاہ کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی، اور جو سچھ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا یقین ہو گیا۔ قاضیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے خلاف مہر لگائی اور علماء نے اس کے قتل کے فتوے دیے۔

دینا نجی خلیفہ نے اس کے قتل کرنے اور بعد میں آگ سے جادا بننے کا حکم دیا۔ تب شہر کے مغربی کنارے ۹۰۴ھ کیسوں ڈی القدرہ منگل کے دن فوجیوں کی موجودگی میں اسے تقریباً ایک ہزار کوڑے مارے گئے۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اور پیر کا لے گئے۔ پھر اس کی گز دن اُز دی گئی۔ پھر بدن کے پکڑے کو آگ سے بخادیا گئی۔ لیکن مرگوت پل کے عتوں پر رکھ کر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو انکھاں کا گیا۔

ابو عبد الرحمن بن الحسن السلمی نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم بن محمد الوعظ سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابوالقاسم الرازی نے کہا ہے کہ ابو بکر بن شادونے کہا ہے کہ دینور میں ہمارے پاس ایسا ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تحیلارہتا تھا۔ لوگوں کو اس پر کچھ شک گزرا اور اس تھیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں حلاج کا ایک خط لکھا، جس کا عنوان تھا:

”رَحْمَنْ وَرَحِيمْ كِي طَرَفْ سَهْ فَلَاسْ بَنْ فَلَاسْ كِي نَامْ“۔ جس میں وہ گمراہی کی دعوت اور اپنے اوپر اسے ایمان لانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ وہ خط بغداد صحیح دیا گیا۔ تحقیق کے لیے حلاج سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے لکھنے کا اقرار کر لیا، لوگوں نے اس سے کہا، تم تو اب تک اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے آئے، اب تم اپنی الوبیت کا بھی دعویٰ کرنے لگے۔ اس نے جواب دیا، ہمارے نزدیک اس کا جمع ہونا عین ممکن ہے، کیونکہ اس کا لکھنے والا اللہ ہے اور میں اور یہ ہاتھ آلہ ہیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارے اس عقیدے میں دوسرا اور کوئی بھی شریک ہے؟ اس نے کہا، ہاں ابن عطاء، ابو محمد حریر اور ابو بکر شبلی۔

اس کے بعد حریر سے تحقیق کی گئی، تو وہ کہنے لگے ایسا جو بھی کہے وہ کافر ہے، پھر شبلی سے پوچھا گیا تو جواب دیا کہ ایسا کہنے والے کو روکا جائے گا۔ اور ابن عطاء سے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ جواب تو وہی ہے جو حلاج نے کہا ہے۔ اس بناء پر اسے مزا دی گئی جو اس کی موت کا سبب ہو گئی۔

ابو عبد الرحمن السلمی نے محمد بن عبد الرحمن الرازی سے بیان کیا ہے کہ حامد بن العباس وزیر نے جب حلاج کو بلوکر اس کے اعتقاد کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے اقرار کر لیا اور یہ لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد بغداد کے فقهاء سے سوال کیا تو ان تمام فقهاء نے اس عقیدے کو غلط بتایا کہ جو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہے۔ اس فتویٰ کو وزیر نے لکھ لیا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو العباس بن عطاء کا بھی تو یہی عقیدہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہے۔

اس کے بعد وزیر نے عطاء کو اپنے گھر بلوایا، وہ آکر مجلس کے بیچ میں بیٹھ گیا، تب ان سے حلاج کے قول کے بارے میں دریافت کیا تو جواب دیا کہ جو کوئی ایسی بات کہتا ہو، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وزیر نے ابن عطاء سے کہا، تمہارا براہو تم نے اس جیسے قول کو درست کہ دیا۔ ابن عطاء نے کہا، آپ کو ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے ان کاموں کو انجام دیں جو آپ کے ذمہ ہیں۔ یعنی لوگوں کے مال بزور لینا۔ ان پر ظلم اور قتل کرنا۔ آپ کو ان اولیاء کے سرداروں کی باتوں سے کیا مطلب ہے؟ تب وزیر نے ان کے جزوں کے چیزیں اور جو تے اتارنے اور ان جتوں سے ان کے سروں کو پینے کا حکم دیا اور ان کاموں پر عمل ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے نہنوں سے خون بننے لگا۔ پھر قید خانہ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ

عام انسان تھمارے ان کاموں سے گھبرا نکیں گے اور کوئی بھی خوش نہ ہو گا۔ اس لیے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس وقت اس عطا نے کہا، اے اللہ! اے قتل کروادے، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوادے۔

اس واقعہ کے سات دنوں کے بعد ابن عطاہ مر گیا۔ اس کے پچھوں دنوں کے بعد یہ وزیر بھی بہت بڑی طرح قتل نیا کیا۔ اس کے دنوں ہاتھوں اور دنوں پیروں کاٹے گئے۔ اور اس کا گھر جلا دیا گیا۔ عوام نے اپنی خادت کے مطابق ظالموں کو مظلوموں کے ساتھ کرتے ہوئے وزیر کے اس انجام کو ابن عطاہ کی بد دعا کا اثر بتلایا، بلکہ علماء کے اس طبقہ نے بھی، جن پر ظلم کیے گئے ہیں۔ مثلاً ابن عربی یا حسین حلاج نے بھی اس قسم کی باتیں کہی ہیں کہ یہ فلاں کی بد دعا کا اثر ہے۔

بانیہمہ بغداد کے تمام علماء حلاج کے کفر اور اس کے زندقة پر متفق ہیں۔ اور اس کے قتل کیے جانے اور رسولی پر چڑھائے جانے پر بھی سب متفق ہیں۔ لیکن بغداد کے علماء اس وقت دنیادار تھے۔

ابو بکر محمد بن داؤد طاہری سے اس وقت سوال کیا گیا تھا، جبکہ حلاج کو ان ابو بکر کی وفات سے پہلے پہلی مرتبہ لایا گیا تھا تو کہا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے نبی پر جو کچھ نازل کیا اور وہ جتنے احکام لے کر تشریف لائے، سب برق ہوں تو حلاج جو کچھ بھی کہتا ہے، سب باطل ہے۔ اور اس معاملہ میں وہ بہت سخت تھے۔

ابو بکر صولی نے کہا ہے کہ میں نے حلاج کو دیکھا ہے اور اس سے گفتگو بھی کی ہے۔ وہ بالکل جاہل تھا، مگر عقلمند بنتا تھا، حد درجہ کا غبی تھا، اپنے خبیث کاموں اور باتوں کا مدعا تھا، نیا دار تھا مگر دنیا سے کنارہ کشی ظاہر کرتا تھا۔ فاجر تھا، مگر عبادت گزار بنتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ چار دنوں تک اسے سولی پر چڑھایا گیا، اس کے کروتوں کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر سولی کے تحفہ کی طرف نیل پرسوار کر کے اسے لاتے وقت، کسی نے اسے یہ کہتے ہوئے بھی سنائے کہ میں حلاج نہیں ہوں، وہ تو مجھے اپنی صورت کا بنا کر خود غائب ہو گیا ہے اور جب تختہ دار پرسولی کے لیے اسے قریب کیا گیا تو میں نے اسے سولی پر چڑھے ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہوئے سنائے اے مجھ پر فنا طاری کرنے میں مدد دینے والے میرے فنا میں میری مدد کر۔

کچھ دوسرے لوگوں نے اسے سولی پر لٹکے ہوئے ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہوئے سنائے اے میرے اللہ! میں دارالرغائب میں پہنچ گیا ہوں، بجا بات دیکھ رہا ہوں، اے میرے معبدو! تو اس سے بھی پیار کرتا ہے جو تجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس شخص کے ساتھ تیری اکیسا سلوک ہو گا جسے تیری راہ میں سولی دی جا رہی ہو۔

## حلاج کے قتل گاہ کی صفتیں

خطیب بغدادی وغیرہ نے کہا ہے کہ حلاج جب آخری مرتبہ بغداد آیا تو وہاں کے صوفیوں کی صحبت میں رہا اور ان کی طرف منسوب ہوا۔ اس وقت کا وزیر حامد بن العباس تھا۔ اسے یہ خبر پہنچی کہ حلاج نے شاہی تلخ کے امراء حکام اور دربانوں اور نصر القشوری دربان کے غلاموں میں سے بہت سے لوگوں کے عقیدے خراب کر دیئے ہیں، اور ان کے سامنے جو دعوے کے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جنات اس کی خدمت کرتے ہیں اور جو کچھ چاہتا اور پسند کرتا ہے وہ جنات

سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں۔ اور بھی دعویٰ کیا کہ وہ بہت سے پرندوں کو زندہ کر چکا ہے۔ علی بن عسیٰ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن علی الفناںی الکاتب ہے، وہ حلاج آن عبادت کرتا ہے اور نو گوں کو اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اسے بلوایا، اور اس کے گھر پر چھاپ مار کر اس کے پکڑ لیا، تو اس نے یا اقرار کیا کہ وہ حلاج کے آہمیوں میں سے ہے۔ اس موقع پر اس کے گھر سے حلاج کے کچھ خطوط ملے جو سونے کے پالی سے سونے کے پتے پر لکھے ہوئے تھے اور قسمی چڑی سے اس کی جلد بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کچھ ایسے برتن ملے جن میں حلاج کے پاخانے اور پیشاب کے علاوہ اس کی دوسری یادگاریں، اس کے کھانے سے بچی ہوئی روٹی کے لکڑے وغیرہ بھی تھے۔ اس وقت مقتدر نے وزیر کو حلاج کے معاملہ میں گفتگو کے لیے بلوایا اور اس کے معاملہ کو اس کے سپرد کر دیا۔ تب اس نے حلاج کی جماعت کے لوگوں کو بلوا کر انہیں دھمکایا تو ان لوگوں نے اس بات کی صحت کا اقرار کیا کہ وہ خدا کے ساتھ ایک خدا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے حلاج کے سامنے ان باتوں کا اقرار کیا اور اس کے منہ درمنہ اس پر ازالہ لگایا۔

اس کے باوجود حلاج نے ان باتوں کا انکار کر دیا، اور لوگوں کو جھلدا دیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی ربویت یا نبوت کا جوئی کروں، میں تو ایک انسان ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اکثر روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور نسلی کے کام کرتا ہوں۔ میں ان کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہوں اور شہادتیں اور توحید کے علاوہ اس نے کچھ اور نہیں پڑھا۔

پھر زیادہ تر یہ دعا میں پڑھتے گا: ”اے میرے معبود، تباک ہے، تیرے سوا کوئی معبد نہیں، میں نے برے کام کیے، اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں، تو میری مغفرت کر کر تیرے سوا کوئی دوسرا مغفرت نہیں کر سکتا ہے۔“ اس کے بدن پر سیاہ زرہ تھی، پیروں میں تیرہ بیڑیاں تھیں، اس کی وہ زرہ اس کے گھنٹوں تک پہنچی ہوئی تھی اور بیڑیاں بھی گھنٹوں تک آئی ہوئی تھیں۔ ان باتوں کے باوجود وہ روزانہ ایک ہزار کعتیں نفل نماز پڑھا کرتا تھا۔

اس وقت جبکہ حامد بن عباس وزیر نے حلاج کو نصرالقشوری الحاجب کے گھر میں مقید کیا تھا، اس کے قبل تک ہر شخص کو اس کے پاس جانے کی عام اجازت تھی، وہ خود کو کبھی حسین بن منصور کہتا تو کبھی محمد بن احمد الفارسی کہا کرتا تھا۔ یہ نصرالحاجب اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا یہ تو اسے ایک تین آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے اسے مقتدر باللہ کے دربار میں پہنچا دیا تھا اور اس نے مقتدر کو ایک تکلیف میں مبتلاء پا کر پھونک ماری تھی جس سے اتفاقاً سے خفاء بھی ہو گئی تھی۔ اس طرح مقتدر کی والدہ محترمہ کو کسی موقع سے جھاؤ دیا تھا جس سے اس کی بھی تکلیف دور ہو گئی تھی۔ ان باتوں نے اس کا وہاں نام ہو گیا اور شاہی قلعہ میں اس کی اہمیت بہت ہو گئی تھی۔ مگر جب اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہونے لگا تو اسے حامد بن العباس وزیر کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وزیر نے اس کے پاؤں میں بہت سی بیڑیاں ڈال کر مقید کر دیا۔ اور اس کے بارے میں علاقہ کے تمام فقہاء کو جمع کیا، جنہوں نے متفقہ طور پر اس کے کفر اور زندقة پر فیصلہ دیا اور یہ کہ وہ جادوگر اور شعبدہ باز بھی ہے۔ اس کے ماننے والوں میں سے ان دو شخصوں نے ابوعلی ہارون بن عبد العزیز الاوارجی اور دوسرا شخص جسے الدباس کہا جاتا تھا، اس کی جماعت سے رجوع کر لیا

تھا، جب بعد میں اس کی برائیاں بیان کرتے اور یہ کہ وہ لوگوں کو کس طرح جھوٹ، مکاری، شعبدہ بازی اور جادو کے عمل سے اپنی طرف مائل کرتا تھا۔

اسی لیے اس کے بیٹے سیہمان کی بیوئی نے بھی اس کی بہت سی برائیاں بیان کیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی نیند کی حالت میں وہ اس کے پاس آ کر حرام کاری کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس محورت کی آنکھ کھل گئی تو کہنے لگا کہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ، حالانکہ اصل مقصد پچھا اور تھا۔

اسی طرح اس کی بیٹی کو حکم دیا کہ اسے بجدہ کرے تو اس نے جواب دیا کہ کیا انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو بھی بجدہ کرتا ہے اس پر اس نے کہا کہ ہاں کیونکہ ایک خدا آسمان میں ہے تو دوسرا خدا (یعنی میں) زمین میں ہے۔ پھر اسے حکم دیا کہ اس چٹائی کے نیچے سے جو چاہو نکال لو۔ تو اس کے نیچے تھلی میں رکھے ہوئے بہت سے دامл گئے۔

اس وقت جبکہ یہ حامد بن العباس وزیر کے گھر میں مقید تھا، اس کے پاس ایک شخص گیا جس کے ہاتھوں میں کھانے کا طشت تھا اس کے کھانے کے لیے۔ لیکن گھر میں جانے کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ وہ تو اپر سے نیچے تک بالکل بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص گھبرا کر ڈرتا ہوا زور سے وہاں سے بھاگ آیا اور ہاتھ میں جو پکھ کھانا اور طشت تھا، سب کو زمین پر پھینک دیا۔ اس طرح گھبراہٹ کی وجہ سے اسے بخارا آگیا جو کئی دونوں تک لگا رہا۔

اس کے سلسلہ میں مختلف مجلسیں ہوئی تھیں، ان میں سے آخری مجلس میں قاضی ابو عمر محمد بن یوسف بلوانے گئے ساتھ ہی حلاج کو بھی سامنے لایا گیا۔ ساتھ ہی کسی ماننے والے کے گھر بے پچھ خطوط لائے گئے تھے، جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس کسی نے حج کا ارادہ کیا مگر وہاں جانا اس کے لیے آسان نہ ہوا تو اسے چاہنے کے وہ اپنے گھر میں ایک ایسا کمرہ خاص کر لے، جس میں کسی قسم کی ناپاکی کا کوئی اثر نہ ہو اور کسی دوسرے کے لیے اس میں داخل ہونا ہمیں ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد حج کے ایام آنے سے یہ شخص تین روزے رکھے اور اس کمرہ کا اسی طرح طواف کرے جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام کام وہاں کرے جو ایک حاجی مکرمہ میں کیا کرتا ہے۔ پھر تیس شبیوں کو بلا کر انہیں وہی کھلانے جو خود کھاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان سبھوں کی خدمت کرے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک قیص پہنانے اور ہر ایک کو سات سات درہم دے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تین تین درہم دے۔ اتنا کر لینے سے حج کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور جو متواتر تین دن روزے رکھ کر کاسنی کے پتے سے افطار کرے گا تو یہ روزے پورے رمضان کے روزوں کے رباہر ہو جائیں گے۔ اور جو شخص ایک رات میں دور کر گئی نماز اتنی لانبی پڑھے جو رات کے پہلے حصہ سے آخری حصہ تک کی ہو تو یہی نماز بعد کی نماز کے عوض بھی ہو جائے گی، اور جو شخص تمام شہیدوں اور قریش کے شہداء کی قبروں کے پاس دس دن اس طرح گزارے کہ وہاں نمازوں پڑھتا رہا، دعا میں کرے روزے رکھے اور صرف جو کی روٹی اور پے ہوئے نمک سے افطار کرے اللہ اس کو اس کی بقیہ زندگی کی عبادت سے بے نیاز کر دے گا۔

یہ سن کر قاضی ابو عمر نے اس سے سوال کیا کہ تم کو یہ بتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ اس نے کہا، حسن بصری کی کتاب

الأخلاق سے۔

تب قاضی نے اس سے کہا۔ اے الدم! (اے وہ شخص بس کا خون حلال ہے) تو جھوٹا ہے، ہم نے بھی مسن بصری کی کتاب الأخلاق مکمل کر دیں رہتے ہوئی سنی ہے۔ مگر اس میں تو اس فحسم کی کوئی بات نہیں ہے۔

جملہ کے ختم ہوتے ہی وزیر نے قاضی صاحب کی طرف دوات اور کاغذ بھی رکھ دیئے اور اس پر اصرار بھی کیا۔ چنانچہ قاضی نے اس کاغذ پر وہ لفظ لکھ دیا۔ اس کے بعد جتنے حاضرین تھے ان سبھوں نے بھی اپنے اپنے وظائف کر دیئے۔ پھر وزیر نے وہ تحریر خلیفہ کے پاس بھیج دی۔ اس وقت حلاج کہنے لگا، میری پیشہ محفوظ اور میرا خون حرام ہے اور تم فرضی طور پر کوئی الگی تاویل نہ کا لو جو حرام خون کو حلال نہ کر دے۔ میرا اعتقاد اسلام کا ہے۔ میرا نہ ہب المیں سنت کا ہے اور صحابہ کرام شاہین میں ان حضرات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمٰن بن عوف ابی عبدیہ بن الجراح کے بقیہ سب پر افضلیت حاصل ہے اور میری کتابیں المیں سنت کے مسلک کے مطابق لوگوں کے پاس محفوظ ہیں۔ اس لیے میری حفاظت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات پر مطلقاً توجہ نہ دی، اور نہ اس کی کوئی بات سنی اور وہ اپنی بات بار بار کہتا رہا۔ ادھروہ لوگ اس کے سارے خطوط لکھتے رہے۔ اس بعد حلاج کو جیل خانہ میں واپس بھیج دیا گیا۔ مگر خلیفہ کی طرف سے جواب آنے میں تین دنوں کی تاخیر ہو گئی۔ جس کی وجہ سے وزیر جامد بن العباس کو بدظنی ہو گئی۔ اس لیے دوبارہ خلیفہ کو یہ لکھا کہ حلاج کا معاملہ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے اور اس معاملہ میں کوئی دو افراد میں بھی مختلف نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنہ میں پڑھ کچکے ہیں۔

اس کے بعد خلیفہ کا جواب اس مضمون کا آیا کہ حلاج کو محمد بن عبد الصمد کو تو اس کے حوالہ کر دیا جائے، اور وہ اسے ایک ہزار کوڑے مارے اور وہ اس مارے مر جائے تو بہتر ہے ورنہ اس کی گردن اڑ لائی جائے۔

اس جواب سے وزیر بہت خوش ہوا، اور کو تو اس کو بلا کر اس کے حوالہ کر دیا۔ ساتھ ہی بہت سے مخالفین بھی مغربی سمت میں تھانے تک لے جانے کے لیے متعین کر دیئے تاکہ اس کے ہاتھ سے اسے کوئی چھین کرنے لے بھاگے۔

یہ واقعہ سالِ رواں کے ماہ ذی القعده کی چوبیسواں تاریخ منگل کی رات عشاء کے بعد کا ہے۔ حلاج کو اس طرح لے جایا گیا کہ وہ گدھے پر سوار تھے، جس پر زین رکھا ہوا تھا، اور اس کے چاروں طرف سیلست دنوں کی ایک بھیزتی جو اسی کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ اب اس رات اسے تھانے میں ٹھہرایا گیا۔

اس موقع پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ حلاج اس وقت پوری رات نماز پڑھتا رہا اور دعا کیں مانگتا رہا۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا ہے کہ میں نے ابو بکر الشاذی کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ ابو الحدید المصری نے کہا ہے کہ وہ رات جس کی صبح کو حلاج کا قتل ہونا تھا، پوری رات حلاج خواہش کے مطابق نمازیں پڑھتا رہا۔ رات کے آخری حصہ میں سیدھا کھڑا

لے یہ عبارت مصری نہیں ہے۔

ہو کر چادر سے خود کو ڈھانپا پایا، اور قبلہ کی طرف باتھ بڑھا کر ایسے کلام منہ سے نکالے جو یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ ان میں سے جو کچھ میں یاد رکھ سکا وہ یہ ہے: ہم تیرے گواہ ہیں اے کاش تو ہمیں اپنی قدرت کے مشاہدہ کی راہ تادیتا۔ تاکہ تو اپنی شان اور مرغیٰ تو ہمارے سامنے ظاہر کر دیتا تو ہی وہ ہے جو آسمان میں بھی معبدوں ہے اور زمین میں بھی معبد ہے۔ تو جس پر چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق جعل کرتا ہے، بہتر سے بہتر صورت پر اور صورت کے اندر روح ناطقہ رکھی، جس میں علم، یا ان اور قدرت محفوظ رکھی ہے۔ پھر مجھے تیرے مشاہدہ کا اشارہ کیا گیا۔ کیونکہ میں تیری ذات کا عاشق ہوں۔ کیا حال ہے تیرا جبکہ تو نے میری ذات کو ایک صورت دی، میری لذتوں کو موثر ہونے کے وقت اور تو نے میری ذات کو میری ذات کی طرف دعوت دی۔ اور تو نے میرے علوم اور میرے مجردوں کی حقیقوں کو ظاہر کیا ہے۔ میری ازلی چھتوں کی طرف معراج میں جاتے ہوئے میری تراش خراش سے منہ موزتے ہوئے۔

اس وقت میں جان کئی کی حالت میں ہوں، قتل کیا جاؤں گا سولی پر چڑھایا جاؤں گا اور تیر ہوا میں میری راکھ کو اڑائے جائیں گی اور ندیوں میں بھاہ دیا جاؤں گا، اور اس میں سے جو ذرہ نقش جائے گا وہ سکھیا کے قائم مقام ہو کر مجھے روشنی دینے والا ہو گا، بڑے سے بڑے پیاروں کے لیے۔ پھر وہ یہ اشعار پڑھنے لگا:-

۱۔ انعی الیک نفوسا طاح بناهدہا      فیما ورا الحجیث بل فی شاهد القدم

بترجھتہ: میں تجھے ایسی شخصیتوں کی موت کی خبر دیتا ہوں جن کو دیکھنے والا جیران و پریشان ہے۔ وجود زمانہ کے پہلے سے بلکہ اس کی قدر امرت، سے مشاہدہ میں۔

۲۔ انعی الیک قلوبًا طالما هطلت      سحائب الوحی فیها ابحر الحكم

بترجھتہ: میں تجھے ایسی شخصیتوں کی موت کی خبر دیتا ہوں کہ بسا اوقات وحی کے بادلوں نے ان میں حکتوں کے سمندر بھاہ دیئے ہیں۔

۳۔ انعی الیک لسان الحق منک ومن      او دی و تذکارہ فی الوهم كالعدم

بترجھتہ: حق کی زبان کے پروانے کی خبر دیتا ہوں اور اس شخص کی موت کی بھی جو بلاک کر دیا گیا ہے حالانکہ اس کی یادیں وہم میں نہ ہونے کی مانند ہیں۔

۴۔ انعی الیک بیانًا استکین لة      اقوال کل فصیح مقول فهم

بترجھتہ: میں تجھے ایسے بیان کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانے کی خبر دیتا ہوں جس سے سکون حاصل کرتے تھے، ایسے لوگوں کے کلام جو حق ہوں، بہت بولنے والے ہوں اور سمجھدار ہوں۔

۵۔ انعی الیک اشارات العقول معاً      لم یبق منهن الا دارس العلم

بترجھتہ: میں تجھے ایک ساتھ ساری عقولوں کے اشاروں کی موت کی خبر دیتا ہوں کہ ان میں سے اس کے سوا اور کوئی نہیں بچا جو علم کا ہمیشہ چرچا کرتے رہنے والا ہو۔

۶۔ كانت عطاء ياهه م. مكيد الكاظم انفعي، حتى احلاق العطائفة

**ترجمہ:** میں تجھے ایک الیٰ جماعت کے اخلاق سے محبت پرموت کی خبر دیتا ہوں جن کی سواریاں خاموش ہونے والے کو علمیں بنانے والی ہیں۔

۷۔ منسى الحميم فلا عين ولا اثر مضى عاد و فقد ان الاولى ارم

**ترجمہ:** اگلے سب چلے گئے اب نہ اصل باقی ہے اور نہ نشان قوم عاد بھی گز رگی اور ارم والے بھی ختم ہو گئے۔

۸۔ و خلفوا معشرا يخذون لبستهم اعمى من البهم بل اعمى من النعم

**ترجمہ:** اور انہوں نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑا جوانہ کے لباس کو پہننے ہیں، مگر وہ بکریوں سے بلکہ اونٹوں سے بھی زیادہ اندھے ہیں۔

لوگوں نے کہا ہے کہ جب حلاج کو اس کے رہنے کے کرہ سے نکال کر اسے قتل کے لیے لوگ لے جانے لگے تو اس نے یہ اشعار پڑھے ہے

۹۔ طلبت المسقير بكل ارض فَلَمَّا رأى بارض مستقرًا

**ترجمہ:** میں نے ساری روئے زمین میں اپنا مکان نہ ہو ڈھا لیکن کہیں بھی مجھے اپنا مکان نہ ملا۔

۱۰۔ و ذقت من الزمان و ذاق مني وجدت مذاقه حلوا و مرًا

**ترجمہ:** میں نے زمانہ کا مزہ چکھا اور اس نے بھی مجھے چکھا میں نے اس کا مزہ میٹھا اور کھاد و نوں تم کا پایا۔

۱۱۔ اطعث مطامعى فاستعبدتني ولو انى قنعت لعشت جرا

**ترجمہ:** میں نے اپنے تمام خواہشات کی اطاعت کی، اس لیے خواہشات نے مجھے اپنا غلام بنالیا۔ لیکن اگر میں قناعت کرتا تو آزادی کی زندگی گزارتا۔

بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جب سولی کے تختہ دار پر آ گیا تھا، اس وقت یہ اشعار کہے ہیں۔ لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔

جب اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لوگوں نے نکلا، وہ ناز کے ساتھ پیدل چل کر آیا، اس حال میں کہ اس کے دونوں

پاؤں میں تیرہ بیڑیاں تھیں، پھر جھوٹا ہوا یہ اشعار کہنے لگا۔

۱۲۔ نديمي غير منسوب الى شيء من الحيف فلما ذكرت الكاس و عسى بالطبع والسيف

**ترجمہ:** میرا ہم نہیں کسی بھی ظلم کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن جب پیالہ گردش میں آیا اس وقت اس نے چڑے کے ساتھ تو اس کی ملگوائی۔

۱۳۔ سقالى مثل ما يشرب فعل لضيف لي ضيف كذا من يشرب الراح مع التين فى الصيف

**ترجمہ:** مجھے شراب اس طرح پلائی جس طرح ایک مہماں دوسرے مہماں کو پلاتا ہے، اس طرح وہ شخص جو گری کے موسم میں اڑدھے کے ساتھ ہو کر خالص شربت پیتا ہے۔

یہر یہ آیت تلاوت کی نستعلیک حجۃ الالٰۃ ... اللہ۔ اس کا ممکن جملہ ہے وہ لوگ چاہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لا سکتے ہیں اس سے وہ حجراستے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بحق ہے۔ اس نے بعد اس کے ساتھ جو پتھ بھی ہوا وہ بالکل خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اس وقت اسے ایک ہزار توڑے مارے گئے۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اور دلوں پیر کاٹے گئے۔ وہ بالکل چپ سادھے رہا ایک حرف نہ بول اور اس کے چہرہ و کارٹنگ ذرہ بھی نہ بدل۔ البتہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہر کوڑے کے ساتھ احمد احمد کہتا رہا۔

ابو عبد الرحمن نے کہا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن علی کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ علی قصاریہ کہتے تھے کہ علاج کو جس وقت قتل کیا جانے لگا، اس کا آخری کلمہ یہ تھا۔ وہ ذات واحد کافی ہے، مستحق وحدانیت وہی ہے۔ اس کا یہ آخری بول جس کو کسی شیخ نے بھی سنائے کے لیے اس کا دل پیچ گیا، اور اس کے اس کلام کو بہت پسند کیا۔

اور سلمی نے کہا ہے کہ میں نے ابو بکر المخالی کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میں نے ابو الفاتح بغدادی کو یہ کہتے ہوئے سنائے جو کہ علاج کے مانے والوں میں سے تھا کہ میں نے علاج کے قتل کے قسم دونوں کے بعد خواب میں دیکھا گویا میں اپنے رب عزوجل کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اے میرے رب! حسین بن منصور کے ساتھ کیا گیا۔ تو جواب دیا کہ میں نے اس پر ایک چیز کا مکافہ کیا۔ لیکن اس نے مخلوق کو اپنی طرف دعوت دے دی۔ اس لیے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ تم نے دیکھ لیا۔

کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ علاج آخری وقت میں بیت زیادہ گھبرا�ا اور بہت زیادہ رویادھو یا تھا۔ واللہ عالم اور خطیب نے کہا ہے کہ ہم سے عبد اللہ بن احمد بن عثمان الصیرفی نے بیان کیا ہے کہ ہم سے ابو عمر بن حیویہ نے کہا ہے کہ جب حسین بن منصور احلاج کو قتل کے لیے نکلا گیا تو میں بھی اس بھیڑ میں چڑھ رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر میں بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے مانے والوں کو تیسکین دے رہا تھا کہ تم لوگ میری وجہ سے نہ گھبراؤ کہ میں صرف میں دونوں کے بعد تمہارے پاس واپس آ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ قتل کر دیا گیا، مگر آج تک واپس نہ آیا۔

اور خطیب نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت علاج کو کوڑے مارے جانے والے تھے، اس نے کوتوال سے کہا کہ تم مجھے اپنے قریب بلاو کہ میرے پاس ایک ایسی عمدہ نصیحت کی بات ہے جو فتح قسطنطینیہ کی خوشی کے برابر ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ پہلے سے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس قسم کی باتیں کرو گے۔ اور اب مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تمہارے کوڑے کی سزا موقوف کر دوں۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے، آخر میں اس کا سرکاث کر بقیہ دھڑے کو آگ لگادی گئی، اور اس کی راکھ دجلہ میں بہادری گئی اور سر کو بغداد کے پل کے اوپر دو دونوں تک لٹکا کر برکھا گیا۔

اس کے بعد خراسان بھیج کر اس کے تمام علاقوں میں گشت کرایا گیا۔ اس کے مانے والے میں دونوں کے بعد اس کی

والپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کسی نے یہ بھی کہا۔ یا کہ آخوند ہوں میں اسے نہ روان کے راستے میں گدھے پر سوار حالت ہوئے دیکھا۔ بھی ہے۔ اس یہ حلاظ نے کہا کہ شاید تم بھی ان لوگوں میں ہو جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ فی الواقع مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ حاصل نکل ابھی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنا عالم آئی شخص پرداں دیا تھا اور ہم شخص قتل کیا گیا ہے۔

او، کچھ لوگ اپنی جہالتوں کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ طلاق کے شہنوں میں سے ایک قتل کیا گیا ہے۔

یہ بات اس زمانہ کے کسی عالم سے کہی گئی تو جواب دیا کہ اگر وہ واقع صحیح ہو تو یقیناً شیطان نے حلاظ کی صورت بنائی ہے تاکہ اس طرح لوگوں کو بہکاسکے جیسا کہ نصاریٰ سولی کے معاملہ میں گمراہ کیے گئے ہیں۔

خطیب نے یہ بھی کہا ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس سال د جلد میں پانی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس بناء پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حلاظ کے بدن کی راکھ اس پر پڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس قسم کی واهیات باقی عوام میں بہت زیادہ اس وقت سے آج تک منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں۔

بغداد میں یہ عام اعلان کر دیا گیا کہ حلاظ کی کتابیں نہ تو خریدی جائیں اور نہ پیشی جائیں چو بیسویں ذی القعدہ تین سو نو ہجری منگل کے دن بغداد میں اس کو قتل نیا گیا۔

یہ بات ابن خلکان نے اپنی کتاب و فیات میں ذکر کی ہے اور اس معاملہ میں لوگوں کا اختلاف بھی ذکر کیا ہے۔

امام غزالی سے منقول ہے کہ انہوں نے مخلوٰۃ الانوار میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے کلام کو انہوں نے اچھے معنوں پر محمول کیا ہے۔

پھر ابن خلکان نے امام الحرمین کی رائے پیش کی ہے کہ وہ اس کی بہت برائیاں بیان کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ عجب اتفاق ہے یہ حلاظ جنابی اور ابین المقعن تینوں ہی لوگوں کے عقیدوں کے لگاؤ نے میں لگے ہوئے تھے اور مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے تھے۔ چنانچہ جنابی نے ہجر اور بحرین کو ابن المقعن نے ترکی شہروں کو اور حلاظ نے عراق کو پاناما رکز بنایا تھا۔ مگر یقین دونوں نے پہلے ہی اس کی بر بادی کی خبر دے دی تھی، کیونکہ عراق و اے باطل اور غلط باتوں سے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔

لیکن ابن خلکان نے اس پر اپنی رائے پیش کی ہے کہ یہ کہنا درست نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابن المقعن تو حلاظ سے بہت پہلے سفارج اور منصور کے زمانہ میں موجود تھا اور سن دوسو پینتالیس (۲۲۵) میں اس سے بھی پہلے وفات پا چکا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ امام الحرمین نے ابن المقعن سے وہ خراسانی شخص مراد لیا ہو جس نے رو بیت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کی عمر بہت طویل ہوئی تھی۔ اور اس کا اصل نام عطاء تھا اور اس نے خود کو ۲۳۱ھ میں تیر مار کر بلاک کر لیا تھا۔ لیکن اس کا بھی حلاظ کے زمانہ میں پایا جانا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں! اگر ہم امام الحرمین کے کلام کی صحیح کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تین اشخاص جو لوگوں کو گمراہ کرنے اور عقیدوں کو گمراہ کرنے پر ایک وقت میں متفق ہوئے تھے وہ حلاظ یعنی حسین بن منصور ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

اور ابن السمعانی یعنی ابو جعفر محمد بن علی اور ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید الحسن بن بہرام الجنابی القراطینی جس نے حجاج کو قتل کیا تھا، اور جرج اسود کو اٹھا لیا تھا، اور چاہو زمزم کو باث دیا تھا اور خانہ کعبہ کے پردے لوٹ لیے تھے۔ تو ان تینوں کا ایک وقت میں اجتماع

ممکن ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمنے یہ بات بالتفصیل بیان کر دی ہے اور یہی بات اہن خلاں نے مختصر ابیان کی ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابوالعباس بن عطاء:

جو صوفیوں کے ایک بڑے امام تھے۔

نام احمد بن محمد بن عطاء ادی ہے۔ یوسف بن موئی القطنان اور مفضل بن زیاد وغیرہما سے روایت حدیث کی ہے۔ بعض گمراہ عقیدوں میں حلاج کا موافق تھا۔ یہ ابوالعباس ہر روز ایک قرآن ختم کرتا اور خاص رمضان کے مہینہ میں چوبیس گھنٹوں میں تین ختم کرتا اور یہ تم قرآن کے وقت معانی میں تدریج اور غور و خوض بھی کرتا۔ آخری عمر میں اپنی بعد عقیدگی کے سترہ سال اسی طرح گزارے کہ ان میں ایک بار بھی ختم نہ کرسکا اور مر گیا۔

یہ شخص بھی ان لوگوں میں تھا جس پر حلاج کی حقیقت واضح نہیں ہو سکی تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنی موافقت ظاہر کر دی تھی۔ اس لیے حامد بن عباس نے اس کے دونوں جنمیوں پر زبردست چوتھ لگائی اور اس کے جو تے انکا کرانہیں سے اس کے سر پر مارنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں اس کے نہنٹوں سے خون بہنے لگا۔ پھر سات دنوں کے بعد مر گیا۔ آخر میں اس وزیر کے خلاف یہ بدُعا کی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا نہ جائیں اور بری حالت میں قتل کیا جائے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وزیر ٹھیک اسی طرح مارا گیا۔

اس سال اور بھی وفات پانے والے یہ ہیں: ابوسحاق بن ہارون العلیب الحراشی اور ابو محمد عبد اللہ بن حمدون الندیم۔



## واقعات — شہر

اس سال یوسف بن ابی الساج کو پابندی سے رہائی دی گئی، اور اس کے اموال اسے واپس کر دیئے گئے اور اسے اپنی ذمہ داریوں پر بحال کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ذمہ داریوں میں دوسرے شہر بھی داخل کر دیئے گئے اور سالانہ پانچ لاکھ دینا راس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جسے وہ اپنے گھر لے جاتا۔

ایک دن اس نے منس خادم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ابو بکر بن الادمی القاری کو اس کے پاس بیٹھ ج دے۔ کیونکہ ۲۶۱ شہر کی نظر بندی کے زمانہ میں اس سے یہ چند آیتیں:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْدُرِبُكَ إِذَا أَخْدَقَ الْقُرْبَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾

”تمہارے رب کی پکڑا یسی ہی ہوتی ہے جب کہ وہ کسی قوم کو اس کے ظلم کی حالت میں پکڑتا ہے“ پڑھی تھیں۔

مگر اس یوسف بن ابی الساج کے رعب اور بد بکار وجہ سے یہ قاری اس کے پاس جانے سے ڈر گیا اور منس خادم کو وہاں جانے سے معافی کی درخواست کی تو منس نے اس کی ہمت بڑھانے کو کہا، وہاں جاؤ، میں بھی انعام میں تمہارے ساتھ شریک رہوں گا۔ اس قاری نے اس حاکم کے پاس پہنچ کر یہ آیت تلاوت کی۔

﴿وَقَالَ الْمُلْكُ اثْنَوْنَيْ بِهِ اسْتَخْلَصَةً لِنَفْسِي﴾ [ب ۱۲ کوוע ۱]

بادشاہ مصر نے کہا، اس کو تم میرے پاس لے کر آؤ کہ اسے اپنے پار منتخب بنا کر رکھوں گا۔

لیکن حاکم نے آیت سن کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہی دس آیتیں نیبری توبہ اور اللہ کے پاس رجوع کا سبب بنی تھیں۔ اس کے بعد اس قاری کو بہت سے انعام دینے کا حکم دیا اور اچھا سلوک بھی کیا۔

اس سال علی بن عیسیٰ وزیر بیمار پڑ گیا تو ہارون بن المقدہ راس کی عبادت اور اپنے والد کا سلام اس کے پاس پہنچانے لگا۔ یہ سن کر اس کے لیے راستہ سجاد دیا۔ جب وہ اس کے گھر کے قریب پہنچا تو وقوف کے باوجود یہ خود اس کے استقبال کو نکلا۔ ملاقات کے بعد اپنے والد کا سلام پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ منس خادم بھی تھا۔

اس کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ خلیفہ خود اس کی عیادت کو آنا چاہتا ہے تو منس خادم نے اس کی معافی چاہی۔ پھر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے خود سوار ہو کر گیا اور خلیفہ کو سلام کیا تاکہ اس کے پاس اسے آنے کی زحمت نہ ہو۔

اسی سال ام مولیٰ فہرمانہ اور اس کے خاص لوگوں کو گرفتار کر کے اس کی جائیداد بیت المال میں جمع کر دی گئی، جو دس لاکھ دینا رکی تھی۔

اور پنجم الاول کی میسویں تاریخ جمعرات کے دن خلیفہ مقتدر نے ابو الحسین عمر بن علی الشیعیانی کو جوابن الاشنانی کے نام

سے مشہور تھے۔ منصب خلافت پر مامور کیا۔ یہ حافظ حدیث اور تمام اوقاعوں میں بڑے فتح تھے، لیکن تمیں ہی دنوں کے بعد انہیں معزول کر دیا۔ اس سے پہلے، وبغداد کے محکب تھے۔

اسی سال جمادی الآخرۃ میں برق سنبلہ میں ایک ایسا تارہ نمودار، و اتحا، جس کی دم دو ہاتھ تھیں۔

اس سال شعبان کے مہینہ میں نائب مصطفیٰ بن الماردانی کی طرف سے بہت سے ہدایا پہنچا تھے، جن میں ایک ماہ نجیر اس کے ساتھ اس کا پہنچ بھی تھا۔ اور ایسا غلام تھا جس کی زبان اس کے ناک کے کنارہ تک پہنچ جاتی تھی۔

اسی سال رومی علاقوں سے مسلمانوں کو جو کچھ فتوحات حاصل ہوئی تھیں، ان کی ایک تحریری فہرست تمام منبروں پر پڑھ کر سنائی گئی تھی۔

اسی سال یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ ”واسط“ کے علاقے کے سڑھ مقامات میں زمین میں شکاف پڑ گئے ہیں۔ جن کی مقدار زیادہ سے زیادہ ایک ہزار گزا در کم سے کم مقدار دو سو گز تھی۔ اور بڑے بڑے دیہاتوں سے تیرہ سو دیہات غرق ہو گئے۔

اس سال اسحاق بن عبد الملک ہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اور اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### ابو بشر الد ولابی:

نام محمد بن احمد بن حماد ابو سعید ابو بشر الد ولابی ہے، انصاریوں کے آزاد کرده تھے۔ اور رواق کے نام سے مشہور تھے۔ حفاظ حدیث میں ایک بڑے امام تھے۔ تاریخ وغیرہ میں ان کی عمدہ تصنیفات ہیں۔ بہت سے لوگوں سے روایت حدیث کی ہے۔ اہن یونس نے کہا ہے کہ یہ بہت جیخ کر با تین کرتے تھے۔ جج کے لیے ماوذی القعدہ میں جاتے ہوئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام عرج میں وفات پائی۔

### ابو جعفر بن جریر الطبری:

نام محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب امام ابو جعفر طبری ہے، ان کی ولادت سن دو سو چو میں ہجری میں ہوئی۔ گندی رنگ بڑنی آنکھوں والے، نمکین چہرہ، دراز قد، اور فضیح اللسان تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے، طلب حدیث کے سلسلہ میں دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ بڑی جامع تاریخ کی ایک کتاب تصنیف کی۔ ان کی ایک تفسیر ”الکامل“ ہے جس کی کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اصول اور فروع میں ان کی بہت سی مفید تصنیفات ہیں، ان سب میں بہتر ”تجذیب الآثار“ ہے۔ اگر یہ مکمل ہو گئی ہوتی تو دوسری کتاب کی حاجت نہ ہوتی، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی، مگر افسوس ہے کہ اسے وہ مکمل نہ کر سکے۔

ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ یہ متواتر چالیس برس تک کتابیں لکھتے رہے۔ ہر روز کتابت کا او سط چالیس اوراق

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ انہوں نے بغداد اپنا وطن بنایا تھا اور آخرو قت شک و میں رہتے۔ علماء کے ایک ہوئے امام تھے۔ ان کا قونسی حکم ہوتا اور ان کی معرفت اور فضل اور طرف یوں تصریح رہ جوں ہیا جاتا۔ انہوں نے اتنے معلوم منع کر لیے تھے کہ ان سروچہ قاتلوں کے مالک معاشریے و اقتدار کام کو اچھی طرح بانے والے تھے۔

اتنی طرح حدیث کی تمام قسموں کو اور صحیح و سقیم ناشی اور منسوخ کی پوری واقفیت تھی۔ سخاپ کرام شیعیم تابعین شیعیم اور ان کے بعد کے لوگوں کے اقوال کو اچھی طرح محفوظ کیا تھا لوگوں کے حالات اور ان کے واقعات سب کے عارف تھے۔

ان کی مشہور کتابیں یہ ہیں ”تاریخ الامم والملوک“، ”تفسیر الکامل“، اس جیسی تو کوئی تفسیر تصنیف بھی نہیں کی گئی ہے۔ ”تہذیب الآثار“، اس مضمون کی بھی دوسری کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ انہوں نے کہ اسے مکمل نہ کر سکے۔ فدقہ کے اصول و فروع میں بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں۔ ان سے کئی مسائل ایسے بھی جمع کیے کئے ہیں جن میں یہ مفرد ہیں۔

خطیب نے کہا ہے کہ مجھے شیخ ابو حامد احمد بن ابی طاہر فتحیہ اسفرائی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر کوئی شخص ابن جریر طبری کی تفسیر کے مطابع کی غرض سے چین جیسے و دراز علاقوں کا بھی سفر کرے تو بھی کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ اونکا قال۔

اور خطیب نے امام الائمه ابو بکر بن خزیمہ کے متعلق روایت کی ہے کہ انہوں نے محمد بن جریر کی تفسیر کو شروع سے آخوند کئی سالوں میں مطالعہ کیا ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ سارے روئے زین میں پر ابین جریر کے مقابلہ میں میں کسی کو بھی بڑا عالم نہیں مانتا ہوں۔ حنابلہ نے ان پر بہت ظلم کیا ہے۔ محمد نے ایک ایسے شخص کے لئے ملے میں کہا ہے جس نے مشائخ سے احادیث حاصل کرنے کے لیے بغداد تک سفر کیا۔ مگر ابین جریر سے ان کو سننے کا اتفاق نہ ہوا۔ کیونکہ حنابلہ ان کے ساتھ دوسروں کے ملنے میں رکاوٹ بنا کر رہ تھے۔ تو ابین خزیمہ نے کہا کہ اگر تم ان سے روایت حاصل کر لیتے تو دوسرے تمام ملتویات کے مقابلہ میں تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ ان کو عبادت زد پر بیہز گاری، اور حق کے لیے کھڑے رہنے میں کسی بھی ملامت گرائی ملامت سے کوئی اثر نہ ہوتا۔ تلاوت قرآن مجید میں آواز بھی بہت بہتر تھی۔ ساتھ ہی قرأت کے تمام طریقوں اور صفات کی بھی پوری معرفت حاصل تھی۔ یہ ہر یک لوگوں میں سے تھے۔

یہ ان محمد شیعین میں سے ایک تھے جو ابن طیوان کے زمانہ میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ یہ ہیں۔ محمد بن اسحاق بن خزیمہ امام الائمه، محمد بن نصر مروزی، محمد بن ہارون رویانی اور یہی محمد بن جریر طبری۔ ہم نے محمد بن نصر مروزی کے حالات کے ضمن میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

اور وہ بزرگ جنہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جس کی بدولت اللہ نے انہیں رزق بخشی دیا تھا، وہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ تھے۔ دوسرے قول یہ ہے کہ وہ محمد بن نصر تھے۔

ایک زمانہ میں خلیفہ مقید نے یہ ارادہ کیا کہ اقتاف کے مسلمین میں کوئی ایجمنٹ اسپر مرتباً کی جائی جس کی شرطیں تمام علماء میں مشقیں علیہا ہوں۔ تب الوہیں نے کہا کہ اس کام کو محمد بن جریر طبری کے ساتھ رائمنی شخص اپنی طرح انجام دیں گے۔ سلتے اس مشورے نے مطابق خلیفہ کے اس ساتھ مرتباً اپنی طرح انجام دیں گے۔ اس خلیفہ کے اپنی کام کا عمل نہیں۔ اس خلیفہ کے اپنی اپنے پاس بلوایا اور اپنے تردیک متحرب کیا اور ان سے کہا آپ اپنی کسی حاجت کا اخبار فرمائیں۔ جواب دیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا، کچھ تو آپ کو فرمائش کرنی ہی ہوگی۔ تب انہوں نے کہا، میں امیر المؤمنین سے درخواست کرتا ہوں کہ جماعت کے دن جامع مسجد کے مقصورہ میں لوگوں کو جانے کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت سے کوتاں کو روک دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس بات کا حکم دے دیا۔

یہ اپنی ضروریات زندگی اپنے گاؤں مغل سے پوری کرتے تھے جو ان کے والد نے ان کے لیے طہستان میں چھوڑ دی تھی۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

۱. اذا عَذَّتْ لَمْ يَعْلُمْ رِفْقِي وَاسْتَغْنَى فِيْسْتَغْنَى صَدِيقِي

ترجمہ: جب میں تنگ دست ہو جاتا ہوں اس وقت میرے دوست کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے اور جب میں مالدار ہو جاتا ہوں تو میرا دوست مجھے مالدار بھجو لیتا ہے۔

۲. حَيَايَ حَفَظَ لِي مَاءَ وَجْهِي وَرَفِقَى فِيْ مَطَالِبِي رِفِيقِي

ترجمہ: میری حیاء میرے چہرہ کی رونق کی محافظہ ہے اور میری ذہنی میرے مطالیہ کے وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔

۳. وَلَوْ اَنِّي سَمِعْتُ بِبَذْلٍ وَجَهْنَمَ لَكُنْتُ اَلِيْغْنَى سَهْلَ الطَّرِيقِ

ترجمہ: اور اگر میں اپنی بے آبروئی کو برداشت کرتا تو دولت مند ہونے کے لیے میں بہت آسان راست پالیتا۔ اور ان کے دوسرے چند اشعار یہ بھی ہیں۔

۴. حَلْقَانَ لَا ارْضَى طَرِيقَهُمَا بَطْرَالْغَنَى وَمَذْلَةَ الْفَقَرِ

ترجمہ: دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، دولت مندی کے زمانہ میں اکڑنا اور فقر کے دنوں میں ذلیل ہوتے رہنا۔

۵. فَإِذَا غَنِيَتْ فَلَا تَكُنْ بَطْرًا وَإِذَا افْقَرْتَ فَتَهْ عَلَى الدَّهْرِ

ترجمہ: الہذا تم جب کبھی غنی ہو جاؤ تو متكبر نہ بن جاؤ اور جب تم فقیر ہو جاؤ تو زمانہ کے خلاف متكبر نہ بن جاؤ۔

سن تین سو دس (۳۱۰) تحریر اٹھائیں سویں شوال، اتوار کے روز مغرب کے قریب پچھا سی یا چھیسا سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اس وقت بھی ان کی ڈاڑھی اور سر کے بالوں میں سیاہی زیادہ تھی۔ اپنے ہی گھر میں دفن کیے گئے۔ کیونکہ حنبلہ کے کچھ عوام اور ان کے موافقین ان دون کے وقت دفن کرنے سے منع کر رہے تھے اور شیعیت کی طرف انہیں منسوب کرتے تھے، اور کچھ جہلاء تو انہیں ملحد بھی کہا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ان تمام عیوب سے بالکل پاک تھے۔ بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل اور علم

میں ہر اتفاق سے اسلام کے ایک یہے امام تھے۔ لوگوں نے ان کے خلاف۔ باقیں ابو بکر محمد بن داؤد فتنہ طاہری کی تقلید میں کہی ہیں۔ کیونکہ وہی ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بعد اس کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کے اپنے گھر میں ہیں۔ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی اور وہیں اُنہیں دفن آر دیا۔ بلکہ اُنہیں وہاں سُہر کر ان کے لیے فاتح نوانی کرتے رہے۔

میں نے ان کی ایک کتاب دیکھی ہے جو موئی دو جلدوں میں ہے۔ جس میں غدیر خم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ ایک دوسری کتاب بھی میں نے دیکھی ہے جس میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو حدیث یلد کے سلسلہ میں ہیں۔ ان کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ یہ دھرمیں مسح قد میں کو جائز سمجھتے، لیکن ان کے دھونے کو واجب نہیں کہتے اور یہ بات ان کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہو چکی ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے تھے کہ ابن جریر نام کے دو شخص اُنگزیرے ہیں۔ ایک شیعی تھے اور ان ہی کی طرف یہ مسائل منسوب تھے اور ان طبری عالم کو ان صفات سے بری سمجھتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کی بیان اس مسئلہ پر ہے جو ان کی تفسیر میں ہے کہ یہ دونوں پاؤں کے دھونے کو واجب کہتے ہیں، ساتھ ان کے ملنے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس ملنے کو مسح سے تغیر کیا ہے۔ جس کی اصل حقیقت کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے اور جس نے کچھ سمجھا اس نے ان کی طرف سے یہ نقل کر دیا کہ یہ دھونے اور مسح کرنے دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مسح سے مراد ان کا رگڑنا ہے۔ والتأعلم بہت سے اہل علم حضرات نے ان کا مرثیہ لکھا ہے، جن میں ابن اعرابی بھی ہیں۔

جن کے چند اشعار یہ ہیں۔

### ۱. حدیث مفظع دخطب حلیل

دقیق مثله اضطبار الصبور

ترجمہ: وہ اچھی گفتگو کرنے والا مقابل پر قابو پانے والا زبردست مقرر برا باعظم تھا۔ اپنے جیسے کے لیے وہ بہت مشکل ثابت ہوتا ایک بہت بڑے صبر کرنے والے کے صبر کرنے کی مانند ہے۔

### ۲. قام ناعی العلوم اجمع لما

قام ناعی محمد بن جریر

ترجمہ: سارے انسان سارے علوم ختم ہونے پر رونے لگے اس وقت جبکہ محمد بن جریر کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی کھڑا ہوا۔

### ۳. فهوُت انجم لها زاهرات

موذنات رسومها بالدثور

ترجمہ: جب چمکدار ستارے بھی گرنے لگے ان کی نشانیوں کی بردباریوں کی خردیتی ہوئے۔

### ۴. وتغشى ضياما النير الاشراق

ثوب الدجنة الديحور

ترجمہ: اور اس کی تیز چکا چوند کرنے والی روشنی کو گھنگھوڑ گھناتاریک رات کے کپڑے نے ڈھانک لیا ہے۔

### ۵. وغداروضها لا ييق هشيمما

ثم عادات سهولها كالوعور

ترجمہ: اس کا خوب صورت باغہ میں یہ ہے تینے ہو گئے، پھر اس کی زمینہ نارک رہنی شنت، ثوارِ اُز اُرکی طرح بکھر۔

۶۔ بَا اَنَا حَفْظٌ مَصْطَبٌ حَسْلًا      غَبَرْ وَادٍ فِي الْحَدَّ وَالْتَّسْبِبٍ

ترجمہ: اے ابو عقرم! اپنی نیک نامیاں لیے ہوئے رحمت ہوئے محنت اور ووش میں تم سے ذراہ برادرستی نہیں دھانی۔

۷۔ يَسِ اَجْرٌ عَلَى اَجْهَادِكَ صَوْفَوْرٌ      وَسْعَى اَلِى شَقِّي مَسْحَوْرٍ

ترجمہ: پوری کوشش کی بناء پر ثواب پانے اور اپنی مستحق شکر پر ہیز کی طرف کوشش کے درمیان۔

۸۔ مَسْتَحْقٌ بِهِ الْخَلُودُ لَدِيْ جَنَّةٍ      عَدُدٌ فِي غَبَطَةٍ وَ سَرُورٌ

ترجمہ: اس کی وجہ سے تم جنت عدن میں بیشتر ہنے کے مستحق ہو گئے غبطہ اور خوشی کے ساتھ۔

اور ابوکبر بن دربداح نے بھی ان سے متعلق ایک طویل مرثیہ کہا ہے، جسے خطیب بغدادی نے پورا ہی ڈکر کر دیا

ہے۔ واللہ اعلم



## واقعات — الائمه

اس سال ابو طاہر سلیمان بن ابی عیندابن جابری قرامطیوں کا امیر ایک ہزار سات سو سواروں کو لے لبرات کے وقت بصرہ میں داخل ہو گیا۔

اس کی دیواروں میں بالوں کے رسوں کو سیڑھیوں کے طور پر لکا کر اس کے توسط سے اندر زبردستی داخل ہو گیا اور اس کے دروازوں کو کھول دیا۔

اندر پہنچ کر جو بھی سامنے آیا، سبھوں کو قتل کرتا گیا۔ اس کے ذر سے بہت سے لوگوں نے بھاگ کر خود کو پانی میں ڈال دیا۔ جس کی وجہ سے بہت سے پانی میں بھی ڈوب کر مر گئے۔

وہ لوگ دہاں سترہ دنوں تک موجود رہ کر لوگوں کو قتل کرتے رہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کرتے رہے۔ اور اپنی پسند کے مطابق ان کے مال سیچتے رہے۔ پھر اپنے شہر بھر کی طرف لوٹ گئے۔ خلیفہ جب بھی اپنا شکران کے مقابلہ کو بھیجا، وہ اس جگہ کو لوٹتے، ویران کرتے ہوئے دہاں سے بھاگ جاتے۔ ان اللہ و انما الیہ راجعون۔

حامد بن عباس وزیر کو زہر کھلا کر مارڈا النا:

اس سال مقتدر نے حامد بن عباس اور علی بن عینی کو عبده و زادت سے برطرف کر کے ان کی جگہ پر ابو الحسن بن فرات کو تیسری مرتبہ بحال کیا اور ان دونوں وزریوں یعنی حامد اور علی بن عینی کو اسی وزیر کے حوالہ کر دیا۔ پھر محسن بن وزیر نے حامد کو مقتدر سے پانچ کروڑ دینار کے عوض اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور طرح طرح سے اسے تکلیفیں پہنچائیں، اور اس سے ان گنت مال بھی وصول کیا۔ بعد میں اسے اپنے آدمیوں کے ساتھ واسط بھیجا تاکہ وزیر کی دہاں کی پوری آمدن اور ساری جانشیدوں کا حساب لگائے۔ پھر ان آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ راستے میں آتے ہوئے اسے زہر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بھونے ہوئے انہے میں زہر دے کر کھلا دیا۔ جبکہ اس نے راستے میں ان لوگوں سے مطالبہ کیا تھا اور اس طرح وہ وزیر اسی سال رمضان کے مہینے میں مر گیا۔

لیکن علی بن عینی سے تین لاکھ دینار اور اس کے مشیوں میں دوسرے لوگوں سے پچھز بردتی وصول کیا۔ اس طرح مجموعی طور پر جو کچھ ان لوگوں سے ساتھی قہر مانہ سے بھی جو کچھ وصول کیا گیا ان میں بے شمار سونا اور دس لاکھ دینار کے علاوہ گھر کا سامان، جانداہ گھوڑے سونے، چاندنی کے برتن تھے۔ پھر ابن الفرات وزیر نے خلیفہ مقتدر باللہ کو مشورہ دیا کہ یونس خادم کو اپنے پاس سے نکال کر شام کے علاقے میں بھیج دے۔ حالانکہ یہ رو میوں سے جہاد کر کے واپس آیا تھا۔ اور رو میوں کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا تھا، اور ان نے بھیجتے کیا مال حاصل کیا تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے وزیر کے مشورہ کو مان لیا،

لیکن یونس نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مام رمضان کو ختم ہونے کی مبتدات دی جائے۔ ساتھ ہی یونس نے خلیفہ کے تباہی کا کراہی ان وزیر لوگوں کو مذاب دینے اور ان کے مال زبردست پیش کیا اور اداہ رکھتا ہے۔ پھر بھی خلیفہ نے یونس کو شام طے جانے کا حکم دیا۔

اس سال تاریخیں بہت زیاد تکھیں اور انہوں نے بہت زیاد مغلوب مہرباں کو یاد کر دیا۔

اس سال ماہ رمضان میں خلیفہ نے میراث کے بچے ہوئے مال کو آخر میں ذوی الارحام کو دینے کا عالم اعلان کر دیا۔

اور اس سال ماہ رمضان میں باب العامہ پر زندیقوں کی کتابوں کے دوسوچار بستوں کو جلا دینے کا حکم دیا، ان میں سے کچھ تو وہ بھی تھیں جو حجاج وغیرہ کی مصنفوں تھیں، جن میں بہت سا سونا بھی گل کر رہا، جس سے ان کتابوں پر پان چڑھایا گیا تھا۔

اور اس سال ابو الحسن ابن الفرات وزیر نے ایک شفاخانہ فضل کی لگی میں بنوایا، اور اس پر اپنے مال میں سے ہر مہینہ دوسو

دینا رفرج کرنے لگا۔

## اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### الخلال احمد بن محمد:

بن ہارون ابو مکر الخلال جو الکتاب الجامع للعلوم الامام احمد کے صرف ہیں۔ اس جیسی دوسری کوئی کتاب امام احمد کے مذہب کے مطابق نہیں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے حسن بن عرفہ اور سعد بن بن نصر وغیرہما سے حدیثیں سنی ہیں۔ اس سال دوسری محروم قبل نماز جمع وفات پائی ہے۔

### ابو محمد الجریری:

احمد بن محمد حسین ابو محمد الجریری صوفیوں میں بڑے بلکہ امام الاصفیاء جانے جاتے ہیں۔ سری سقطی کی صحبت اختیار کی۔ جنید بھی ان کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ جب جنید کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ جریری کو ان کی مجلس میں بٹھایا جائے۔ یہ جریری حجاج کے بارے میں مشتبہ ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے حجاج کے بارے میں مجمل باتیں کہی ہیں۔ یہ جریری یعنی دینداری اور بد ادب ہونے میں بہت مشہور تھے۔

### الرجاج صاحب معانی القرآن:

ابراهیم بن ابی السری بن سہل ابو سحاق الرجاج بڑے فاضل دیدار اور بڑے اپنے عقیدے والے تھے، ان کی بہت سی مدد و تصنیفات ہیں، جن میں کتاب معانی القرآن کے علاوہ اور بھی دوسری کئی کتابیں ہیں۔ یہ اولاً شیخیت کا کام کرتے تھے۔ پھر ان کو فنِ خوکے کی شوق ہوا تو مبرد خوی کے پاس جانے لگے اور وہ مبرد انہیں ہر روز ایک درہم دیتے رہے۔ بعد میں یہ زجاج کچھ

پیسے والے بھی ہو گئے۔ جب بھی برد کی طرف سے ایک درہم یومیہ بند نہ ہوا آخیر مرتب کیہے سلسلہ قائم رہا۔ قائم بن عبد اللہ ان رجاء کا بہت ادب رکھتے تھے جب وہ عہدہ و راست پر مأمور ہوتے ہو تو ان نے پاس پر پی اور درخواستیں نئے رہائے تاکہ یہ وزیر تک پہنچا دیں۔ اس طرح ایک چار یوں میں خارجہ دینے سے بھی زیادہ فی دولت حاصل ہو گئی تھی۔

اس سال جمادی الاول میں وفات پائی۔ ان سے ابو علی فاری تونی اور ابن القاسم محدثین بن اسحاق اثر جاتی نے علم حاصل کیے۔ انہوں نے خود کو زجاجی اس لیے کہا کہ ان سے علم حاصل کیا تھا اور وہی کتاب الجمل فی الخواص کے مصنف تھے۔

#### بدر مولیٰ المعتهد:

بھی بدر الحمامی ہیں اور ان ہی کو بدر الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اپنی آخری عمر میں ملک فارس کے نائب حاکم تھے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادہ محمد نائب حاکم بنائے گئے۔

#### حامد بن العباس الوزیر:

انہیں مقتدر نے سن تین سو چھوٹی میں وزیر بنایا تھا۔ بہت زیادہ مال اور غلاموں کے مالک تھے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے، کریم، سخنی، با مرمت تھے۔ ان سے متعلق بہت سے ایسے واقعات منقول ہیں جو ان کے بہت زیادہ داد دہش پر دلالت کرتے ہیں۔ ان باقتوں کے باوجود بہت مال جمع کر لیا تھا۔ ان کے ایک گذھے میں ہزاروں دیناروں کے پائے گئے تھے۔ ہر روز اس میں ایک ہزار دینار ڈال دیا کرتے تھے۔ جب وہ بھرجاتا اسے بھر دیتے۔ جب ان پر زبردستی کی گئی، اس وقت ان گذھوں کا پتہ بتایا تھا اور ان گذھوں سے بہت زیادہ مال نکالا گیا تھا۔ ان کی بڑی فضیلوں میں سے یہ ہے کہ حلاج کے قتل میں ان ہی کی کوشش زبردست تھی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اسی سال ماہ رمضان میں انہیں زہر دیا گیا اور اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ اسی سال عمر بن محمد بخاری نے بھی وفات پائی، یہ بھی ایک صحیح کے مصنف تھے۔

#### ابن خزیمہ:

محمد بن اسحاق بن خزیمہ بن مغیرہ بن صالح بن بکر السلمی، محسن بن مزاحم کے آزاد کردہ غلام، امام ابو بکر بن خزیمہ جو امام الائمه کے اقب سے مشہور ہیں، علوم کے ایک گھرے سمندر تھے، مختلف شہروں میں گھوٹے اور طلب حديث اور حصول علم میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا، بہت سی کتابیں لکھیں، تصنیف کیں اور بہت کچھ جمع کیں، ان کی کتاب "الصحيح" تمام کتابوں میں نافع اور اہم ہے۔ یہ دین اسلام کے ایک بڑے مجتہد تھے شیخ ابو اسحاق شیرازی نے طبقات الشافعیہ میں ان کے متعلق ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں سولہ برس کی عمر کو پہنچا ہوں، اُسی وقت سے میں نے کسی کی بھی تقلید نہیں کی ہے۔ اور ہم نے ان کے مفصل حالات اپنی کتاب "طبقات الشافعیہ" میں ذکر کیے ہیں۔ یہ بھی ان محمدین میں سے ایک ہیں جو مصر میں فاتحہ کی زندگی گزارنے کی نوبت تک پہنچ چکے تھے، مگر نماز کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے رزق کا دروازہ کھوں دیا تھا۔ ہم نے اس قسم کی بات حسن بن سفیان کے حالات میں ذکر کی ہے۔

اس سال محمد بن زکریا الطیب نے وفات پائی ہے جو المصنف الکبیر فی الطب کے مصنف ہیں۔

## واقعات — ۳۱۲

اس سال ماءِ محرم میں قرمطی ابو طاہر احسین بن ابی سعید الجنابی اللہ اس پر اور اس کے بارے پر تجھی اعتمت کرنے کے لیے ان جاج کو راستہ میں لوٹنے کے لیے آیا جو فریضہ حج ادا کر کے بیت اللہ سے واپس لوٹ رہے تھے چنانچہ اس نے لوگوں پر ڈیکن کی اور ان لوگوں نے بھی اپنی جان و مال عزت و آبروئی حفاظت کے لیے ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلہ میں قرمطی نے ان حاجیوں میں سے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں میں سے جسے اور جتنا چاہا کو قیدی بنایا اور حسب خواہش ان سے مال لوٹ لیے۔ اس موقع پر ان کے جتنے مال لوٹے ان کی جمیعی قیمت دس لاکھ دینار تھی۔ اسی طرح سامان اور کاروباری مال وغیرہ سے بھی جو کچھ چاہا لوٹ لیا۔ پھر ان کے اونٹ کھانے پینے کے سامان اور ان کے مال اور عورتوں اور بچوں کو اپنے قبضہ میں لینے کے بعد انہیں کھلے میدانوں اور جنگلی علاقوں میں لے جا کر بغیر پانی اور دانہ کے اور سواری کے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر کوفہ کے نائب ابوالبیجا عبداللہ بن جمان نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر اسے بھی شکست دے کر قیدی بنایا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔

اس قرمطی کے ساتھ آنحضرت نے والے آدمی تھے اور خود اس کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی۔ اللہ اسے بر باد کرے۔

جب اس واقعہ کی خبر بغداد پہنچی تو وہاں کی عورتوں اور باشندوں نے جنگ و پیکار اور رونا دھونا شروع کیا۔ ساتھ ہی عورتوں نے اپنے سروں کے بال نوچنے اور اپنے گالوں پر طماقچے مارنے شروع کیے۔ ان کے ساتھ ہی وہ عورتیں بھی شریک ہو گئیں جو وزیر اور اس کے بیٹے کے چنگل میں پھنسنی ہوئی تھیں۔ اس وقت اخدا کا منتظر انتہائی دردناک اور دھشت ناک ہو رہا تھا۔ آخ کار خلیفہ نے جب اصل حال دریافت کرنا چاہا تو پہ چلا کہ یہ حاجیوں کی عورتیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی وہ عورتیں بھی ہیں جن پر ابن فرات نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اسی طرح وزیر کے دربان نصر بن القشیری کے ذریعہ خلیفہ کو یہ خبر بھی ملی کہ قرطبی نے قیامت برپا کر رکھی ہے اس کی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ خادم بوز بر دست ہونہا رکھا کو علاقہ سے اور زیست دیا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کی بہت اطراف و جوانب میں زبردست طریقہ سے بڑھ گئی ہے اور آپ نے اس موسیٰ خادم کو صرف ابن الفرات کی مرضی کے مطابق اور اس کے بھکانے سے دور پھینک دیا ہے۔ تب خلیفہ نے ابن الفرات کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ لوگ تمہارے بارے میں اس قسم کی باتیں مجھس اس لیے کرتے ہیں کہ مجھ سے تمہارا تعلق اچھا ہو گیا ہے۔

اس طرح خلیفہ اس کی دلچسپی کرنے لگا۔ یہ خبر پاکروہ وزیر اور اس کا بیٹا دونوں سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے ان دونوں کا خوب اکرام کیا اور ان کے دلوں کو خوش کر دیا۔ یہ دونوں خوش خلیفہ کے پاس سے نکل رہے تھے کہ نصر

حاجب اور دوسرے اٹلی دفعہ میں طرف سے ان تو بہت تکمیل دہائیں سننے میں آئیں۔ اس کے بعد یہ وزیر حسب معمول اپنی رسمی پر عینہ ادا کرنے والے اعلیٰ میں اپنے تین پر ہمروں بتار بادا، آج تک دفت یا شعر پڑھنے والا دارمدادی ہے۔

ترجمہ: چراً تکمیل ہوتے ہے، جو وہ آج ہی نہیں جانتا کہ حالات اس سے موقوف ہیں یا ہم لئے ہیں۔

پھر اس دن غلیقہ کی طرف سے اس کے پاس دو حکام پہنچے اور اس کے زمان خانہ میں داخل ہو کر اسے نگئے رہائشی ذلت اور بدحالی کے ساتھ اسے گھر سے نکال کر گھوڑے پر سوار کر کے دوسرا سمت نکلا، باہر کیا۔ لوگوں نے اس کا مطلب تکھلیا اور ان فرات کو ایک پھر مارے۔ ساری جامع مسجد یہ بندر ہیں، عوام نے تمام محابوں کو توڑ پھوڑ کر کھو دیا اور لوگوں نے دہان جمعہ کی نماز نہیں ہونے دی اور وزیر سمت میں لاکھ دینار اور اس کے بیٹے سے تین لاکھ دینار کی تحریر حاصل کر کے کووال نازوک کے حوالہ کر دی۔ وہ دونوں اتنے مال وصول ہونے تک اس کے پاس روک کر رکھے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ نے موئی خادم کو بلوایا۔ اس کے آجائے کے بعد ان دونوں کو اس کے حوالہ کر دیا۔ تب اس نے ان دونوں کو خوب مارا اور جس قدر بود کہ ان کی توہین کی۔ پھر اچھی طرح ان کی پہنچی اور مرمت کر لینے کے بعد ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کی جگہ عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ بن خاقان ابو القاسم کو بدل بنا دیا۔ یہ واقعہ ماہ رمضان الاول نویں تاریخ کا ہے۔

یہ موئی جب بغداد میں داخل ہوا تو بہت ہی ہزار و شوکت اور اعزاز و اکرام سے داخل ہوا۔ ساتھ ہی ابن خاقان کو علی بن عیینی کے پاس بھیجنے کی سفارش کی۔ اس وقت وہ یمن کے علاقہ میں دھنکارا ہوا راما را پھر رہا تھا۔ تب وہ مکملہ لوٹ آیا اور اس کے پاس وزیر کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ شام اور مصر کے معاملات کی طرف توجہ دے۔ خلیفہ نے موئی خادم کو یہ حکم دیا کہ وہ قراطی سے قتال کرنے کے لیے کوفہ کی طرف جائے۔ اس کام کی تیاری کے لیے خلیفہ نے دس لاکھ دینار خرچ کیے۔ اس وقت اس قراطی نے ان تمام حاچیوں کو چھوڑ دیا جو اس کے قبضہ میں تھے، جن کی تعداد ہزار مرد اور پانچ سو سور توں کی تھی، ان کے ساتھ ہی نائب کوفہ ابو الحجاج کو بھی چھوڑ دیا۔ وہاں سے خلیفہ کے پاس درخواست بھیجی کہ بصرہ اور اہواز کو بھی اس کے حلقة میں شامل کر دیا جائے۔ مگر خلیفہ نے اس کی یہ فرمانش پوری نہیں کی۔ یہ موئی بہت ہی کامیابی کے ساتھ بہت بڑے لشکر کو لے کر کوفہ کی طرف گیا تو وہاں کے حالات تھنڈتے پڑ گئے۔ پھر وہاں سے واسطہ کی طرف چلا گیا اور یا قوت خادم کو کوفہ کا نائب حاکم مقرر کیا تو وہاں کے حالات بھی تھنڈتے اور پر سکون ہو گئے۔

اس سال کو فداء بر بغداد کے درمیان ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خود محمد بن امام علی بن محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے اور اس کے اس دعویٰ کی تصدیق بہت سے دیبا توں اور گنواروں نے بھی کر دی، اور اس کے حلقة گلوش ہو گئے تو اس کی طاقت بڑھ گئی۔ یہ واقعہ ماہ شوال کا ہے۔ اس وقت وزیر نے اپنا ایک لشکر اس کے مقابلہ میں بھیجا اور اس سے مقابلہ کیا اور پھر اسے شکست دی، اور اس کے ماننے والوں میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا اور بقیہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ یہی مدعی مذکور امام علییوں کا صدردار اور ان کا پہلا شخص ہے۔

اس موقع پر کوتوال نازدک حلاج کے تین خاص آدمیوں حیدرہ شعرانی اور ابن منصور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر پہلے تو ان سے اپنے باقش عقیدہ سے توبہ کرنے کو لہا نہیں وہ باز نہ آئے۔ اس لیے انہیں قتل کیا اور مشرقی حصہ میں انہیں پھنسی پر چڑھا دیا۔

اس سال قرامط کے خوف سے عراق کے ایک شخص نے بھی حبیت اللہ اور انہیں کہا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی۔

ابراہیم بن خمیس:

ابو سحاق الواعظ الزاهد یہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے۔ ان کے اچھے کلاموں میں سے یہ بھی ہے۔ قضاۓ احتیاط کرنے پر، موت امید کرنے پر، تقدیر یہ دیر کرنے پر، اور خدائی بانٹ کوشش اور مشقت کرنے پر بھتی ہے۔

علی بن محمد الفرات:

مقدرنے اسے عہدہ وزارت سونپا، پھر معزول کیا پھر وزیر بنایا اور آخر میں اسے اور اس کے لڑکے کو بھی اسی سال قتل کر دیا۔ یہ شخص بہت بڑا دولت مند تھا۔ یہ ایک کروڑ دینار کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کی جانبیاد سے ہر سال لاکھوں دینار کی آمدن ہوا کرتی تھی اپنی پانچ ہزار عابدوں اور عالموں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ ہر ماہ ان کی ضرورت کے مطابق خرچ بھیجا کرتا۔ اس کو وزارت اور حساب کے حکم میں اچھی طرح واقفیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دن میں ایک ہزار خطوط دیکھے اور ایک ہزار خطوط پر دستخواہ بھی کیے جس کے دیکھنے والوں کو سخت تعجب ہوا، اس کے اندر بہت زیادہ مردود، شرافت اور اپنی حکومت کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے کی صفتیں تھیں۔ مگر آخری مرتبہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لوگوں پر زبردستی کی اور ان کے اموال چھین لیے، اس لیے اللہ نے اسے ایسا کپڑا، جیسا کہ کسی آبادی کو ظلم کرتے وقت پکڑتا ہے، انہنai زبردست کپڑ کے ساتھ یہ بہت زیادہ بھتی اور شریف بھی تھا۔ ایک رات محمد میں اور صوفیہ اور اہل ادب اس کی مجلس میں رہ کر کسی علمی بحث میں مشغول ہوئے تو اس نے ان میں سے ہر ایک کوئی نہیں ہزار دینار دیئے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے اس وزیر کی طرف سے خود اپنے لیے کوئی چیز دینے کے لیے نائب مصر کے نام ایک خط لکھا، اور خود ہی وہ خط لے کر نائب مصر کو دے دیا۔ وہ نائب مصر اس خط کو پڑھ کر ٹھنک گیا اور اس شبہ کا اظہار کیا کہ یہ تحریر وزیر کی نہیں ہے۔ اس لیے وزیر کے پاس اس کی تحقیق کے لیے وہ خط بھیج دیا۔ اس خط کو پڑھ کر اس وزیر کو یقین آ گیا کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے۔ اس لیے حاضرین مجلس سے مشورہ لیا کرایے مکار اور فربی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی نے کہا، اس کے دونوں کان کاٹ دیئے جائیں۔ دوسرے نے کہا، اسے زبردست طریقہ سے مارا اور پینا جائے۔ تیسرا نے کہا، اس کے دونوں انگوٹھے

کاٹ دیئے جائیں۔ وزیر نے کہا، کیا اس سے بہت کام کیا جائے۔ پھر اس تحریر کے اتحاد میں لے کر اینے اتحاد سے ہلکھلدا رہا۔ یہ میری ہی تحریر ہے اور یہ شخص میرا خاص آدمی ہے اس لیے اس کے ساتھ بھرست ہتھر تم جو سلوک کر سکتے ہو اگر وہ جب بخط وہ بارہواں نائب مسخر ہو ڈیتا تو اقتصاد نے یہی اس کے ساتھ بہت بھرٹوک کیا اور تقریباً یہیں ہزار دینا رہیے۔

ایک مرتب ابن الفرات نے کسی کتابی کہنوا کر اس سے کہا تمہارا ابو احمد میری نیت تھا۔ متعلق بہت خراب ہے یہیں ہر وقت اس فکر میں رہتا ہوں کہ تم کو پکڑ لوں اور تم پر حملہ کروں۔ لیکن میں بھیش تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم روئی دکھا کر مجھے دیسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کئی رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ میں تم پر حملہ کرنا چاہتا ہوں لیکن تم مجھے روک دیتے ہوئے اس لیے میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ تم سے قفال کرے تو وہ جب بھی تم پر تیر یا کسی اور چیز سے حملہ کرنا چاہتا ہے، تم اپنے ہاتھ کی روئی سے روک لیتے ہو اس لیے کوئی چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہذا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس روئی کا کیا قصہ ہے۔ تو اس کتابی نے کہنا شروع کیا کہ میرے بچپن سے میری ماں میرے سرہانے ایک روئی رکھ دیا کرتی تھی اور صبح ہوتے ہی میں اسے صدقہ کر دیا کرتا تھا اور جب تک میری ماں زندہ رہی، اس کا یہ عمل جاری رہا۔ جب وہ مر گئی تو میں از خود یہ عمل کرتا رہتا ہوں کہ سوتے وقت ایک روئی اپنے سرہانے میں رکھ دیتا ہوں اور صبح سوریے اسے صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر کو حیرت ہوئی اور اس سے کہا! اللہ کی قسم اب میری طرف سے نم کوئی نقصان نہ ہوگا، اور ابھی سے تمہارے بارے میں میری نیت اچھی ہو گئی ہے اور اب میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

ابن خلکان نے اس وزیر کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں۔

### محمد بن سلیمان:

ابن المارث عبد الرحمن ابو بکر الازدی الواسطی جو باغندي کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن نبیز، ابن شیبہ، شیبہ بن فروخ، علی بن المدینی کے علاوه شام، مصر، کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بھی بہت سے لوگوں سے احادیث سنی ہیں۔ اور دور دراز علاقوں کا سفر کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی سے کام لیا ہے اور افراط کے حد تک اس میں مشغولیت رکھی۔ یہاں تک ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نماز اور سونے کی حالت میں بھی احادیث ان کی سندوں کے ساتھ نہ نہیں رہتے ہیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے انہیں نماز کی حالت میں سجان اللہ کہو کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے سارے فتوؤں اور سوالات کے جواب صرف تین لاکھ احادیث کی روشنی سے جو حاصل کر کے دیتا ہوں، ان کے علاوہ دوسری کسی حدیث کو تلاش نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ ﷺ کے نزویک حدیث میں کون زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ منصور یا اعمش، تو آنحضرت ﷺ نے ان کو جواب دیا، منصور۔ ان کے بارے میں تدليس کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اقطینی نے کہا ہے کہ یہ بہت تدليس کرتے تھے اور نہ سنی حدیث کی بھی روایت کرتے تھے بلکہ بسا اوقات احادیث کی چوری بھی کرایتے۔



## واقعات — ۱۳۲۵ھ

ابن الجوزی نے کہا کہ حرم الْجُمُرَ کی آخری تاریخ آفتابِ دو بنے سے ذرا پہلے ایک تارہ لوث کر دھن سے اترست کی طرف چلا گیا جس کی وجہ سے ساری دنیا منور ہو گئی اور اس سے ایک زبردست کڑک کی آواز سنائی دی۔

اس سال ماہ صفر میں خلیفہ کو یہ خبر پہنچی کہ بہت سے راضی مسجد براثی میں اکٹھے ہو کر صحابہؓ کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ جمع کی نماز ادا نہیں کرتے۔ قرامط سے تعلقات بھی رکھتے ہیں اور اس محمد بن اسما عیل کی جماعت میں داخل ہونے پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں جو کوفہ اور بغداد کے درمیان ظاہر ہوا ہے اور اپنے متعلق مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مقتدر کی خلافت اور اس کے ماتحت والوں سے برأت کرتے ہیں۔ اس لیے خلیفہ نے ان لوگوں کے گھر اور کام کا حکم دیا اور اس مسجد کے بارے میں علماء سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہ مسجد ضرار ہے اس لیے ان میں جو کوئی بھی کپڑا جاتا اسے بہت زیادہ پیٹا جاتا اور انہیں خبر دی جاتی۔ ساتھ ہی اس مسجد مذکور کو ڈھاڈ بینے کا حکم دیا۔ چنانچہ نازوک نے اسے ڈھاڈ دیا۔ اور وزیر خاقانی کے حکم سے اس مسجد کی جگہ پر ایک قبرستان بنادیا گیا جس میں بہت سے مولوں کو دفن کر دیا گیا۔

ماہ ذوالتحجه میں بہت سے مسلمان حج کو جانے لگے تو الہ طاہر سلیمان بن ابی سعید الجنابی القراطینی راستے میں آگیا۔ اس کے ذریت اکثر اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس سے امان چاہی تھی تو اس نے امان دے دیا تھا۔ خلیفہ کے لشکر نے اس سے مقابلہ کیا تھا، مگر ان کی زبردست طاقت کی وجہ سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بناء پر بغداد والے بہت بے چین ہو گئے اور مغربی سمت والے ان لوگوں کے خوف سے مشرقی جانب منتقل ہو گئے، پھر قرطی کوفہ میں جا کر ایک مہینہ تک رہا، اور ان کے مال اور ان کی عورتوں میں سے جتنا اور جسے چاہا کپڑا کر لے گیا۔

ابن الجوزی نے کہا کہ اس سال بغداد میں کھجوریں بہت زیادہ ہو گئیں، یہاں تک کہ آٹھ رطل صرف ایک جبہ میں مل جاتیں اور وہاں سے کھجوریں بصرہ کو بھی گئیں۔

اس سال مقتدر نے اپنے وزیر خاقان کو ایک سال چھ مہینے دون و زارت پر رکھ کر معزول کر دیا۔ اور اس کی جگہ پر ابو القاسم احمد بن عبید اللہ بن احمد الخطیب الحصینی کو بھال کر دیا۔ کیونکہ اس نے حسن بن فرات کی بیوی کے لیے کافی مال خرچ کیا تھا، ہوسات ناکھو دینا رہتے۔ اس کے بعد حصینی نے علی بن عبیسی کو امیر بنادیا، اس شرط پر کہ وہ مصر اور شام کے علاقوں میں منتظر ہے لیکن وہ نوادگانہ مکرمہ میں مقیمر ہے، اور وہیں سے گاہے گاہے ان شہروں کا گشت کیا کرے، پھر مزید مناسب کاروائی کر کے مکرمہ دلت آئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی:

علی بن عبد الحمید بن عبد اللہ بن سلیمان:

ابو الحسن الغفاری، قواریٰ اور عباس غیری سے احادیث سنی ہیں۔ بہت عابد اور شفیق تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ سری سقطیٰ کے گھر آ کر ان کے دروازہ کو کھٹکھٹایا تو وہ گھر سے نکل کر میرے پاس آئے اور دروازہ کی دونوں پوکھنوں کو پکڑ کر کھڑے ہو کر یہ کہا: ”اے اللہ! جس نے مجھے تیری یاد سے روک دیا ہے تو اسے اپنی یاد میں مشغول رکھ۔“ کہتے ہیں کہ ان کی اسی دعا کا یہ اثر ہے کہ میں حلب سے مکہ مکرمہ تک آتے جاتے پیدل چل کر میں نے چالیس حج ادا کیے۔

ابوالعباس السراج الحافظ:

عبداللہ الحافظ، کیونکہ قبیلہ ثقیف کے آزاد کردہ تھے، محمد بن اسحاق بن ابراتیم، بن مہران، بن ابوالعباس السراج، ثقیف، حافظ اور امام وقت تھے۔ سن دوسرا ہزارہ ہجری میں ولادت ہوئی، قبیلہ اور اسحاق بن راہویہ کے علاوہ خراسان، بغداد، کوفہ، بصرہ اور حجاز کے بہت سے مشائخ سے روایتیں سنی ہیں۔ بخاری اور مسلم نے بھی ان سے روایت کی ہے، حالانکہ یہ دونوں ان سے ہر بارے تھے۔ دونوں پیدائش میں بھی اور وفات میں بھی ان سے مقدم تھے۔ ان کی بہت سی مفید تصنیفات ہیں اور اسپنے وقت میں مستحب الدعوات شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا یہ کسی سیر ہجتی پر چڑھ رہے ہیں اور اس کی ننانویں یہ ہمیں پر چڑھے ہیں تو کسی نے اس کی یہ تعبیر دی تھی کہ ننانوے برس عمر ہو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے ایک صاحبزادوں کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ ان کی عمر کے ترایی برس ہوئے تھے۔ حاکم نے کہا ہے کہ میں نے ان کے صاحبزادے ابو عمر و کو یہ کہتے ہوئے شاہ ہے کہ میں جب مسجد میں اپنے والد کے پاس جاتا تو اپنے حاضرین سے فرماتے کہ میں نے ان کے لیے ایک رات اس وقت کام کیا جبکہ میں ترایی سال کا تھا۔



## وَاقْعَاتٌ - ۱۳۴۰ھ

اس سال شاہ روم الد مستق نے ساحل کے مسلمان باشندوں کو یہ اطلاع دی کہ وہ اسے خراج ادا کریں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ بناء بریں اس سال کی ابتداء میں وہ اپنی فوج لے کر ان پر حملہ آور ہو گیا اور پورے علاقے میں فتح و فساد برپا ہوا، قسطنطینیہ میں داخل ہو گیا، اور وہاں سولہ دن رہ کر وہاں کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قید بھی کر لیا۔ اس لیے وہاں کے کچھ لوگ بغداد آئے تاکہ خلیفہ سے اس سلسلہ میں مدد چاہیں۔

اتفاق کی بات ہے کہ ان ہی دنوں بغداد کے دو مقامات میں زبردست آگ لگ گئی، اور اس میں بھی بہت افراد جل کر مر گئے۔ ان میں سے صرف ایک جگہ ایک ہزار مکانات اور دو دکانیں جل گئیں۔ قدرتی طور پر وہ شاہ روم دستق مر گیا، اور خطوط سے ان کی اطلاع ملی۔ اس بناء پر مجدوں کے نمبروں پر ایسے خلط و پڑھ کر سنائے گئے تاکہ شہر کی بے چینی دور ہو۔ پھر کمک مردم سے بھی خطوط آنے لگے، جنی میں وہاں قرامطہ کے حملہ کی خبر پر لوگوں میں بے چینی بڑھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے لوگ وہاں سے اپنے مکانات چھوڑ کر طائف اور آٹھ پاس کے علاقوں میں جانے لگے۔

اس سال دوسرئے زبردست طوفان آ جانے کی وجہ سے بہت سے درخت جڑوں سے اکٹھے اور مکانات ٹوٹ پھوٹ گئے۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماہ شوال کی آٹھویں تاریخ الوار کے دن روی مہینہ کا نون اول کی ساتویں تاریخ تھی، بغداد میں زبردست اولہ باری کی وجہ سے شنڈک بہت بڑھ گئی تھی اور کھجور کے باغات اور دوسروں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ پھر ہر قسم کے تیل، پینے کی چیزیں، گلب کا پانی، سرکہ، بڑی ندیاں، دجلہ، سب جم گئے۔ آخر میں کچھ محمد شین اور مشائخ نے دجلہ کے اوپر جنے ہوئے برف پر حدیث کے سبق کی مجلس قائم کی اور وہیں بیٹھ کر حدیث لکھنے کا کام کیا۔ تب بارش ہوئی اور ہر جگہ کی جی ہوئی برف پکھنے لگی، اور ساری پریشانیاں ذور ہوئیں۔ فللہ الحمد۔

اور خراسان کے لوگ حج میں جانے کی نیت سے بغداد پہنچنے تو موسی خادم نے ان لوگوں کو اس ارادہ سے باز رہنے کی درخواست کی، کیونکہ قرامطہ مکہ جانے والے تھے۔ مجبوراً وہ لوگ والپس لوٹ آئے اور عراق کی طرف سے کوئی بھی حج کو نہ جا سکا۔

ماہ ذوالقعدہ میں خلیفہ نے اپنے وزیر ابوالعباس نصیبی کو ایک برس دو مہینوں کے بعد عہدہ سے برطرف کر دیا اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ کیونکہ وزارت کی ذمہ داریوں سے وہ بالکل غافل ہو گیا تھا۔ ملکی مصلحتوں کا اسے مطلق خیال نہ تھا اور رات بھر شراب نوشی میں مدھوش رہتا۔ صحیح کے وقت اسے ذرہ برابرا چھٹے برے کی تیز زندہ ہوتی اور اپنے سارے کام

اپنے ناموں کرنا لے کر، یہ تھے جنہوں نے ماری کی اونٹیں میتھی خیانتیں کہاں کھلی اور اپنے کام بناتے رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے اس آئی خالی جگہ پر ابو القاسم عبید اللہ بن محمد الفکہ؛ اُلیٰ کوعلیٰ ہن عیسیٰ کے آنے تک اس کا نائب بنایا۔ علیٰ ہن عیسیٰ ہواں وقت دُشَق میں ہائے بوانے کے لیے آدمی دوڑا دیے۔ چنانچہ وہ بہت ہی شان و شواست کے ساتھ بغداد پہنچا اور ملک خاص و عام تمام ضروریات میں غور و فکر کرنے لگا اور تمام حالات درست ہونے لگے۔ پھر سارے کام باشاط ہو گئے۔

اس وقت سابق وزیر حصینی کو بلوا کر زبردست حملکی دی ملامت کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی۔ کیونکہ خلیفہ اس پر خاص اعتماد کرتا تھا، مگر یہ بر عکس خاص و عام سارے کام خراب کرتا اور دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا اور یہ ساری باتیں قانصیوں اور بڑے حکام کی موجودگی میں کیں۔ پھر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔

اس سال نصر بن احمد السماان نے جس کا لقب السعید تھا ”ای“ کے شہروں میں قبضہ کیا اور وہاں تین سو سو لہجڑی تک قیام کیا۔

اس سال صائمہ نے طرسوں سے روئی شہروں پر چڑھائی کی اور سب کچھ غنیمت کا مال لے کر صحیح و سالم واپس لوٹ آئے۔

اس سال عراق والوں نے قرامطیوں کے نتیجے کے خوف سے حج ادا نہیں کیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں:

### سعد النبی:

یہی دارالخلافہ بغداد کے باب النبی والے ہیں۔ ماہ صفر میں وفات پائی، اور اس دروازہ کی حفاظت کے لیے جس کی نسبت آج تک ان کی طرف ہوتی رہی ہے، ان کے بھائی کو ان کا قائم مقام بنایا گیا اور محمد بن محمد البالی اور محمد بن عمر بن لباہ القرمطی اور نصر بن القاسم الفراصی الحنفی ابواللیث، جنہوں نے قواریری سے احادیث سنی ہیں، شدہ تھے اور ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق علم فرائض کے بڑے عالم تھے۔ اپنے شیخ کے بڑے منظور نظر تھے۔



## واقعات — ۱۵

اس سال ماہ صفر میں علی بن عبیس دمشق سے واپس پہنچا تو بہت سے لوگ اس کے استقبال کو لئے۔ پھر انبار تک بھی پہنچے اور پچھے اس کے آس پاس بھی۔ جس وقت وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا۔ خلیفہ نے بہت بہتر انداز سے اسے خطاب کیا۔ تب وہ اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اس کے ساتھ تھی خلیفہ نے اس کے پیچھے گدے فرش، قیمتی اور معمولی اواز مات زندگی کے علاوہ میں ہزار دینار بھی سمجھ دیئے اور دوسرا سے ان پھر آنے کا کہا۔ تب وہ سرے دلن اسے خلعت پہنایا۔ خلعت پہننے ہوئے اس وزیر نے یہ اشعار کہے:

۱. ما الناس الامم الدنيا و صاحبها فكيف ما القلب به انقلبوا

ترجمہ: لوگ دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسے بھی دنیا بدلتی ہے وہ بدل جاتے ہیں۔

۲. يعظمون اخا الدنيا فذا و ثبت يوماً عليه بما لا يشتهي و ثبووا

اس سال بہت سے خطوط اس مضمون کے آئندہ کہ روم والے شہیساط میں داخل ہو کر وہاں کی ساری چیزوں کو لے گئے اور بادشاہ کا خیمہ وہاں نصب کر دیا گیا ہے اور وہاں کی جامع مسجد میں ناقوس بنائے جا رہے ہیں۔ اس بنا پر خلیفہ نے مونس خادم کو بہت بڑے لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور اسے قیمتی خلعت دیئے۔ گھر وہاڑہ یہ خطوط آنے لکھ کر خود وہاں کے مسلمانوں نے ان رو میوں پر حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ فتنہ الحمد و الشنة۔

جس دن مونس وہاں سے کوچ کا ارادہ کر رہا تھا، پچھے خادموں نے آ کر اسے یہ پیغام سنایا کہ خلیفہ جب اس کے دل ان کو آئے گا اس وقت خلیفہ اسے گرفتار کر لے گا۔ اس طرح واقعۃ دارالخلافہ کی طرف سے اس کے دل میں نظرہ اور شک ہونے لگا۔ اس لیے جانے سے کترانے لگا۔ لیکن چاروں طرف سے امراء اس کے پاس جمع ہو گئے تاکہ اس کے ساتھ خلیفہ کے پاس پہنچیں۔ ان خبروں کے پانے کے بعد خلیفہ نے اسے قسم کھانا کریں لکھا کہ تم کو اس قسم کی جو کچھ خبر یہ ملی ہیں سب غلط ہیں۔ یہ خبر پاک اس کا دل خوش ہو گیا اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ خلیفہ کے پاس پہنچتے ہی وہ اس کے پاس شامدار طریقے سے پہنچیں آیا اور قسم کھانا کر کہا کہ میرا اول تمہاری طرف سے بالکل مطمئن ہے اور تم سے خوش ہے اور دل کی مناسی تم سے دیکھی ہی ہے۔ جیسا کہ خود تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ سے یہ وزیر عظمت و اکرام کے ساتھ بھکا اور عباس بن عیفہ و زیر اور نصر حاجب سب اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کی خدمت میں آئے اور تمام امراء نے اس کے سامنے دوسروں کی طرح نعرہ تکمیر کہا۔ رومنیوں سے قیال کے لیے اس کی سرحدوں کی طرف، والگی کے دن کا دنوں میں انتظار رہا۔

اس سال جمادی الاول کے مہینے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو دنماق یعنی عربتوں کے گھونٹے والے کے نام سے مشہور

تھا۔ کیونکہ فی الحقیقت اس نے بہت سی عورتوں کے لگے گھونٹ دیئے تھے۔ یہ عورتوں کے سامنے دعوے کرتا تھا کہ یہ علمِ نجوم اور مل سحر کے ذریعہ عورتوں کو اپنی طرف مل لانا جانتا ہے۔ اس پر عورتیں اس کے عینق میں پھنس کر اس کے پاس آ جاتیں اور بب کی عورت کو تباہی میں پاتا ہے۔ اسے پکڑ کر جراہ کاری کرتا اور تاثیت کی رہی تھی اس کا لگا گھونٹ دیتا۔ اس کام میں دوسری عورتیں بھی اس کا ساتھ دیتیں۔ پھر اپنے گھر میں کھدے ہوئے کڑھے میں جو اس کام کے لیے ہوتا، اس میں اسے ڈال دیتا۔ اس طرح کئی عورتوں کو گھونٹ میں ڈال دینے سے جب وہ بھر جاتا تو اسے بند کر کے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا۔ آخری بار اسے ایسے گھر میں پایا گیا اور پکڑا گیا جس میں اس نے سترہ عورتوں کو لگے گھونٹ کر دفن کر دیا تھا۔ پھر یہ جن جن گھروں میں سکونت اختیار کر چکا تھا، سب کی تلاشی لی گئی تو فی الحقیقت ایسی بہت سی مقتول عورتوں کا علم ہوا۔ اس لیے اسے ہزار کوڑے مارے گئے۔ پھر اس کا بھی لگا گھونٹ کر مارڈا الگیا۔

اس سال ”ری“ کے علاقے میں دیلم کا ظہور ہوا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو ان کے معاملات پر حاوی تھا جسے مردادت کہا جاتا تھا، وہ سونے کے تخت پر بیٹھتا اور اس کے سامنے دوسرا تخت چاندی کا پڑا ہوتا اور کہتا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔

اور ”ری“، ”فروین“، ”اصہبان“ کے لوگوں میں بری خصلت آگئی تھی کہ وہ عورتوں اور گود کے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کے مال لوٹ نلتے۔ اس بادشاہ کے اندر جماریت اور سختی اور سخن کے محارم کو توڑنے میں وہ بڑا دلیر تھا، لیکن تربکوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو اس کے شر سے فتح دار کھا۔

اس سال یوسف بن ابی الساج اور ابو طاہر قرمطیؑ کے درمیان کوفہ کے پاس مقابلہ کی تھی۔ ابو طاہر آگے بھڑک کر دہاں تا بھی ہو گیا اور یوسف اور باشندگان کوفہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ تب یوسف نے اسے خط لکھا کہ تم میری اطاعت کرو اور بات مان لو۔ ورنہ شوال کی نویں تاریخ ہفتہ کے دن قفال کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ آؤ مقابلہ کرو۔ چنانچہ یوسف آگے بڑھا، اس وقت یوسف نے قرمطی کے شکر کو بہت کم سمجھا۔ کیونکہ یوسف کے ساتھ میں ہزار جوان تھے اور قرمطی کے ساتھ ایک ہزار گھوڑے سوار اور پانچ سو بیدل تھے۔ یوسف نے للاکار کر کہا، ان کتوں کی کیا قیمت ہے، اس بناء پر اپنے کا تب کو حکم دیا کہ قفال سے پہلے ہی خلیفہ کو اپنی کامیابی کی اطلاع دے دو۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو قرمطی نے زبردست طریقہ سے جم کر مقابلہ کیا اور خود قرمطی گھوڑے سے اتر کر ان لوگوں کو جوش دلانے لگا۔ پھر ایک زور دار حملہ کیا جس سے خلیفہ کا شکر شکست کھا گیا اور یوسف بن ابی الساج امیر الشکر قیدی بن گیا۔ پھر خلیفہ کے شکر کے بے شمار مجاهدین کو قتل کر دیا۔ پھر کوفہ پر وہ پوری طرح قابض ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد میں یہ خبر پہنچ گئی اور یہ بھی انہیں اطلاع ملی کہ قرمطی اب بغداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس خبر کو وہ لوگ سچ سمجھنے لگے اور بہت زیادہ گھبرا گئے، اس لیے وزیر نے خلیفہ کے پاس چا کر کہا، اے امیر المؤمنین مال تو اسی لیے جمع کر کے رکھا جاتا ہے کہ بوقت ضرورت اللہ کے دشمنوں پر حملہ کی صورت میں یہ کام آئے۔ اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ کفار نے مسلمانوں کے لیے ج کا راستہ بند کر رکھا ہے اور بالآخر مسلمانوں کو وہ تنگ کر رہے ہیں، اس وقت بیت المال بھی بالکل خالی ہو رہا ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین اب خود بھی معاملہ کی

نزاکت کو مجھیں اور سیدہ یعنی اپنی والدہ سے بھی گفتگو فرمائیں؛ بہت ممکن ہے کہ ایسے نازک و قبول کے لیے انہوں نے کچھ جمع کر رکھا ہو۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو خود ان کی والدہ نے اتنی پیش تیار کی اور پانچ لاکھ روپے دینا کا لے۔ اتنی اسی رقم بیت المآل میں بھی تھی۔ خلیفہ نے یہ تاریخی رقم ذریعہ کو دے کر قرطاط سے مقامتہ کے لیے شکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے چالیس ہزار جوانوں سے شکر تیار کیا بلیق امیر کی سر کردی کی میں اور یہ ان کی طرف مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔

جب ان لوگوں کو خبر پہنچی تو ان لوگوں نے بھی ان کے تمام راستے بند کر دیے اور لوٹ مار میں لگ گئے۔ پھر ان لوگوں نے بغداد وہاں آنا چاہا تو یہ بھی ممکن نہ ہوا کہ اور مقابلہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ شکست کھا گئے۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔

پھر تو یوسف بن ابی الساج کو بھی ان لوگوں کا قیدی بنا کر ایک خیمہ میں بند کر دیا گیا، جہاں سے وہ لڑائی کے میدان کو دیکھتا رہا۔ قرطاطی نے واپس آنے کے بعد اس سے کہا، کیا تم بھاگ جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس کی گردن اڑادینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ قرطاطی از خود بغداد کے ایک کنارے سے انبار کی طرف اور وہاں سے مصیت کی طرف چلا گیا۔ اس طرح عینی نے مدد سے وہ لوگ بغداد سے واپس چلے گئے۔ اس خوشی میں عام لوگوں نے اور خلیفہ کے ساتھ ان کی والدہ نے بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔

اس سال وہ مہدی جو اپنے بارے میں فاطمی ہونے کا مدعی تھا، اس نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کو ایک شکر کے ساتھ مغربی شہروں میں بھیجا، مگر اس کا شکر شکست کھا گیا اور اس کی ہماعت کے بہت سے افراد مارے گئے۔ اس سال اس مہدی نے محمد یہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔

اس سال عبدالرحمن بن الداھل نے مغربی اموی شہروں میں بے ایک شہر طیبلہ کا حصارہ کر لیا وہ لوگ بھی مسلمان ہی تھے مگر انہوں نے اپنا وعدہ ختم کر دیا تھا۔ اس لیے بزرگ اسے فتح کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ لوگ ہیں:

### ابن الجصاص الجوہری:

ان کا نام حسین بن عبد اللہ بن الجصاص الجوہری ہے۔ بڑے مالدار اور بڑی دولت کے مالک تھے۔ دراصل ان کی یہ دولت احمد بن طولوں کے گھر سے حاصل ہوئی تھی، کیونکہ مصر سے اس کے پاس جتنے جواہر آتے، ان کی مزید تراش خراش وغیرہ کے لیے اس کے پاس جوہری کی حیثیت سے بھیج دیتا تھا۔ اس طرح اس کے ذریعہ سے بڑی دولت کامی تھی۔

ابن الجصاص نے خود کہا ہے کہ ایک دن میں ان طولوں کے دروازہ پر تھا کہ قہر مانہ اپنے ہاتھ میں سولوں لے کر آئی، جس میں سے ہر ایک کی قیمت دو سو دینار ہو گی۔ اس نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم اسے تراش کر چھوٹے کر دو۔ کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے یہ سب لے لیے اور میں اپنے گھر چلا آیا

اور انہیں اتنا چھوٹا کر دیا کہ اب ان میں سے ایک کی قیمت پہلی قیمت کے دسویں حصے کے برابر ہو گئی اور لا کر میں نے سارے دے دینے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس نے انہیں ترشوا کر برداشت کر دیا اس وقت ان نے قیمت دلا کر دینا رہ ہو گئی۔

مزید اتفاق کی بات ہے کہ مقتدر کے پورا حکومت میں ایک بارہ بروز است اس کی گرفت ہو گئی تھی، اس سے اتنا مالی یاد یہ گئی کہ جس کی قیمت ایک لاکھ ریال تھی اس کے پاس بہت سامان باقی نہیں گیا تھا۔ اس موقع پر کسی تاثیر نہ کہا کہ میں جب اس جو ہری کے پاس گیا تو اسے اس کے اپنے گھر میں انتہائی پریشان اور ایک دیوانہ کی مانند پایا۔ تو میں نے اس سے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جواب دیا، تمہارا براہو میر اتنا زیادہ مال چھین لیا گیا ہے، اس بناء پر مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بہت جلد میری روح نکل جائے گی۔ اس وقت میں نے اسے معدود سمجھا۔ ساتھ ہی میں نے اسے یہ تسلی بھی دی کہ آپ کے گھر، آپ کے باغات اور آپ کی دوسری جاندار بھی سات لاکھ دینار کے قریب ہو گی۔ پھر آپ مجھے ایک سچی بات یہ بتائیں کہ اب بھی آپ کے کے پاس جو اہرات اور دوسرے سامان کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ بھی تین لاکھ دینار کے برابر ہوں گے۔ ایسے سونے اور چاندی کو چھوڑ کر جوڑھلے ہوئے یا ان کے زیورات بنے ہوئے ہیں، آخر میں میں نے ناصحانہ طور پر یہ بتایا کہ بغداد میں بڑے سے بڑا کار و باری بھی تو آپ کے مقابل کانہیں ہو سکتا ہے۔

ان کے علاوہ آپ کے پاس آپ کامالِ عہد، حکومت اور لوگوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ تاجر نے بتایا کہ میری ان باتوں سے اس کی طبیعت بالکل ہلکی ہو گئی اور فوت شدہ مال کا غم اس سے ذور ہو گیا، اور کھانا کھالیا۔ حالانکہ تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور جب اس نے مقدتر کی گرفت سے اس کی ماں مسجدہ کی سفارش پر بہائی پائی تو اس نے خود اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ:

جب میں نے دارالخلافہ میں نظر دوزائی تو ایک سو گھڑیوں پر نظر گئی، بس میں بڑے پرانے سامان رکھے ہوئے تھے جو مصر سے یہاں روزگر کئے تھے اور وہ سب ان کے ایک معمولی سے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گھڑی میں سو دینار مصر سے رکھے ہوئے تھے جن کی میرے سو اکسی دوسرے کو خبر تک نہ تھی، میں نے وہ گھڑی مقدتر کی والدہ سے مانگی اور انہوں نے اپنے اس لڑکے مقدتر سے اس کے بارے میں سفارش کی تو اس نے وہ گھڑی مجھے واپس کر دی۔ میں نے اسے قبضہ میں لینے کے بعد دیکھا تو اس کے سونے میں ذرہ برابر کمی نہیں پائی۔ اتنا دو لوت مندا اور صاحب سیاست ہونے کے باوجودہ یہاں ابن الجصاص اپنے قول فعل میں حد درجہ کا مغفل تھا اور اس سے کچھ ایسی ہی باتیں منقول ہیں جن سے اس الزام کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ کیفیت اس کی اپنی بناوٹی تھی تاکہ اسے مغفل ہی سمجھا جائے اور پچھہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح ظرافت اور فہمی مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا۔ والله اعلم



## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی۔

علی بن سلیمان بن الحفضل:

ابو الحسن الانجاشی۔ انہوں نے مبرد، شلب اور یزیدی وغیرہم سے روایت کی ہے اور ان سے رویاں اور معافا وغیرہم نے یہ اپنے نقل کے معاملہ میں ثقہ تھے۔ اپنے خرچ کے معاملہ میں فقیر تھے۔ انہوں نے ابو علی بن مقلد سے رابطہ قائم کیا، یہاں تک کہ اس نے ان کے بارے میں وزیر علی بن عبیسی سے سفارش کی کہ ان کے لیے کچھ ماہوار وظیفہ مقرر کر دئے، لیکن اس نے منظور نہیں کیا اور ان کی بدحالی اس حد تک ہو گئی تھی کہ یہ کچھ شاخجہم کھاتے تھے۔ ایک دن زیادہ کھالینے سے ماہ شعبان میں موت آگئی، یہ انجاش صغير ہیں۔ دوسرے انجاش اوسط سعید بن سعدہ ہیں جو سیبویہ کے شاگرد تھے۔ اور تیسرا انجاش کبیر، جو ابوالخطاب عبد الحمید بن عبد الحمید ہیں، بھر کے باشندوں میں سے تھے اور سیبویہ اور ابو عبید وغیرہما کے شیخ بھی تھے۔ کہا گیا ہے کہ ابو بکر محمد بن السری السراج نجوی ہی الاصول فی الخوا کے مصنوب ہیں۔ اسی سال ان کی وفات ہوئی ہے، یہ بات ابن الاشرینے کہی ہے۔ ان کے علاوہ محمد بن الحسین الارغینی نے بھی وفات پائی۔

## واقعات — ۳۱۶

اس سال ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید الجنابی القراطینی نے اپنے علاقہ میں فساد پھیلایا۔ رقبہ کا محاصرہ کیا اور وہاں زبردستی داخل ہو کر وہاں کے بہت سے باشندوں کو قتل کیا۔ اس سے ڈر کر قرقیسا وہاں نے اس سے امان چاہی تو اس نے انہیں امان دے دی۔ پھر اس نے اپنی جماعت آس پاس کے دیہاتیوں کے پاس بھیجی اور ان کے بھی بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر تو فقط اس کا نام سنتے ہی لوگ اپنے علاقہ سے بھاگنے لگے، اس نے دیہاتیوں پر سالانہ ایک تیکس لازم کر رکھا تھا کہ وہ فی کس دو دینار سالانہ کے حساب سے دیں گے۔

پھر موصل، سخار اور اس کے اطراف میں فساد پھیلایا، اور ان علاقوں کو بر باد دویران کیا اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ جب مونس خادم نے ان کا چیچھالیا، مگر اس نے سامنا نہ کیا۔ بلکہ اپنے علاقہ بھر کو واپس ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک بڑا گھر تیار کر کے اس کا نام دارالبھر رکھا۔ پھر اس ”مهدی“ کو جو مغربی شہروں میں تھا، مدینہ مہدیہ میں بلوایا۔ وہاں اس کی قوت زیادہ زور پکڑ گئی اور اس کے مانے والوں کی تعداد اور بھی بڑھ گئی اور سواد کے دیہاتیوں میں لوٹ مار چاہتے، قتل کرتے اور ان میں غارت گری کرتے، اور اس نے کوفہ میں داخل ہونے اور ان کو لوٹ لینے کا ارادہ کیا، مگر اس کا موقع نہ ملا۔ جب وزیر علی بن عبیسی نے اسلامی ممالک میں قرامضی کی شورشوں اور فتنہ و فساد کو دیکھا، اور ان کو فروکرنے کی کوئی تدبیر نہ رہی تو اپنی وزارت سے استعفی دے دیا۔

خطیب اور اس کے شکر کی کمزوری کی کی بناء پر خود کو وزارت سے بالکل کثیر اکارہ کر لیا۔ اس جگہ ہر علی بن مقلد کا جب مشہور نے کوشش کی، قب اسے عبد اللہ البریدی نے نصر الحاجب کی کوشش سے اسے عبده پر مامور کر دیا۔ یہ لفظ البریدی ایک نظر و اے حرف یاء سے ہے اس کو بزیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یونہلہ اپنے دادا بزید بن منصور الجیری کی خدمت آئرتا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ موسیٰ خادم کی معیت میں ایک زبردست شکر تیار کیا اور اس نے قرامط سے قتال کر کے اس کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے بڑے سرداروں میں سے بے شمار آدمیوں کو قیدی بھی کر لیا۔ موسیٰ خادم ان سب کو لے کر بغداد آگیا۔ ان کے پاس اپنے جہنڈے بھی موجود تھے جن پر یہ آیت پاک:

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ﴾

”ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کمزوروں پر احسان کریں، اور ان میں لوگوں کو امام بنائیں اور ان میں لوگوں کو وارت بنائیں۔“

لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ بغداد کے باشندوں کے دل خوش ہو گئے اور قرامط جو بہت زیادہ بڑھ گئے تھے وہ عراق میں بھی پھیل گئے تھے ان کا زور ختم ہو گیا۔ اب بقیہ قرامط نے اپنا امیر حریث بن مسعود کو بنالیا اور لوگوں کو مہدی کی اتباع کی دعوت دیتے رہے جو فاطمین کا وادا تھا، غربی ممالک میں ظاہر ہوا۔ یہ لوگ جھوٹے مدعی تھے جیسا کہ بہت سے علماء نے بیان کیا ہے اور ہم بھی اس کی تفصیل عنقریب اپنی جگہ پر مان کریں گے۔

اس سال موسیٰ خادم اور مقتدر کے درمیان اختلاف بڑھ گیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ کتوال نازوک اور ہارون ابن عربیب، جو مقتدر خلیفہ کا ماموں تھا، دونوں میں اختلاف ہو گیا اور ہارون نازوک پر غالب ہو گیا اور عوام میں یہ خبر پھیل گئی کہ عنقریب ہارون ہی کو امیر الامراء بنادیا جائے گا۔ جب موسیٰ خادم کو اس کی خبر معلوم ہوئی، اس وقت وہ ”رقہ“ میں تھا، وہاں سے فوراً بغداد و اپنی آگیا اور خلیفہ سے ملاقات کی، جس سے دونوں میں مصالحت ہوئی۔ پھر خلیفہ نے ہارون کو دارالخلافہ منتقل کر دیا۔

اس بناء پر ان دونوں میں پھر وحشت بڑھ گئی، اور موسیٰ کے ساتھ امراء کی ایک جماعت آ کر مل گئی اور دونوں میں پیغام رسانی کا سلسلہ ہوتا رہا۔ اس طرح یہ سال ختم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں معاملات میں کمزوری، حالات میں پریشانی اور فتنوں کی زیادتی، اور ملکی انتشار کی وجہ سے ہوئیں۔ اس سال حسین بن القاسم داعی علوی والی ری کا قتل دیلم کے حاکم اور ان کے بادشاہ راویح الحرم کی وجہ سے ہوا، اللہ اس کا برا کرے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ حضرات ہیں:

بنان بن محمد بن محمد ان بن سعید:

ابو الحسن الزراہب، جو حمال کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کراتیں بہت تھیں، اور لوگوں میں ان کی ایک خاص قدر و منزلت تھی،

بادشاہ کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، آئیں۔ ان علیین طبقہ ان نے کچھ تباہ کر کر کیے تو انہوں نے اس کے بعد اپنے کام کرنے کیا۔ اس بناء پر غصہ میں آگرا سے نہیں شیر کے سامنے ڈال دینے کا حکم دیا۔ جب انہیں ڈال دیا گیا تو شیر ان کو مونگھ کر پیچھے ہٹ کیا، اس لیے وباں سے اٹھا کر اپنے سامنے بھالیا۔ اب تو لوگوں میں ان کی خوفستہ اور رذیاہ ہو گئی۔ ان سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ جب یہ شیر کے سامنے بھادیے گئے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ جواب دیا۔ لہ بھٹے شیر کا تو کوئی ڈنیں تھا البتہ درندوں کے جھوٹوں اور اس سلسلہ میں علماء کے اختلافات کی سوچ رہا تھا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک۔ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ ایک شخص کے ذمہ میرے سود بیانar ہیں، لیکن اس کی تحریر جو میرے پاس تھی وہ اب گم ہو گئی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ اس کا کہیں انکار نہ کر بیٹھئے! لہذا آپ سے میری یہ ایک درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ کاغذ مجھے مل جائے۔ بیان بزرگ نے کہا، میری عمر بہت ہو چکی ہے اور ہدی گل گئی ہے، مگر میں حلوا بہت پسند کرتا ہوں، لہذا تم فوز اجاوہ اور میرے لیے ایک رطل مٹھائی خرید کر لا و تاکہ میں تمہارے حق میں دعا کروں، چنانچہ وہ شخص گیا اور ایک رطل مٹھائی خرید کر لے آیا، اور یہاں وہ کاغذ کھولا جس میں مٹھائی تھی، کاغذ کھولتے ہی انہوں نے اس سے کہا، کیا یہ وہی کاغذ ہے جو مطلوب تھا اور اس کی رسید تھی۔ جواب دیا، جی ہاں! وہی کاغذ ہے۔ انہوں نے کہا، تو یہ کاغذ لا اور یہ مٹھائی بھی لے جا کر اپنے بچوں کو کھلا دو۔ جب ان کی وفات ہوئی تو باشندگان مصران کے اکرام و احترام کے خیال سے ان کے جنازے کو لے کر دور تک گئے۔

اس سال میں ان لوگوں نے وفات پائی۔

محمد بن عقیل البغی، ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی الحافظ بن الحافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الاسفرائی، جنہوں نے صحیح مسلم کی احادیث کا استخراج کیا ہے اور یہ حافظین حدیث میں وہ بہت دیکاہ روایت کرنے والوں میں تھے، اور دوسرے مشہور علماء اور نصراللہ اجنب جو بہت بڑے دولت مند، دیندار اور عاقل تھے اور قرامضہ کی لڑائی کے موقع پر اپنے مال سے ایک لاکھ دینار خرچ کیے تھے، اور نیک نیتی کے ساتھ خود بھی جہاد کے لیے نکلے تھے، مگر اسی سال راستہ میں وفات پائی اور یہ خلیفہ مقتدر کے دربار میں بھی تھے۔



## واقعات — حکایت

اس سال مقتدر کو خلافت سے برخواست کر کے اس کے بھائی القاہر محمد بن معتمد باللہ کو خلافت سونپی گئی۔ ماہ محرم میں موسیٰ خادم اور مقتدر باللہ کے درمیان اختلافات بہت بڑھ گئے اور حالات خراب ہو کر اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ لوگوں نے مقتدر کو خلافت سے سبکدوش کر کے قاہر محمد بن المعتمد کو اس جگہ پر لا کر بٹھا دیا اور لوگوں نے ان کی خلافت پر بیعت بھی کر لی۔ پورے طور پر ان کو خلعت کا ذمہ دار بنا کر قاہر باللہ ان کا لقب رکھ دیا۔

یہ واقعہ ۱۴۵ احریم ہفتہ کی رات کا ہے، اور علی بن مقلہ کو ان کا وزیر بنایا گیا۔ مقتدر کا پورا گھر لوٹ لیا، اس کی بہت سی چیزیں چھین لیں اور ان کی والدہ سے بھی پانچ لاکھ دینار چھین لیے، جنہیں قبر کے گڑھے میں جمع کر رکھا تھا۔ یہ سارے دینار بیت المال میں جمع کر دیئے گئے۔ اور مقتدر ان کی ماں، خالہ، خواص اور باندیوں کو قصر شاہی کا محاصرہ کر کے وہاں سے نکال باہر کیا۔ جتنے در بان اور ملازم میں تھے سب کے سب وہاں سے ہجاؤ گئے اور نازدک کو پولیس کے ماتحت تمام عہدوں کی ذمہ داری کے علاوہ خاص محافظ بھی بنادیا گیا اور مقتدر کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس نے اپنی خلافت سے اپنی مرضی سے سبکدوشی کا استغفار نامہ پیش کر دیا اور اپنے ان کاموں پر امراء اور ذمہ داروں کو گواہ بھی مفتریکر دیا اور اپنا استغفار نامہ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کے حوالہ کر دیا۔ جسے قاضی نے مقتدر کے لڑکے حسین کو دے کر کہا تم اس کا غذ کو انجہ لی احتیاط سے کہیں پر رکھ دو، دوسرا کوئی شخص بھی نہ دیکھنے پائے۔ مگر دو ہی دنوں کے بعد عہدہ خلافت انہیں واپس مل گیا۔ اس لیے انہوں نے قاضی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور خوش ہو کر انہیں قاضی القضاۃ بنادیا۔

محرم کی سولہویں تاریخ، اتوار کے دن پھر قاصر باللہ منصب خلافت پر قابض ہوئے۔ اور ابو علی بن مقلہ کو اپنا وزیر بنالیا۔ اپنے ماتحت تمام علاقوں میں مقتدر کی جگہ قاہر باللہ کی خلافت مان لینے کی خبر نشر کر دی اور علی بن عیسیٰ کو جیل خانہ سے رہا کر دیا، اور ان امراء کی جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کی جا گیروں میں اضافہ کر دیا، جن میں ابوالیحیاء بن حمدان ہیں۔ سو بہار کے دن آتے ہی شکر والوں نے آکر اپنی تجوہوں کا مطالبہ کیا اور ہنگامے کیے اور نازدک کے سخت مخالف ہو گئے، بالآخر سے قتل ہی کر دیا جبکہ وہ نشر کی حالت میں تھا۔ پھر اسے سولی بھی دے دی۔ وزیر ابن مقلہ اور در بان بھاؤ گئے اور یا مقتدر یا منصور کے نفرے لگاتے رہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ موسیٰ خادم اس وقت وہاں موجود تھا۔ لیکن شکر والوں نے موسیٰ کے دروازے پر پہنچ کر اس سے مقتدر کا مطالبہ کیا۔ اولاد سے گھر کے اندر رکھ کر باہر سے تالہ لگا دیا اور اس کے خادموں نے زبردست حفاظت کی کوشش کی۔ لیکن جب موسیٰ نے دیکھا کہ اب مقتدر کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوراً اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ مقتدر کو اب خطرہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے کہ اس طرح وہ لوگ اس پر حملہ کر بیٹھیں۔ لیکن دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے نکلا، نکلتے ہی

لوگوں نے اے یکوئے کرخوشی کے مارے اپنے کندھوں پر آٹھا لیا اور طرح و اعلان فرمائے گئے، تب اس نے اپنے بھائی یا برادر ابوالنجا، بن حمدان کے بارے میں دریافت کیا کہ ان دونوں کے لیے امان نامہ لکھ دے مگر ان میں سے کوئی بھی قریب میں بھی موجود نہ تھا اتنے میں خادم ابوالنجا کا سر لے کر آیا جسے مونڈھوں نے درمیان رکھا تھا اور یہاں آگز کمال کر دھکایا، پھر اپنے بھائی قاہر کو بلوا کر اپنے سامنے بھسلایا اور اپنے قریب لا کر اس کی پیشانی پر بوس دیا اور اس سے کہا، اے بھائی تمہارا کوئی تصور نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم پر جبرا اور قہر کیا گیا ہے اور قاہر بھی کہنے لگا۔ اے امیر المؤمنین خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری جان کی امان ہو، مقدر نے کہا، میں رسول اللہ ﷺ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہا ب محظے تم کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

اس وقت ابن مقلہ نے اپنے تمام علاقوں میں خبر پہنچ دی کہ مقدر پھر خلافت پروالپس آگئے اور حالات پہلے چھیسے ہو گئے ہیں اور نازوک اور ابوالنجا دونوں کے سر لکھا دیئے گئے، اور اعلان کر کے یہ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے اپنے آقا کی نمک حرایت کی ہے۔ ابوالسرایا بن حمدان وہاں سے موصل بھاگ گیا۔ ابن نقیش مقدر کا زبردست مخالف تھا اس لیے مقدر کے خلافت پروالپس آتے ہی وہ اپنا بھیں بدل کر بغداد سے نکل کر موصل پہنچ گیا۔ وہاں سے امینیہ اور وہاں سے قسطنطینیہ پہنچ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ خرمند ہبہ اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا اور منس چونکہ دل سے مقدر کا مخالف نہیں تھا، مجبور احکام کا ساتھ دیا تھا۔

اس بناء پر جب مقدتر اس کے گھر میں پناہ لے گیا تھا تو اس نے مقدر کے ساتھ کچھ بھی بر اسلوک نہیں کیا تھا بلکہ حتی الامکان اس کا دل بھلا تارہا اور اگر چاہتا تو اس وقت جبکہ مقدتر و گھر سے نکلا جا رہا تھا، اسے قتل کر دیا۔ اس بناء پر جب مقدر خلافت پر دوبارہ واپس آیا اس وقت بھی اس کے گھر میں جا کر رہا اور پورے اطمینان کے ساتھ وہاں ایک رات رہ گیا۔

پھر مقدر نے ابو علی بن مقلہ کو اپنا وزیر بنا لیا اور محمد بن یوسف کو قضاء النہادہ کے عہدہ پر مامور کر دیا اور اپنے بھائی محمد قاہر کو اپنی والدہ کے پاس نظر بند کی صورت میں رکھ دیا۔ وہ بہت شفقت کے ساتھ سلوک کرتیں، دل بھلانے کو باندیاں خرید کر دیتیں، اور بہت زیادہ خیال رکھتیں۔

## قرامطہ کا حجر اسود کو اپنے علاقہ میں لے جانا

اس سال عراقیوں کی ایک جماعت اپنے امیر منصور دیلمی کے ساتھ پہنچ دیلمی مکہ معظمه پہنچ گئی۔ پھر سارے علاقوں سے یکے بعد گیرے حاجیوں کی جماعتیں وہاں پہنچتی رہیں۔ کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ البته قرمطی اپنی جماعت کو لے کر یوم الترویہ میں پہنچا۔ تب لوگوں کو ہوش آیا مگر اسی وقت ان سبھوں نے مل کر وہاں ہنگامہ اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں، کوچوں اور خانہ کعبہ میں بے شمار حاجیوں کو مار کر ڈھیر کر دیا اور ان کا امیر ابو طاہر لعنة اللہ علیہ خاص خانہ کعبہ کے دروازہ پر پیٹھ گیا اور اس کے چاروں طرف لوگ پچاڑے جاری ہے تھے اور تلواریں اپنے کام کر رہی تھیں۔ جبکہ وہ مقام مشعر حرام کا دن یوم الترویہ اور مہینہ شہر حرام کا تھا جو سارے دونوں میں انتہائی بارکت ہوتا ہے اور وہ امیر وہاں پر پیٹھا ہوا کہہ رہا

تھا انہیں یہ نہ اتھوں نہدا کے ساتھ ہوں۔ میں یہ مخلوقات کو جلا تا ہوں اور میں تھیں مرتبا ہوں۔ اونگ اس کے ذرست بھاگ کر خانہ کعبہ کے پرداوں سے پتھر کر جان بچانے کی کوشش کرتے۔ مگر اس سے بھی ان کو نجات نہ ملتی۔ بلکہ اس حال میں بھی وہ قفل کر دیے جاتے۔ کوئی محشر اس ان طوفان سر بر ہے تھے۔ جیسے ہی وہ طوفان سے فارغ ہوئے ان کے سر پر توارکا اور ہو گیا۔ جب جان نکلنے کی تو یہ اشعار پڑھنے لگے۔

کفیہ الکھف لا یدرون کم لبشو

تعریف: تم ایسے بہت سے عاشقوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے علاقوں میں پھرے ہوئے ہیں غار کے جوانوں کی طرح وہ نہیں جانتے کہ وہ یہاں کتنے دن ٹھہرے۔

قرمطی کو جو کرنا تھا وہ سب کر گزرا اور حجاجوں کے ساتھ انہیں جو بھی بدترین سلوک کرنا تھا وہ سب بھی کر لیے۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان تمام مقتولوں کو زمزم کے کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔ ان میں سے بہت سے مقامات حرم اور مسجد حرام میں بھی دفن کیے گئے۔

واہ! کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ مقتولین اور مدفونین، اور یہ قبرستان اور یہ مکان، انہیں نہ تو غسل دیا گیا اور نہ ہی کفن دیا گیا اور نہ ان پر نماز بھی پڑھی گئی۔ اس لیے کہ وہ اپنے ای مظلوم اور درحقیقت وہ سب شہداء تھے۔ چاہے زمزم کا قبڑ توڑ دیا گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اکھیر دیا گیا اور اس کے مکان لیے گئے اور سب کی موجودگی میں انہیں پھاڑ دیا گیا۔ اس شخص کو اس نے حکم دیا کہ میزاب کعبہ پر پہنچ کر اسے اکھیر دیا جائے۔ وہ شخص اس حال میں سر کے بلگ پڑا اور فوراً مر کر داخل جہنم ہوا۔ اس وقت وہ میزاب کے توڑنے کے خیال سے بازا آ گیا۔

پھر اس نے مجراسود کو اکھیر دینے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آنکڑا پنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ ”طیڑا آبائیل“ اور کہاں ہے ”جارة من بحیل“، آخر میں مجراسود کو اکھیر لیا اور جب وہاں سے وہ لوگ لوٹنے لگے، اس وقت اس پتھر کو بھی اپنے علاقوں میں لے گئے۔ جوان کے پاس بائیس برس تک رہا۔ پھر لوٹا۔ جس کی تفصیل ہم عنقریب سن تین سو اساتلیں بھری کے واقعہ میں بیان کریں گے۔ انا اللہ وانا الی راجعون۔

جب قرمطی اس مجراسود کو لے کر اپنے شہروانہ ہوا، اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی۔ سفارشیں پہنچائیں کہ وہ مجراسود واپس کر دے تا کہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں کی پیش کش کی، مگر اس نے ایک نہ سئی۔ آخر امیر مکہ نے مقابلہ کیا مگر قرمطی نے اسے اور اس کے اکثر اہل بیت اہل مکہ اور لشکر سب کو شہید کر دیا۔ اور اپنے شہروں کی طرف چلتا ہی رہا۔ اس حال میں کہ اس کے ساتھ مجراسود بھی تھا اور حجاجوں کے لوٹے ہوئے مال بھی تھے۔ اس لعین نے مسجد حرام میں ایسی ایسی نازیبا حرکتیں کیں جو نہ تو اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے ساتھ کیں اور نہ ہی بعد میں۔ لیکن عنقریب ہی خدائے قہار ان کو ایسے عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اور نہ یہی گرفت کر سکتا ہے، ان لوگوں نے ایسی حرکتیں صرف اس لیے کی تھیں کہ یہ بعد دین کفار ملحد تھے۔

یہ لوگ ان فاطمین میں سے پہنچا تھا، جس کا نام ابو محمد مسیح الدہ بن میمون القداش تھا۔ جو کہ قبیلہ سالمیہ کا رنگریز تھا۔ درحقیقت وہ ایک یہودی تھا۔ مگر اپنے اسلام کا انکھا رکیا اور سالمیہ سے انکل کر افریقی علاقوں میں پہنچ گیا تھا اور وہاں خواشریف فاطمی ہونے کا، عمومی تھا۔ جسے قوم پر اور دوسرا سے جاہل قبیلہ والوں نے بھی لر قبول کر لیا تھا۔ اس طرح اس کی اپنی ایک حکومت ہو گئی اور ایک شہر کا مالک ہو گیا۔ جس کا نام شہر بحمد اللہ تھا۔ پھر وہاں ایک شہر سایا جس کا نام اس نے ”مہدیہ“ رکھا۔ اور وہیں اس کی حکومت کا مرکز تھا۔ یہ قرامطہ بھی اس سے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ پھر ایک دوسرے پر اڑاکنے کی بھی لگاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسی حرکتیں صرف سیاست اور دنیا کو دکھانے کو کرتے۔ حقیقت ایسی نہیں تھی۔

ابن اثیر نے ذکر کیا ہے کہ اس مہدی کے ابوظاہر کو خط لکھ کر ایسی حرکتیں کرنے پر سخت ملامت کی کہ عوام کو مخالفت میں بولنے کا پورا موقع دیا اور وہ اسرار جنہیں اب تک وہ چھپا کر کام کر رہے تھے سب کو ظاہر کر دیا۔ اور ان لوگوں سے تمام لوٹی ہوئی چیزیں مال، اسباب وغیرہ سب واپس کرنے کا حکم دیا یہ خط پڑھ کر اور ملامت سن کر اس نے اس کی بات مان لی، فرمانبرداری کر لی اور اس میں جن باتوں کے کرنے کا اشارہ و تھوا سب باقی مان لیں۔ کچھ مدد شین بھی ان قرامطہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دن اسی طرح گرفتار ہے، مگر اللہ نے انہیں ازادی دلادی۔

ان لوگوں کی کم عقلی اور بے دینی کے سلسلہ میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جس نے انہیں گرفتار کیا تھا۔ وہ ان سے بہت زیادہ اور سخت قسم کی خدمتیں لیا کرتا تھا۔ اور نشہ کی حالت میں انہیں بد خلقی سے پیش آتا۔

چنانچہ ایک دن وہ اپنے نشہ کی حالت میں مست ہو کر کہنے لگا، تم اپنے محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے۔ پھر کہا، تم ابو مکر بن عبد اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، وہ بہت کمزور اور بے وقت تھے۔ پھر اس نے کہا، عمر بن الخطاب، بہت ترش و اور سخت مزاج تھے۔ اور عثمان بن عفی جاہل احمق تھے۔ اور علی بن ابی طالب جھوٹے تھے۔ ان کے پاس ایک بھی ایسا آدمی نہ تھا جسے وہ علم سکھاتے، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے کہ میرے سینے میں بہت زیادہ علوم ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو ایک علم اور دوسرا سے کو دوسرا علم سکھاتے۔ پھر کہا، یہ سب جھوٹی باتیں تھیں۔

اس کے دوسرے دن اس نے کہا، میں نے کل تم سے جتنی باتیں کہی تھیں وہ کسی ایک سے بھی نہ کہنا، یہ ساری باتیں ابن الجوزی نے اپنی منتظم میں بیان کی ہیں۔

کسی نے ان کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں یوم الترویہ میں طواف کے مقام میں مسجد حرام میں تھا۔ اس وقت قرمطی نے ایک ایسے شخص پر جو میرے بغل میں تھا ملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر زور سے چلا کر کہا، او گد ہے! کیا تم اس گھر کے بارے میں یہ کہا نہیں کرتے ہو کہ (مَنْ دَخَلَهُ سَكَانُ أَمْنًا) جو اس میں داخل ہو گا، اماں پائے گا تو وہ امن کہاں گیا؟

تو میں نے اس کے جواب میں کہا کیا تم میرا جواب سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: ”ہاں!“ میں نے کہا، اللہ نے ارادہ کیا

قدہ اس لیے انہوں نے اس سے اُن دن بارہ یا تھنہ کہا کہا کہا اس نے یہ اپنے گھورے اس لفڑی میں اور واپس پلائیا۔  
گئی نے اس موقع پر یہ اور بھی سوال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان توں ہر مذاب نازل لیا جو اس اصحابِ فیض تھے  
اور انصاری تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے مدد کے ساتھ بچ کھبہ بدھوئیں کیں اس سلسلہ میں ان پر  
بچ کھبہ بھی مذاب نازل نہیں کیا، حالانکہ یہ بات اپنی طرح معلوم ہے کہ یہ قرامط یہود انصاریٰ مجوس بلکہ بت پرستوں سے بھی  
بدترین تھے اور انہوں نے وہ حرکتیں کیں جو کسی نے بھی نہیں کی تھیں۔ تو ان لوگوں کو فی الفور عذاب اور سزا کا بدل کیوں نہیں دیا  
گیا۔ جیسا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟

## اصحابِ فیل کی فوری گرفت ہونے اور بدترین قرامط کو مهلت دینے پر ایک علمی باریک نکتہ

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی شرافت کے اظہار کے لیے اصحابِ فیل کو فی الفور سزادی گئی تھی، اور اس کی  
شرافت عظیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس شہر سے ظاہر ہونے والی تھی، جس میں یہ بیت اللہ موجود تھا۔ چونکہ ان  
لوگوں نے اس خطہ کی توہین کا ارادہ کیا تھا، جس کی شرافت جلدی ظاہر ہونے والے رسول کی رسالت سے تھی۔ اس لیے ان کو بغیر  
کسی مهلت دیے فی الفور سزادی گئی۔ اس سے پہلے کوئی ایسی شریعت باقی نہیں رہ گئی تھی جو اس کی شریعت کو ظاہر کرتی۔

اگر سزادی نے میں ذرا بھی توقف کیا جاتا، اور وہ اسی میں داخل ہو کر اسے دیران کرڈا لتے تو لوگوں کے دل اس کی  
فضیلت سے بہیش کے لیے تنفس ہو جاتے۔ برخلاف ان قرامط میں انہوں نے جیسی بھی بری حرکت کی مگر اس وقت جبکہ شریعت  
مطہرہ آچکی، دین کے اصول و قواعد مقرر ہو چکے اور لوگوں کو اس بات کا پتہ یقین ہو گیا کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی شرافت اللہ کی  
دینی ضروریات اور لوازمات میں سے ہے اور ہر مومن نے یہ جان لیا کہ ان لوگوں نے حرم کے اندر بدترین قسم کا الحاد کیا ہے۔  
اور یہ لوگ بدترین ملحد اور کافر تھے کہ یہ ساری باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس لیے مجموعی حالات نے  
اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان مجرموں کو رنگے ہاتھوں فی الفور سزادی جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دن  
تک کی مهلت دی جبکہ لوگوں کی آنکھیں پتھرانے لگیں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت قدیمة ہے کہ وہ مجرموں کو پہلے مهلت  
دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، زمی کرتا ہے پھر ایک مرتبہ زبردست طریقہ سے پکڑتا ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا  
ہے کہ اللہ ظالم کو مهلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب پکڑتا ہے تو وہ بخ نہیں سکتا۔ پھر یہ آیت پاک تلاوت فرمائی:

﴿وَلَا تَحْسِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٌ تُشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝﴾

”تم اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھو وہ تو انہیں آنے والے آنکھیں پتھرا دینے والے دن تک کے لیے  
مہلت دے رکھی ہے،“ ۱۹

راکھاڑی تھی جو حجاز کی زمین کے بالوں کے مشاہقی، جس سے بارے گہر گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں:

احمد بن الحسن بن الفرج:

ابن سفیان ابو مکر الخوی، جو کوفوں کے مذہب کے بڑے عالم تھے اور اس فنِ نحو میں ان کی کمی تصنیفیں ہیں۔

احمد بن مہدی بن رمیم:

العادل الزاہد انہوں نے طلب علم میں تین لاکھ دراہم خرچ کیے اور چالیس برس مسلسل کسی بستر پر پیٹھ نہیں رکھی۔

حافظ ابو نعیم نے ان کا ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک رات میرے پاس ایک عورت آئی، اور مجھ سے کہا کہ میں ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ یعنی مجھ سے کسی نے بزور نہ کر لیا ہے جس سے میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں۔ لیکن میں نے اپنے اس عیب کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور یہ حمل آپ سے ہے۔ لہذا آپ میرے عیب کو چھپائیں، اللہ آپ کے گناہوں کو چھپائے، آپ مجھے رسوانہ کریں۔ میں سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب اسے ولادت ہوئی تو محلہ والے اور ان کے امام میرے پاس مجھے بچکی مبارکبادی دینے کو آئے، یہ سن کر میں نے بھی چہرہ سے خوشی کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کو دو دینار دے کر ان سے چھوٹری میں منگوا کر انھیں کھلادی۔ اس کے بعد سے ہر ماہ امام مسجد کے توسط سے دو دینار بچ کے خرچ کے نام سے میں اس کے پاس بھجوتا ہا اور اس کو سلام بھی کھلواتا رہا۔ اس عذرخواہی کے ساتھ کہ ہم دونوں میں بدشیتی سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں جن سے ہم دونوں میں عیحدگی ہو گئی، دوسال اسی طرح گزر گئے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اب وہ بچپنوت ہو گیا اور سب لوگ میرے پاس اظہار تعزیت کے لیے آئے تو میں نے بھی اپنے چہرہ پر غم کا مظاہرہ کیا۔

اب وہ عورت خود ایک رات ان سارے دنایر کو جو اس کے پاس بھیج گئے تھے، ایک تھیل میں لے کر آئی، اور مجھ سے کہا، اللہ آپ کے عیوب کی بھی پردہ پوشی کرے اور بہتر بدلہ دے۔ اور وہ یہ دینار ہیں جو آپ میرے پاس بھیجا کرتے تھے، آپ انہیں لے لیں۔ تو میں نے کہا، میں تو بچہ کی خدمت کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن تم نے اس کی خدمت کی ہے، اس لیے یہ تمہارے ہی ہوئے۔ لہذا اب تم جہاں چاہو انہیں خرچ کرو۔ اس کے بعد وہ دعا دیتی ہوئی لوٹ گئی۔

بدر بن المیثم:

بن خلف بن خالد بن راشد بن ضحاک بن نعمن بن محرق ابن العممان بن المنذر، ابو القاسم ابْنُ الْقَاضِيِّ الْكَوْنِيُّ، بغداد میں اقامت اختیار کی اور ابو کریب وغیرہ سے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے چالیس برس کی عمر کے بعد حدیث کی ساعت شروع کی۔ ثقہ اور بڑے فاضل تھے۔ ایک سو سترہ برس عمر پائی۔ اس سال کوفہ میں ماہ شوال میں وفات پائی۔

محمد بن عبد الرحمن

بن عبد العزیز بن امر زبان بن شاہزاد ابوالقاسم الغوئی یہاں بنت الحنفیہ کے نام سے مشہور تھے۔ سن ۱۰ صدی ہی پروردہ بھرپور میں والدت ہوئی۔ انہیوں نے ابو عبید القاسم بن ساام کو، یعنی عمر ابن حفیظ کے اہلہ احمد بن حنبل علی بن المذاہبی، یعنی بن ابی عبد خلف بن پرشام الہبی اور کے علاوه اور بھی بہت سے محدثین سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے پاس ایک جزو تھا جس میں انہوں نے وہ حدیث جمع کی تھیں جو ابن معین سے سن رکھی تھیں۔

مویں بن ہارون نے وہ جزو، ان سے لے کر اسے دجلہ میں پھینک دیا اور کہا، کہ تمیوں بڑے محدثین کی روایتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ستاسی شیوخ سے نقل میں یہ متفرد ہیں۔ یہ ثقہ حافظ اور ضابط تھے۔ بہت سے محدثین حافظین سے روایت کی ہے۔ ان کی کئی تصنیفات ہیں۔

مویں بن ہارون حافظ نے کہا ہے کہ ابن بنت منیع ثقہ اور بہت سچے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ تو ان کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ حسد کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ ابن بنت منیع حق بات کے سوا دوسروی کوئی بات نہیں کہتے۔

ابن ابی حاتم وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کی احادیث صحیح میں داخل ہوتی ہیں۔ وارقطنی نے کہا ہے کہ بغولی کسی حدیث کے بارے میں بہت کم اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی کوئی بات کہتے تو ایسی مضمبوط ہوتی جیسے کہ ساگوان کی لکڑی میں کوئی کیل لگادیتے تھے۔

ابن کامل نے بھی اپنی کتاب کامل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اس پر اعتراضات کیے ہیں اور کہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن پر میں نے اعتراض کیا ہے۔ ان کو معرفت حدیث حاصل ہے اور یہ صاحب تصنیف بھی ہیں لیکن ابن الجوزی نے ابن عدی کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے اس سال عید الفطر کے دن وفات پائی ہے اور ایک سو تین برس چند مہینے کی عمر پائی ہے۔ اس کے باوجود ان کے کان آنکھ اور دانت سب صحیح و سالم تھے اور باندیوں سے جماعت کی بھی پوری قوت تھی، بغداد میں وفات پائی اور باب اتسین کے مقبرہ میں دفن ہوئے۔ اللہ ان پر حرم کرے اور ان کے ٹھکانہ کو مکرم بنائے۔ آمین۔

محمد بن ابی الحسین:

بن محمد بن عثمان الشہید الحافظ ابوالفضل الہبی ابی السعید سے مشہور ہیں۔ بغداد آ کر وہاں محمد بن عبد اللہ الانصاری سے حدیث کی سامعت کی اور ان سے ابن المظفر الحافظ نے روایت کی ہے۔ یہ ثقہ ثبت حافظ اور متقویوں میں سے تھے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی دس سے زائد حدیثوں پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ انہیں بھی قرامط نے یومِ مکرمہ میں ترویہ کے دن اسی سال قتل کیا ہے جبکہ بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ ان پر حرم کرے۔

الکعبی المتكلم:

ابوالقاسم عبد اللہ بن احمد بن محمود الکعبی المتكلم۔ نسبت بنی کعب کی طرف ہے۔ معتزلہ کے مشائخ میں سے ایک ہیں۔

معترض کے فرقہ کعیہ کی نسبت بھی ان ہی کی طرف ہے۔ این خلاں نے کہا ہے کہ یہ کتاب متكلمین میں سے ہیں اور علماً کے نصوص مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس سے بے اختیار اور بغیر ارادہ صادر ہو میں کہتا ہوں کیونکہ مختلف نصوص قرآن مجید کی مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ بختاز۔ ”تمہارا رب پیدا رہتا جو چاہتا ہے اور جیسا پسند کرتا ہے“۔ اور بھی کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى هُنَّا أَنْهَلُوهُمْ“ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ اور بھی کہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُنَّا هُنَّا دے دیتے۔ اگر بھی کہا ہے وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُهَلِّكَ قَرِيْبَةَ أَمْرُنَا مُتَرَفِّهَا。 ”اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت ان کے زیادتی کرنے والوں کو حکم دیتے۔“ ان کے علاوہ ایسی باتیں بھی ہیں جو بدہتہ معلوم ہوتی ہیں۔ اور عقل و نفل کے بالکل موافق ہیں۔

## واقعات — ۳۱۸

اس سال خلیفہ نے اپنے وزیر ابو علی بن مقلہ کو معزول کر دیا۔ اس کی مدتِ وزارت دو برس چار مہینے تین دنوں کی ہوئی۔ اور اس کی جگہ سلیمان بن الحسن بن مخلد کو اپنا وزیر بنالیا۔ اور علی بن عیسیٰ کو اس کے معاون کی حیثیت سے رکھا۔ اور اس سال ماہ جمادی الاولی میں وزیر ابو علی بن مقلہ کے گھر کا گ لگادی گئی۔ اس مکان پر اس نے ایک لاکھ دینار خرچ کئے تھے۔ آگ لگنے کے بعد لوگوں نے اس کے تختوں کے علاوہ لو ہے ادا سے وغیرہ بھی لوٹ لیے۔ پھر خلیفہ نے بھی اس پر دولا کھو دینار کا جرمانہ کروایا۔

اس سال دارالخلافہ میں جو لوگ رہا کرتے تھے، سبھوں کو بغداد سے نکال باہر کیا۔ یہ اس لیے کہ جب مقتدر دوبارہ خلافت پر واپس آگئے تو وہ لوگ آپس میں ان کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس طور پر کہ جو لوگ ظالم کی اعانت کرتے تھے۔ اللہ نے ان ہی لوگوں پر اسے مسلط کر دیا ہے۔ اور یہ کہ جو شخص کسی گدھے کو چھپت پر چڑھائے گا وہ اسے وہاں سے نہیں اتار سکتے گا۔ اس لیے خلیفہ نے ان لوگوں کو بغداد سے ہی نکال باہر کیا۔ اور جو وہاں جمیرہ گئے ان کو سخت سزا کی گئی۔ اور ان کے اور رشتہداروں کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کی عورتیں اور ان کے بچے بھی جلا دیئے گئے۔

الیاصل یہ لوگ وہاں سے انتہائی ذلت کے ساتھ نکال دیئے گئے، پھر وہاں سے نکل کر واسطہ چلے گئے اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی کی اور ان کے عاملوں کو بھی وہاں سے نکال باہر کیا۔ مجبوراً خلیفہ نے ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے موئی خادم کو روائہ کیا۔ جس نے وہاں زبردست قیامت قائم کر دی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح ایسے لوگوں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہ رہی۔

اس سال خلیفہ نے ناصر الدولہ بن محمدان کو ”موصل“ سے نکال کر اس کی جگہ پر ان کے دونوں چچا، محمدان کے دونوں بیٹوں سعید اور نصر کو مقرر کر دیا اور خود اسے دیا رہ بیعہ نصیبیں، سنجار، خابور اور رأس العین اور ان کے علاوہ میافارقین، اردن کا والی

مقرر کرد یا اور اس سلسلہ میں سالانہ کچھ قوم خلیفہ کے یا اس بھیجنے کی ضمانت لی۔ اس سال جمادی الاولی کے مہینے میں ایک شخص پوارتاج کے علاقوں سے ظاہر ہوا۔ جس کو لوگ صالح بن محمود کہتے تھے۔ اس کا نام من تربی مالک کی آئی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔ پھر وہ خاور کی طرف روان ہو گیا اور اس کا محاصرہ کر کے آخر اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے بہت سالاں لوٹ لیا۔ پھر وہاں تقریر کی، اور کچھ فحیضتیں لیں، جن میں چند جملے یہ ہیں: ہم شیخین میں ولایت شلیم کرتے ہیں اور حسین علیہ السلام سے برآت کرتے ہیں اور موزوں پر فتح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ پھر اس اطراف میں ہنگامہ پھیلایا۔ مجبور انصر بن حمدان نے اس کا مقابلہ اور اس کا مقابلہ کر کے اسے اور اس کے ساتھ اس کے دو بیٹوں کو قید کر لیا۔ پھر اسے لے کر بغداد آگیا، جس کی وہاں زبردست شہرت ہوئی، اور اس کا دوسرا شخص موصل کے علاقہ میں نکل گیا۔ تو ایک ہزار آدمیوں نے اس کی ایجاد کر لی۔ اور نصیبین والوں کا محاصرہ کیا۔ اس وقت وہاں کے باشندگان ان لوگوں کے مقابلہ کو نکلے اور ان سے مقابلہ کیا۔ لیکن اس نے مقامی لوگوں میں سے ایک سو قتل کر دیا اور ایک ہزار کو قیدی بنا لیا اور بقیہ لوگوں سے بیعت کر لی، اور چار لاکھ درہم ان سے وصول کیے اس لیے ناصر الدولہ ان کی طرف مقابلہ کے لیے بڑھا، پھر ان سے لڑائی کی۔ بالآخر کامیاب ہو کر اسے بھی قید کر کے بغداد بخیج دیا۔

اس سال خلیفہ نے اپنے بیٹے ہارون کو خلعت دے کر اس کے ساتھ وزیر اور لشکر کو دے کر فارس، کرمان، بختیان، سکرات کا نائب بنادیا۔ اسی طرح اپنے بیٹے ابوالعباس الراضی کو بھی خلعت دے کر بلادِ مغرب، مصر اور شام کا نائب بنادیا اور موسیٰ خادم کو اس کے ساتھ کر دیا جو اس کی ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس سال عبدالیسحیق بن ایوب بن عبد العزیز البهائی نے لوگوں کو حج کروایا۔ حاج اپنے ساتھ ڈھال اور خود لے کر گھر سے نکلے، تاکہ جاتے اور واپس آتے وقت فرامطے سے محفوظ رہیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### احمد بن اسحاق:

بن بہلول بن حسان ابن ابی سنان۔ ابو جعفر التتوحی القاضی الحنفی العدل، الشفی، الرضی زبردست فقیہ تھے۔ یوں تو بہت سی حدیثیں سنی ہیں۔ مگر ابوکریب سے صرف ایک حدیث کی روایت کی ہے۔ فنِ نحو کے عالم فتح عبارت لکھنے والے عمدہ اشعار کہنے والے اور اچھے فصلے کرنے والے تھے۔

ایسا اتفاق ہوا کہ خلیفہ مقتدر کی والدہ سیدہ نے کوئی علاقہ وقف کر دیا تھا اور انہوں نے اس کے وقف نامہ کی ایک کاپی سرکاری دفتر میں اپنے پاس رکھ لی تھی۔ لیکن بعد میں والدہ سیدہ نے اپنے وقف سے پھر جانے کا ارادہ کیا اور ان کو وہ وقف نامہ لے کر اپنے پاس بلوایا۔ تاکہ وہ وقف نامہ ان سے واپس لے کر اس وقف سے پھر جائے۔ یہ جب اس کے پرده کے پیچے

پہنچئے تو انہوں کی وجہ سکھ گئے۔ اس لئے انہوں کو کہا جیسے کہ خیال کی مظلومی سے ایسا عمل کر، ممکن نہیں ہے، کیونکہ مل مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ اب یا تم آپ بھتے اس عہدہ سے انہوں نے بھر دیجئے۔ پس انہوں نے مقتدر کی ریس یا یہ کہ اس شیخہ توہین سے پاس ہی رہنے دیں اور آپ اپنے خیال سے باز آ ہائیں۔ یونہ اس کام پر میں حاصل ہوں اس کے علاوہ وہ سری کوئی صورت نہیں ہے۔

آخر کار والدہ سیدہ نے اپنے بیٹے غیفہ مقتدر سے ان کی شکایت کی تو مقتدر نے بھی اس معاملہ میں ان دونوں سے سفارش کی۔ انہوں نے پوری صورت حال خلیفہ کے سامنے بیان کر دی۔ جواب سن کر خلیفہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس شخص کو ان کا غذاء سے نہ تو کوئی مطلب ہے اور نہ یوں ہی اسے غیر ذمہ دارانہ طور پر چھوڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی نہ تو انہیں معزول کرنا ممکن ہے اور نہ انہیں تنگ کیا جا سکتا ہے، آخر کار وہ بھی ناراض ہو گئیں اور ان کے ایسا کرنے پر کسی کو ان کے پاس بھیج کر اس کا شکر ادا کیا تب حاکم نے خود کہا، جو شخص اللہ کے معاملے کو بندوں کے معاملات پر ترجیح دیتا ہے اللہ ایسے شخص کو تمام آفات سے محفوظ رکھتے ہیں کافی ہو جاتا ہے اور وہ اسے بہترین رزق دیتا ہے۔ ان کی وفات اس سال ہوئی جبکہ عمر اتنی برس سے آگے بڑھ چکی تھی۔

### بیکی بن محمد بن صاعد:

ابو محمد، ابی جعفر المنصور۔ انہوں نے طلب حدیث کے لیے دور راز علاقوں کا سفر کر کے احادیث سنیں، لکھیں اور انہیں حفظ کیا۔ یہ بڑے حافظوں اور روایت کے شیوخ میں تھے۔ ان وہی بھی اکابرین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ان کی یہ تصانیف ان کے حفظ، باریک بینی اور سمجھ پر دلالت کرتی ہیں۔ ستر برس کی عمر میں کوفہ میں وفات پائی ہے۔

### الحسن بن علی بن احمد:

بن بشار بن زیاد جواہن العلاف الفریر النہروانی سے مشہور ہیں؛ شاعر مشہور ہیں۔ معتضد کے قصہ گوؤں میں سے ایک تھے، ان کا ایک مشہور مرثیہ ہے جسے انہوں نے اپنی ایک بیلی کے مارے جانے پر کہا تھا۔ کیونکہ اس بیلی نے پڑوں کے کبوتروں کے پچوں کو ان کے گھنسلوں سے پکڑ کر کھالیا تھا، اس غصہ میں پڑوی نے اسے مارڈا تھا۔ اس مرثیہ میں بہت سی آداب و حکمت کی باتیں ہیں اور وہ مرثیہ دل پر منتاثر ہونے والا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرثیہ میں بیلی کا نام لے کر ابن المعتز کو مرا دیا ہے۔ لیکن صراحت خلیفہ مقتدر کی طرف اس کی نسبت کرنے کی بہت نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے معتز کو قتل کیا تھا۔ اس مرثیہ کا پہلا شعر یہ ہے اور اس کے کل پنیسہ اشعار ہیں۔

یا هر فارقتنا ولم تعد و کفت عندي بمنزلة الولى

ترجمہ: اے میری بیلی! تو مجھے چھوڑ کر ایسی گئی کہ پھر نہ لوئی۔ حالانکہ تو میرے نزدیک میرے بچے کے برابر تھی۔



## واقعات — ۱۹

اس سال تمام جان ماءِ محروم تیس بنداد و اپنی آئے۔ کیونکہ خود موسیٰ خادم بھی قرامط کے ڈر سے ایک بہت بڑے شکر کو لے کر ج کو نکلا۔ جس کی وجہ سے تمام مسلمان بہت خوش ہوئے تھے۔ بنداد کو خوب سجا گیا تھا۔ اور موسیٰ خادم کے لیے خیسے اور قبے راستے میں لگائے گئے تھے۔ اچانک دورانِ غفار سے یہ خبر ملی کہ قرامط بھی آگے گئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے تمام لوگوں کو عام شاہراہ سے نکال کر کئی دنوں تک گھاٹیوں اور جھاڑیوں سے جلاتا رہا۔ اس دوران اس نے ان علاقوں میں تعجب خیز مناظر دیکھے، اور لانبی چوڑی ندیاں دیکھیں۔ اور لوگوں نے بہت سے ایسے انسان بھی دیکھے جو سخن ہو کر پھر بن گئے تھے۔ ان ہی لوگوں میں ایک ایسی عورت کو بھی لوگوں نے دیکھا، جو تور پر بیٹھی روٹی پکار رہی تھی۔ مگر وہ عورت اور تور سب سخن ہو کر پھر بن چکے تھے۔ ان میں سے کئی چیزیں اٹھواڑے پنے ہمراہ خلیفہ کے پاس لے گئے۔ تاکہ وہ خود بھی مشاہدہ کر کے اس کی باتوں کی تصدیق کریں۔

یہ تمام باتیں ابن الجوزی نے اپنی کتاب المحتشم میں بیان کی ہیں۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ سب قوم عادیا ہو دیا قومِ  
شیعیت کے لوگوں میں سے تھے۔ واللہ اعلم

اس سال مقتدر نے اپنے وزیر سلیمان بن الحسن کو ایک برس دو مہینے نو دن وزیر کھر کر معزول کر دیا تھا۔ اور اس کی جگہ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد الغلوذی کو وزیر بنایا گھر صرف دو مہینے تین دن کے بعد ہی اسے بھی معزول کر دیا۔ اس کی جگہ پھر حسین بن القاسم کو وزیر بنایا پھر اسے بھی معزول کر دیا۔

اس سال خلیفہ اور موسیٰ کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ کیونکہ خلیفہ نے محابی کے عہدہ پر ایک ایسے شخص کو مامور کر دیا تھا جس کا نام محمد بن یاقوت تھا، اور وہ پولیس کا افسر تھا۔ مگر موسیٰ نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عہدوں پر قاضیوں اور دینداروں کے سوا کسی دوسرے کو مامور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس شخص میں ان میں سے کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے اس کا اختلاف خلیفہ سے بر ابر قائم رہا۔ یہاں تک کہ آخر کار خلیفہ نے اسے محابی اور پولیس دونوں عہدوں سے نکال دیا۔ نتیجہ میں آپس کا اختلاف ختم ہو کر ان میں مصالحت ہو گئی۔

اس کے بعد پھر دونوں میں نفرت کی آگ بھڑک گئی۔ اس حد تک کہ آخر مقتدر باللہ کے قتل کی بھی نوبت آگئی جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اسی سال طرسوں کے حاکم نسل نے ارم کے علاقوں پر زبردست حملہ کیا۔ وہاں کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ اور تقریباً تین ہزار آدمیوں کو قید کیا اور سونا، چاندی، ریشمی قیمتی کپڑوں سے بھی بہت کچھ لوٹا۔ اسی طرح پھر دوسری بار بھی ان پر حملہ کیا۔ ابن الدیرانی اور ارمی کے شاہزادم کو خلکھا کہ وہ ممالک اسلامیہ پر حملہ کرے۔ حملہ کی صورت میں اعانت کا

بھی مدد کیا۔ چنانچہ ۱۰۰،۰۰۰ میں بہت بہ لٹک رکھ کر ان یہ تمدن اور سیاست کی اگلی اینیت کے ساتھ ہو گئے۔ ان کے مقدمہ کے لیے آذربیجان کے نائب حاکم مغلخ نام یوسف بن ابی السراج سامنے آئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی بھی ہر یہ جماعت شریک ہوتی اور سے سے پہلے ابن الدبر ان سے تمدن پر تمدن پر۔ اور تیرتیجہ ایک لاہاؤ دیوں و ذیعینہ نہ دیا۔ بے تمارلوں و قید کرنی اور غیمتہ مال بھی بے صاب حاصل کریا۔ اور وہیں کسی ایک تعلیم میں بند ہو کر روایوں کو خط لکھ رہ ہوایا۔

چنانچہ ان رومیوں نے علاقہ شمیشاط میں پہنچ کر اسے گھیر لیا۔ اس مصیبت کے وقت موصل کے نائب گورنر سعید بن حمدان سے وبار کے باشندوں نے فریاد ری کی اور وہ خبر پاتے ہی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ ایسے وقت میں کوہہ اس علاقہ کو فتح کرنے ہی وائے تھے ان رومیوں کو جیسے ہی مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ لئے اور ملطیہ پہنچ کر وہاں لوٹ کھسٹ مچاتے ہوئے اپنے علاقوں میں ناکام لوٹ آئے۔ ان کے ساتھ ہی ابن فیض بھی تھا، جس نے نصر انیت قول کر لی تھی، اور بغداد کا باشندہ تھا۔ ساتھ ہی ابن حمدان نے ان کے علاقہ تک پہنچا کیا اور ان سے لڑ کر ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا اور ان سے بہت سالاں غیمت بھی حاصل کیا۔

ابن اشیر نے کہا ہے کہ اس سال ۹۰ شوال میں زبردست سیلا ب آیا اور جو تکریت کے بازاروں میں داخل ہوا۔ یہاں تک کہ ان بازاروں میں چودہ باشنت پانی کھڑا ہو گا تھا۔ جس کے سب سے وہاں کے چار سو گھر ڈوب ہو گئے اور وہاں کی کتنی جانوں کا جونقصان ہوا، وہ خدا کے سو اکوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں دفن کے وقت اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ یہ کوئی مسلمان تھا یا نصرانی، سب اکٹھے دفن کئے گئے۔

اور یہ بھی کہا کہ اسی سال موصل میں زبردست آندھی آئی، پھر وہ سیاہ ہو گئی، یہاں تک کہ دن کے وقت بھی ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ قیامت آنکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، جس سے کیفیت دور ہو گئی۔

## اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احسین بن عبد الرحمن:

ابو عبید اللہ الانطا کی جو شام کی سرحدوں کے قاضی تھے اور ابن الصابوں کے نام سے مشہور تھے۔ یہ شاہ اور بہت زیادہ قابل تھے۔ بغداد آئے اور وہیں جوان ہوئے۔

علی بن الحسین:

بن حرب بن حیلی۔ مصر میں زمانہ دراز تک عہدہ قضاۓ پر مامور رہے ثقہ اور ہر یہ عالم تھے۔ تمام قاضیوں میں یہ پسندیدہ اور بہت زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ ابوثور رفتہ پر عامل تھے، ہم نے ان کا طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے۔ سن تین

گیارہ تیری میں انہوں نے پہنچا۔ تبعش، یہ قیامِ حدا، مفتراء، ایسے گئے پھر تقدیر نہ کر دیں، قدمت اختیار کر لی اور سالی روان کے ماہِ عمر میں وفات پائی۔ ان کے جنازہ کی نماز ابوسعید الحضرتی نے پڑھائی اپنے ہیں مگر میں فتن کیے گئے۔

دارقطنی نے کہا ہے کہ ابو عبد الرحمن النسائی میں اپنی صحیح میں ان سے روایت ہیان کی ہے اور شاید وہ ان سے میں برس تین وفات پائے۔ ان کے اور بھی بڑائی اور فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔

### محمد بن افضل:

بن عباس ابو عبد اللہ البخاری الزابد۔ ان کے متعلق یہ متفق ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی میں ایک قدم بھی آگئے نہیں بڑھایا اور اللہ سے شرماتے ہوئے کسی بھی چیز کو لپھائی ہوئی نظر وہ سے نہیں دیکھا اور تیس سال اپنے فرشتوں کو برائی لکھنے کا موقع نہیں دیا۔

### محمد بن سعد:

بن ابو الحسین الوراق، ابو عثمان نیشاپوری کے شاگرد۔ فقیہ تھے اور معاملات پر اچھی گفتگو کرتے تھے۔ ان کے اچھے کلاموں میں سے یہ ہے کہ جس نے اپنی نظر محمرات کی طرف دیکھنے سے روک رکھی، اس کی وجہ سے اللہ اس کی زبان پر حکمت کی ایسی باتیں روان کر دے گا، جس سے ان کے سخنے والے بدایجی بائیکیں گے۔ اور جو شخص مشہرات کی طرف دیکھنے سے اپنی نظر بچا کر رکھے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دے گا جس سے وہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے راستہ کو پالے گا۔

### یحییٰ بن عبد اللہ:

بن موسیٰ ابو ذکریyalفارسی۔ انہوں نے مصر میں رہ کر ربیع بن سلیمان سے احادیث لکھیں۔ ثقة عادل اور حکام میں بہت زیادہ سچے مشہور تھے۔



## واقعات ۔ ۳۲۰

اسی سال مقتدر بالله خلیفہ کا قتل ہوا جس کا سبب یہ ہوا کہ ماہ محرم میں مونس خادم کی شان و شوکت اور حشم خدم سے ناراض ہو کر بغداد سے نکل کر موصل کی طرف جا رہے تھے، موسیٰ نے سفر کے دوران اپنے غلام یسری کو مقتدر کے پاس ان کی خبر دریافت کرنے کو بھیجا۔ اس کے ہاتھوں ایک خط بھی دیا، جس میں امیر المؤمنین کو خطاب کر کے کنی باقوی کے سلسلہ میں اپنی ناراضگی اور خنگی کا اظہار کیا۔ جب وہ غلام وہاں پہنچ گیا تب وزیر نے جس کا نام حسین بن القاسم تھا، اور وہ مونس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے زور دے کر غلام سے اس خط کا مطالبہ کیا۔ مگر اس نے بھی خلیفہ کے سوا کسی بھی شخص کو دینے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس لیے وزیر نے اسے اپنے سامنے حاضر کر کے اسے حکم دیا کہ خط کا مضمون اسے بتا دے۔ لیکن اس نے اس سے بھی انکار کیا اور کہا کہ میرے آقانے مجھے اس بات کی بھی وجہ نہیں دی ہے۔ اس جواب پر وزیر نے اسے اور اس کے آقا مونس کو بھی گالی دی اور اس کے مارنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ تین لاکھ دینار اس پر جرمانہ کر کے وصول کیا اور بزرگ اس سے وہ خط بھی چھین لیا۔ بعد میں اس کے گھر کو لوٹ لینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس وزیر نے مونس اور اس کے تمام ساتھیوں کے مکانوں، تمام جائیدادوں کے اور قبضہ کر لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح اس سے بہت زیادہ مال حاصل کیا۔

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقتدر کی نظر میں اس کا مرتبہ بہت بڑا کیا ہے اور اسے عمید الدولہ کا خطاب دیا۔ علاوہ ازیں دراهم اور دنایر پر اس کا نام کندہ کروادیا، اور بہت کچھ اعتیارات بڑھادیئے جس میں ناء پر اس نے کچھ دنوں تک ملک میں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ان کے عہدوں سے معزول کیا۔ نئے لوگوں کو عہدے دینے نئے لوگوں سے تعلقات قائم کیے اور پرانے لوگوں سے تعلقات ختم کیے۔ اور کچھ ہی دنوں تک بہت خوش رہا اور ہارون بن عربیب اور محمد بن یاقوت کے پاس خبر بھیج کر مونس کی جگہ لینے کو دنوں کو اپنے پاس بلوالیا۔ اور مونس نے اپنے دوران سفر اپنی نئی رائے قائم کر کے موصل میں داخل ہو گیا اور علاقہ کے ذمہ داروں سے کہا کہ خلیفہ نے مجھے موصل اور دیار ربیعہ کا گورنر بن کر بھیجا ہے۔ اس میں بیشتر عوام نے اسے تسلیم کر لیا اور یہ بھی ان پر بے شمار دولت خرچ کرنے لگا۔ یوں بھی پہلے سے اس کے ان لوگوں پر بڑے احسانات تھے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں وزیر نے آل حمدان کو جو پہلے سے موصل اور اس کے اطراف کے حکام تھے، یہ حکم دیا کہ وہ ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔

چنانچہ وہ میں ہزار کا لشکر لے کر ان لوگوں کی طرف بڑھے۔ اسی طرح مونس نے بھی اپنے غلاموں اور خادموں میں سے آٹھ سو فرادر کو لے کر ان کے مقابلہ کو بڑھا اور انہیں شکست بھی دے دی اور اس کے اپنے آدمیوں میں ایک آدمی کے سواد و سرا کو قتل نہ ہوا جس کا نام داؤ دھا اور بیپن سے اسے پال بھی تھا اور وہ بہت دلیر بھی تھا۔ اب مونس موصل میں داخل ہو گیا۔

اس کے داخل ہوتے ہی اطراف و جوانب سے سارے فوجی اس کے قدیم احسانات کی بدولت جماعت میں داخل

ہوتے گے۔ بعده انہم سرکے عدووں و سرے عدوں کے لئے تھے اس نے اس کا شکر ایک رہست شکر ہو گیا۔ اب اس وزیر مذکور کی خیانت ظاہر ہو اور اس کی مجازی اور کمزوری بھی سب پر ظاہر ہوئی۔ اس لیے مقتند نے اس مال ریچ آخ کے مہینے میں اسے معزول کر لے اس کی جگہ فضل ہو جعفر بن محمد بن الغرات کو اپنا وزیر مقرر کیا جو کہ مقتند کا آخری وزیر ثابت ہوا۔ اور منس موسی میں او مہینے اقتضت کرنے کے شوال میں اسے میتھے میں بغداد جانے کے ارادہ سے نکلا تاکہ مقتند سے فوجیوں کی ماہوار تخلیا ہیں وصول گرے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اپنی فوج کی روائی سے پہلے اس نے مقدمہ الحیش کے طور پر تھوڑی سی جماعت روانہ کر دی۔ یہاں تک کہ بغداد کے باب الشمامہ پر پہنچ کر پڑا تو ڈالا۔ اور اس کے مقابلہ میں ابن یاقوت اور ہارون بن عریب بھی بادلی خواستہ نکلے۔ اور خلیفہ کو مشورہ دیا کہ اپنی والدہ سے بڑی رقم قرض لے۔ تاکہ فوجیوں پر رقم خرچ کی جاسکے۔ لیکن خلیفہ نے خود ہی جواب دیا کہ اب میری ماں کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔

اب لاچارگی میں خلیفہ نے طے کر لیا کہ لوگوں کے حالات درست ہو جائیں۔ تب واپسی لوٹے۔ لیکن ابن یاقوت نے خلیفہ کو نکلنے سے روک دیا، اور منس اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ کیونکہ وہ لوگ جب اپنی آنکھوں سے خلیفہ و دیکھ لیں گے تو وہ منس کو چھوڑ کر سب اس سے مل جائیں گے۔

محبوب خلیفہ بادل خواستہ ان کے مقابلہ کو اس صورت سے نکلا کہ اس کے سامنے فقہاء وقت تھے اور ان کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے قرآن پاک تھے اور اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی اور لوگ چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ لاٹائی کے میدان سے دورہ کریہ یہ عام اعلان کیا گیا کہ دشمن کا ایک سر لانے پر پانچ دینار اور زندہ پکڑ کر لانے سے دس دینار ملیں گے۔

پھر ابن یاقوت نے خلیفہ کے پاس اس کے امراء کو بھیجا۔ تاکہ وہ خود خلیفہ کو بھی آگے بڑھنے کو کہیں، مگر اس نے میدان جنگ تک آنے سے انکار کیا۔ تب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کر کے خلیفہ کو میدان میں جانے پر مجبور کیا۔ اس لیے وہ انتہائی خلافت کے باوجود میدان میں اتر آیا۔ ابھی وہ پورے طور پر پہنچ بھی نہ سکا تھا کہ سارا شکر شکست کھا گیا، اور وہ بھاگ کھرے ہوئے۔ اور خلیفہ کو پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت منس کے حکام میں جو شخص سب سے پہلے ان سے ملا وہ علی بن بلقیس تھا۔ وہ خلیفہ کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا، اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ اور کہا، اللہ اس شخص پر لعنت کرے، جس نے آج آپ کو یہاں آنے کا مشورہ دیا ہے۔ پھر اپنی قوم مغاربہ پر برے حوالہ ان کو کر دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے خلیفہ پر اپنا پورا قبضہ کر لیا، ہتھیار سے ان پر حملہ کر بیٹھے۔ خلیفہ نے یہ دیکھ کر ان سے کہا خدا تمہارا برا کرے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا خلیفہ ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا: اے کہنے ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم تو اعلیٰ میں کے خلیفہ ہو۔ تم نے اپنے شکر میں یہ عام اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ایک سرکاث کر لائے گا، اسے پانچ دینار ملیں گے۔ یہ کہتے ہی ایک نے ان کے کندھے پر ایک تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ اور دوسرے نے سرکوتن سے جدا کر دیا۔ اور ان کی ہر چیز ان سے چھین لی۔ یہاں تک کہ ان کے پا جائے بھی

ایک لیے اور متن پر بالکل بھاگ کے موں دیا۔ اس کی تفاسیر میں آنکھوں سے ترمیم کرنے کے بعد میں گناہ جگہ پر انہیں دفن کر دیا۔ لیکن مقام بے اس کا برے کرایک لکڑی میں اس کر ان پر امت کرتے ہوئے اسے بلند کیا۔ جب وہ اسے موٹی کے پاس لے گئے جو کہ اس آخری دن پر ہاں پر موجود تھا۔ تو، یعنی اپنے سردار چہرے پر تھپر مارنے لگا۔ اور کہا خدا تمہارا حال برائے۔ اللہ کی قسم! میں نے تم واپس کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تم سب پر بعثت کر رہے۔ اللہ کی قسم! ہم سب بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ فوراً سوار ہو کر دارالخلافہ پہنچتا کہ وہ لوٹانہ جائے۔ ادھر عبدالواحد بن المقذر اور بارون بن عربیب اور رائق کے بیٹے یہ سب مائن کی طرف بھاگ نکل۔

موس کا بھی کام لوگوں میں اپنے اپنے علاقوں میں خلافت کے لیے لائج اور معاملہ خلافت میں کمزوری کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ خود مقندر میں جو فضول خرچی اور مال کی بر بادی، عورتوں کی فرمانبرداری اور وزراء کو معزول کرتے رہنے کی جو زبردست برا ایکاں تھیں، ان سب نے معاملہ خلافت کو ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک اندازہ کے مطابق مقندر نے جو یہودہ اخراجات کیے ہیں وہ تقریباً آٹھ کروڑ دینار ہو گئے تھے۔

#### المقتدر بالله:

جعفر بن احمد المعتضد بالله احمد بن ابی القاسم بن جعفر المتوكل علی الله بن محمد المعتصم بن هارون الرشید ان کی کنیت ابو الفضل تھی اور عباسی امیر المؤمنین تھے۔ ان کی پیدائش سن دوسو بیانی دھنی میں باکیسویں رمضان شب جمعہ کو ہوئی۔ ان کی ماں امِ ولد تھیں، اور نام شغب تھا لیکن اپنے لڑکے کی خلافت سنہ ماند میں ان کا القب السیدہ ہو گیا تھا۔ سن دوسو بیچانوے بھری میں چودھویں ذی الحجه کو اتوار کے دن ان کے بھائی غلیفہ المکتشف بالله کے بعد ان کی خلافت پر بیعت لی گئی۔ جبکہ ان کی عمر صرف تیرہ برس ایک ماہ چند دنوں کی تھی۔

اسی وجہ سے ۲۹۶ کے ماہ ربیع الاول میں ان کے بھیپن اور نابغہ ہونے کی بنا پر شکر نے ان کو برطرف کر کے عبد الله بن المعتزل کو خلافت پر لانے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا، اور دوسرے ہی دن اس کا ارادہ بدل گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ پھر کے ۲۹۶ کے ماہ حرم میں ہی ان کو برخواست کر دیا تھا۔ اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد القاهر کو خلیفہ مان لیا تھا۔ لیکن صرف دونوں کے بعد ہی یہ دوبارہ مند خلافت پر واپس آگئے جیسا کہ ہم پہلے بتا کے ہیں۔ یہ میانہ تہذیب چہرہ اور آنکھوں کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ صیمن بالوں، گول چہرہ والے، چہرہ میں سرخی تھی۔ اخلاق کے بہتر تھے۔ ان کے سر اور کنپیوں کے بال سفید ہو گئے تھے، بہت مہماں نواز اور بہت سچی، عقل پنچھی، سمجھ پوری اور ذہن صحیح کے مالک تھے، بہت زیادہ پردوں میں رہنے والے اور زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ خلافت اور حکومت کے رسم درواج میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ حالانکہ ہر بڑھنے والی چیز آخ ر گھٹ جاتی ہے۔ ان کے شاہی محل میں صرف خصی کے ہوئے غلام گیارہ ہزار تھے جو صفاتیہ اور فارسیوں اور رومیوں اور سوڈانیوں کے علاوہ تھے۔ ان کا ایک محل تھا، جس کا نام

۱۰۔ الشجاع کیمی تھیا۔ اس سباب پر اہمیت و غیرہ پہنچا اور گفت تھے۔ حسکا کہ ہمارے کے ہاتھوں میں خلافت میں ڈکر کر پکے میں جبکہ رومی باہشادہ کا سینہ آیا تھا۔ ایک دن یا اپنے جنگی جہاز میں عذر کر رہے تھے کہ جو لوگ تھے اور بہت بعد نہ ہنا حاضر نہ رہے تو کہا۔ میر ملا نوں نے ہانے دئے میں دیر نہ دی۔ تو ان وہجاں تمہارا براہو یا تمہارے پاس وہی چیز نہیں جو میرے کھانے کے لائق ہو۔ انہوں نے بواب دیا۔ جی ہاں! ہے اور یہ کہہ کر بکری کے پچھے گوشت اور عمدہ روٹیاں اور پکھنچ مکین کھانا لے کر آئے جو انہیں بہت پسند آتے۔ اس کے بعد ان سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ میٹھی چیزیں کھانے کو ہیں؟ کیونکہ جب تک میں کچھ میٹھا نہیں کھایتا ہوں، میرا دل کھانے سے آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ ملاح نے کہا، ہمارے لیے حلوہ صرف کھجور اور ہماری محنت کا پھل ہے۔ مقتدر نے کہا، میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔

اس کے بعد دوبارہ کھانا لایا گیا، جس سے اس نے کچھ کھایا اور ان ملا جوں کو بھی کھلایا، اور آخر میں یہ حکم دیا کہ اس جنگی کشتی میں ہر روز دو سو درہم سے کچھ میٹھی چیزیں پکا کر رکھی جائیں کہ اگر کبھی وہاں خلیفہ کا جانا ہو تو اس میں سے کچھ کھالیں، ورنہ ملاح اسے کھالیا کریں۔ اور یہ سلسلہ کمی سال متواتر قائم رہا۔ لیکن خلیفہ کو دوسری مرتبہ وہاں جانے کا بھی اتفاق ہی نہ ہوا۔

خلیفہ کے کچھ مقرب لوگوں کی یہ خواہش ہوئی کہ خلیفہ کے لڑکے کی رسم تطہیر ادا کی جائے، چنانچہ اس خواہش کے مطابق زبردست انتظامات کیے گے۔ پھر مقتدر کی والدہ سیدہ نے لوگوں نے درخواست کی کہ اس موقع پر چاندی کی وہ مصنوعی یعنی جہ مقتدر کی رسم تطہیر کے موقع پر بنائی تھی وہ وقتی طور سے اس وقت ہے دیں۔ تاکہ عوام اسے تقریب کے موقع پر دیکھ سکیں، چنانچہ اپنے لڑکے کی فرماں ش پر ماں سیدہ نے مہربان ہو کر کلی طور پر ان کے ہوالہ کر دی۔ اس بستی کی خوبی تھی کہ وہ مکمل طور پر غالص چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے گھر تھیلے، گائیں، اونٹ، جانور، پرندے، گھوڑے، کھیتیاں، درخت، نہریں اور ایک بستی کے جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں وہ سب کے سب چاندی کے بنائے اور ڈھالے ہوئے تھے۔ اور یہ حکم دیا کہ میرے گھر کے دسترخوان کے پورے لوازمات میرے گھر سے اس گھر میں منتقل کر دیجے جائیں۔ اور کھانوں میں سواتازہ مچھلی کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ تین سو دیناروں سے ایک اچھی تازہ مچھلی خرید کر پکائی گئی۔ مقتدر کے دسترخوان پر یوں ہی ہر روز پندرہ سو دینار خرچ ہوا کرتے تھے، جو سب کے سب مقتدری کی طرف سے ہوتے تھے۔

یہ مقتدر اہل حریم اور وظیفہ خواروں پر بہت زیادہ صدقات دیتے اور احسانات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نمائز روزے اور عبادتوں میں نوافل کی کثرت رکھتے۔ لیکن بہت شہوت پرست اور باندیوں کے فرماں بردار بھی تھے۔ بہت جلد لوگوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیتے اور نئے لوگوں کو عہدوں پر بحال کر دیتے، مزاج بدل لینے کے بھی عادی تھے۔ ان کی بھی یقینیں آخری عمر تک باقی رہیں۔ چنانچہ ان ہی وجہ سے مولیں خادم کے خادموں کے ہاتھوں ان کی بر بادی بھی ہو گئی۔

بالآخر اسی سال نے ۲۰۰۵ء میں ماہ شوال کی اٹھائیسیویں تاریخ قتل کر دیئے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف اڑتیسیں برس کی

تحقیق اور بحث خلافت چہ میں برائی گیا رہ ماہ جودہ دن ہوئی۔ یہ مدت خلافت گذشتہ تمام خلفاء میں سب سے زیادہ ہوئی۔  
القاہر کی خلافت.

مقتدر بالله کے قتل کے بعد مولیٰ خامس کی ملک نوازش یہ ہٹی کہ ان کی والدہ لیلہ جوئی کے لیے ان کے لیے ابوالعباس بن المقتدر کو خیر نہ بنا، یا جتنے لیکن اس وقت کے تمام مدد جو، بنتے اے امراء نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ ابویعقوب اسحاق بن اسماعیل النوخشی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک ایسے پچھے کی خلافت پر بیعت کر لیں جس کی ماں اور خالاً میں ہیں کہ یہ ان کی اطاعت کرے گا اور ان سے ہی مشورے لے گا۔ بالآخر لوگوں نے محمد بن المعتضد کو بلوایا، وہ بھی مقتدر ہی کی طرح تھے۔ ان کے ہاتھ پر تمام قاضیوں، امراء اور وزراء نے بیعت کر لی اور ان کا لقب قاہر باللہ رکھا۔

یہ واقعہ ماہ شوال کی اٹھائیسویں تاریخ جمعرات کے دن ہوا۔ اس کے بعد اس نے ابو علی بن مقلہ کو اپنا وزیر منتخب کیا۔ پھر ابو جعفر محمد بن القاسم بن عبد اللہ پھر العباس پھر حصینی کو کیے بعد مگرے وزیر مقرر کیا۔ قاہر نے فوراً ہی مقتدر کے ساتھیوں اور ان کی اولاد کی پکڑ شروع کی اور ان پر خفت جرمانے عائد کرنے لگے۔ اور مقتدر کی ماں کو بلوایا، جو مرض استقاء میں بدلائے تھیں۔ اور مقتدر کے قتل کیے جانے پھر مادرزادنگاں کر کے چھوڑ دیے جانے کی خبر پا کر زبردست آہ و فغاف کرنے کی وجہ سے اس مرض کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ کئی دنوں تک تو انہوں نے ملاقاً نہ کچھ کھایا اور نہ پیا تھا، لیکن دوسری عورتوں کے سمجھانے بھانے سے آہستہ آہستہ روٹی اور نمک کھانا شروع کیا۔ ایسی حالت میں بھی قاہر نے اسے اپنے پاس بلوایا، اور اس سے اس کے اموال کا اقرار کرایا تو اس نے صرف اتنے مال کا اقرار کیا جو عموماً عورتوں کے پاس بوانے ہوئے اور ڈھلوائے ہوئے زیورات اور کپڑے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن نقدی مالوں اور جواہر کا اس نے بالکل اترانہ کیا اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ سب ہوتے تو میں اپنے لڑکے کو دشمن کے حوالہ نہ ہونے دیتی۔ اس لیے قاہر نے اسے مارنے اور بیرون سے الثالثکا دینے کا حکم دیا اور طرح طرح کی دوسری سزا میں بھی دیں۔ بالآخر اس نے اس بات پر گواہ حاضر کیے کہ جو کچھ جائیداد تھی اور سامان تھا، اس نے سب کچھ فروخت کر دیا ہے۔ تب فوجیوں نے اسے پکڑ کر اس کی ساری آمدنی کا حساب و کتاب کیا اور اس کے تمام اوقاف کے فروخت کر دینے پر اسے مجبور کرنا چاہا۔ مگر اس نے سخت انکار کر دیا۔

اس کے بعد قاہر نے مقتدر کی اولاد سے ابوالعباس، بارون، عباس، علی، فضل، ابراہیم وغیرہ ایک جماعت کو پکڑ واکران کی جائیداد چھین لیئے، اور ان کو قید میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ اور ان تمام کو اپنے حاجب علی بن جلتی کے حوالہ کر دیا، اور روز یعنی بن مقلہ کا رتبہ بڑھ گیا۔ لیکن اسے بھی معزول کر کے دوبارہ بحال کیا۔ اور کئی دنوں تک لوگوں کو پکڑنے، ان سے کچھ چھیننے، پھر دینے کا سلسلہ تمام رکھا۔ بریوی کو بھی ان کے عہدے سے سکدوش کر دیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پائے والوں کے نام

اس سال ان مشہور لوگوں کا انتقال ہوا

احمد بن عیسیٰ:

بن جوصا، ابو الحسن الدمشقی حافظ محدثوں اور ہوشیار راویوں میں سے ایک ہیں۔

ابراهیم بن محمد:

بن علی بن بطحاء بن علی بن مقلہ ابو اسحاق التمکی، جو بغداد کے مختص تھے عباسی دوری اور علی بن حرب وغیرہما سے روایت کی ہے۔ یہ شفہ اور مرد فاضل تھے۔ ایک دن یہ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کے دروازے کے پاس سے ایسے وقت میں گزرے کہ آفتاب کافی بلند ہو چکا تھا، اور اس معاملہ کے دونوں فریق دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنا ایک ملازم قاضی کے پاس یہ کہلو کر بھیجا کہ یا تو آپ باہر نکل کر فریقین کے درمیان فیصلہ کریں یا اگر آپ واقعی معذور ہیں تو ان سے عذرخواہی کر لیں تاکہ یہ لوگ دوسرے وقت آپ کے پاس آئیں۔

اب علی بن خیران:

شافعی مذهب کے فقیہ تھے۔ مستقل مذهب رکھے والے اماموں میں سے ایک تھے۔ ان کا نام حسین بن صالح بن خیران ہے۔ بڑے فقیہ اور بڑے پرہیزگار تھے۔ ان کو منصب قضاۃ پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے وزیر علی بن عیسیٰ نے ان کے دروازہ پر رسولہ نبی تک پہرہ رکھا تاکہ یہ مجبور ہو کر اسے نہیں کر لیں۔

اس عرصہ میں ان کے ہاں باہر سے پانی نہ آسکا۔ البتہ پڑویوں نے کچھ کسی طرح پہنچا دیا تھا۔ ان باتوں کے باوجود یہ انکار ہی کرتے رہے اور عہدہ قبول نہیں کیا۔ تب وزیر نے مجبور ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ اس طرح ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری حکومت اور ہمارے شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس دنیا کے مشرق سے مغرب تک کے لیے قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ان کی وفات اسی سال ذوالحجہ کے مہینہ میں ہوئی۔ ہم نے ان کے تفصیلی اور کافی حالات طبقات الشافعیہ میں ذکر کر دیئے ہیں۔

عبدالملک بن محمد:

بن عدی الفتحیہ الاسترا باذی۔ مسلمانوں کے اماموں اور حافظ محدثوں میں سے ایک تھے۔ ہم نے ان کے حالات بھی اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں ذکر کر دیئے ہیں۔

القاضی ابو عمر المأکلی:

محمد بن یوسف بن اسماعیل بن حماد بن زید، ابو عمر، جو بغداد اور سارے شہروں کے معاملات کے قاضی تھے۔ علم، معرفت

نساحت و بلاغت اور عقل و حکومت کے اقتدار سے اسلام کے اماموں میں سے ایک تھے اس طرح کہ ان کی عقل کی خلائق دی جاتی ہے۔ بہت سی روایتیں مشائخ سے روایت کی ہیں اور ان سے دارقطنی و نیرہ حفاظ حدیث نے روایت کی ہے۔ اور لوگوں نے ان سے بہت زیاد فتنہ اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ اور تین سو سترہ بھری میں قاضی القضاۃ ہ عہدہ حاصل کر دیا تھا۔ ان کی بہت سی تحریفات ہیں۔ ایک بڑی اور بامع مند لکھی ہے۔ جب یہ روایت حدیث کے لیے بینختے تو ابو القاسم البغدادی ان کے داشتی جانب بیٹھا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے والد کی عمر کے تھے۔ اور ان کے بالائیں جانب ابن صاعد اور سامنے ابو بکر النیسا بوری ہوتے تھے اور ان کے تخت کے چاروں جانب سارے حفاظ حدیث ہوا کرتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اگر ان سے کبھی کسی فیصلہ میں غلطی ہو جاتی۔ جب بھی کبھی کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے صحیح اور عمدہ بڑے فیصلوں میں حسین بن منصور اخلاق کے قتل کا فیصلہ سنانا ہے۔ جیسا کہ ۹۰۵ھ کے تذکرہ میں لگز رچکا ہے۔ یہ قاضی ابو عمر بہت عمدہ اخلاق اور اچھی صحبت کے مالک تھے۔ اتفاق سے ان کے پاس ان کے دوستوں کی ایک جماعت موجود تھی کہ ان کے پاس ایک قیمتی کپڑا لایا گیا، تاکہ یہ پچاس دینار سے اسے خرید لیں۔ اور تمام حاضرین نے اسے پسند کیا۔ اس لیے انہوں نے درزی جو اکر اسے حکم دیا کہ حاضرین کی تعداد کے مطابق اس کے نکلوے کر کے ہر ایک کے لیے ایک ایک ٹوپی سلوک دی جائے۔ ان کے معاون و مناقب بے شمار ہیں۔ رحمۃ اللہ

اسی سال انحضر بر س کی عمر میں وفات پائی۔ بعد وفات کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تو جواب دیا کہ ایک صالح آدمی انہا یہم حری کی دعاوں کی برکت سے مجھے معاف کر دیا۔

## واقعات — ۲۱ میہ

اس سال ماہ صفر میں قاصر نے ایک شخص کو جوڑ کیتی کیا کرتا تھا، اپنے سامنے بلوا کر اس کی گردان اڑا دی، اور اس کے ساتھیوں کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کٹوادیئے۔ اس سال قاہر نے تمام شرابوں کو بہادریئے، اور گانے اور گانے والی باندیوں پر پابندی لگادی اور یہ حکم دیا کہ گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت صرف ان بازاروں ہی میں ہو جو اسی کی مخصوصیت ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ وہ بالکل معمولی لباس میں ہوں۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس نے ایسا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ خود گانے والیوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ان شرطوں کی وجہ سے ان باندیوں کو سختے داموں خرید سکے گا۔ ہم ان جیسے اخلاق رزیلہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اس سال عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حاجب علی بن بلقیس چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی داؤد کے نام منہدوں پر لعن کیا جائے۔ جب حاجب کو یہ خبر پہنچی، اس نے فوراً حنابہ کے صدر ابوب محمد الاعظ کے پاس کسی کو اس معاملہ میں مقابلہ کے لیے بھیجا، تب وہ بھاگ کر چھپ گیا، اور اس کی جماعت کے ساتھیوں کو بصرہ کی طرف نکال دیے جانے کا حکم جاری کر دیا۔

اس موقع پر خلیفہ نے اپنے وزیر علی بن مقلد کی عزت افزائی کی اور بہت ہی احترام و آرام کے ساتھ اس سے خطاب کیا۔

لیکن کچھ نہیں بحمدہ زیرِ ممتاز، انہا مغلیں بین بلقیں اور امراء کی ایک جماعت نے ملک کو خیر مشورہ کیا کہ قاہر کو ہمال کرنا اس کی جگہ ابو احمد امدادی و غیفہ بنادی جائے اور خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ پر بیعت کرنی جائے اور قاہر بائیہ اور اس کے ساتھ رہنے والے تمام اتوؤں کے اخراجت میں کسی کردی جائے اور کبھی مٹے نہ تریا لہ جلد از جلد اسے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن طریف یشکری کے خیانہ کو ان تمام باتوں کی خبر پہنچا دی۔ اس لیے اس نے تمام منافقین کے پکر لینے کی کوشش شروع کر دی۔

اتفاقاً سب سے پہلے امیر المظفر یعنی موسیٰ خادم ہی ان کے با吞وں لگ گیا۔ اس لیے اسے دیکھے بغیر ہی جیل خانہ میں ڈال دینے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے گھروں اور جانیدادوں کے ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس کے اندر انتہائی عجلت، مرد انگلی غصہ پر بیان حالی، شکست کی صفتیں کا مظاہرہ تھا۔ اس کے علاوہ مونس کے مکان میں امیر الامراء اور فوجیوں کے حاکم اعلیٰ طریف یشکری کو بھاڑایا، جو کہ ہمیشہ سے موسیٰ خادم کا زبردست دشمن تھا۔ اور بلقیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کا لڑکا علی بن بلقیں چپ گیا اور وزیر ابن مقلہ بھاگ گیا۔ تب اس کی جگہ ابو جعفر محمد بن القاسم بن عبد اللہ کو ابتداء ما شعبان میں وزیر مقرر کر لیا، اور خلعت دے کر اسے نوازا، اور ابن مقلہ کے گھر کو آگ لگادیئے کا حکم دیا۔

ان دونوں بندوں میں لوٹ مار کا بذریعہ اگرم ہو گیا اور فتنہ کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر ابو احمد الملتکی کے بارے میں قاہر نے یہ فیصلہ دیا کہ اسے ایسٹ اور پونے سے بنا لی ہوئی وہ طرف کی دیواریں بنا کر اس میں اسے زندہ ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گیا اور بقیہ چھپ کر جان بچانے والوں کے بارے میں یہ عام اعلان کیا گیا کہ ان لوگوں کو پناہ دینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے گھروں کے لیے جائیں گے۔ اس وقت علی بن بلقیں پکڑا گیا جسے قاہر کے سامنے اس طرح ذبح کیا گیا، جس طرح ایک بکری ذبح کی جاتی ہے۔ پھر اس کا سرا ایک طشت میں رکھ کر خود قاہر علی کے باپ بلقیں کے پاس پہنچا، دیکھتے ہی وہ رو نے لگا، اور بو سے دینے لگا، پیار کرنے لگا۔ تب اسے بھی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ بھی ذبح کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں کے سروں کو علیحدہ علیحدہ دو طشتیں میں رکھ کر موسیٰ خادم کے پاس پہنچا، اس نے ان دونوں سروں کو دیکھتے ہی پہلے تو کلمہ شہادت پڑھا، پھر ان قاتلوں میں لعنت کی۔ تب قاہر نے حکم دیا کہ اس کے پیر باندھ کر کھینچے جائیں۔ پھر اسے بھی پکڑ کر ذبح کر دیا گیا اور اسے بھی ایک طشت میں رکھ کر تینوں طشت بغداد کے پورے علاقے میں گشٹ کرایا گیا ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے امام کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے۔ آخر میں ان تمام سروں کو ہتھیار خانہ میں لا کر منظوظ کر دیا گیا۔

اس سال ذوالقعدہ کے مہینے میں قاہر نے ابو جعفر محمد بن قاسم وزیر کو پکڑ کر جیل خانہ میں ڈال دیا۔ حالانکہ وہ مرض قولج کا مریض تھا وہ صرف اٹھا رہ دن زندہ رہ کر مر گیا۔ اس کی مدتِ وزارت کل تین میہنے بارہ دنوں کی ہوئی۔ اس کی جگہ پر ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن سلیمان الحصینی کو وزیر بنایا۔ اس کے بعد اس نے طریف یشکری کو گرفتار کیا جس نے موسیٰ اور ابن بلقیں کی گرفتاری میں مدد کی تھی، پھر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ اسی ظالم کو اس پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قاہر کے

محلہ میں سے نجکے وہیں خانہ بیٹیوں ہے۔ اسی سال مصر کے عامل کی موت کی خبر ملی اور یہ بھی خبر مل کر اس کے بیٹا محمد نے اپنے بھائی کی تہذیب کے لئے اس کی تقدیر کی اور پیشگوئی کے لئے اس نے پاس خلعت پیش کی۔

## بغوبویہ کے معاملات کی ابتداء اور اس کی حکومت کا ظہور

یہ لوگ تین بھائی تھے (۱) عماد الدولہ ابو الحسن علی (۲) رکن الدولہ ابو علی الحسن (۳) معز الدولہ ابو الحسین احمد۔ ان تینوں کے والد کا نام ہے، ابو شجاع بویہ بن قبا خسرہ بن تمام ابن کوہی بن شیراز میل الاصغر بن شیر کیدہ بن شیر زیل الاکبر بن شیران شاہ بن شیر وہی بن سیسان شاہ بن سیکس بن فیروز بن شیر زیل بن سیسان بن بہرام جورالملک بن یزد جو جرالملک بن صابر بن نے الاکتاب الفارسی۔

ابونصر بن ماکو لانے اپنی کتاب میں ان کا نسب نامہ اسی مذکور طریق پر ذکر کیا ہے۔ ان کو دیالہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے دیلم کی مجاورت کی اور ایک مدت تک ان کے درمیان رہے۔ ان کے باپ ابو شجاع بویہ بالکل کنگال تھا، پچھلیوں کا شکار کرتا، اور اس کے یہ بیٹے لکڑیاں کاٹ رہے سنوں پر کھکھلاتے تھے۔ اس کی بیوی ان تینوں بیٹوں کو چھوڑ کر مر گئی تھی۔ اس لیے بیوی کے مر جانے اور بچوں کے ماں کے بھرہ جانے پر یہ بہت مغموم رہتا تھا۔

ایک دن وہ اسی فکر میں اپنے ایک ساتھی شہریار بن قاسم کے پاس میخا ہوا تھا کہ اس کے پاس سے ایک نجومی گزر نے لگا تو اسے اس نے بلوا کر کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، تم میرے اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ۔

میں نے دیکھا ہے کہ میں بیٹھا پیشتاب کر رہا ہوں کہ میرے پیشتاب گاہے زبردست آگ نکلی اور آسمان کے قریب تک پہنچ گئی۔ پھر اس کی تین شناختیں ہو گئیں۔ پھر ہر شاخ مختلف شاخوں میں بہت گئی۔ یہاں تک کہ بہت سی شناختیں ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ سے ساری دنیاروشن ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سارے علاقوں کے اور اس کے انسان سب اس آگ کے سامنے جمک گئے۔

اس نجومی نے کہا، تمہارا یہ خواب بہت زبردست ہے۔ اور بہت زیادہ مال لیے بغیر میں تم کو اس کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم! میرے پاس کوئی چیز بھی تم کو دینے کے لائق نہیں ہے، اور سوائے اس گھوڑے کے میں کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہوں۔ تب اس نے کہا، خواب یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری پشت سے تین بادشاہیوں کے پیدا ہوں گے۔ پھر ہر ایک کی نسل سے متعدد بادشاہ ہوتے رہیں گے۔

یہ کہاں نے نجومی سے کہا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ساتھی اپنے بیٹوں کو اسے تھپر مارنے کا حکم دیا۔ پھر اسے دس درہم دے دیئے۔ درہم لے کر نجومی نے کہا، اس وقت اور اس بات کو یاد رکھنا، جبکہ میں تمہارے پاس تمہاری بادشاہت کے زمانہ میں آؤں گا۔ یہ کہا اور ان سے رخصت ہو گیا۔

یہ گفتگو اور اس کی تعبیر انتہائی تجھب خیز ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ تینوں بھائی مکان بن کافی ناہی ایک بادشاہ

کے پاس جو طبقہ قاتل کے ماقولین شیں۔ جسے تھے اس مراویت کے لئے نیا قبضہ حاصل ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت کمزور ہے۔ اس لیے ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اس کے پاس سے نکل بانا چاہے۔ یہاں تک کہ اس کے حالات صاف نظر آنے کیلئے چنانچہ پچھو، وہ سرے حکام کے ساتھ، وہاں سے نکل کر وہ اسی مرادوتوح کے پاس پلے کئے تو اس نے ان تھوڑی بہت ملات افرادی کی اور مختلف شہروں میں انہیں عامل بنا رکھتی دیا۔

چنانچہ اس نے عمار الدولہ علی بویہ کو کارخ کی نیابت سنپی۔ وہاں اس نے ان لوگوں کے ساتھ بہت نمہ برداشت کیا۔ اس لیے وہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے محبت کرنے لگے، یعنی کرم اور توحید کو اس پر حسد ہوا، اور اسے وہاں سے معزول ہونے کا حکم بھیج کر اپنے پاس بلوایا۔ لیکن اس نے اس کے پاس واپس آنے سے انکار کر دیا اور اصحابہ کی طرف روانہ ہو گیا، تو وہاں کے نائب نے اس سے لڑائی کی، مگر اس نے اس نائب کو شکست دے دی اور اصحابہ کا حاکم ہو کر پیش گیا، حالانکہ اس کے ساتھ صرف سات سو گھوڑے سوار تھے اور انہیں سے اپنے مقابل کو وجود سبز ارتھ تھے، شکست دی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا سکھ بیٹھ گیا۔

جب مرادوتوح کو اس بات کی خبری تو اے بہت زیادہ قلق ہوا۔ اس لیے اس کے مقابلہ میں ایک بڑا انٹکروانہ کیا، جس نے اسے اصحابہ سے نکال دیا۔ اب اس نے اور بائیجان کارخ کیا اور اسے وہاں کے نائب حاکم سے چھین لیا، جس کی وجہ سے اسے بیٹھا مال باتھو گا۔ آہتا آہستہ اس نے اور بھی وہ سرے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے رعب داب اور حسن اخلاق کا شہرہ دور دور ہو گیا۔ اور لوگ اس سے محبت اور اس کے ساتھی عظمت سے پیش آنے لگے۔ اس طرح آہستہ اس کے پاس بھی ایک بڑا انٹکر جمع ہو گیا۔ اس کے علاوہ عوام کی بھیڑ لگ گئی، اور دنیا نیتی ترقی کے تمام منازل طے کرتا گیا۔

بالآخر یہ نتیجہ ہوا کہ یہ اس کے دونوں بھائی، تینوں نے بغداد کو عبابی خلفاء کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور ان ہی لوگوں کو ان علاقوں میں جوز توز کرنے، اور لوگوں کو عبیدوں پر بحال کرنے اور معزول کرنے کی پوری قوت حاصل ہو گئی۔ اور ان ہی لوگوں کے پاس ملک کی آمدی بجمع ہونے لگی۔ اور سارے معاملات، اور حالات ان کے ہی سامنے پیش کیے جانے لگے جیسا کہ تم عنقریب بالتفصیل ذکر کریں گے۔ والله المستعان۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن محمد بن سلامہ:

بن سلمہ بن عبد الملک ابو جعفر الطحاوی سر ز میں مصر کے ایک دیہات کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یہ طحاوی کہا جائے یہ شخص فقیر، مفید تصنیفات اور تحقیقی فوائد کے مالک ہیں۔ یہ حدیث کی روایت میں ثقہ ثبت اور بڑے حفاظ حدیث میں سے ایک ہیں۔ مصر کے ایک دیہات کا نام طحاتھا، اسی کی طرف یہ منسوب ہیں۔ یہ امام مزنی شافعی کے بھانجہ ہیں۔ بیاسی برس کی

عمر پا کر اسی سال ماہِ ذی القعده کی پہلی تاریخ کو وفات پائی۔ لیکن ابوسعید معانی نے بیان کیا ہے کہ ان کی ولادت سن و دوسرا تسمیہ بھری میں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے نوے برس سے زیادہ عمر پائی تھی۔

ابن خلَفَ ان نے اپنی کتاب و فنیت میں ان کے حالات کے ماتحت یہ کہا ہے کہ ان کا اپنے ماسون مرزا شافعی مدد بہ کو چھوڑ کر امام ابوحنیفہ کے مذہب کو قبول کرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک دن ان کے ماموں نے عمرہ میں ان سے کہا ہے یا تھا، امیر کی قسم تم کچھ حاصل نہ کر سکو گے جس سے ان کو بہت غصہ آیا، اور ان کی شاگردی چھوڑ کر ابو جعفر بن ابی عمران حنفی کی شاگردی اختیار کر لی، یہاں تک کہ بہت زیادہ قابل ہو گئے۔ اور زمانہ کے تمام علماء سے علم میں بڑھ گئے اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں، جن میں چند یہ ہیں: احکام القرآن، اختلاف العلماء، معانی الآثار اور التاریخ الکبیر۔ شروط احادیث سے متعلق بھی ان کی ایک مستقل کتاب تھی۔ اس معاملہ میں اپنے دوسرے دور کے دوسرے علماء سے سبقت لے گئے تھے۔ یہ کتاب انہوں نے قاضی ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اور قاضی ابو عبید بن حربو بے اس کتاب کی بہت تعریف کی تھی۔ کہا کرتے ہیں کہ اللہ مرنی پر رحم کرے۔ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو اپنی قسم کو حاصل ہونے کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا۔

اسی سال ابتدائے ماہِ ذی القعده میں وفات پائی ہے جیسا کہ بیان ہوا چکا ہے۔ قرافہ میں دفن کیے گئے۔ ان کی قبر وہاں

بہت مشہور ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

ابن عساکر نے بھی ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ سن دوسرا ٹھہری میں دمشق آئے اور وہیں کے قاضی ابو حازم سے فقہ حاصل کیا۔

#### احمد بن محمد:

بن موسیٰ بن العضر حکیم بن علی بن زربی جوابن ابی حامد کے نام سے مشہور اور بیت المال کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے عباس الدوری کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں سے احادیث کی حاصلت کی ہے۔ ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ روایت کرنے میں ثقہ اور بہت سچے اور بہت زیادہ تجھی بھی تھے۔ ان کے زمانہ میں ایسا اتفاق ہوا کہ ایک اہل علم کے پاس ایک باندی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔

ایک وقت وہ بہت زیادہ مقروظ ہو گئے۔ اس لیے اس باندی کے فروخت کر دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی قیمت ہاتھ میں لی، اس کی جدا گی پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ اور اس معاملہ کی وجہ سے وہ سخت پریشان اور ہکا ہکا ہو کر رہ گئے۔ پھر جس نے اسے خریدا تھا، اس نے بھی اسے بچ دالا۔ اس طرح وہ ابن ابی حامد کے پاس پہنچ گئی اور میں بیت المال کے گمراں بھی تھے۔ اس وقت اس کے پہلے مالک نے، جس نے قرض سے مجبور ہو کر اسے بچا تھا۔ اس کے پاس ان کے کسی ساتھی سے بطور سفارش یہ کہلا بھیجا کہ اس باندی کو پہلے مالک کے پاس اس کی اصل قیمت کے بعد فروخت کر دے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ پہلے مالک کو اس سے بے پناہ محبت ہے اور یہ بھی کہ وہ صاحب علم ہے۔ وہ تو صرف قرض کے بارے مجبور ہو کر اسے فروخت کیا ہے۔ جس وقت اس کے ساتھی نے ان سے اس قسم کی باتیں کیں۔ اس وقت اس باندی کے

تھیں انہیں اور اب اتفاقی تھیں تھیں، حقیقتیں حال تھیں، لگل بھئے تھیں کہ ان کی بیوی کی نسبت میں ان کے لیے خوبی کی تھی، اور اب تک ان کو بتایا بھی رہ تھا کیونکہ اس کے استھان اپنے استھان کے نام پر بنیے کا انتیخاب تھا اور ممکن ہیں، اس کے استھان کا آخری، ان تھا۔ اس وقت ان کی بیوی نے اسے بھتی زیاد پڑے اور تھیز یور، ٹیز پہننا کر بنانا اور سنگار نہ رکھنے تھا اس وقت وہ تو ایک چاند کا نکرو اسلام علوم جوہریں تھیں۔ اور وہ یوں ہیں بہت ریا، وہ نوبیور تھیں اب بھمدان کے ساتھی نے ان سے پہلے مالک کے لیے سفارش کی تو اس کا علم انہیں نہ ہونے کی وجہ سے بالکل حیران ہوئے۔

پھر اپنی اہلیہ کے پاس حقیقت حال معلوم کرنے کو گئے تو اسے اپنے لیے بناو سنگار کی حالت میں پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیونکہ پہلے مالک کے لیے انہوں نے اسے اسی حالت میں پایا۔ اب انتہائی خوشی کی حالت میں اسے اپنے ساتھ لے کر دہائی سے باہر آئے اور ان کی اہلیہ یہ یقین کیے ہوئے تھیں کہ وہ اسے وظی کرنے کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اس باندی کو لے کر اس کے کپڑوں اور زیورات سمیت اس کے پہلے مالک کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کیا یہی تمہاری باندی ہے۔ جب اس نے اس باندی کو اس بھیت کذائی اور بناو سنگار اور زیورات سمیت دیکھا تو اس کے منہ کی آواز لڑکھرانے لگی، اور عقل خبط ہو گئی۔ پھر کہا، جی ہاں! تب انہوں نے اس سے کہا، تم اسے اپنے پاس رکھو اور اللہ تم کو برکت دے۔

وہ جوان یہ سن کر اور بھی خوش ہو گیا۔ پھر کہا، میرے محترم! میں اس کی قیمت کس کے پاس جمع کروں؟ جواب دیا، مجھے اس کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب یہ تمہاری ہے لیے بالکل حلال ہے۔ اس کی اس قیمت کو خود اپنے اوپر اور اس کے اوپر بھی خرج کرو۔ کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر تم نے پھر متاح ہو کر اسے کسی دوسرا کے پاس فروخت کر دیا۔ تو وہ دوبارہ تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ سکے گی۔ اس نے پھر کہا تو اس کے زیورات اور جڑاؤ کے سامان کا کیا ہوگا؟ تو جواب دیا، یہ بھی ہم نے تمہیں دے دیئے۔ اور دی ہوئی چیز اب دوبارہ میرے پاس والپس نہیں آ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئے اور انہیں دعا نہیں دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہونے لگے۔

اس رخصتی کے وقت اب ابی حامد نے اس باندی سے پوچھا، تمہیں کون زیادہ محبوب ہے، میں یا یہ مالک۔ اس نے جواب دیا، بلاشبہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور آپ نے میری بڑی مدد کی ہے اس لیے اللہ آپ کو جزاۓ خیر ہے۔ لیکن میرے اس مالک کا حال یہ ہے کہ اگر میں ان کی مالک ہوتی جس طرح وہ فی الحال میرے مالک ہیں تو میں انہیں بڑی سے بڑی دولت کے بدله بھی نہ بچتی، اور نہ ان کے معاملہ میں کچھ کوتاہی کرتی۔ اس جواب کو تمام حاضرین نے بہت پسند کیا، اور اس باندی کی اس بات سے جو کسی بھی تھی، بہت تجуб ہوا۔

### شغب جو امیر المؤمنین المقتدر باللہ کی ماں تھیں، اور لقب السیدہ تھا:

ان کی جائیداد سے سالانہ آمدنی دس لاکھ دینار تھی۔ جن میں اکثر حصہ وہ حاجیوں کے پانی پلانے کھانے پینے اور ان اطباء پر جوان کے ساتھ ہوتے تھے، خرج کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آمدورفت کے لیے راستوں اور گھاؤں پر بھی خرج ہوتا تھا، اور

اپنے لئے کر کے ۱۰۰ رکھوڑت میں ان کا زادہ صفت، خوب، اب تھا جس، قیمت مند، بالآخر کا قتل صوراً یقینتی ہے، تھیں۔ اس خبر کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ جب قاہر کا خلافت پر پورا قبضہ ہو گیا جو کہ ان کے شہر معتقد کا بیٹا اور ان کے بیٹے مقتدر کا علیٰ ناپ ثریہ بھائی تھا۔

جب قاہر کی ماس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسے گود میں لیا تھا۔ جب ان کے بیٹے کی خلافت کے لیے بیعت لینے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے خلافت قاہر کے لیے مخصوص رہنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن مقتدر ہی کو خلافت پر درکردی تھی۔ انہوں نے پھر بھی قاہر کے بارے میں سفارش کی اور اپنی حفاظت میں اسے رکھا۔ یہ اس کا بہت اکرام کرتیں اور اس کے لیے اس کے پندکی باندیاں خرید کر لاتیں۔ لیکن جب ان کا لڑکا قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر یہ منڈ نشین ہوا، فوراً انہیں اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حالانکہ وہ سخت بیمار تھیں۔ پھر سخت سزا نہیں دیں، یہاں تک کہ دونوں پیروں کو باندھ کر لڑا لیکا دیا گیا اس طرح پر کہ سر نیچے اور دونوں پیر اوپر تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ بے برداشت ہو کر ان سے پیشتاب نکل پڑا، جو بہتا ہوا چہرہ پر سے نیچا آتا تھا۔

یہ سب کچھ محض اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے مال کا اقرار کر لیں جوان لوگوں کے خیال میں کہیں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن سوائے ان کے ذاتی کپڑوں، زیورات، بناؤ-بگار کے سامان کے نقد کچھ مال نہ تھا، جن کی مجموعی قیمت ایک لاکھ تھیں ہزار ہوئی تھی۔ لیکن ان کے مساواجو کچھ جایسیدا تھی، اس کے مشترق قاہر نے یہ پہنچ کا حکم دیا، اور گواہوں کو بلوا کر ان سے ان کے فروخت کرنے کی اجازت پر گواہی لینی چاہی۔ لیکن گواہوں نے کہا کہ تھہ تک ہم لوگ ان کو دیکھنے لیں اور ان کا حلیہ سمجھ لیں، اس وقت تک ہم ان کے گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔

اس بناء پر خلیفہ قاہر نے پرده اٹھا دینے کا حکم دیا۔ انہیں دیکھ کر گواہی نے کہنا شروع کیا، کیا آپ ہی کا نام شغب ہے، اور معتقد کی آپ باندی، جعفر مقدر کی ماں ہیں؟ یہ سن کر وہ بہت دیر تک رو تی رہیں۔ پھر کہا، ہاں۔ اس کے بعد ان کا حلیہ ان الفاظ میں لکھا: ”ایک بوڑھی عورت، گندمی رنگ، پتلی پیشانی والی ہیں۔“

اس کے بعد وہ گواہ خود بھی رو نے لگے، اور سوچنے لگے کہ زمانہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رنگ بدلتا ہے، اور جوانوں کو کس طرح بوڑھا بنتا ہے۔ اور یہ کہ یقیناً دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اور اس کی وفاداریاں بغیر یہ فائیوں کے نہیں ہوتیں۔ اس کی چک بغیر بے رنگی کے نہیں ہوتی۔ جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے اپنی آگ سے جلا دیتی ہے۔

\* ان تمام حالات میں قاہر نے ان کے گذشتہ احسانات کا ذرہ بھرت ذکرہ نہیں کیا۔ اللہ ان پر رحم کرے، اور ان سے درگزد کرے۔

اسی سال ماہ جمادی الاولی میں وفات پا گئیں، اور رصافہ میں دفن کی گئیں۔

عبد السلام بن محمد:

بن عبد الوہاب بن سلام بن خالد، بن حمیران، بن ابان جو عثمان بن عفان کے غلام اور کنیت ابوہاشم بن ابی علی الجبائی تھی۔

المحل بن المحرل اور ہاشم مطر لدن کی بہت سکی کی طرف کی بہتی ہے جس طرح اس کے دل کے سند، انتقال شد کی تصنیفات ہیں اسی طرح ان کی بھی مسلک اعتدال میں کئی کتابیں لامسی ہوئی ہیں۔

ان کی پیدائش ۴۵۰ء میں ہے بھی میں بولیں اس سالی والے کے ماہ شعبان میں، فاتح یاں ہے۔ ان خلاکان نے کہا ہے راس کے ایک بینے کا نام ابو علی تھا۔ وہ ایک مرتبہ الصاحب بن العجاج کے پاس کیا تو اس نے اس کا بہت اترام و آخر امداد اور اس سے چند مسائل پوچھئے تو اس نے کہا، مجھے نصف علم معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کہا: تم نے بالکل صحیح کہا ہے، تم سے پہلے تمہارے باپ بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کو دوسرا نصف علم معلوم نہ تھا۔

### احمد بن الحسن:

بن درید بن عقاہ یہ ابو، بر بن درید الازدی 'الغوی' نوی شاعر مقصورہ والے۔ سن دوسو تیس بھری میں بصرہ میں ان کی اولاد ہوئی۔ طلب علم و ادب کے سلسلہ میں مختلف شہروں کا سفر کیا۔ ان کے والد دولت مندوں میں سے تھے۔ بوڑھاپے میں بغداد آ کر اقامہ اختیار کر لی۔ اور اسی سال میں وفات تک وہیں رہے۔

عبد الرحمن بن انجی الصمعی اور ابو خاتم اور الرياشی سے روایت حدیث کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء کے اشعار کے یہ بہت بڑے مالم تھے۔ شراب میں مست رہتے تھے۔

ابو منصور الازہری نے کہا ہے کہ میں ایک دن ان کے یاں گیا تو میں نے انہیں نشر میں مست پایا، اس لیے میں لوٹ آیا بھرمان کے پاس نہ گیا۔

ان کے متعلق دارقطنی سے دریافت کیا گیا تو محدثین نے ان کے بارے میں چہ میگوئیاں کی ہیں۔ ان شاہین نے کہا ہے ہم اس کے پاس جاتے، مگر ان کے گھر میں لٹکے ہوئے بربط و سارگی اور لہو و لعب کے آلات اور خالص شراب پاتے، جس سے ہمیں شرمندگی ہوتی۔ یہ نوے برس سے تجاوز کر کے سورس کے قریب پہنچ چکے تھے۔

اسی سال ماہ شعبان کی اخبار ہوئیں تاریخ بدھ کے دن وفات پائی، اسی دن ابو ہاشم بن ابی علی الجبائی المعتولی نے بھی وفات پائی ہے۔ اس لیے ایک ساتھ ہی دونوں کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ اور دونوں ہی خیزان کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ آج علم لغت اور علم کلام دونوں علوم کے عالم وفات پا گئے۔ اس دن زبردست بارش ہو رہی تھی۔

ابن درید کی مصنفات میں سے الجمیرۃ فی اللغو ایک تصنیف ہے، جو تقریباً دس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح کتاب المطر، المقصورہ اور دوسرا قصیدہ جس میں اشعار مقصورہ و مدد و دونوں طرح کے ہیں، اللدان کی غلطیاں درگز رکرے۔



## وِاْتَهَا تَهْ

اس سال شاہ روم نے پیچاں بڑا فوجیوں سے ملطیہ کا رُخ کیا۔ اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں کا اڈا محاصرہ کر لیا۔ بعد میں انہیں امان دے دی۔ جب ان پر پورا قبضہ جمالیا اس کے بعد وہاں کے باشندوں کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح بے حساب لوگوں کو قید بھی کیا۔ ان اللہ و انما الیہ راجعون۔

اس سال لوگوں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مردادیع نے اصبهان پر قبضہ جمالیا ہے اور یہ کہ ابن بویہ سے اسے چھین لیا ہے۔ اور یہ کہ علی بن بویہ ارجان گیا اور اس پر قبضہ لیا ہے۔ اور یہ کہ ابن بویہ نے خلیفہ کو اپنی اطاعت اور فرمان برداری کا خط لکھ دیا ہے۔ اور اگر ممکن ہوا اور اجازت ملی تو دربار خلافت میں حاضر ہو کر چوکھٹ کو بوس دے گا۔ اور شیراز جا کر ابن یا قوت کا ساتھ دے گا۔

پھر ایسا ہوا کہ وہ شیراز گیا، اور اس کے نائب حاکم سے زبردست قتل و قتال کے بعد چھین لیا۔

اس لڑائی میں ابن بویہ ابن یا قوت اور اس کے ماتھیوں پر غالب آ کر بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو قید بھی کر لیا۔ لیکن پورا قبضہ کر لینے کے بعد ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ اپنے سلوک کیے اور خلعت سے بھی نوازا۔ اور معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیا۔ اس کے مال کی فرادی ہو گئی تھی جسے اصبهان کرخ اور حمدان وغیرہما سے جمع کیا تھا۔ یہ فطرۃ بہت شریف، سختی اور ان فوجیوں کے ساتھ بہت داد دہن کا معاملہ کرتا جو اس کے موافق ہو جاتے۔ شیراز میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ اس کو مال کی کی کی بھی شکایت ہو گئی تھی۔ اور فوجیوں نے اس سے اپنی تنخوا ہوں کا مطالبہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہونے لگا تھا کہ نہ دینے کی صورت میں انتشار، اور ملک درہم ہو جائے گا۔ وہ اسی فکر میں چلتا ہوا تھا اور نظر چھٹ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ چھٹ کے سوراخ سے ایک سانپ نکل کر وہیں دوسرے سوراخ میں چلا گیا۔ اس نے فوراً ان دونوں سوراخوں کو کھوڈنے کا حکم دیا، اس وقت ایک جگہ بہت سا سونا نکل آیا، جس کی قیمت پانچ لاکھ دینار کے قریب ہو گئی جسے اس نے حسب ضرورت فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر بھی کافی رقم اس کے پاس رہ گئی۔

پھر وہ کچھ دنوں بعد شہر کے آس پاس چکر لگاتا ہوا لکا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اگلوں نے کس طرح کے کام کیے ہیں۔ اور ان سے کچھ سبق میکھے۔ گھوڑے پر سوار تھا، چلتے ہوئے ایک دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں ڈنس گئے۔ وہاں بھی اس نے فوراً گڑھا کر کے تحقیق کرنے کا حکم دیا۔

اس موقع پر بھی بہت سامال اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک اور موقع پر اس نے ایک درزی کے پاس اپنا ایک آدمی بھجا، تاکہ وہ اسے کپڑا تیار کر کے پہنادے، مگر اس نے واپسی میں کافی دیر لگا دی، اس لیے اس نے اس درزی کو اپنے سامنے بلوایا۔

وہ کسی کمان کا سکھ برا تھا ہے۔ کیجھ تھی اس نے ایک دن، حکمی کریں گے اگریا۔ بخشنے سمجھتے تھے کہ جس کا اے باہ شاہ سامنے اللہ کی قسم اس نے یاد کی تھی۔ پاس کوئی چیز نہیں ہے سو اے بارہ صندوقوں کے اور مجھے یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ ان میں کیا چیز ہے؟ تب اس نے ان تمام صندوقوں کو اپنے پاس نہ لے سکا۔ بعد میں جب انہیں خوش نہ رہ یعنی تو اس میں بھی بہت سامنے مل گیا جو تو تیر پیٹا تھا لاکھ دینار کے برادر تھا۔ اسی طرز تیتوں بن النیت کی بھی بہت آنانت رکھی تھیں وہ پتہ چلا جن کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ مجموعی طور پر اس کی مالی حالت بہتر بہت ہو گئی اور طلاقت بھی زبردست ہو گئی یہ ساری باتیں اللہ کی مقدرات میں سے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے دیتا ہے اور فاقہ گی اور بدحالی کے بعد بھی دینیوں سعادت بخشتا ہے:

”تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔“

ابن مقلہ نے خلیفہ کے وزیر ارضی کو یہ خط لکھا کہ سالانہ ایک لاکھ دینار کے عوض اس علاقہ کے تمام شہروں کا انتظام اس کے پاس رہنے دیا جائے۔ جسے وزیر نے منظور کر لیا، اور ثبوت کے طور پر اس کے پاس خلعت جنڈا اور خاص ملائیں بھیجنے۔ اس سال قاہر نے دو امیر کبیر کو قتل کر دیا۔ اسحاق بن اسماعیل النوبختی، حلالکہ یہ وہی شخص ہے جس نے تمام امراء کو قاہر کے خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ اور دوسرا ابوالحسن ابن حمدان جو اپنے باپ کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا، کو قتل کر دیا تھا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ خلافت پر آنے سے پہلے ہی اس قاہر خلیفہ کے دل میں ان دونوں کی طرف سے دونوں کا جذبہ بھڑکا ہوا تھا۔ کیونکہ ان دونوں نے دو گانے والی باندیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی تھیں، اس لیے ایک رات، ان دونوں کو قصہ گوئی کی مجلس میں اپنے قریب بلوایا، تو وہ دونوں خوش خوش اس کی مجلس میں غاضر ہوئے۔ اس وقت ہی میں گھر اگڑھا کھودا رکھا تھا، اس میں ان دونوں کو ڈالوادیا۔ ان دونوں نے اس کے پاس بہت گڑا گڑا کر معاف بھی مانگی، مگر ذرا بر ابر اس کے دل میں رحم نہیں آیا۔ آخر اسی گڑھے میں ڈال کر ادپر سے اس کا منہ ڈھانک دیا۔

## قاہر کی معزولی اور اس کی دونوں آنکھوں کے نکلواد بینے اور طرح طرح سے اُسے

### تکلیف دینے کا بیان

اس کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت موسی خادم کو پکڑا گیا تھا، اس وقت علی بن مقلہ وزیر اس کے پاس سے بھاگ کر اپنے گھر میں روپوش ہو گیا تھا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ اپنے گھر سے انتہائی خاموشی کے ساتھ قاہر کے فوجوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ ان کو خطوط لکھ کر قاہر کے خلاف امادہ کرتا رہتا تھا۔ اس کی زبردستی، ظلم اور بہت جلد غصہ ہو جانے سے ان کو ڈرا تارہتا تھا۔ اور یہ بھی انہیں لکھتا رہتا تھا کہ تمام بڑے بڑے لوگوں کے لیے اپنے دار الحلاذ میں ایک مکان بنارکا ہے اس میں سکھوں کو قید رکھتا ہے اور طرح طرح سے انہیں سزا میں دیتا ہے۔ جیسا کہ فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو

قابو کے خلاف بہلا کر کرے گرفتار کرنے پر آمادہ کیا۔ اور وہ اس اس مات پر تفتیح ہو گئے کہ جلد از جلد اس سے رہائی بانے کی صورت نکالنی چاہئے۔ بالآخر وہ اپنے سردار جو یہاں کے نام سے مشہور تھا، اس کے ساتھ روانہ ہو کر دارالخلافہ پہنچے اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ اور اجائب اس کے تمام دروازوں سے داخل ہو کر اس کے پاس ایسی مالت میں پہنچے کہ وہ انہی میں مست تھا، پھر بھی وہ عسل خانہ کی چھپت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ لیکن انہوں نے آخرات گرفتار کر لیا۔ اور طریف یشکری کے مکان میں اسے مقید کر دیا۔ اور طریف یشکری کو قید خانہ سے نکال دیا۔ اور وزیر خصیٰ عورت کا بھیں بدل کر وہاں سے نکل جاگا، اس وقت بغداد کی حالت بہت دگرگوں ہو گئی، اور لوٹ کھوٹ کا بازار گرم ہو گیا۔

یہ واقعہ سالِ رواں کے ماہ جمادی الاول کی تیسرا تاریخ ہفتہ کے دن کا ہوگا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں السیدہ شغب نے وفات پائی تھی، اس حساب سے شغب کے عذاب اور وفات کے بعد خود قاہر کی دونوں آنکھوں کے پھوڑ دیئے جانے، اور طرح طرح سے اسے سزاد ہینے میں صرف ایک سال کا وقفہ ہوا، اور بدلہ میں اللہ کا عذاب اس پر آ کر رہا۔

پھر ان لوگوں نے اسے اپنے سامنے بلوا کر اس کی آنکھیں پھوڑ دالیں، اس طرح پر کہ وہ اس کے دونوں رخساروں پر بہنے لگیں۔ اور اس سے ایسے ایسے کام ہوئے جس کی نظرِ اسلام میں نہیں ملتی۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی گرفتار کر کے کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن سن تین سو نینصیٰ بھری تک اسے موت نہ آسکی۔ اور اس قدر فقیر ہو گیا کہ منصورہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے سوال کیا۔ اور ایک شخص نے اس پر حرم کھا کر پانچ سو دینار دیے۔

کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے لوگوں سے صرف اس لیے سوال کیا تھا تاکہ ان لوگوں کا اس کے ساتھ بدسلوکی کا حال عوام نو معلوم ہو جائے۔ ہم جب اس کی وفات کا حال ذکر کریں کے اس وقت اس کے تفصیلی حالات بھی ذکر کر دیں گے۔

### الراضی بالله ابی العباس محمد بن المقتدر بالله کی خلافت:

فوجیوں نے جب قاہر کو خلافت سے معزول کر دیا، اور اس کی آنکھیں نکال دیں، تب ابوالعباس محمد بن المقتدر بالله کو بلواء کراس کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کی، اور اس کا لقب الراضی بالله رکھا۔ البتہ ابو بکر الصوی کی رائے تھی کہ اس کا لقبِ الرضی بالله رکھا جائے مگر لوگوں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا۔ یہ معاملات سالِ رواں کی چھٹی تاریخ ماہ جمادی الاولی بدھ کے دن ہوئے۔ پھر قاہر کو بلوایا گیا، ایسی حالت میں کہ وہ بالکل نابینا تھا، آنکھیں نکالی ہوئی تھیں۔ اور الراضی کے سامنے اسے کھڑا کیا گیا، اور اس نے قانونی طور پر اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے انہیں اپنا قائم مقام بنادیا۔

اب الراضی نے پورے طور پر ذمہ داری سنبھال لی۔ اور بعد میں اپنے خلفاء میں ان کا شمار ہوا۔ جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اس کے بعد ابوعلی بن مقلہ کو بلوا کر روزارت سونپ دی۔ اور علی بن عیسیٰ کو اس کا گمراہ مقرر کر دیا۔

اس کے بعد قاہر کے قید خانے میں جتنے قیدی تھے، سبھوں کو آزاد کر دیا۔ اور قاہر کے طبیب عیسیٰ کو بلوا کر دولا کھو دینا رک جرمانہ وصول کیا۔ قاہر نے اپنی بختی امنتیں اس کے پاس رکھی تھیں سب اس سے وصول کر لیں، جن میں سونا، چاندی اور قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔

اپنے سالی عمر و اوتجم کی اہمیت انسانوں میں بھی رکھ گئی تھی، مگر ان کا انتہی ہبہ کیا تھا، شوہر کیا۔ وہ اتنا خدا ہے، یہ قدر کا ارادہ، رکھتا ہے۔ اور قدر امطاط کا امیر جو کہ بخوبی پر قابض تھا، اسے کمر۔ اتفاقات سے اسے خیل تھی۔ اور دیروں اس بات سے یہ متعلق ہوئے تھے کہ اب حرب سے حکومت پھیلنے زرگم میں لانی چاہئے جو اسے حالت کی کوئی خواہ نہیں تھی۔ اور جو اس کے تو اور جو بھی زیادہ حالات خراب کر دیے تھے اس لیے سب اس سے ناراضی ہو گئے یہاں تک کہ اس سے قتل کر دا۔ اس سے قتل کے لیے سب سے زیادہ اس کے خاص آدمی درپے ہوتے، جس کا نام تحلیم تھا، اللہ اس کے چہرہ کو منور رکھے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے قدر امطاط سے مجرماً سود کو بچا سہزادے کر خریداً اور اس کی جگہ بر لائے کر رکھا۔ اب جبکہ امیر تحلیم نے مرداویح کو قتل کر دا۔ علی بن بویہ کی بہت شہرت ہو گئی، اور اس کے تفصیلی حالات ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اب آخر کار جبکہ قاہر نے خلافت سے دستبرداری کر لی اور راضی اس کی جگہ پر مقرر ہو گئے تو ہارون بن عرب کو بھی خلافت کے بارے میں لائق ہوئی۔ کیونکہ وہ مقتدر کا ماموں زاد بھائی تھا اور ماہ کوفہ دینور ماسبذان وغیرہ علاقوں پر نائب حاکم تھا۔ اس لیے اس نے لوگوں کو اپنی حمایت کی دعوت دی اور فوجوں اور امراء میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی بات مان بھی لی۔ اور مال بھی اس کے پاس اکھا ہونے لگا۔ اس کے قدم مضبوط ہو گئے اور رعب دا ب بر جائی۔ اور بغداد کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کر لیا۔ تب اس کے مقابلہ کے لیے محمد بن یاقوت، جو نگران اعلیٰ تھا، بغداد کے تمام فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، اور اڑائی بھی چھڑگئی یہاں تک کہ خود ہارون بن عرب بھی نکل کر میدان کی طرف آیا اور اس فکر میں رہا کہ کسی طرح محمد بن یاقوت کو موقع پا کر گرفتار کر لے۔

اتفاق سے اس ہارون کا گھوڑا اسے لے کر گر گیا اور ہر ہمیں پھینک دیا۔ اس وقت اس کے غلام نے اس پر حملہ کر کے اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور محمد بن یاقوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے تمام ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے، اور ابن یاقوت لوٹ کر بغداد اس طرح پہنچا کہ ہارون بن عرب کا سر نیزہ پر اٹھائے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے تمام شہری بہت خوش ہوئے اور یہاں کے لیے ایک تاریخی دن ہو گیا۔

### بغداد میں محمد بن علی الشامگانی کا ظہور:

اس سال بغداد میں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا جو عجفر محمد بن علی الشامگانی کے نام سے مشہور تھا۔ اور اسے ابن العرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی حلائق کی طرح الوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ مقتدر کے دور حکومت میں بھی خالد بن عباس کے سامنے ایک مرتبہ اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اس پر یہ الزام تھا کہ یہ شامخ کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر اس سے انکار کر کے اپنی جان بچائی تھی۔ اس مرتبہ بھی اسے گرفتار کر کے راضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس پر پھر پرانے الزامات عائد کیے گئے۔ اولًا اس نے ان کا انکار کیا مگر بعد میں چند باتوں کا اقرار کیا۔

اس بناء پر فقہاء وقت نے اس کے خون کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ البتہ اگر اپنے دعویٰ سے توبہ کرے تو قابل معافی ہے۔ لیکن اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اولاً اسے اُسی کوڑے مارے گئے۔ پھر حلائق کی طرح اس کی بھی گردن ماری گئی اور اس کا دوسرا ساتھی ابن ابی عون لعنة اللہ بھی اس کے ساتھی ہی قتل کیا گیا۔ یعنی اس کے خاص ماننے والے اور اس

کے کفریہ کلمات کے تصدیق کرنے والوں میں سے تھا۔

ابن اشجیر نے اپنی کتاب کامل میں ان کفار کے مداحب کو بہت فصیل سے بیان کیا ہے اور ان کے مدھب کو نصیر یہ نہ ہب سے آشیخہ دی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور شخص نے شاش کے عاقوہ میں نہوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور خرق عادت ہاتھوں کا اس نے دعویٰ کیا اور سیلے وغیرہ بھی نکالے۔ اس لیے فوجوں نے ان سے مقاتله کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔

## افریقہ والے مہدی کی وفات

اس سال افریقہ والے مہدی کی وفات ہوئی جو جھوٹے مدعی خلفائے فاطمین میں سے پہلا تھا۔ اس کا نام ابو محمد عبید اللہ جو علوی ہونے کا دعویدار تھا اور اپنا القب مہدی رکھا تھا۔ شہر مہدیہ کی بناء ڈالی۔ اور وہیں تریٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ولایت کی ابتداء برقاوہ داخل ہونے اور امامت کا دعویٰ کرنے کے سال سے شروع ہو کر چوبیس برس ایک ماہ میں دونوں تک رہی۔

یہ ایک بہادر سردار تھا، جس سے بھی اس کی دشمنی ہو جاتی، اپنی جماعت لے کر وہاں پہنچ جاتا۔ اور ان پر حملہ اور قتل و قبال کر کے کامیاب ہو جاتا۔ اس کی وفات کے بعد اس نے بیٹے ابوالقاسم، جس کا لقب الحلیفہ القائم با مراللہ تھا۔ اس نے اس کا انتظام سنگھالا، اپنے باپ کے موت کی خبر پورے ایک برس تک چھما کر کھی، پھر سارے انتظامات پورے کر لینے اور درست کر لینے کے بعد اس کا اظہار کیا۔ تب لوگوں نے اس کی تعزیت کی۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک بہادر سردار تھا۔ کئی شہروں کو فتح کیا۔ اور قیدیوں کو روم کے شہروں میں بھیج دیا۔ اور مصری شہروں کے لیے کامیاب ارادہ کیا تھا، مگر اس کا موقع اسے نہیں ملا، لیکن اس کے بیٹے کے بیٹے المعز فاطمی جو قاہرہ معزیہ کا بانی تھا۔ اس نے مصری مقامات پر قبضہ کیا تھا۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

ابن خلکان نے اپنی کتاب الوفیات میں کہا ہے کہ اس مہدی کے نسب میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے۔ چنانچہ تاریخ القیر والے نے کہا ہے کہ اس کا نام عبید اللہ بن الحسن بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نے کہا ہے کہ یہ عبید اللہ اتفق، اور یہی الحسین بن الوفی بن احمد بن الرضی اور وہی عبد اللہ بھی ہیں جو ابن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق میں۔ ان کے نسب کے بارے میں اس کے علاوہ دوسری باتیں کہی تکھیں ہیں۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ محققین اس کے نسب کے بارے میں دعووں کا انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ متعدد ائمہ نے جن میں شیخ ابو حامد الاسفرائی، قاضی بالقلائی اور قدوری میں متفقہ طور پر کہا کہ یہ تمام لوگ فرضی نسب نامے بیان کرنے والے اور بالکل جھوٹے ہیں۔ اور اس عبید اللہ بن المہدی کا باپ دراصل ایک یہودی سلمیہ کا رنگریز تھا۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام سعد تھا۔ عبید اللہ کا لقب القداح اس کی ماں کے شوہر الحسین بن احمد بن محمد بن عبد اللہ بن الحسینون نے رکھا ہے۔

القدح کہنے کی وجہ تھی۔ یہ کہ اس کا پیشہ فصد کھونے اور آنکھوں سے یا نیکانے کا تھا۔ اور اس علاقہ کو جس نے اس کے موافق بنادیا تھا، اس کا نام ابو عبد اللہ الشیعی تھا۔ جیسا کہ تم پہلے بیان کر پکے ہیں۔ پھر اس نے اسے اپنے پاس بنا لیا۔ یہ شرطی علاقوں سے اس کے پاس پہنچا۔ اتفاق تھا جسم والوں کے ہاتھ مگر ٹیکا اور اسے مقید کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیعی برا بر اس کے آزاد کرنے کی فکر میں رہ کر آخراً سے آزاد کرالیا۔ اور سارے اختیارات اُسی کے حوالہ کر دیئے۔ بعد میں وہ شیعی کو اختیارات حوالہ کر دینے پر بہت شرمندہ ہوا۔ یہاں تک کہ اس کے قتل کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ اور اس عبد اللہ نے بھی اس کا اندازہ لگایا۔ اس لیے اس نے خود ہی کسی کو مقرر کیا اور اس نے اس شیعی اور اس کے بھائی دونوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا۔

مگر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شیعی جب اس کے قتل کے ارادہ سے اس قید خانہ میں گیا، جس میں یہ مقید تھا، وہاں جا کر دیکھا کہ سلسلہ ماسے والے نے اسے قتل کر دیا ہے اور ایک اجنبی شخص کو اس میں مقید پایا۔ اس لیے اسے پکڑ کر باہر لایا اور لوگوں کو دکھادیا، کیونکہ لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مہدی سلسلہ ماسے کے قید خانہ میں مقید ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔

اس بناء پر لوگوں کو اطمینان دلایا کہ یہی شخص مہدی ہے اور زندہ ہے۔ اور وہ شخص بھی اس وقت بالکل خاموش رہا کہ اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو میں کہوں وہی وہی درجنہ زائد بولنے کی صورت میں قتل کر دیئے جاؤ گے۔ اس طرح اس کی شہرت ہو گئی۔ بس یہی اس کا قصہ ہے۔ اور یہ لوگ اس کی نسل یہ ہیں۔ واللہ اعلم

اس مہدی کو سن دوسرا بھری یا دوسرے قول کے مطابق اس سے پہلے یا اس کے بعد سیلہ میں، اور ایک قول کے مطابق کوفہ میں پیدا کیا ہوتا۔ اس کو سب سے پہلے سن دوسوستانوے بھری تھیوں میں ریج الاؤل روز جمعہ رقادہ اور قیر و ان میں منبر پر آنے کی دعوت دی گئی اور اس کا غالباً وہاں سن دوسوچھانوے بھری کے ماہ زی الحجہ میں ہوا۔ اس کے غالب آتے ہی اس علاقہ سے عباسی حکومت زائل ہو کر سن پانچ سو سرٹھ بھری تک اس کی حکومت قائم رہی، جبکہ عاصد کی حکومت ہوئی تھی۔ اور اپنے دور حکومت میں اس نے جس مہدی یہ شہر کو بسایا تھا، اسی میں اس سال وسط ریج الاؤل میں وفات پائی۔

مشہور قول کے مطابق ساٹھ برس سے زائد عمر ہو چکی تھی۔ اب عنقریب قیامت ہی کے دن اللہ آمراور مأمور کے درمیان فیصلہ نئے گا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن عبد اللہ بن قتبیہ الدینوری:

جومصر کے قاضی تھے اپنے اللہ کی مشہور کتابوں سے احادیث کی روایت کی ہے مصری علاقوں کے قاضی کے عہدے پر رہتے ہوئے سال روایت کر ماہ ریج الاؤل میں وفات پائی۔

حمد بن احمد بن القاسم:

ابو علی الروزبادی۔ کسی نے کہا ہے کہ ان کا نام احمد بن محمد ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نام حسین بن الہمام ہے۔ اصل میں بغداد کے باشندہ تھے، مگر مسیر میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ رؤسائے اور وزراء اور کاتبین کی اولاد سے تھے۔ جنید کی شاگردی اختیار کی، ان سے احادیث سن کر بہت احادیث حفظ بھی کر لیں۔ ابراہیم الحربی سے علم فقہ اور فتویٰ نحو کو تعلیم سے حاصل کیا۔ بہت زیادہ صدقہ دیے والے اور فقراء کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے تھے۔ جب یہ کسی فقیر کو کوئی چیز دیتے تو اس طرح کہ اپنا ہاتھ ینچے رکھتے، اور لینے والے فقیر کو ہاتھ کو اپر ہی رہنے دیتے۔ اس حالت سے فقیر اس چیز کو لے لیتا۔ مقصد یہ ہوتا کہ لینے والے فقیر کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ینچے نہ ہونے پائے۔

ابونعیم نے کہا ہے کہ ابو علی الروزباری سے اس شخص کے بارے میں یہ پوچھا گیا، جو گانے وغیرہ کو سنتا رہتا ہوا اور کہتا ہو کہ یہ ایسی منزل پر پہنچ گیا ہے جس میں اختلاف احوال کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جواب دیا کہ ہاں وہ پہنچ چکا ہے، مگر جہنم کے دروازہ پر، اور کہا کہ اشارہ کا کام دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ وجود مشارا لیہ کی طرف سے پایا جا رہا ہونہ کہ غیر کی طرف سے۔ اور حقیقت میں اشارہ کی صحیح علیمیں کرتی ہیں۔ اور علیمیں غیر حقائق سے دور ہوا کرتی ہیں اور کہا ہے کہ خود فرمی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم کسی کے ساتھ برائی کرو اور یہ امید رکھو کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ نتیجہ کے طور پر تم رجوع کرنا اور توہہ کرنا صرف اسی وہم پر چھوڑ بیٹھو گے کہ تمہاری غلطیوں میں تمہارے ساتھ درگز رکا معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ مگان کیے رہو کہ یہ سب کچھ حق کی طرف سے تمہارے ساتھ عنایتیں ہیں اور فرمایا کہ قلوب کو ذات حق کے مشاہدہ کا شوق بڑھاتو ان کی طرف ناموں کا لاقا کیا گیا۔ تب وہ قلوب مشاہدہ ذات کے عشق میں جلی ہونے تک کے لیے ان ناموں ہی کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی مضمون کو اس قول باری تعالیٰ میں ادا کیا گیا ہے:

﴿وَ لِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا﴾ [۱۵ - رکوع ۱۲]

”اللہ کے نام اچھے اچھے ہیں، تم ان ہی سے اسے پکارو۔“

اس بناء پر یہ قلوب حقائق کے پالینے کی فکر چھوڑ کر ان ناموں میں ہی مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد ناموں کو ظاہر کر دیا، اور مخلوق کے لیے ان کا ایجاد کیا۔ اور بھی فرمایا ہے کہ جسے صبر نہیں ہے اس میں رضا مندی کا مادہ نہیں ہے۔ اور جو شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ کمال تک نہیں پہنچتا ہے۔

اور اللہ کی عنایتوں سے ہی عارفین اس کی محبت تک پہنچتے ہیں، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بھی کہا ہے کہ اللہ کے عشق اور مشتاق شوق کے مزہ کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا پائیں گے۔ اور بھی فرمایا ہے کہ جس کسی کو تمیں چیزوں کی توفیق دی گئی وہ آفات میں بتلا ہونے سے بچ گیا۔ (۱) پیٹ بھوکا ہو اور اس کے ساتھ دل قانع ہو۔ (۲) مستقلًا فقر ہو مگر اس کے ساتھی الواقع دنیا سے کنارہ کشی بھی پوری موجود ہو۔ (۳) صبر کامل ہو اور قاععت مستقل ہو۔ اور بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے حاصل کرنے

میں نفوس کی ذلت ہے اور آخوت کمانے میں نفوس کی عزت ہے۔ اس لیے کتنے تعجب کی بات ہے اس شخص کے لیے جو فنا ہو جائے والی چیز کے لیے ذلت کو اختیار کرتا ہو باقی رہ جانے والی عزت کے مقابلہ میں اور ان کے اشخاص میں سے چند یہ ہیں۔

۱. لَئِنْ خُسْنَى الْجَنُّ مَسَّ لَهُمْ بَكْرٌ فَهُنَّا

۲. لَئِنْ شَرَحَتِ الْأَرْضُ فَهُنَّ أَنْجَى مِنْ الْمُعْذَنِينَ كَفَلَهُمْ غَنِيٌّ

**بیان:** ساری دوست کے ہمیں چہ جانے پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے۔ امر مجھے تعجب ہے تو اس بات پر کہ یہ تجویزی ہمیں اس طرح باقی رہ گئی۔

۲. أَذِرِكُ بِقِيَةَ دُوَّاحِ مِنْكَ فَقَدْ تَلَفَّتْ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَهَذَا أَجْرُ الرَّوْمَقِ

**بیان:** تمہاری روح بر باد ہو چکی ہے اس سے جو کچھ بھی باقی رہ گئی ہے اسے بچا کر رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے پورے طور پر جدا ہو جانے سے پہلے، کیونکہ اس یہی آخری سانس باقی ہے۔

محمد بن اسحاق عیل:

جو خیر الناج ابو الحسن الصوفی سے مشہور ہیں۔ بڑے مشائخ اور نیک حالات اور مشہور کرامات والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مشائخ قوم میں سے سری قطبی رنجیہ کو پایا ہے۔ اور ایک سو میں سال تک زندہ رہے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے گھر کے ایک کونڈ کی طرف دیکھا اور کہا، 'ٹھہرہ اللہ تم پر حرم کرے' کیونکہ تم بھی حکم کیے ہوئے بندہ ہوا اور میں بھی حکم کیا گیا بندہ ہوں۔ جس بات کا تم کو حکم کیا گیا ہے وہ تو اُنہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا مجھے حکم کیا گیا ہے وہ تو میں جانے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے و ضوکیا، نماز پڑھی، اور لانے ہو کر لیٹ کرے اور ختم ہو گئے۔ اللہ ان پر حرم کرے۔

کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر ان سے سوال کیا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا، ہم نے تمہاری ناپاک دنیا سے نجات حاصل کر لی ہے۔



## واقعات ۳۲۳

ابن شعبہ المقریؓ جس نے کچھ نئے عقائد پھیلائے تھے اس سال پکڑ کر حاضر کیا گیا اور فقہاء اور قراء کی جماعت نے اس پر لعن و طعن کیا تو اس نے ان باتوں میں سے کچھ کے کہنے کا اقرار کیا اور کچھ کا انکار کیا۔

اس بناء پر اس سے تو بہ کرائی گئی اور جن باتوں کا اس پر الزام لگایا گیا تھا، ان سے رجوع کرنے پر اس سے تحریر لی گئی اور وزیر ابو علی بن مقلہ کے اشارہ سے اسے سات کوڑے مارے گئے اور اسے بصرہ کی طرف نکال دیا گیا۔ چلتے وقت اس نے اس وزیر کے حق میں بد دعا دی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کے حالات بدتر ہو جائیں، چنانچہ جلد ہی ان کا وقوع ہو گیا۔

ماہ جمادی الآخرۃ میں کوتوال ابن الحرسی نے بغداد کے دونوں حصوں میں یہ عام اعلان کیا کہ ابو محمد البر بہاری واعظ حنبلی کے ماننے والوں میں سے کوئی آدمی ایک ساتھ جمیع نہ ہوں اور اس کی جماعت کے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا، اس ڈر سے ابن البر روپوش ہو گیا۔ اور کافی دنوں تک ظاہر نہ ہوا۔

ابن الجوزی نے امعظوم میں کہا ہے کہ ایار (یعنی جیخ) کے مہینہ میں ایک دن فضاء میں بہت زیادہ بدلیاں جمع ہوئیں اور گرمی بہت بڑھ گئی۔ جب دن ختم ہونے لگا جو کہ جمادی الآخرۃ کی تیجی بیس تاریخ تھی۔ ہوا بہت تیز چلنے لگی؛ زمین بالکل تاریک ہو گئی اور عصر کے بعد تک بالکل سیاہی چھائی رہی، پھر اس میں کچھ کمی آئی، پھر دشائے کے بعد تک زیادتی رہی۔

اسی زمانہ میں فوجیوں کی ماہوار تحوہ دینے میں تاخیر ہو گئی، تو وہ سب مل کر وزیر ابو علی بن مقلہ کے گھر پر آ کر اس میں زبردستی داخل ہو گئے اور گھر کی ساری چیزیں لوٹ لیں۔

اور طریق الموازین میں زبردست آگ لگ گئی، جس سے لوگوں کی بہت سی چیزیں جل گئیں، اس نقصان کی تلاشی کے لیے الراضی نے ان کی کچھ امداد کر دی۔

رمضان کے مہینہ میں امراء کی ایک جماعت جعفر بن امیثی کی بیعت پر متفق ہوتی، اس لیے وزیر کو اس مہم کے سر کرنے پر مقرر کیا۔ چنانچہ اس نے جعفر کو قید کر کے اس کے گھر کو لوٹ لیا اور جن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان سبھوں کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس طرح ان کا معاملہ سرد پڑ گیا۔

امیر لولو کی چادر کو لے کر جاج نکلے، تو ابو طاہر القرمطی ان کے سامنے آ گیا، ان میں سے اکثر کو قتل کر دالا۔ جو کچھ نج گئے، وہ شکست کھا کر بغداد کو لوٹ آئے۔ اور عراق کے راستے سے اس سال سبھوں کا جا باطل ہو گیا۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال بغداد میں اتنی زیادہ تعداد میں تارے ٹوٹے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے دیکھنے

کے ترتیب میں بھی رہا ہے تھے۔ اس نال خلائق کی زندگی گرفتار ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک کاریگری کا سرہنگ، ہم ہی  
بکنے لگا۔

میخ قول کے مطابق مراد و تبع ہن ذیوالدیلمی باتفاق اسی سال ہوا اللہ اس کا حال برائے۔ اسی فادھوی تھا کہ حضرت  
سليمان علیہ السلام کی روح اس کے اندر طول کر گئی ہے اس کے پاس سونے کا ایک ختن تھا، جس پر وہ بیچا کرنا تھا اور ترتیبی اس  
کے چاروں طرف بینھے رہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ وہی جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سليمان بن  
داود علیہ السلام کے لیے مختصر کر دیا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ ببرے معاملات کرتا۔ اور ان کی انہتائی تحریر کیا کرتا تھا۔ اس کی  
خلاصت اسی طرح کی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ان کو اس کے مقابلہ کا موقع دیا اور اسے غسل خانہ میں بری حالت میں  
قتل کر دیا۔ اس کے نلام حکم اترکی نے سب سے پہلے دوسروں کو اس کے قتل پر ابھارا تھا۔ جب وہ قتل کر دیا گیا اس وقت رکن  
الدین بویہ جو پہلے سے اس کے پاس گرفتار تھا، آزاد کر دیا گیا۔ وہ آزادی کے بعد اپنے بھائی عمال الدولہ کے پاس چلا گیا۔ اس  
کے ساتھ کچھ اور تر کی بھی اس کے بھائی کے پاس چلے گئے تھے۔

ان کی ایک جماعت حکم کے ساتھ ہو گئی، اور لوگ خلیفہ کی اجازت پا کر اسے بغداد لے گئے۔ وہاں سے بصرہ گئے اور  
وہیں رہنے لگے، اور دیلم کو مرداویع کے بھائی شمسکیر سے کیا سروانہ کر دیا گیا۔

جب وہ اس کے علاقہ میں پہنچا تو وہ لوگ اس کے استقبال کو نگکے پاؤں پیدل چل کر آئے، اور اسے اپنا بادشاہ مقرر کر  
دیا، تاکہ ان کا ملک بر باد نہ ہو۔ اس وقت اس کے مقابلہ کو خراسانی اور ماوراء النہر اور اس کے آس پاس تمام علاقوں کا نائب  
حاکم الملک سعید نصر بن احمد السامانی آگے بڑھا، اور زبردست لڑائی کے بعد ان علاقوں کو اس کے قبضہ سے چھڑایا۔

اسی سال القاسم با ماراللہ الفاطمی نے افریقہ کے بحری راستے سے فرنگی علاقوں کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور وہاں کے شہر کو قٹ  
کر کے اس سے بہت زیادہ مال و دولت بطور غنیمت حاصل کیا، اور بالکل صحیح و سالم واپس لوٹ آئے۔

اس سال عمال الدولہ کو اصحابہن کی طرف بھیجا گیا تو وہاں اور پہاڑی شہروں پر اس نے حکومت قائم کر لی، اس طرح اس کی  
حکومت بہت وسیع ہو گئی۔ اس طرح خراسان کے علاقوں میں غلمہ کی زبردست گرفتاری ہوئی، اور بے شمار انسانوں کی موت ہوتی۔  
اتنی زیادہ کہ مردوں کا دفن کرنا بھی پریشان کن معاملہ بن گیا۔

اس سال موصل کے نائب حاکم ناصر الدولہ ابو الحسن بن محمدان نے اپنے چچا ابو العلاء سعید بن الحمدان کو محض اس لیے قتل  
کر دیا کہ اس نے اس سے ملک چھین لیے کا ارادہ کر لیا تھا، اس وقت خلیفہ نے اپنے وزیر ابو علی بن مقلہ کو برا لشکر لے کر اس کے  
مقابلہ کو بھیجا تو اس کے ڈر سے ناصر الدولہ بھاگ گیا۔ جب ناصر الدولہ کا قیام موصل میں طویل ہو گیا اور ناصر الدولہ کو پکڑنے کا

لے ایک گز = ۱۰۰ صاع۔ ایک صاع = ۲۷۰ تو لے۔ ایک گز۔ برابر ایک لاکھ چورانوے ہزار چار سو تو لے۔ یا چھ من میں  
سیر۔ (انوار الحجت۔۔۔ ماہ جون ۱۸۶۴ء)

تھے مجبوہ نام، بغیر ادائے کمک، اس طرح یا صراحتاً مار کر بقیدِ حوصلہ، مغضب، ہمگزیر توان نہیں پہنچائے اگوں کو خلیفہ کے ہاتھ میں جو یادیں  
کئے کر رہیں گے اور اس میں اسی کی حکمت تسلیم کرے۔ چنانچہ اس کی یہ بہت مان لی گئی اور حالات اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس  
سال ایمیج بیج جب غنوم نکھتو تو تمدنی ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ان میں لوٹ مار چاہی اور ان پر غالب آگیا تب ان لوگوں  
نے ان تین لوگوں سے ان چاروں تو انہوں نے امان دے دی۔ اس شرط پر کہ وہ بخدا و اپنی لوٹ جائیں۔ بندایاں لوگ وہیں  
و انہیں لوٹ آئے اور اس سال بھی ان کا حج نہ ہوا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے لوگوں کے نام یہ ہیں

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### نقطویہ الخوی:

ان کا نام ابراہیم بن محمد بن عرفہ بن سلیمان بن المغیرہ بن حبیب بن الہبلب بن ابی صفرہ الا زدی ابو عبد اللہ العقی جو  
نقطویہ الخوی کے نام سے مشہور ہیں فن بوجی میں ان کی کئی تصنیفات ہیں۔ انہوں نے کئی مشائخ سے احادیث کی سمعت کی اور  
روایت کی اور ان سے بھی کئی شفہ محدثین نے روایت کی ہے بہت سچے تھے۔ ان کے اشعار بیہقی ہوتے تھے۔

خطیب بغدادی نے نقطویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کسی بزری فردوش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس بزری  
فردوش سے پوچھا کر رأسین (سری جانوروں کے سرینچے والوں) کی طرف جانے کا راستہ کس طرف ہے۔ لیکن یہ کہنا چاہتے تھے  
رواسین (پہاڑیوں کی طرف جانے کے راستے) اس لیے وہ بزری فردوش اپنے پڑوسی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اللہ تیرے غلام کو  
برا کرے کہ وہ اب تک میرے پاس چند نکلی ٹوکری لے کر نہیں آیا ہے۔ اگر وہ لے کر آیا ہوتا تو میں اسے اس کی ایک گھڑی  
دے دیتا۔ (گوشت کے ساتھ ملا کر کھانے کے لیے) یہ سن کر یہ نقطویہ (شرماتے ہوئے) واپس چلے آئے اور اسے کچھ جواب نہ  
دیا۔

نقطویہ تر اسی سال کی عمر پا کر اسی سال ماہ صفر میں وفات پا گئے۔ امیر بھاری حنبلیوں کے سردار نے ان کے جنازہ کی  
نماز پڑھائی اور کوفہ کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔

ابوالی القالی نے ان کی تعریف میں یہ چند اشعار لے ہے ہیں:

۱. قلبی أرق عليه من قوى حفيكا وفودى او هي من قوى حفيكا

۲. لم ترق لمن يعذب نفسه ظلما و يعطفه هواه عليكا

ابن خلکان نے کہا ہے کہ نقطویہ کے بارے میں ابو محمد بن زید بن علی بن الحسین الواسطی المشہور الامامة اور اعیاز القرآن  
و غیرہ دوسری کتابوں کے مصنف کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی فاسق کونہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس بات کی کوشش کرے  
کہ نقطویہ پر اس کی نظر نہ پڑے۔ اللہ نے اس کو اس کے اپنے نام کے پہلے حصہ (لفظ معنی المفتر) سے جلا دیا ہے اور دوسرے

حدرویہ کیلئے افسوس کا دوسرے کے نیت میں رکھا گیا تو ہم اسے بخوبی بے اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا انتہا ہے۔

ذین خداویہ نے یعنی تحقیق نکالی ہے کہ ایسا کوئی نام نہ میں نہیں جاتا ہے کہ نام ابراہیم حداہ ایسے ایک عبادت محسوس ہے اور اسے

لی ذات کے۔

#### عبداللہ بن عبد الصمد:

ابن المهدی بالله الہاشمی العباسی۔ انہوں نے بشار بن نصر الحکیم وغیرہ سے احادیث کی روایت کی ہے اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے۔ یہ ثقہ تھے اور فاضل فقیہ اور مسلم کا شافعی المذهب تھے۔

#### عبدالملک بن محمد:

بن عدی ابو عیم الاستربازی الحمدث الفقيہ یہ بھی مسلم کا شافعی ہیں۔ تراہی برس کی عمر پا کر وفات پائی ہے۔

#### علی بن افضل:

بن طاہر بن نصر بن محمد ابو الحسن البخشی ظلمی حدیث کے سلسلہ میں بہت زیادہ سفر کرتے تھے۔ یہ بھی ثقہ اور حافظ حدیث تھے۔ ابو باشم الرازی وغیرہ سے احادیث سنی ہیں اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے۔

#### محمد بن احمد:

بن اسد ابو بکر الحافظ ابن التیبان کے نام سے مشہور تھے۔ راجی بن بکار وغیرہ سے احادیث سنی ہیں اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے۔ اسی برس سے زیادہ عمر پائی ہے۔

## واقعات — ۳۲۳

اس سال فوجیوں نے دارالخلافہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کہنے لگے کہ خلیفہ خود ہی ہمارے سامنے آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ نکلے، اور ان لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد غلاموں نے وزیر ابن مقلہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے جو کسی کو وزیر بناتا ہے۔ اس لیے خلیفہ نے بھی اس کا اختیار ان ہی لوگوں کو دے دیا۔ تو انہوں نے وزارت کے لیے علی بن عیسیٰ کو منتخب کیا۔ مگر اس نے قبول نہیں کیا اور اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو اسے وزیر بنادیا۔ ساتھ ہی ابن مقلہ کے گھر کو آگ لگادی گئی اور ابن مقلہ کو عبدالرحمٰن بن عیسیٰ کے حوالہ کر دیا، تو اس نے اسے بے حساب مارا اور اس سے ایک لاکھ دینار کی تحریر لے لی۔ مگر صرف پچاس دن بعد ہی عبدالرحمٰن بن عیسیٰ وزارت سنگھانے سے عاجز ہو گیا تو ابو جعفر بن القاسم کو وزارت سونپ دی گئی؛ تو اس نے علی بن عیسیٰ سے ایک لاکھ دینار کا جرمانہ وصول کیا اور اس کے بھائی عبدالرحمٰن جسی پر ستر ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا۔ پھر صرف ساڑھے تین ماہ بعد وزارت سے سکدوش کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر

سلیمان بن الحسن کو میرزا ہبھا گئے پھر اے بھکر معزول کر کے اول الفتح الفشن بن ہمغورتیں الفرات کو مارہ رکھیں گے۔ سال آئے۔ میں اور اس کے گھر کو بھی اسی طرح آگ لگادی گئی تھی۔ اور دنوں کی آگ کا معاملہ ایک ہی سال میں ہوا۔ یہ سارے قیمتی صرف ۷ کوں اور غامتوں کی بد، مانگی کی وجہ سے ہے۔ اس سال حکراں مغلکے گھر میں آکے بھائی گئی۔ ہنے اپنے پڑوں کو یہ شعر نکھلے۔

احست طنک بالایام اذ حست  
وَلِمْ تَحْفِيْ يَوْمًا يَانِي بِالْقَدْرِ

تہجینہ: زمانہ نے جب تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا تو تم نے اس سے اپنا اچھا گمان قائم کر لیا۔ لیکن تم اس دن سے نہیں ذرے نہ جب کہ تقدیر پلٹ جائے گی۔

وَ سَالَتِ الْلَّيَالِي فَاغْتَرَرْتُ بِهَا  
وَعِنْدِ صَفَوِ الْمَيَالِي يَحْدُثُ الْكَبَرُ

تہجینہ: اور زمانے کی راتوں نے بھی تمہارے ساتھ اچھے سلوک کیے اس لیے تم اس سے دھوکہ کھا گئے۔ لیکن راتوں کی صفائی کی حالت ہی میں وہ گدلا جاتی ہیں۔

اس سال خلافت کا معاملہ بہت ہی کمزور ہو گیا تو الراضی نے محمد بن رائق کو جو کہ واسط میں تھا، خط لکھ کر اپنے پاس بلوایا، تاکہ بغداد کے امراء کے معاملات کو اس کے حوالہ کر دے اور سارے شہروں اور جڑوں میں خراج وغیرہ کے انتظام کو درست کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ تمام منبروں پر خطبوں میں اس کا نام لیا جائے اور اس کے ساتھ ایک حکم ترکی جو مرداویح کا غلام تھا، وہ بھی آیا۔ یہ وہی ہے جس نے مرداویح کے قتل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اور ابن رائق نے عراق کے سارے مال کو قبضہ میں لے لیا۔ اور بیت المال سے سارے مال نکال کر اپنے گھر کو لے گیا۔ اور روز یہ کو تصرف کا مطلقاً کوئی اختیار باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح خلافت کا معاملہ بھی بہت کمزور ہو گیا، اور اطراف کے تمام نوابوں کو اپنے علاقوں میں تصرف کا پورا پورا حق ہو گیا تھا اور خلیفہ کو صرف بغداد کا انتظام کا حق باقی رہ گیا تھا۔ اس کی حکومت کہیں اور نہیں رہ گئی تھی۔

ان حالات میں ابن رائق کے ساتھ اسے کسی بھی چیز پر اختیار باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور نہ اس کی کوئی فرمانبرداری باقی رہ گئی تھی۔ ابن رائق حسب مشراء اور حسب ضرورت اس کے پاس مال اور سامان وغیرہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی ہرے امراء ہوتے گئے، سب کا بھی حال ہو کر رہ گیا تھا۔ اور خلیفہ کے پاس ایک شخص کو بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ اطراف و جوانب کا بھی حال اسی قسم کا ہو گیا تھا۔

چنانچہ بصرہ پر اسی ابن الرائق کا اختیار تھا، وہ جسے چاہتا وہاں کا حاکم بنادیتا، خوزستان ابو عبید اللہ البریڈی کے حوالہ ہو گیا تھا۔ ابن یاقوت کے قبضہ میں جو علاقے تھے، مثلاً تیستر وغیرہ وہی ان پر غالب ہو گیا تھا، ان کے مال اور آمد فی پر وہی حاوی ہو گیا تھا۔ اور فارس پر عماود الدولہ بن بونیہ غالب تھا۔ اور مرداویح کا بھائی شمسکیر مد مقابل بنانا ہوا تھا اور کرمان پر ابو علی محمد بن الیاس بن الحسین قابض تھا۔ اور موصل، جزیرہ دیار بکر، مصر اور ربعہ کے علاقے بنی حمدان کے پاس تھے۔ اور مصر و شام محمد بن طغی کے قبضہ

میں تھے اور افریقیہ اور مغربی مذکوٰۃ القائم با مرشدہ ایں الحمدلہ انقلابی کی حکومت بھی تھے۔ ان نے انتقب امیر المؤمنین اختیار کیا تھا۔ اندرس عبد الرحمن بن محمد کے زیر حکومت تھا جس کا لقب الناصر الاموی تھا۔ خدا سان اور ماوراء النهر پر السعید نصر بن احمد السامانی کا قبضہ تھا۔ اور طہران اور ہرات اور بحرین اور بیمامہ اور تاجر ابو طاہم سعید بن جنابی بن ابی سعید الجناحی انقلابی لے زیر حکومت تھے۔

اس سال بغداد میں زبردست غلہ کی گرانی اور قحط سالی اس قدر ہوئی کہ پانچ دنوں تک روئی بالکل نایاب ہو گئی تھی؛ جس کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی موت ہوئی تھی۔ جن میں اکثریت بوڑھوں اور کمزوروں کی تھی۔ مردے راستوں میں اس طرح ڈال دیئے جاتے تھے کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا تھا اور ایک ایک تابوت میں دودو مردے رکھ کر لے جاتے تھے اور بسا اوقات ان کے درمیان کسی بچپن کو بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ گڑھا اڑا ایک آدمی کی نیت سے کھو، اجاتا، مگر اسے اس قدر وسیع کر دیا جاتا کہ اس میں پوری جماعت دفن کر دی جاتی، اور اصحابہ ان کے تقریباً دو لاکھ انسان مرے تھے۔ اس سال عمان میں ایسی زبردست آگ لگ گئی تھی؛ جس میں کالوں کی تعداد ایک ہزار اور گورے بے شمار تھے اور کافور کی چار سو بوریاں بھی حل گئی تھیں۔

اور اس سال خلیفہ نے احمد بن کثیر کو شام کی نیابت سے معزول کر دیا تھا۔ اور یہ علاقہ مصری علاقوں کے نائب ابن طیخ کے ماتحت کر دیئے تھے۔ اس سال عضد الدولہ ابو شجاع فخر بن رکن الدولہ بن بویہ کی اصحابہ میں ولادت ہوئی تھی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### ابن مجاہد المقری:

ابو مکر احمد بن موسیٰ بن العباس بن مجاہد المقری اس زمانہ کے اماموں میں سے ایک تھے۔ بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے، اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ثقہ اور قابل امانت دار تھے۔ بغداد کے مشرقی حصہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ ان کے بارے میں شعلب کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں کتاب اللہ کا عالم ان سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں رہا ہے۔ اسی سال بیسویں شعبان بدھ کے دن وفات پائی۔ اور جمعرات کو دفن کے لیے لے جائے گے۔ انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس نے ان سے کہا، کیا آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے (کیا مردے تلاوت کرتے ہیں؟) کہا، ہاں بات صحیح ہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے ہر ختم قرآن کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیا جائے جو قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے میں ان لوگوں سے بنا دیا گیا ہوں جو یہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ رحمہ اللہ

### خطۂ الشاعر البرکی:

احمد بن جعفر بن موسیٰ بن یحیٰ بن خالد بن برکت البرکی، ابو الحسن الندیم جو خطۂ الشاعر سے مشہور ہیں، کامل فن بڑے

ادیب اور اخبار سے بھی واقف تھے۔ علوم کے مختلف فنون اور نوادر حاضر کے مالک تھے، اور سمد و گانے گا سکتے تھے۔ ان کے چند نمودار اشعار یہ ہیں:

فَلَا تَجِدُ الْأَنْوَارَ تَعْلَمُ إِذْ يَنْبَغِي  
كَمْ أَنْتَ مِنَ الْعَالَمِ فَلَا تَجِدُ  
تَرْجِيمَهُ: دیانتے لوگوں لوایپی طرف پکار رہا ہے، لولی دنیا میں ہوتا جو سنارش مرتا۔

كَمْ أَمْلَ حَيَّتِ امَالَهِ وَ جَامِعٌ بَدَدَتْ مَا يَحْمِعُ  
تَرْجِيمَهُ: بہت سے تمنا کرنے والوں کو ان کی تمناؤں سے میں نے محروم کر دیا ہے اور بہت سے جمع کر کے رکھنے والوں کے تمام والوں کو میں نے بکھیر دیا ہے۔

كَسِيْ بَادِشاَهَ نَى انَّ كَوْكَجَهَ مَالَ دَيْنَى كَيْ لَيْيَ كَسِيْ سَارَ كَوْخَطَ لَكَهَا كَرَهَ وَهَانِيْسَ دَى دَى مَغْرُوهَ رَقَمَ انَّ كَوْنِيْسَ پَنْجَى، تو انہوں نے اس بادشاہ کو خط میں اشعار لکھ کر مال نہ ملنے کی اطلاع دی:

إِذَا كَانَتْ صَلَاتُكُمْ رَقَاعًا تَحْطِطُ بِالْأَنْمَلِ وَالْأَكْنَتِ

تَرْجِيمَهُ: جبکہ آپ کی عطا میں پرچیوں کی صورت میں جوانگیوں اور ہتھیلوں سے لکھی جاتی ہیں۔

فَلَا تَجِدُ الرِّقَاعَ عَلَيْهِ نَفْحًا فَذَا خَطَى فَخَدَهُ بِالْفَالِ الْفَ

تَرْجِيمَهُ: تو وہ پرچیاں مجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچائیں۔ اس لیے کتم میری اس تحریر کو دس لاکھ کے عوض لو۔

ان کے وہ اشعار جن میں اپنے کسی دوست کی انتہائی باریخ، بغل اور حرص کی بیماری پر اسے ملامت کرتا ہے:

لَنَا صَاحِبُ مِنْ أَبْرَعِ النَّاسِ فِي الْبَخْلِ يَسْمَى بِفَضْلِ وَهُوَ لِيْسَ بِذِي فَضْلٍ

تَرْجِيمَهُ: ہمارا ایک دوست ہے جو بغل میں دوسرے تمام دوستوں سے بڑھا جائے ہوا ہے۔ اس کا نام تو فضل رکھا گیا ہے، لیکن وہ کسی فضیلت کا حامل نہیں ہے۔

دُعَانِيْ كَمَا يَدْعُو الصَّدِيقُ صَدِيقَهُ فَجَئْتُ كَمَا يَأْتِي إِلَيْهِ مُثْلُهُ مُثْلَى

تَرْجِيمَهُ: اس نے مجھے اس طرح بلوایا ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوست کو بلواتا ہے۔ اس لیے میں اس کے پاس اسی طرح آیا جس طرح مجھ سیا انسان ایسے انسان کے پاس آتا ہے۔

فَنِمَا جَلَسْنَا لِلْغَدَاءِ الْيَدَ رَأَيْتَهُ يَرِي اِنَّمَا مِنْ بَعْضِ اَعْصَانَةِ اَكْلِي

تَرْجِيمَهُ: جب ہم اس کے پاس کھانے کو بیٹھئے تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس طرح مجھے دیکھ رہا ہے گویا میں اس کے کسی عضو کو کھا رہا ہوں۔

فَيَغْتَاظُ أَحْيَانًا وَيَشْتَمُ عَبْدَهُ فَاعْلَمُ أَنَّ الْغَيْظَ وَالشَّتَمَ مِنَ الْجُلُ

تَرْجِيمَهُ: تو وہ بھی اپنے غلام پر غصہ ہوتا ہے اور بھی گالی دیتا ہے، لیکن میں یہ جان رہا ہوں کہ اس کا غصہ ہونا اور گالی گھوچ کرنا صرف میری وجہ سے ہے۔

امد يسدى مه والاكى انتقدة فیل حظن شاد اغاثت اللئا

ترجمہ: میں آجھی کے ساتھ اپنا تھوڑا صفات ہوں اور انہیم اخاتا ہوں لیکن وہ مجھے گھوڑہ کیھنے لگتا ہے تو میں سنہری لئے رکھنے لگتا ہوں۔

آنس اد حذف ، کافی علی حذف ایڈ عدیتی عقلي

ترجمہ: یہاں تک کہ میری ہتھیلی نے مجھ پر ایک ٹلم کر لیا اس طرح پر کہ بھوک نے میری عقل مار دی۔

فاہوت یمنی نحور حل دجاجة فجرت رجلها کما جرت یدی رجلی

ترجمہ: پس میرا ہاتھ مرغی کے پیر کی طرف بڑھا اور اس کے پیر کو کھینچ لیا جیسا کہ میرے ہاتھ نے میرے پاؤں کو کھینچ لیا۔ اور ان کے عده اشعار میں یہ بھی ہیں:

رحلتم فكم من انه بعد حنة مبينة للناس حزنی عليكم

ترجمہ: تم چلے گئے جس سے کتنا ہی کراہنا اور رونا پڑا۔ اس قدر جو عام لوگوں پر بھی تمہارے سلسلے میں میرے غم کو ظاہر کرنے والا ہے۔

وقد كدت اعتقت الحفول من اليكاء فقد ردها في الرق شوق اليكم

ترجمہ: اور میں نے زیادہ روتے رہنے کی وجہ سے اپنے پوٹوں کو خود تھار بنا دیا تھا۔ لیکن تمہاری طرف میری گردیدگی نے انہیں غلام کی طرف لوٹا دیا ہے۔

ان غلکان نے ان کے ان پسندیدہ اشعار کو منتخب کیا ہے:

فقلت لها بخلت على يقطى فجوى في المنام لمستهام

ترجمہ: تو میں نے اس سے کہا تم نے مجھ سے میری بیداری میں ملاقات کرنے میں بجالت سے کام لیا۔ اس لیے تم اپنے عاشق کے لیے خواب ہی کی حالت میں سماوات کرو۔

فقالت لى و مرت تنام ايضاً و تطمع ان ازودك في النام

ترجمہ: تب اس نے مجھ سے کہا اور تم بھی سونے لگے ہو، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیند میں میں تمہاری زیارت کروں۔ اور کہا ہے کہ ان کا لقب جحظہ عبداللہ بن المعتز نے رکھا ہے، کیونکہ دیکھنے میں ان کی آنکھوں کی خرمابی کی وجہ سے بد صورت تھے۔ کسی نے ان کی بھجوکر تے ہوئے یہ اشعار کہئے ہیں:

بيت جحظة تسعين ححوظة من فيل سطرنج ومن سلطان

ترجمہ: جحظہ کے گھر سے تم ابھرنے کی کوشش کرتے ہو، شترنج کے ہاتھی اور کیکڑے کے مقابلہ میں۔

وارحمتنا لمنا دمية تحملوا الـ السعيون للذلة الاذان

ترجمہ: ہائے رحم ہو اس کے ہم نشینوں پر کہ انہوں نے کانوں کی لذت پہنچانے کے خیال سے آنکھوں کی بھی تکلیف

برداشت کی۔

ان فی وفات و اس طب میں کن یعنی سوچو جیسیا پیشیں بھری ہیں ہوئی ہے۔

#### اہن امفلس الفقیر الطاہری:

بہت مشہور شخص ہیں ان میں اپنے مذهب میں مفید کتابیں آصنیف شدہ ہیں۔ ابوذر بن داؤد سے علم فتوح حاصل کیا ہے اور عبد اللہ بن احمد بن حنبل علی بن داؤد القاطری اور ابو قلاب الریاثی وغیرہم سے احادیث سنی ہیں۔ یہ لفظ فقیر اور فاضل بھی تھے۔ یہی وہ ہیں جس نے ان علاقوں میں داؤد کے مذهب کو پھیلایا ہے مسکنہ میں وفات پائی ہے۔

#### ابو بکر بن زیاد:

النیسا بوری عبد اللہ بن محمد بن زیاد بن واصل بن میمون ابو بکر الفقیر جو شافعی المذہب اور نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ ابیان بن عثمان کے غلام تھے۔ عراق، شام اور مصر کا سفر کیا، اور بغداد کو اپنا مسکن بنایا۔ محمد بن سیفی الذہلی عباسی الدوری کے علاوہ اور بھی لوگوں سے روایت حدیث کی ہے۔ اور ان سے دارقطنی کے علاوہ کئی دوسرے حفاظ نے روایت کی ہے۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ ہمارے مشائخ میں ان کے مقابلہ میں کوئی دوسرے سندوں اور متنوں کے زیادہ حافظ نہیں دیکھے گئے۔ مشائخ کے اندر یہ سب سے بڑے فقیر نے خونزینی اور ربیع جیسے محدثین کی مجموعوں میں بیٹھا کرتے۔

عبد اللہ بن بطہ نے کہا ہے کہ ہم بہت سے ابن رینہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، صرف روشنائی اور دووات لے کر آنے والوں کا شمار کرنے سے وہ تیس ہزار سے زائد ہو جاتے تھے۔ اور خطیب نے کہا ہے کہ ابو سعید الملینی نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم سے یوسف بن عمر بن مسروں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو بکر بن نباد نیشاپوری سے یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میں ایسے شخص کو یادانتا ہوں جو چالیس برس مسلسل بھوکا سویا ہے، وہ ہر روز صرف پانچ دنوں لفڑو راک بنایا کرتے تھے۔ اور صحیح کی نماز، عشاء کے وضو سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہتے، میں ہی وہ ہوں جو ایسا کرتا تھا۔ عبد الرحمن یعنی اپنے بیٹے کی ماں (بیوی) کے آنے سے پہلے پھر جس نے میری شادی کرائی تھی، اس سے میں کہتا یہ کیا ہو گیا۔ پھر کہا، ایسا کرنے میں بھی میں نیکی کا ارادہ رکھتا تھا (ابجاع سنت) چھیاسی برس کی عمر پا کر اسی سال وفات پائی۔

#### عفان بن سلیمان:

بن ایوب ابو الحسن التاجر۔ مصر میں اقامت کی، اور وہاں محدثین اور ان کے خاندان والوں کے لیے کئی گھر وقف کر دیے۔ حنفیہ اللہ۔ یہ تاجر پیشہ اور دنیا میں بڑے مالدار تھے۔ حکام میں ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی گواہی معتبر ہوتی تھی۔ اس سال ماہ شعبان میں وفات پائی۔

#### ابو الحسن الشعري:

یہ بغداد آئے، اور زکریا بن سیفی الساجی سے حدیث اور ابن سرین سے علم فقہ سیکھا۔ اہن خلکان نے کہا ہے کہ وہ شیخ ابو

اسحاق المرزوqi کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اشعاری ابتداء مسلمان معتزلی تھے۔ بعد میں اس سے بر منہرۃ البکار اعلان کیا۔ پھر معتزلی خرا بیان اور برائیاں بیان کرنے لگے اور ان کی محض اور مظلول ہر قسم کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ ان کی بیچن اتفاقیت تھیں۔ اور بیان کیا ہے کہ ان کی مخالف آمدی شرعاً بخوار درہم تھی۔ بہت زیادہ دشمنی مذاق کرتے تھے انہوں نے سن دوسرا اور دوسرا قول میں تین سو قسم سے کچھ زائد میں وفات پائی۔ واللہ اعلم

**محمد بن افضل:**

بن عبد اللہ ابوذر تھی جرجان کے رہیں تھے، بہت سے لوگوں سے روایتیں نہیں، شافعی المذہب کے فقیہ تھے۔ ان کا گھر تمام علماء کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی۔ اپنے زمانہ کے طالب علموں کو بہت زیادہ داد دہش کیا کرتے تھے۔

#### بارون بن المقددر:

جو خلیفہ راضی کے بھائی تھے۔ اس سال ماہ رمضان میں وفات پائی جس کی بناء پر اس کے بھائی راضی کو بہت زیادہ دلی ڈکھ ہوا۔ اور اسی وجہ سے اس کے معانیج بخیثیوع بن یحییٰ کو انبار کی طرف نکال دینے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ خیال ہو گیا تھا کہ اس نے علاج میں لاپرواہی بر تی تھی۔ مگر بعد میں اس راضی کی ماں کی سفارش سے فیصلہ واپس لے لیا۔

### — ۳۲۵ —

اس سال ماہ محرم میں خلیفہ راضی اور امیر الامراء خدیج بن رائق دونوں ایک ساتھ واسط جانے کے ارادہ سے اہواز کے نائب حاکم ابو عبد اللہ البریدی سے قتال کرنے کی غرض سے نفع کوئکہ وہاں اس نے سرکشی کی تھی، اور خراج دینا بند کر دیا تھا، جب امیر الامراء وہاں پہنچنے تو لوگ ان کے مقابلہ کو نلکے اور قتال شروع کر دیا۔ ان سے منشی کے لیے تکلم کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے انہیں کچل دیا۔ اور ان شکست خور دوں کو بغداد کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہاں کے کوتوال نے آگے بڑھ کر انہیں گھیر لیا، اور ان میں سے اکثر کو قید کر دیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا۔ اور اب ان میں سے کوئی بھی سر انجانے والا باقی نہ رہا۔ اور بیت المال سے ان کے تمام وظیفے بھی ختم کر دیئے اور ابو عبد اللہ البریدی کی سرکوبی کے لیے خلیفہ نے اہن رائق کو بھیج دیا۔

بالآخر سالانہ تین لاکھ ساتھ ہزار دینے پر وہ راضی ہو گیا۔ جنہیں علیحدہ علیحدہ تین قسطوں میں بھیجا کرے گا۔ علاوہ ازیں عضد الدولہ بن بویہ سے قتال کے لیے وہ کچھ فوج کا انتظام کیا کرے گا۔ اس کے بعد خلیفہ جب بغداد کو لوٹ آئے تو اس نے نہ کوئی رقم بھیجی، اور نہ ہی کسی انسان کو بھیجا۔ تب ابن الرائق نے دوبارہ تکلم اور بدرا الحسینی کو بریدی کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت ان لوگوں نے زبردست لڑائیاں اور ہنگامے کیے، اور بھی کچھ طویل معاملات ناقابل ذکر سامنے آئے۔ اس کے بعد مجبور بریدی نے عما الدولہ سے پناہ لی اور تکلم کو اہواز کے علاقوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ اور ابن الرائق نے وہاں کے خراج کا ذمہ دار اسی کو بنا دیا۔ تکلم بہت زبردست بہادر تھا۔ ریچ الاؤل کے مہینہ میں خلیفہ نے تکلم کو خلعت دیا اور اسے بغداد کا حاکم بنا دیا۔ اور شرق میں خراسان کا نائب حاکم بنایا۔ اس سال مشہور لوگوں میں ابو حامد بن الشرقي کا انتقال ہوا۔

أحمد بن ثعوبان أَنَّ

ابو حامد اثرتی۔ سن دوسوچا لیس بھری میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ حافظ حدیث ہے رتبہ کے بہت زیادہ حفظ کرنے والے تھے۔ اسی طرزِ حجج بھی بارہا کر پکے تھے۔ مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کیا، بڑے بڑے محدثین سے روایتیں سنیں۔ اب ان خزینہ نے ان کی طرف ایک دن دلکھ کر کہا تھا کہ ابو حامد کی زندگی لوگوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کے خلاف جھوٹ بولتے رہنے میں اگر رہتی ہے۔

عبدالله بن محمد:

بن سفیان ابو الحسن الخراز الخوی مبرد اور شلب سے روایات بیان کی ہیں۔ علوم قرآن کے اندر تیقینی فوائد پر مشتمل ان کی

کئی تصنیفات ہیں۔

محمد بن اسحاق:

ابن حمیک ابوالطيب الخوی، ابوالوقیع نے کہا ہے حدیث کے اندر ان کی عمدہ تصنیفات ہیں۔ حارث بن ابی المبرد اسامہ

اور شلب وغیرہم سے احادیث بیان کی ہیں۔

محمد بن ہارون:

ابو بکر العسكری، جو ابوثور کے مذہب کے فقیہ تھے۔ حسن بن عربہ عباس الدوری، دارقطنی اور آجری وغیرہم سے روایت کی

وَاللَّهُ أَعْلَم

واقعات — ٢٦

اس سال بادشاہِ روم کی طرف سے خلیفہ راضی کے نام ایک ایسا خط آیا، جس کا اصل مضمون تو خط رومنی میں تھا۔ لیکن اس کی تفسیر زبانِ عربی میں سے تھے۔ زبانِ رومنی سونے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن زبانِ عربی چاندی سے لکھی گئی تھی۔ جس کا حاصل دونوں قوموں میں امنِ سکون کے ساتھ رہنے کا مطالبہ تھا۔ اور اس خط کے ساتھ اس نے بہت سے ہدایا اور تحائف وغیرہ بھی بھیجے تھے، اس لئے خلیفہ نے اس رومنی کی بات مان لی، اور مسلمانوں کے جھوہر ارقمیدیوں کا تباولہ ہوا۔

اس سال وزیر ابوالفتح بن الفرات بغداد سے شام کو چلا گیا اور روزارت چھوڑ دی، اس کی جگہ پر ابوعلی مقلہ کو مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت حکومت انہیانی کمزور ہو چکی تھی۔ ابن رائق کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق نہ تھا۔ اب ابن رائق سے یہ مطالبه کرنے لگا کہ اپنی تمام ملکیتیں اس کے حوالہ کر دے۔ لیکن وہ نال مٹول کرنے لگا۔ اس لیے یہ حکوم کو خط لکھ کر بغداد میں رہنے کی لائج ولائی کی یہ معاملہ ابن مقلہ کے عوض ہو۔ اور ابن مقلہ نے بھی خلیفہ کے پاس خط لکھا کہ ابن رائق اور ابن مقاتل دونوں ۲۱

اس کے ہاتھوں ڈالا۔ اور یہاں پہنچنے والے میں سب سے زیادہ نسادی ہے۔ پھر یہ رائجی فی خوشامدیں برلنے والا تکمیل اسے اپنادیوار بنانے اور یہ کہ ہاتھ سے ہوتے سے وکی لفسان نہ ہوا۔ یونان کیتھے کا ۴۰۱ قیصر نے ہونے والے ہاتھ پر باندھ کر کر سکتا ہے۔

### وزیر ابن مقلہ کے حالات اور اس کے عبر تاک و واقعات:

پھر ابن رائق کو یہ خبر ملی کہ وہ ساری باتیں لکھ کر حکم کو بتا رہا ہے اور اسے ان کے خلاف دعوت دے رہا ہے۔ لہذا اسے اب پکڑ کر اس کی زبان کاٹ دیا، اور ایک ٹنگ جگہ میں اسے مقید کر دیا۔ کسی کو اس کی خدمت کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ لیکن وہ اسی صورت سے اپنے پانی پینے کا کام چلاتا رہا، اور بالٹی بائیں ہاتھ سے کھینچتا، پھر منہ سے اسے پکڑتا، پھر بائیں ہاتھ سے کھینچتا۔ اسی طرح پانی اوپر لے آتا، اور اس سے پی لیتا اور سیراب ہو جاتا۔ مگر وہ اس جگہ بڑا انتہائی ناقابل برداشت تکلیفیں جھیلتا رہا۔ بالآخر اس جگہ تھا پڑا پڑا امر گیا اور اس میں اسے دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے گھروالوں کی فرمائش پر دوسرا جگہ دفن کیا گیا۔ پھر وہاں سے تیسرا جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کے اس قصہ میں کئی واقعات سامنے آئے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اسے تین بار وزیر بنایا گیا، اور تین بار معزول کیا گیا۔ اور تین خلافاء ہے اسے عہدے ملے، اور تین بار دفن کیا گیا۔ دور دور کے بہت سفر کیے۔ دو مرتبہ اسے نکلا گیا اور ایک مرتبہ موصل کا سفر کیا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اسی سال حکم بغداد آیا تو خلیفہ راضی نے ابن رائق کی جگہ پر امیر الامراء کے عہدے پر مأمور کر دیا۔ حالانکہ یہ حکم ابو علی العارض ماکان بن کالی الدیلمی وزیر کے غلاموں میں سے تھا اس موقع پر حکم نے یہ فرمائش کی کہ پہلے وزیر کی ساری چیزیں اسے دے دی جائیں اور اسے وہ ساری چیزیں دے دی گئیں۔ پھر بھی یہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر مرداویح سے جا ملا۔ پھر یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، جنہوں نے اسے غسلخانہ میں بند کر کے قتل کیا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

جب ظیفہ نے اسے امیر الامراء کے عہدہ پر مأمور کیا تو اسے موسن خادم کے گھر میں رہنے کو جگہ دی اور اس کی عزت اور اختیارات میں بہت زیادتی ہو گئی اور ابن رائق وہاں سے نکل گیا۔ اس کی کل مدت وزارت ایک برس دس ماہ سولہ دن کی ہوئی تھی۔

اس سال عاد الدولہ بن بویہ نے اپنے بھائی معاشر الدوّلہ کو بھیجا، جس نے ابو عبد اللہ البریدی کے لیے اہواز پر قبضہ کیا۔ اور حکم کے قبضہ سے اسے چھین لیا۔ پھر اس کو وہ جگہ لوٹا دی۔

اسی سال شمسیر الدیلمی ایک حاکم لشکری آذربائیجان کے علاقوں پر غالب آگیا اور اسے رستم بن ابراہیم الکردی سے جو ابن الساج کے ماننے والوں میں سے تھا، چھین لیا۔ اس سال قرامط کے آپس کے حالات بہت بُڑے تھے اور آپس میں زبردست قتل و قبال ہوا تھا۔

اسی وجہ سے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار اور خون ریزی بالکل نہ کر سکے، اور اپنے شہر بھر میں ہی بند رہے۔ کسی دوسری جگہ جانے کی بہت بھی نہ کر سکے تھے۔ فللہ الحمد والمنة۔

اک سال احمد بن زیاد بن عبد الرحمن الاندلسی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور یہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فقہ مالکی کو انہیں میں داخل کیا۔ انہیں عہدہ قضاء پیش کیا گیا تھا۔ مگر اسے قبول نہیں کیا۔

## واقعات — لے ۳۲۵

اس سال ماہ محرم میں راضی امیر المؤمنین موصل گئے۔ ناصر الدولہ بن عبد اللہ بن حمدان سے قال کے لیے جو کہ وہیں نائب حاکم تھے۔ اور آگے آگے امیر الامراء اور تھکم اور قاضی القضاۃ ابو الحسن عمر بن محمد بن یوسف تھے۔ اور اپنا قائم مقام بغداد میں اپنے لڑکے قاضی ابو نصر یوسف بن عمر کو جو کہ منصب قضاء میں تھے، امورِ خلافت کا بھی ذمہ دار بنا دیا تھا۔ علمی لحاظ سے وہ فاضل اور بڑے عالم تھے۔ تھکم نے موصل پہنچتے ہی حسن بن عبد اللہ بن حمدان پر حملہ کر دیا۔ آخر تھکم بن حمدان کو شکست دے دی۔ اور خلیفہ موصل اور جزیرہ کے ہی علاقہ میں ٹھہر گیا اور وہیں انتظام سنبھالا۔ ایسے موقع کو محمد بن رائق نے بہت ہی غیمت جانا کہ خلیفہ بغداد سے بہت دور ہے اس لیے وہ ایک ہزار قراطی فوجوں کو لے کر بغداد میں داخل ہو گیا، اور ہنگامہ و فساد برپا کر دیا۔ البته دارالخلافہ پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ پھر خلیفہ کے پاس مصالحت اور کیے ہوئے مظالم سے درگزر چاہنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔

چنانچہ اس کی درخواست قبول کر لی گئی، اور اس کے پاس قاضی القضاۃ ابو الحسن عمر بن یوسف کو بھیجا۔ ادھر اہن رائق بغداد سے نکل گیا۔ اور خلیفہ جمادی الاولی میں بغداد واپس آ گیا۔ جس سے مسلمان خوش ہو گئے اور آذربائیجان مطابق ماہ جمادی الاولی کی پہلی رات مغرب کے قریب زبردست بارش ہوتی، اور بڑے بڑے اولے بر سے۔ ہر اولے کا وزن دواویقیہ (اکیس تو لے کا) تھا۔ اور بارش دیریک ہوتی رہ جس کی وجہ سے بغداد کے بہت سے مکانات برباد ہو گئے، اور اس سال نہیں بھی بکثرت نکلیں۔ اور عراقی راستے سے بھی اس سال جاججج کو گئے جو تین سو سترہ سے اس سال اور اس سال تک موقوف تھا۔ جس کے لیے شریف ابو علی محمد بن محبی نے قرامط سے سفارش کی۔ کیونکہ وہ لوگ اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کی وجہ سے اسے بہت مانتے تھے۔ ان سے یہ طے کیا تھا وہ ان حاجیوں کو پریشان نہ کریں اور ہر اونٹ سے پانچ دینار اور ہر محمل سے سات دینار لیں گے، جس پر وہ سب تشقق ہو گئے، چنانچہ وہ لوگ اس شرط کے مطابق جج کو گئے تھے۔ ان جانے والوں میں ایک شیخ ابو علی بن ابو ہریرہ بھی تھے جو شافعی المذاہب کے ایک بڑے امام تھے۔ جب یہ ان لوگوں کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے ان سے بھی حسب دستور نیکس کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے اونٹ کی نیکیں دوسری طرف موزو دی، اور واپس چلے آئے۔ اور یہ کہتے گئے کہ میں بخل کی وجہ سے واپس نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ ان کے نیکس کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر سے جج کی فرضیت ساقط ہو گئی۔

اس سال احمد بن زیاد بن عبد الرحمن الاندھی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور یہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نقہ مالکی کو اندرس میں داخل کیا۔ انہیں مہداء قضا، پیش کیا گیا تھا، مگر اسے قبول نہیں کیا۔

## واقعات — ۳۲۵

اس سال ماہ محرم میں راضی امیر المؤمنین موصل گئے۔ ناصر الدولہ بن عبد اللہ بن حمدان سے قال کے لیے جو کہ وہیں نائب حاکم تھے۔ اور آگے آگے امیر الامراء اور تکم اور قاضی القضاۃ ابو الحسن عمر بن محمد بن یوسف تھے۔ اور اپنا قائم مقام بغداد میں اپنے لڑکے قاضی ابو نصر یوسف بن عمر کو جو کہ منصب قضاۃ میں تھے، امور خلافت کا بھی ذمہ دار بنادیا تھا۔ علمی لحاظ سے وہ فاضل اور بڑے عالم تھے۔ تکم نے موصل پہنچتے ہی حسن بن عبد اللہ بن حمدان پر حملہ کر دیا۔ آخر تکم بن حمدان کو شکست دے دی۔ اور خلیفہ موصل اور جزیرہ کے ہی علاقے میں ٹھہر گیا اور وہیں انتظام سنبلہ۔ ایسے موقع کو محمد بن رائق نے بہت ہی غنیمت جانا کہ خلیفہ بغداد سے بہت دور ہے اس لیے وہ ایک ہزار قرامطی فوجوں کو لے کر بغداد میں داخل ہو گیا، اور ہنگامہ و فساد برپا کر دیا۔ البته دارالخلافہ پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ پھر خلیفہ کے پاس مصالحت اور کیمی ہوئے مظالم سے درگز رچانے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔

چنانچہ اس کی درخواست قبول کر لی گئی، اور اس کے پاس قاضی القضاۃ ابو الحسن عمر بن یوسف کو بھیجا۔ ادھر این رائق بغداد سے نکل گیا۔ اور خلیفہ جمادی الاولی میں بغداد واپس آگیا۔ جس سے ہمارے مسلمان خوش ہو گئے اور آذربائیجان مطابق ماہ جمادی الاولی کی پہلی رات مغرب کے قریب زبردست بارش ہوئی، اور بڑے بڑے اولے بر سے۔ ہر اولے کا وزن دواویقی (اکیس تو لے کا) تھا۔ اور بارش دیر تک ہوتی رہ جس کی وجہ سے بغداد کے بہت سے مکانات بر باد ہو گئے، اور اس سال مئیاں بھی بکثرت نکلیں۔ اور عراقی راستے سے بھی اس سال جاججح کو گئے جو تین سو سترہ سے اس سال اور اس سال تک موقوف تھا۔ جس کے لیے شریف ابو علی محمد بن محبی نے قرامطے سے سفارش کی۔ کیونکہ وہ لوگ اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کی وجہ سے اسے بہت مانتے تھے۔ ان سے یہ طے کیا تھا وہ ان حاجیوں کو پریشان نہ کریں اور ہر اونٹ سے پانچ دینار اور ہر محل سے سات دینار لیں گے، جس پر وہ سب متفق ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شرط کے مطابق حج کو گئے تھے۔ ان جانے والوں میں ایک شیخ ابو علی بن ابو ہریرہ بھی تھے جو شافعی المذاہب کے ایک بڑے امام تھے۔ جب یہ ان لوگوں کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے ان سے بھی حسب دستور تکمیل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے اوٹ کی تکمیل دوسری طرف موزدی، اور واپس چلے آئے۔ اور یہ کہتے گے کہ میں بخل کی وجہ سے واپس نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ ان کے تکمیل کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر سے حج کی فرضیت ساقط ہو گئی۔

اس سال اس میں ایک بڑی دست قتلہ بپھوا جس کی وجہ پر سوکی کر رائکم انہیں عین الحسن الاموی نے جس کا انتساب الناصر الدین الفتحا۔ اپنے وزیر احمد کو قتل کر دیا۔ اس قتل سے اس کا بھائی امیر بن اسحاق بہت غصہ میا جو کاشنزہ بن شہر کا نائب حالم تھا۔ ابتدائی غصہ کی وجہ سے وہ مرتد ہو کر نصاریٰ کے شہروں میں چلا گیا اور ان کے باہم شاہزادی سے مل کر انہیں مسلمانوں کے خفیہ راز بتانے لگا۔ اس لیے وہ جلال القہ کا ایک بڑا شکر نے کران پرمنہ کے لیے آئیا اور عبد الرحمن بھی ان کے مقابلہ کے لیے نکلا دنوں میں زبردست مقاتله ہوا اور جلال القہ میں سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کیا اور اتنے ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا جتنے ان کے قتل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جلال القہ پر متواتر حملے جاری رکھے اور ان کے بے شمار آدمیوں کو قتل کر دیا۔

نتیجہ کے طور پر امیر بن اسحاق اپنی گزشتہ حرکتوں پر سخت شرمندہ ہوا اور عبد الرحمن سے امان چاہی، چنانچہ اسے امان دے دیا۔ اور وہ جب اس کے سامنے آیا، اس کو بوسہ دیا، اور اس کا احترام کیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### احسن بن القاسم:

بن جعفر بن رجم ابو علی الدمشقی۔ یہ محدثین کی اولاد سے ہیں، خود اخبار و روایات سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں ان کی کئی تصنیفات ہیں۔ عباس بن الولید البیروتی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اس سال ماہ محرم میں مصر کے اندر وفات پائی ہے اسی برس سے زیادہ عمر پائی ہے۔

### احسین بن القاسم:

بن جعفر بن محمد بن بشر ابو علی الکوکبی اکاتب۔ فن اخبار و آداب سے متعلق تھے۔ احمد بن ابی خیثہ، ابوالعینا اور ابن ابی الدنیا سے روایت کی ہے اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

### عثمان الخطاب:

بن عبد اللہ ابو عمر والبلوی، المغزلي الأشجع، بھی ابوالدنیا کی کنیت سے مشہور ہیں۔ یہ صاحب سن تین سو بھری کے بعد بغداد آئے۔ اور اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے کہ راستہ میں انہیں بہت زیادہ پیاس لگی تو اپنے والد کے لیے پانی کی تلاش میں نکل گئے۔ تو ایک چشمہ نظر آیا۔ اس میں خود پیاس لگی اور اپنے والد کے لیے پانی لے کر چلے پہنچ کر دیکھا کہ والد انتقال کر چکے ہیں۔ اس سے فراغت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کے دربار میں پہنچ کر یہ چاہا کہ ان کے گھنٹوں کو بوسہ دیں، کہ

سواری نے انہیں کر دیا۔ اس سے ان نے سر میں زخم آ لیا اور شان پڑی۔ اس دبے سے یہاں ہٹا نہ گئے۔  
ابن کے اس دعویٰ کو مذاخر ایک جماعت نے مان لیا اور ان سے کچھ اوقات ایک اخوند کی روایت کرتے ہیں جس میں  
حضرت علی بن ابی ذئب سے احادیث منقول ہیں۔ ان لوگوں میں حافظ محمد بن احمد بن الحنفیہ ہیں۔ اور وہ ان احادیث کو ان سے روایت  
بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان پر شیعہ ہونے کا الزام ہے۔

اسی بناء پر انہوں نے ان روایتوں کے بارے میں چشم پوشی سے کام لیا ہے کہ وہ تو حضرت علی بن ابی ذئب کی طرف منسوب  
کرتے ہیں۔ لیکن اگلے کچھلے آج تک تمام محدثین ان کو اس میں جھلاتے ہیں۔ اور سب اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ جس  
نسخہ کی انہوں نے روایت کی ہے وہ پورا نسخہ موضوع ہے۔ اور نہ مانے والوں میں ابو طاہر احمد بن محمد لشافی ہیں، ان کے علاوہ  
ہمارے وہ تمام شیوخ ہیں، جن کو ہم نے پایا ہے۔ علامۃ الامیر شیخ الاسلام ابو العباس بن تیمیہ، علامہ ابو الحجاج مرزا، حافظ سوراخ  
اسلام ابو عبد اللہ الذبیلی ہیں۔ میں نے اس بحث کو اپنی کتاب التتمیل میں ذکر کیا ہے۔ فللہ الحمد والمنة۔  
مفید نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ یا شیخ سن تین سو سال میں بھری میں وفات پائے ہیں۔ یہ اپنے شہر کو لوٹ  
گئے تھے۔ واللہ اعلم

### محمد بن جعفر بن محمد:

بن سہل ابو بکر الخراطی، جو بہت سی تصنیفوں کے مالک ہیں، ان کا خاندان سرمن رائی کا ہے اور ملک شام جا کر بس گئے اور  
وہیں حسن بن عرفہ وغیرہ سے روایت کی ہے۔

اس سال جن لوگوں نے وفات پائی، ان میں یہ ہیں:

### الحافظ الکبیر بن الحافظ الکبیر:

ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس ہیں جن کی کتاب البرح والتعديل مشہور ہے، یہ کتاب اپنے موضوع کی  
اہم ترین تصنیف ہے۔ اور ایک کتاب الفسیر الفافل ہے، جو اقل مفید اکامل پر مشتمل ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری وغیرہ آج تک  
کے دوسرے مفسرین سے زیادہ تفسیر ہے۔ ایک اور کتاب ہے، کتاب العلل، جس کی تصنیف اور ترتیب فقہی ابواب پر مشتمل  
ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی مفید ترین تصنیفات ہیں یہ ہرے ہیں عابد زاہد پر ہیز گار دیندار اور بہت زیادہ مشہور کرامتوں  
والے ہیں۔

ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھا کر جب سلام پھیرا تو ان سے ایک مقتدی بنے یہ شکایت کی کہ آپ نے نماز بہت طویل  
کر دی۔ ایک سجدہ میں ستر مرتبہ تسبیح پڑھی۔ تو جواب دیا کہ اللہ کی فضیل! میں نے تو اس میں صرف تین بار تسبیح پڑھی تھی۔

کسی سرحدی شہر کی ایک دیوار گر گئی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو اس کے ہنانے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، جلدی بناؤ۔ لیکن  
اس کہنے کے باوجود لوگوں میں سستی دیکھی، تو یہ بولے جو اسے بناؤ گا، میں اللہ کے پاس اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ

بُنادت تھے میں، یہ کہتا ہے کہ اپنے سامنے کی تحریر یہ تکمیلیں نیزی طرف سے اس کا تم میں کے لیے ہے، اور دینا یہ تکمیلی تحریر کیں۔  
تب انہوں نے اس مضمون کا پرچہ لکھ کر اسے دے دیا اور وہ دیوار پر لگانے لگی۔  
اس واقعہ کے پچھے دنوں بعد اس ناچور کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ اس کے بنازہ کے قریب پہنچے تو ان کے لفٹ سے ایک پرچہ نکل کر اڑ کیا۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ وہی پرچہ تھا جو ابن ابی حاتم نے اسے لکھ لر دیا تھا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ اس اپنی پیٹھ پر اس پرچہ کا مضمون لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تمہارے مہمان کو مان لیا ہے۔ اور آئندہ ایسا نہ کرو۔ واللہ سبحانہ اعلم

## واقعات — ۳۲۸

ابن الجوزی نے اپنی کتاب منتظم میں لکھا ہے کہ ابتدائے ماہ محرم میں نضا میں اتر پچھم کے کناروں میں زبردست سرخی اُٹھی، جس میں بہت زیادہ تعداد میں بڑے بڑے سفید ستون نظر آئے تھے۔

اور اس سال یہ خبر پہنچی کہ رکن الدولہ ابو علی الحسن بن بویہ واسطہ پہنچ چکا ہے۔ خبر سننے ہی وہ تکمیل کو لے کر اس کے مقابلہ کو نکلا تو وہ ڈر کر وہاں سے اہواز کی طرف لوٹ گیا تو لوگ بھی بغداد واپس لوٹ آئے۔

اسی سال رکن الدولہ بن بویہ اصہان شہر کا باڈشاہ بن بیٹھا۔ جسے اس نے مرادوں کے بھائی شمسکیر سے چھین لیا تھا۔ کیونکہ اس وقت وہاں فوجوں کی تعداد بہت کم تھی۔

اسی سال شعبان کے مہینے میں دجلہ میں پانی بہت بڑھ کر مغربی جانب پھیل گیا تھا۔ جس کی وجہ سے بہت سے مکانات گر پڑے تھے۔ اور انبار کے علاقوں میں دریا کے کنارے کنارے کنارے بہت جگہوں پر دراز پڑ گئے تھے جس سے بہت سے دیہات ڈوب گئے اور اس وجہ سے جنگل کے بہت سے درندے اور حیوانات بھی ہلاک ہو گئے تھے۔

اسی سال تکمیل نے سارہ بنت عبد اللہ البریدی سے نکاح کیا تھا۔ اور محمد بن احمد بن یعقوب وزیر اس وقت بغداد ہی میں تھا۔ پھر وہ سلیمان بن الحسن کو وزارت دے کر علیحدہ ہو گیا۔ اور بریدی نے واسطہ کے شہروں اور تمام چیزوں کو چھ لا کھ دینار کے عوض لے لیا تھا۔

اسی سال قاضی القضاۃ ابو الحسن عمر بن محمد بن یوسف کی وفات ہو گئی اور ان کی جگہ ان کے لڑکے ابو نصر یوسف بن عمر بن محمد بن یوسف کو قائم مقام بنادیا گیا۔ اور خلیفہ راضی نے پیغمبریوں شعبان اور جمعرات کو انہیں خلعت بخشنا۔ اور جب ابو عبد اللہ البریدی واسطہ کے علاقہ میں گیا تو اس نے تکمیل کو پھاڑی علاقوں کی طرف آنے کی ترغیب دی تاکہ اسے فتح کر کے دونوں مل کر اہواز پر حملہ کر کے اس علاقہ کو عمدۃ الدولہ بن بویہ سے نجات دلائیں۔ اس سے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ تکمیل کو بغداد سے باہر نکال کر خود بغداد پر قبضہ کر لے۔ جب تکمیل اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے نکلا۔ اسے بریدی کی بد نیتی اور مکاری کی خبر مل گئی تو وہ فوراً بنداد واپس لوٹ آیا۔ اور فوراً بہت بڑا لشکر لے کر اس کے چاروں طرف پھیل کر اسے گھیرے میں اس طرح لیا کہ

اس سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہر یہی لواس فی خبرِ جمی نہ ہوئی۔

اتفاق ہے کہ جاتے ہوئے راستے میں ایک نشی میں حکم اور اس کا مشی دونوں ہیں، دے بارہ ہے تھے کہ ایک ایسی بُوری گری اس کی ذم میں ایک خط بندھا ہوا تھا۔ حکم نے فوراً اس خط کو لے کر پڑھا، تو معلوم ہوا کہ اس کے اس مشی نے اسی خط سے حکم کے اس سفر کے ارادہ پر بریدی کو مطلع کرنا چاہا تھا۔ جب اس نے اس مشی سے اس خط کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے لیے اقرار کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ اس لیے فوراً قتل کر کے دجلہ میں بہادیا گیا۔ اور بریدی کو جب حکم کے ارادہ کی خبر ملی تو وہ فوراً بصرہ کی طرف بھاگا۔ پھر وہاں سے نکل کر کسی دوسرے علاقہ میں چلا گیا۔

اس موقع پر حکم نے واسطے کے علاقوں پر قبضہ جمالیا۔ لیکن دیلم نے حکم کے اس بقیہ لشکر پر حملہ کیا جو بھی تک پہاڑوں کے پیچے رہ گیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ بھاگ کر بغداد پہنچ گئے۔

اس سال محمد بن رائق نے شام کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس طور پر کہ اس نے تمص پہنچ کر اس پر قبضہ کیا۔ پھر دمشق آیا، جبکہ بدر بن عبد اللہ المانشیہ جو بدر الانشیہ سے مشہور تھا اور یہی محمد بن تقی بھی تھا وہاں حاکم تھا۔ ابن رائق نے اسے دمشق سے بھر نکال دیا تھا۔ اور علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ ابن رائق اپنے لشکر کو لے کر رملہ گیا اور اس پر بھی قبضہ کیا۔ پھر عربیش مصر جا کر وہاں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ محمد بن طغی الانشید سے مقابلہ ہو گیا، اور زبردست لڑائی ہوئی۔

بالآخر ابن رائق نے اسے شکست دے دی، اور اس نے آدمی وہاں لوٹ مار میں مشغول ہو گئے۔ اور خیام المصرین میں پڑا ڈالا۔ اس وقت مصریوں نے ان پر دوبارہ حملہ کر دیا اور بہت سے آسموں کو قتل کر دیا۔ تب ابن رائق اپنے ستر آدمیوں کو لے کر وہاں سے بھاگا۔ اور انتہائی بدترین حالت میں دمشق پہنچا۔ وہاں ابن طغی نے اپنے بھائی نصر بن طغی کو لشکر دے کر بھیجا، تو چوتھی ذی الحجہ کو لجن کے پاس ان لوگوں میں لڑائی ہو گئی۔ تب ابن رائق نے مصریوں کو شکست دے دی۔ ان مقتولوں میں انشید کا بھائی بھی تھا، جسے ابن رائق نے غسل اور کفن دیا، اور اس کے بھائی کے پاس اسے مصر میں بھیج دیا۔ اور اپنے لڑکے کو بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ اور ایک خط لکھ کر اس کے پاس بھیج دیا۔ جس میں قسم کھاتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ میں نے اس کے قتل کا ارادہ بالکل نہیں کیا تھا اور اس واقعہ سے اسے سخت تکلیف ہوئی ہے۔ اس کے عوض میں اپنے لڑکے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم اس سے اس کا بدلہ لے لو۔ لیکن انشید نے محمد بن رائق کا بہت اکرام کیا۔ پھر ان دونوں میں اس بات پر صلح ہو گئی کہ رملہ سے دیارِ مصر تک انشید کی حکومت ہو گی اور اس کے عوض وہ سالانہ ایک لاکھ چالیس ہزار دینار دیا کرے گا۔ اور رملہ سے دمشق کی طرف کا علاقہ ابن رائق کا ہو گا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

اب محمد جعفر المرعش:

یہ مشائخ صوفیہ میں ایک تھے۔ خطیب بغدادی نے ہی ذکر کیا ہے اور ابو عبد الرحمن السعید نے کہا ہے کہ ان کا نام عبدالله

بن محمد ابو محمد النیسا پوری ہے۔ بڑے تین دوست مند تھے۔ سب سے لئارہ شش جو کر جنید بغدادی کے شاشر، وہ ابو علی مسیح اور ابو شان کی صحبت اختیار کی اور بغداد میں اقامت اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ شیخ الصوفیہ ہن تھے۔ میں کہا جاتا ہے کہ بغداد کے عجائب میں سے ہے۔ شبل کے اشارے۔ المرعش لے کئے تو بخشنود خواص میں دھا تھیں۔ میں نے ابو عفرا الصانع کو یہ سمجھتے ہوئے تھا ہے کہ المرعش نے کہا ہے بوجنحیں یہ گمان کرتا ہو کہ اس کے افعال اس کو عذاب جہنم سے چھا دیں گے یا اللہ کا رضوان اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنے نفس اور اپنے فعل کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور جس نے اللہ کے فضل پر اعتماد کیا، اللہ اس کو اپنے رضوان کی انتہائی بلندی تک پہنچا دے گا۔

المرعش سے کہا گیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے۔ تو جواب دیا کہ خواہشات کی خلافت پانی پر چلنے اور ہوا میں اڑنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ اور جب مسجد شونیزیہ میں ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے ان پر لوگوں کے قرض کا حساب کیا، تو سات ہزار درهم نکلے، یہ سن کر وہ کہنے لگے، میری تمام گذریوں اور خرفوں کو بیچ ڈالو اور ان سے میرے قرضوں کو ادا کر دو۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے کفن کے لیے کوئی خاص انتظام کر دے گا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے تمین باتوں کی درخواست کی ہے۔ (۱) میری موت میرے فخر و حالت میں ہو۔ (۲) میری موت اسی مسجد میں ہو کیونکہ میں نے اسی مسجد میں ہر قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اور (۳) یہ کہ یہ میرے قریب ان لوگوں کو کردے جن سے میں انس و محبت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں، اور وفات پا گئے۔ ان اللہ و رحمہ اللہ۔

### ابوسعید الاصطخري:

احسن بن احمد بن یزید بن عیسیٰ بن افضل بن یسار، ابوسعید الاصطخري ثانی مسلم کے ایک امام تھے، بڑے ہی عابد و زاہد اور بڑے ہی عبادت گزار تھے۔ قضاء کے عہدے پر مامور کیے گئے، پھر بغداد کے۔ اس لیے اس کا گشت کرتے رہتے اور گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے خچر پر ہی نماز پڑھتے رہتے، اور بہت ہی کم چیزوں پر کفایت کر لیتے۔ ہم نے ان کے حالات طبقات الشافعیہ میں ذکر کیے ہیں۔ اس موضوع پر اس جیسی دوسری کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی ہے۔ تقریباً نوے برس کی عمر پا کر وفات

پائی ہے۔ رحمہ اللہ

### علی بن محمد ابو الحسین:

المرین الصیغیر۔ مشائخ صوفیہ میں سے ایک تھے۔ ان کی اصل بغداد کی تھی۔ جنید اور سہل تسری رجمہما اللہ کی صحبت میں رہے اور مکہ مکرمہ کے مجاہر رہے، یہاں تک کہ اسی سال وفات پا گئے۔ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ”میں تجوہ کے علاقہ میں ایک کنوئی کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، میرا پیر پھسل گیا اور میں کنوئیں میں گر گیا۔ اور وہاں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نیچے پہنچ گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا نظر آیا تو میں اس پر چڑھ گیا۔ اور دل میں میں نے کہا کہ اگر میں اس پر مر گیا تو لوگوں کے پانی کو تو گدھ ناپاک نہیں کروں گا۔ اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اور موت کے

لیے تیار ہو گیا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ اوپر سے ایک اثر دھا پناہ ہو کنوں میں لٹکا کر مجھے اٹیں ہم سے چھٹ گیا۔ پھر مجھے انہاں بیان تک کہ کنوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ پھر وہاں سے وہ کہیں چلا گیا۔ مجھے یہ پتہ نہ چل۔ لٹکا کر وہ کہاں آگئا وہ کہاں سے آیا تھا۔

مشریع صوفیہ میں سے ایک دوسرے صاحب ہیں جن کو ابو جعفر المزین الکبیر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی مکہ کی بجائے تک کی اور وہیں وفات پائی۔ یہ بھی بڑے عبادت گزاروں میں سے تھے۔

خطیب نے علی بن ابی علی ابراہیم بن محمد الطبری سے انہوں نے جعفر خلدی سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے کسی حج کے موقع پر المزین الکبیر کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے اپنی خاص یادگار عنایت فرمائیں جو میرے لیے تو شہ کا کام دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو ان الفاظ سے دعا کرو:

یَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، إِجْمَعُ بَنَىٰ وَ بَيْنَ كَدَّا.

”اے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے! جس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ہمیں اور ہماری اس مطلوبہ شئی کو جمع کر دے۔“

تو اس دعا کی برکت سے خدا تم کو تمہاری چیز وافری کر دے گا۔ کہا پھر میں ان کے پاس گیا اور انہیں رخصت کرتے وقت میں نے کہا اپنی کوئی خاص چیز مجھے بطور یادگار دیں، تو انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی، جس کے نگینہ میں ایک نقش بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ دیتے ہوئے بولے کہ جب کبھی تم کوئی غم لاحق ہو، اس انگوٹھی کے نگینہ کی طرف دیکھنے لگو۔ تمہارا غم دور ہو جائے گا۔

کہنے لگے کہ اس کے بعد جب بھی میں وہ دعا پڑھ کر کچھ مانندہ چیز ل جاتی اور جب کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتا، میرا غم دور ہو جاتا۔ ایک دن میں سریریہ میں تھا، زور دار ہوا چلی، اس وقت میں نے اپنی انگوٹھی نکالی، اور اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا ہوا وہ کس طرح لاپتہ ہو گئی آخر میں نے وہی دعا پڑھنی شروع کی، تا کہ میری یہ گمشدہ انگوٹھی مل جائے۔ اس کے بعد میں جب اپنے گھر پہنچا، اور وہاں کے سامان کو اکٹ پلت کر کے دیکھنا شروع کیا تو کسی ایک کپڑے میں مجھے وہ انگوٹھی مل گئی جو گھر ہی میں رہ گیا تھا۔

#### احمد بن عبدربہ:

کتاب العقد الفرید کے مصنف۔ ابن خبیب بن جریر بن سالم ابو عمر القرطی۔ مونی ہشام بن عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم الاموی۔ ان فضلاء میں سے تھے جو بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اور انکے وچھلے لوگوں کے حالات جانتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب العقد ان کی قابلیت مسلمہ اور بہت زیادہ ماہر علوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ان کا اکثر کلام ان کی شیعیت اور بنی امیہ کے خیالات سے برگشتی پر دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ ان سے ایسا ہونا خلاف تو قع اور تعجب خیز ہے۔ کیونکہ یہ بنی امیہ کے ہی آزاد کردہ تھے، اس لیے ان کو ان کے ہم خیال ہونا چاہئے اور خالقین نہ ہونا چاہئے۔ ابن خلکان نے کہا ہے کہ ان کے اپنے عمدہ اشعار کی مستقل دیوان ہے۔ پھر ان کے کچھ اشعار نوجوانوں اور عورتوں سے

متعلق غزوہ لوں میں ہیں۔ سن دو سو چھالیس بھری میں ان کی ولادت ہوئی۔ اور اسی سال انھار ہوئیں جمادی الاولی الوار کے دن قرطبه میں وفات ہوئی۔

عمرو بن ابی عمر

محمد بن یوسف بن یعقوب بن حماد بن زید بن درہم ابو الحسین الازدی مسلم کا مالکی مذهب کے فقیہ اور قاضی تھے۔ میں برس کی عمر ہی میں اپنے والد کی قاضیتامی کی۔ قرآن پاک اور حدیث دونوں کے حافظ تھے۔ علوم فرائض، حساب، لغت، خوش شعر، سب کے عالم تھے۔ حدیث میں ایک کتاب مدنۃ تصنیف کی ہے۔ انہیں قدرتی طور سے سمجھ، تیزی ذہین اور عمدہ اخلاق میسر تھے۔ ان کے اشعار بہت عمدہ ہوتے، فیصلوں کے موقع میں بھی ان کے اخلاق سے سب بہت خوش رہتے۔ ان کا انصاف بہت صحیح ہوتا۔ قابل اعتماد اور امام وقت تھے۔

خطیب نے ذکر کیا ہے کہ ابو الطیب طبری نے ہم سے بیان کیا ہے کہ میں نے معانی بن زکریا الجیری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اکثر قاضی ابو الحسین کی مجلس میں آیا کرتے، ایک دن حسب دستور ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ان کا انتشار کر رہے تھے۔ اسی وقت کوئی دیہاتی آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی کسی ضرورت سے آیا ہوا ہے۔ اچانک اسی وقت ایک کوآ کر کھور کے درخت پر بیٹھ کر ایک آواز لگا تراڑ گیا۔ آواز ہن کردیہاتی نے کہا یہ کوایہ کوایہ خبر دینے آیا تھا کہ اس گھر کا مالک سات دونوں کے بعد مر جائے گا۔

اس خبر بد کوں کرہم نے اسے ڈانتا تو وہ اٹھا اور چلا گیا۔ پھر قاضی کی طرف سے ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی تو ہم وہاں پہنچ گئیں دیکھا کہ ان کے چہرہ کارنگ متغیر ہے اور بہت غمزد ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا خبر ہے، آپ ایسے کیوں ہیں؟ جواب دیا کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے دیا ہے۔ کہتا ہے:

منازل ال حماد بن زید علی اهليک و النعم السلام

ترجمہ: اے آل حماد بن زید کے گھروں! تمہارے گھروں والوں اور خوش حالوں کو سلام ہو۔

اس وجہ سے میرا دل بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور لوث آئے۔ اس دن سے ساتویں دن ہی ماہ شعبان کی ستر ہویں تاریخ جمعرات کے دن انہیں دفن کر دیا گیا۔

ان کے بیٹے ابو نصر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وتنی ان کے بعد قاضی بنائے گئے۔

الصولی نے کہا ہے کہ قاضی ابو الحسین اپنی نوجوانی کی عمر کے باوجود علم کے بہت بڑے مرتبہ تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد خلیفہ الراضی خود ان پر روتے رہتے اور ہمیں بھی رونے پر مجبور کر دیتے۔ ان کے بارے میں وہ کہا کرتے کہ میں ذرا بھی کسی معاملہ میں تنگ دل ہوتا تو وہ ہمارا دل بہت بڑھاتے۔ پھر وہ کہتے، اللہ کی قسم! ان کے بعد اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی اسی سال مارچ الاول کی درمیانی تاریخوں میں وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ۔ یہ خلیفہ الراضی خود بھی نوجوان ہی تھے۔

ابن شہزادہ المقری:

محمد بن احمد بن ابی بکر الصامت ابو الحسن المقری جو ابن شہزادہ مشہور ہیں۔ ابو مسلم الچی اور بشر بن موسیٰ کے خلدوں اور وہی روایت ہے۔ انہوں نے پنج تا مقبول قراءتوں کو پسند کیا ہے۔ مگر ابو الحسن الباہری نے ان کے ۱۰ میں ایک کتاب تصنیف کر دی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ ذکر کر دیا ہے کہ وزیر ابن مقلہؑ گھر میں خاص ایک مجسٹری منعقد کی گئی۔ اور اس میں ان کو بھی حاضر کیا گیا۔ تو گفتگو کے بعد ان میں سے اکثر سے رجوع کر لیا۔ یہ سب قراءات شاذہ تھیں، جنہیں ان کے ہم عصر وہ نے منکرا اور نامقبول کر دیا تھا۔ اس سال ماہ صفر میں وفات پائی۔

ایک موقع میں ابن وزیر مقلہ نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے ان کو بدعا کر دی تھی۔ اس کے بعد سے وہ خوش نہ رہ کا۔ بلکہ طرح طرح کی سزاویں میں بتلا کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا اور اس کی زبان بھی کاٹی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اسی سال اس کی بھی موت آ گئی جس سال ابن شہزادہ کی موت آئی۔

اور اب ابن مقلہ وزیر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں:

محمد بن علی بن الحسین:

بن عبداللہ ابو علی جو ابن مقلہ وزیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اپنی ابتدائی زندگی میں کمزور اور کم آمدن کا آدمی تھا۔ لیکن اس کے حالات نے پلتا کھایا، یہاں تک کہ وہ ملک کا وزیر بنا۔ تین بار تین خلفاء المستنصر، القاهر اور الراضی میں ہر ایک کی خلافت کے زمانہ میں اور تین مرتبہ معزول بھی کیا گیا۔ یہاں تک کہ اپنی آخری زندگی میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر زبان کاٹی گئی۔ بعد میں تید خانہ میں تھا ڈال دیا گیا۔ پانی پینے کے لیے سنس ہاتھ سے بالٹی کھینچتا اور دانتوں سے پکڑتا۔ اسی طرح گھرے کنویں سے پانی نکال کر پیتا۔ داہنا ہاتھ کثا ہوا ہونے کے باوجود اس ہاتھ میں قلم باندھ کر دیا ہی عمدہ لکھتا جس طرح ہاتھ کی موجودگی میں لکھا کرتا تھا۔ اس کی تحریز کی عمدگی اور چیخگی بہت مشہور تھی۔ اس کے دور وزارت میں ایک گھر بنوایا تھا۔ اس کی بیماری درکھنے کے وقت اس وقت کے تمام نجومیوں کو اکٹھا کر کے ان سے متفقہ طور پر مناسب وقت معلوم کر کے اس کی بیماری کی تھی۔

چنانچہ مغرب اور عشاء کے درمیان ان نجومیوں کے مشوروں کے مطابق بنیاد رکھی گئی، لیکن اس کے مکمل ہونے کے بعد اسے کچھ ہی دن اس میں آرام سے رہنے کا موقع ملا۔ پھر تو وہ دیران کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ ٹیلہ بن کر رہ گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کی دیواروں پر جوانہوں نے لکھا تھا وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا باغ بھی تھا۔ اس کے جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم میں تھے۔ پورے باغ پر ایک ریشمی جال پڑا ہوا تھا۔ اس باغ میں قد کے پرندے تھے۔ مثلاً قمری، ہزاری، طوطے، بلبل، سور وغیرہ اور بھی بہت قسم کے جانور تھے۔ اسی طرح اس کا اور چڑنے والے جانور بھی تھے، مثلاً ہرن، جنگلی گائیں، شتر مرغ کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور تھے۔ اور لہلہا بہت کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان میں بلا کست، بر بادی زوال و فنا آ گیا۔ اور حقیقت۔

نافلور بابلوں، متکبروں اور زیادیتی فراخ غور کی طرف مائل رہنے والوں کے بارے میں۔  
جس وقت یہ وزیر اپنا گھر بنوار باتھا اور حمد و بارش لکوار باتھا، اس وقت کسی شاعر نے کہا تھا۔

فُل لابسِ مَفْهَمَةٍ لَا تَكُونُ عَاجِزًا  
وَنَسْبِرُ فَلَيْكَ فِي الْمُشْغَلَاتِ أَحْلَامَ  
**ترجمہ:** اے مناطق تم این مقالہ کے جائز یہ کہ، کہ جلد بازی نہ کرو۔ اور سبھ سے کام اٹو کیونکہ تم خواب غلطت میں یہ رہے ہوئے ہو۔

تَبَسَّى يَا حَجَرُ دُورِ النَّاسِ مَجْتَهِدًا  
دَارًا سَتَهْدِمُ قَنْصًا بَعْدَ أَيَّامٍ  
**ترجمہ:** تم لوگوں کے گھروں کو پھروں سے بہت کوشش سے بنا رہے ہو۔ ایسا گھر جو عنقریب چند ہی دنوں میں شکار کی طرح ختم ہو جائے گا۔

مَا ذَلَّتْ تَحْتَارِ سَعْدَ الْمُشْتَرِي لَهَا  
فَكَمْ نَحْوَسْ بِهِ مِنْ نَحْسٍ بِهِرَامٍ  
**ترجمہ:** تم نے اس مکان کی بنیاد ڈالنے کے لیے سعد وقت کی بہت تلاش کی، لیکن بہرام بادشاہ جیسے لوگوں کے لیے بہت سے اوقات منحوس آچکے ہیں۔

أَنَّ الْقُرْآنَ وَبِطْلِيمُوسَ مَا اجْتَمَعَ  
فِي حَالٍ نَقْصٍ وَلَا فِي حَالٍ اِبْرَامٍ  
**ترجمہ:** یقیناً فلسفہ قرآنی اور بطیموس ایک ساتھ مرکز میں جمع نہیں ہو سکے۔ نہ بر بادی کے وقت میں اور نہ ہی بنانے کے وقت میں۔ تعمیر مکان کے بعد ہی وہ بغداد کی وزارت سے معزز دیا کر دیا گیا اور اس کا گھر دریان کر دیا گیا، باغ کے درخت اکھیز دیے گئے۔ خود اس کا ہاتھ کا ٹانگیا۔ پھر اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی۔ ساتھ ہی دس لاکھ دینار کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ پھر اسے تھا قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح پر کہ اس کے بڑھاپے کمزوروں اور شادی بجوروں اور بدن کے کچھ حصے نہ ہونے کے باوجود اس کے لیے کوئی خادم نہیں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے گھرے کنویں سے پانی نکالتا، اس طرح سے کہ باسیں ہاتھ سے رسی اور ڈول کنویں میں ڈالتا، اور دنیوں سے اسے پکڑ کر اوپر کھینچتا، ہر قسم کی دنیاوی لطف، اور ہر طرح کے مزے لوٹنے کے بعد بدترین قسم کی سزا میں جھیلیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھ کے کاملے جانے پر یہ اشعار کہے ہیں۔

مَا سَمِعْتُ الْحَيَاةَ لَكِنْ تَوْقِتَ الْحَيَاةِ  
بَا يَمَانَهُمْ ، فَبَيَانَتْ يَعْنِي  
**ترجمہ:** میں اپنی زندگی سے تھکا نہیں ہوں، بلکہ حصولی زندگی کے لیے مجبور رہا۔ ان کی قسموں پر اعتناد کرتے ہوئے، لیکن تیرا ہاتھ جدا کر دیا گیا۔

بَعْتِ دِينِي لِحُمْ بِدِينِي حَتَّى  
حَرْمَوْنِي دِينِاهُمْ بَعْدَ دِينِي  
**ترجمہ:** میں نے اپنے دین کو ان کے لیے بیج دیا اپنی دنیا کے بد لے یہاں تک کہ انہوں نے پہلے میرے دین کر بر باد کیا، پھر میری دنیا بھی بر باد کر دی۔

حَفْظُ اَرْوَاحِهِمْ ، فَمَا حَفْظُونِي  
وَلَقَدْ حَفَظَتْ مَا اسْتَطَعْتُ بِجَهَدِي

ترجمہ: میں نے اپنی کوشش صرف کرنے کے جہاں تک ممکن ہو۔ کیا ان کی رہنمائی حفاظت کی، لیکن انہوں نے کسی طرح میری حفاظت نہیں کی۔

یہ میں بعد ایام میں سادہ عیت = حیاتی باتیں یہیں فہیں  
ترجمہ: میرے اپنے ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد نہیں کافی تھا میری اہمیت جبکہ میرا تجوید اور یہاں ہے تو کہن مجھ سے جدا ہو با۔

وہ اپنے ہاتھ کے کٹے جانے پر اکثر روتا رہتا، اور کہتا تھا کہ میں نے اس سے دوبار پورا قرآن پاک لکھا ہے۔ اور میں نے تین خلافاء کی خدمت کی ہے۔ یہ ہاتھ اسی طرح کا ٹاگیا، جیسا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ پھر یہ شعر پڑھا۔  
اذا ما مات بعضك فابك بعضاً فان البعض من بعض قريب

ترجمہ: جب تمہارا کوئی حصہ مر پدا تو تم اپنے بعض پر رو دو۔ کیونکہ بعض دوسراے بعض کے قریب ہوتا ہے۔

ان کی وفات اسی قید خانہ میں ہوئی (اللہ ان کی غلطیوں کو درگز رکرے) اور بادشاہ کے گھر ہی میں دفن کیے گئے۔ پھر ان کے لڑکے ابو الحسین نے خلیفہ سے درخواست کی کہ لاش ہمارے گھر کے قریب لے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ درخواست مقبول ہو گئی۔ اس لیے قبر کھود کر لائی لے گئے، اور اپنے گھر میں دفن کر دی۔ بعد میں ان کی بیوی دیناریہ نے مطالبہ کیا کہ اس کے گھر میں لے جانے کی اجازت دی جائے۔ تو ان کا بھی مطالبہ مان لیا گیا۔ اور ان کی لاش وہاں سے بھی اکھیڑ کر بیوی کے گھر میں لے جا کر دفن کی گئی۔ اس طرح تین بار ان کی مد فین ہوئی۔ چچن برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔

#### ابو بکر ابن الانباری:

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن سعید بن فروہ بن قطن بن دعامة ابو بکر الانباری۔ جو کتاب الوقف والابداء کے مصنف ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی دوسری مفید اور بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ لغت عربیت، تفسیر، حدیث وغیرہ تمام علوم کے سمندر تھے۔ انہوں نے الکد کی اسماعیل قاضی اور شاعر وغیرہم سے روایت سنی ہیں۔ وہ ندار فاضل اور اہل سنت میں سے تھے۔ علم خواہ اور ادب میں اپنے زمانہ کے تمام لوگوں میں زیادہ عالم تھے۔ ان کو علوم و فنون کی کتابیں اس قدر ربانی یاد تھیں، جن کی بے شمار جلدیں تھیں۔ اور کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں۔ اپنے ذہن اور قوت حافظت کی بقاء کے خیال سے نقل کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں کھاتے، اور صرف عصر کے قریب پانی پیتے۔

کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک سو میں تفسیریں حفظ تھیں، اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق کتابیں صرف ایک رات میں یاد کر لی تھیں۔ ہر جمعہ میں دس ہزار اور اق حفظ کر لیا کرتے تھے۔  
اسی سال عید قربان کی رات کوان کی وفات ہوئی۔

اُمّ عَصْمَى بْنَتْ اِبْرَاهِيمَ الْخَجَارِيَّةِ :

یہ بُن کے عالم فنا شد تھیں۔ سماں فتنے کے نتے۔ یعنی تھیں۔ ماہ۔ بہب میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اپنے والد کے بغیر میں  
دفنون ہوئیں۔ جبکہ اتنا

## واقعات — ۳۲۹

### القاہر کی خلافت:

اس سال ماوریچنگ الاویل کی درمیانی تاریخوں میں خلیفہ الراضی باللہ امیر المؤمنین ابوالعباس احمد بن المقتدر باللہ جعفر بن احمد المعتضد باللہ احمد بن الموفق بن جعفر التوکل بن محمد المعتصم بن ہارون الرشید العباسی کا انتقال ہوا۔ پھر چچا کے بعد عصیجہ القاہر کو ماہ جمادی الاولی کی چھٹی تاریخ سن تین سو بائیس بھری میں خلافت سونپی گئی۔ ان کی ماہ ام ولدر و میری تھیں۔ اور نام نظلوم تھا۔ ان کی ولادت ماہ ربیع سن دویں سنا نوے بھری میں ہوئی، ان کی مدت خلافت کل چھ برس دس ماہ دن ہوئی۔  
وفات کے بعد اکتمیں برس دس مہینوں کے ہوئے تھے، گندی رنگ اور بلکا تھا۔ بال سیاہ اور لابنے تھے۔ ان کا تقدیم چھوٹا بدن ذلاحتھا، ان کے چہرہ میں لانبائی تھی۔ واڑھی کے سامنے کا حبہ پورا تھا۔ ان کی واڑھی کے بال باریک تھے۔ جس نے انہیں دیکھا ہے ایسا ہی بتایا ہے۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ راضی کے فضائل بہت تھے۔ متعدد امور میں اپنے اگلے خلائق کی آخری علامت تھے۔ ان ہی میں یہ بھی ہے کہ ان کے کہے ہوئے کئی اشعار تھے اور آخری علامت یہ ہے کہ لشکر اور مال کے انتظام کی تدبیر میں بالکل منفرد تھے اور یہی آخری خلیفہ تھے جو جمود کے دن منبر پر آ کر خطبہ دیتے تھے۔ اور ایسے آخری تھے جن کے پاس اپھے ہمیشیں اور مجلسی لوگ آیا کرتے تھے۔ اور ایسے آخری خلیفہ بھی تھے جن کے اخراجات، اعمامات، بخششیں، وظائف، انتظامات، باور پی خانے کے لنگر، مجنبیں، خدام، احباب اور دوسراے امور سب کے سب پچھلے خلفاء کے نقش قدم پر تھے۔

اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی فتح و بلیغ، شریف، سُجی، دوسروں کی تعریفیں کرنے والے تھے۔ ان کے عمدہ کلاموں میں سے وہ کلام ہے محدث بن تیجی الصولی نے خود ان کی زبانی سنایا ہے۔ اللہ کے ہاں پچھلوگ ایسے ہیں جو سرچشمہ خیر ہیں اور پچھر سرچشمہ شر ہیں۔ اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو ایں خیر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور ہمیں ان کا وسیلہ بنادیتا ہے چنانچہ ہم ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے شریک ہوتا ہے ثواب، اجر اور شکر میں۔ اور اللہ جس کے ساتھ برے سلوک کرنا چاہتا ہے اسے ہماری طرف سے روگردان کر کے غیروں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور وہ گناہ اور بوجھ سب میں شریک ہوتا ہے۔ بہر صورت اللہ ہی کی مدد کے ہم خواہاں ہیں۔ ان کی عذرخواہیوں کا بہترین نمونہ یہ ہے جو راضی نے اپنے بھائی مقتی کو اس وقت لکھا تھا جبکہ دونوں ہی مکتب میں تھے۔

لذت پر یوں کہا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"میں آپ کی غافلی کا مرضی طور پر مخفف ہوں۔ اور آپ ہرے بھائی ہونے کی حقیقت سے فضیلت کے مخفف ہیں۔ غلام ہی سے گناہ ہوتا ہے اور آقا ہی معاف کرتا ہے اور شاہزادے کہا جائے۔

يَا دَا الَّذِي يَعْظُبُ مِنْ عِيْرِ شَيْءٍ      اعْتَبَ فَعْبَانَ حَبِيبَ النَّىِ

ترجمہ: اے وہ شخص جو بلا وجہ غصہ کیا کرتا ہے، دل بھر کر عتاب کر لاؤ کیونکہ تمہارا عتاب بھی مجھے محبوب ہے۔

اَنْتَ عَلَى اَنْكَ لَى ظَالِمٍ      اَعْزَ حَلَقَ اللَّٰهُ طَرَاعَلَى

ترجمہ: اس بات کے باوجود کہ تم میرے لیے بڑے ہی ظالم ہو، اللہ کی ساری خلوقات کے مقابلہ میں میرے لیے پیارے ہو۔

یہ خط پاتے ہی ان کا بھائی اُمِّتی ان کے پاس آیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دونوں نے آپس میں معافہ کیا اور صلح کر لی۔ ان کے عمدہ اشعار میں سے وہ شعر ہے کامل میں ابراہیم الشیرنے ذکر کیا ہے:

بَصَرُ وَجْهِي اَذَا تَامَلَهُ      طَرْفٍ وَيَحْمِرُ وَجْهَهُ فَجَلَأً

ترجمہ: میرا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اس وقت جبکہ اسے غور سے دیکھتی ہے، میری نظر اور اس کا چہرہ شرمندگی کے باعث سرخ ہو جاتا ہے۔

فَاحْتَسِيْ كَانَ الَّذِي بُوْجِنَتْهُ      مِنْ دِمْ حَسْمِيَ الْيَدِ قَدْ نَقَلا

ترجمہ: اتنا زیادہ گویا کہ اس کے رخسار میں میرے بدн کے خون سے مجھے منتقل کر دیا گیا ہے۔

او ران اشعار میں سے جن میں انہوں نے اپنے والد مقتدر کا مرثیہ کہا ہے:

وَلَوْ انْ حِيَا كَانَ قَبْرَ الْمَيِّتِ      لَصِيرَتْ احْشَائِي لَا عَظَمَهُ قَبْرًا

ترجمہ: بالفرض اگر کوئی زندہ کسی مردہ کی قبر بن سکتا تو میں اپنی آن توں کو ان کی ہڈیوں کی قبر بنادیتا۔

وَلَوْ انْ عَمْرِي كَانَ طَوْعَ مَشِيَّتِي      وَسَاعَدَ فِي الْمَقْدُورِ قَاسِمَةَ الْعُمَرِ

ترجمہ: بالفرض اگر میری عمر میرے ارادہ کی فرماس بردار ہوتی اور میری تقدیر میری موافقت کرتی تو میں اپنی عمر ان کو تقسیم کر کے دیتا۔

بِنَفْسِيْ ثَرِيْ ضَاجِعَتْ فِي تَرْبَةِ الْبَلْيِ      لَقَدْ ضَمَ مِذْكُوْرَ الْغَيْثِ وَالْبَلَيْ وَالْبَدَرَا

ترجمہ: میری جان قربان ہواں نزم آرام گاہ پر جہاں پرانی ہڈیوں کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ایک کے ساتھ بارش شیر اور چاند تین چیزیں ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ كَمْ كَيْفَ هُوَ شَعَاعُ النُّورِ مُنَزَّلٌ مِّنْ عُنُودِ السَّمَاوٰتِ

لَا تَكُونُ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الْاَسْرَافِ      بِحَمْدِ الْمُحَمَّدِ مَنْجَلِ الْاَشْرَافِ

تَرْجِيمَة: یہے ترقیٰ فی زیادتی پر یہری ملامت پر زیادتی نہ زردا تمثیل یہوں کا غُصٰ شِر افت و بڑھائے والا ہے۔

أَحَوَّلُ لِمَا سَأَلَنِي لِسْكَارَمْ سَانَدَ      وَمُنْبَدِي مَا قَدْ أَسْبَبَ إِلَيْنِي

تَرْجِيمَة: میں ان تمام عمدہ اخلاق کو اکٹھا کرتا ہوں جو اگلے لوگوں نے جمع کیے ہیں، اور میں ان اخلاق کو بلند و مضبوط کرتا ہوں، جن کی بنیاد میرے اسلاف نے رکھی ہے۔

أَنِي مِنْ أَنْقُومُ الَّذِينَ أَكْفَهُمْ      مَعْتَادَةُ الْإِمَالَقِ وَالْإِلَافِ

تَرْجِيمَة: یقیناً میں جس کسی قوم کا مقابلہ کرتا ہوں اس کے لیے محتاجی اور بر بادی کا عادی ہوں۔

أَوْ رَانَ كَوْهُ اَشْعَارِ جَنْ كَوْظِيْبُ      نَبَّأَ بِهِمْ بْنُ يَحْيَى الصَّوْلِي النَّدِيمِ كَوْهُ اَشْعَارِ جَنْ كَوْظِيْبُ

تَرْجِيمَة: کل صفو الی کدو      کل امر الی حذر

تَرْجِيمَة: ہر صاف شفاف چیز کو گدلا ہونا ہے ہر امن والے کو ڈر کے مقام پر جانا ہے۔

وَ مَصِيرُ الشَّابِ لِدَوْتِ      فِيهِ اَوِ الْبَكَرِ

تَرْجِيمَة: اور ہر جوانی کو موت کی طرف جانا ہے یا بڑھاپے کی طرف منتقل ہونا ہے۔

دَرَّ دَرَّ الْمَشِيبِ مِنْ      وَاعِظِ يَنْذِرُ الْبَشَرَ

تَرْجِيمَة: بڑھاپے کی یہ بہترین خوبی ہے کہ وہ ایسا واعظ ہے جو انسان کو نوراتا ہے۔

اِيَهَا الْاَمْلُ الَّذِي      تَسْفِي لَحْةَ الْغَرَرِ

تَرْجِيمَة: اے امیدوں والے ایسے جو دھوکوں کی موجودوں میں پریشان ہیں۔

اِيَنِ مِنْ كَانَ قَلَنا      درسُ الْعِيْنِ وَالاثَّرِ

تَرْجِيمَة: وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ہم سے پہلے تھے، ان کی ذات اور نشان قدم سب ان کے مٹ گئے۔

سِيرَدُ الْمَعَارِمِ مِنْ      عُمْرَهُ كَلَهُ خَطَرِ

تَرْجِيمَة: عنقریب قیامت لوٹا کر لے آئے گی، اس کی عمر کے ان تمام زمانوں کو جو گزر چکے ہیں۔

رَبِّ اَنِي اَذْحَرْتُ عِنْدَ      كَارْجُوكِ مَدْخَرِ

تَرْجِيمَة: اے میرے رب امیں نے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے، تیرے پاس میں تجھے ذخیرہ رکھنے والا یقین کرتا ہوں۔

رَبِّ اَنِي مُؤْمِنٌ بِمَا      يَبْيَنُ الْوَحْيَ فِي السُّورَ

تَرْجِيمَة: اے میرے رب! میں ان تمام باتوں پر ایمان لا یا ہوں، جن کو وحی قرآنی نے سورتوں میں بیان کیا ہے۔

وَ اعْتَرَافِي بِتَرْكِ نَفْعِي      وَ اِيَشَارَيِ الْضَّرِّ

ترجمہ: اے مے رب! مجھے اعتماد اف بے اپنے فرع کی چینہ دل کے جھوٹے اور اپنے انتقام دو جوں وں کو ترجیح بنتے گا۔

### بِسْ فَاعْفُ عَنِ الْخَطْيَةِ سَاهِمٌ مِّنْ عَفْ

ترجمہ: اس لیے اے نیرے رب! امیرے لئنا ہوں ی مخفیت رہے۔ اے تمام معاف رہے واؤں میں بھر۔

ان کی وفات اس سال ماہ ربیع الاول کی سولہویں تاریخِ ایتت۔ کل یہاڑی کی وجہ سے ہوئی۔ اس موقع پر اس نے بحکم کو خبر بھیجی کہ ان کے چھوٹے لڑکے ابو الفضل کو ولی عہد بنادے مگر اس کا موقع باقاعدہ آیا۔ اور لوگوں نے ان کے بھائی امتنی اللہ ابراہیم بن المقدار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہی اللہ کا آخری فیصلہ ہو چکا تھا۔

جب ان کے بھائی الراضی کا انتقال ہو گیا۔ تمام قاضی اور حکام و وزراء بحکم کے گھر میں جمع ہوئے اور مشورے کرنے لگے کہ وہ کس کو اپنا خلیفہ مقرر کریں تو سب مقیٰ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد دارالخلافہ میں بوا یا گیا۔ اور اس سے بیعت کا ارادہ کیا تو زمین پر کھڑے ہو کر دور کعت استخارہ کی نماز پڑھی۔ بعد نماز کرسی پر بیٹھئے پھر تحت خلافت پر بیٹھے اور ماہ ربیع الاول کی میسویں تاریخ بدھ کے دن لوگوں سے بیعت لی۔ اور پھر تمام حالات، معاملات کو اپنی جگہ پر باقی رکھا، کچھ ان میں تغیرِ تبدل نہیں کیا۔ اور نہ کسی کے ساتھ و مدد خلافی کی یہاں تک کہ خاص اپنی جماعت کے ساتھ بھی کسی چیز کی کمی یا رعایت کا معاملہ نہ کیا۔ وہ اپنے نام کے مطابق مقیٰ تھے بہت زیادہ روزے نماز کرنے والے تھے اور عبادات گزار تھے۔ اور یہ اعلان کر دیا کہ مجھے کسی ہم نشین یا قصہ گو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھی ہونے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا ساتھی نہیں چاہئے۔

یہ اعلان سن کر تمام صاحبین، قصے سنانے والے، شعراء اور وزراء ان سے کنارہ کش ہو گئے اور امیر الشکر بحکم سے مل گئے۔ وہی ان سے ہم نشینی، خوش گپی اور شعرو شاعری کرنے لگا۔ یہ بحکم جمی ہوئے کی وجہ سے ان لوگوں میں اکثر بالوں کو سمجھتا بھی نہ تھا۔ ان ہم نشینوں میں ایک شخص سنان بن ثابت الصابی تھا، جو اپنی ڈاکٹری کا مدی تھا۔ یہ بحکم اس کے پاس اپنے اندر یہ جانی کیفیت پانے کی یہاڑی کی شکایت کرتا تھا۔ اور یہ سنان اس کے اخلاق کو درست کرنے اور اس کے یہجانی کیفیت میں سکون لانے اور مزاج کو بد لئے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ اس میں دوسروں کے خون بھانے کی مرض میں کافی حد تک کی آگئی۔

یہ مقیٰ بالله حسین صورت، درمیانی قد، چھوٹی ناک، سفید رنگ، سرفی مائل بالوں کا رنگ سرفی زردی مائل تھا۔ گلوگری والے بال گھنے تھے، گھنی داڑھی۔ آنکھیں سیاہ سرفی مائل اور بے نفس تھے۔ زندگی میں نہ کہی شراب پی اور نہ نبیند۔ یہ مقیٰ نام اور عمل دونوں اعتبار سے تھے۔ وللہ الحمد

مقیٰ نے جب خلافت میں اپنا قدم جمالیا۔ اس وقت لوگوں کے پاس اپنے آدمی سمجھے اور بحکم جو کہ اس وقت واسطہ میں تھا، اس کے پاس خلعت بھیجا اور اپنے ماتحت علاقوں میں ضروری خطوط روانہ کیے۔

اسی سال ابو عبد اللہ البریدی اور بحکم جواہواز کے علاقوں میں تھا کہ درمیان لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں بحکم قتل کر دیا گیا، اور بریدی اس پر غالب آ گیا، اس طرح اس کی قوت بہت بڑھ گئی۔ تب خلیفہ نے بحکم کی تمام جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔

بہ کچھ سایا ان لیا۔ اس کے میں اکھو، یعنی اکھ، نقد ایک اکھ، یعنی اس بھکر کی کمک مردی کی کلی میں بھکر آئی تھی۔ اسی صیغہ نامہ میں ہوئے بھکر یعنی کی بنداد میں، داخل ہونے کا ذیل یہ ہوا۔ اس موقع پر مقنی نے اپنے اشکر، الام، اور بہت زیادہ مال، اس کے بریدی اور یہاں داخل ہونے سے روانے کے لیے تھا اور خود حصی سورہ بور راستہ پر کل لئے تا کران لوگوں و بغداد میں داخل ہونے سے روک دے۔ لیکن بریدی نے بات نہیں مانی اور دوسرا رضمان میں بنداد میں داخل، وکرشقیع میں بنا کر پڑا اور اس اب جبکہ مقنی پر اس کا داخل ہونا مخفیق ہو گیا، تو اسے مبارکبادی اور رکھانے پینے کا کافی سامان اس کے پاس بھیج دیا اور اسے وزیر کا خطاب دیا۔ لیکن امیر اشکر کا خطاب نہیں دیا۔

بریدی نے مقنی کے پاس اپنا آدمی بھیج کر پانچ لاکھ دینار کا مطالہ کیا۔ لیکن خلیفہ نے مطالہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت بریدی نے خلیفہ کو دھمکی کا خط دے کر بھر مطالہ کیا اور یہ کہا کہ نہ ہے کی صورت میں خلیفہ معزِ مستعین بالله اور مہتدی اور قاہر کا ساتھیا راحشر ہو گا۔ اس طرح دونوں میں سفیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔

با آخر مجبور ہو کر خلیفہ نے اس کا مطالہ پورا کر دیا۔ لیکن خلیفہ اور بریدی کا بغداد میں ایک ساتھ رہنا ممکن ہو گیا۔ اس لیے بریدی وہاں سے نکل کر واسطہ چلا گیا جس کا سبب یہ ہوا کہ دیلمہ اس سے ناراض ہو کر ان کے بڑے کو تکلین سے مل گئے۔ اور بریدی کے گھر میں آگ لگادینے کا سوچنے لگا۔ بریدی سے ایک جماعت مستقلًا علیحدہ ہو گئی، جن کو بھکریہ کہا جاتا تھا، کیونکہ بریدی نے خلیفہ سے جتنی رقم وصول کی تھی، اس میں سے ان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا۔ اور بھکریہ کی دوسری جماعت بے بھی آپس میں اختلاف ہو گیا، وہ جماعت دیلمہ کی تھی، جو دو قبیلوں میں بٹتی تھی، اور وہ جماعت دیلمہ سے مل گئی۔ مجبور بریدی ماہ رمضان کے آخر میں بغداد سے شکست کھا کر بھاگا اور بغداد کے حالات پر کو تکلین حاوی ہو گیا اور خلیفہ مقنی سے مل گیا۔ اب مقنی نے اسے پہ سالار کا خطاب دیا اور خلعت سے نوازا۔ مقنی نے علی بن عیشتی اور اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو اپنے پاس بلوالیا اور ذمہ داریاں اپنے بھائی عبدالرحمٰن کے پرداز کر دیں، لیکن وزیر کا خطاب نہیں دیا۔ پھر کو تکلین نے ترکوں کے سردار بھکر کو غلام بلکہ کو پکڑ لیا اور اسے پانی میں ڈبو دیا۔ ہر عوام کو دیلمیوں سے ظلم کی شکایت ہوئی۔ کیونکہ وہ لوگ ان کے گروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کو تکلین تک اس کی شکایت پہنچائی بھی، مگر اس کے ازالہ کا انتظام نہیں کیا گیا۔ اس لیے عوام نے خلیفہ کو جامع مسجد میں آ کر نماز پڑھانے سے روک دیا، اور عوام اور دیلمیوں میں لڑائی چھڑگئی اسی طرح دونوں فریق کے بے شمار انسان مارے گئے۔ خلیفہ نے ابو بکر محمد بن رائق کو جو کہ شام کا حاکم تھا، خط لکھا اور اس سے مدد چاہی کہ خلیفہ کو دیلمیوں اور بریدی یوں سے نجات دلاتے۔ اس لیے وہ بیسویں رمضان کو ایک بڑا اشکر لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا اور بھکریہ ترکوں میں سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے مقابلہ میں گئی۔

جب وہ موصل میں پہنچا تو ناصر الدولہ بن حمدان راستہ میں مد مقابل بن گیا۔ لیکن دونوں فریقوں میں خط و کتابت ہو کر آپس میں مصالحت ہو گئی اور ابن حمدان نے ایک لاکھ دینار برداشت کر لیا۔ اب جبکہ ابن رائق بغداد کے قریب پہنچا، کو تکلین اپنا اشکر لے کر اس سے مقابلہ کرنے کو نکلا۔ لیکن ابن رائق بغداد میں مغربی جانب سے داخل ہو گیا اور کو تکلین بغداد کی طرف

لوٹا، اور اس کے مشرقی جانب سے داخل ہو گیا، پھر بغداد کے اندر دنوں اجماعتوں میں رہائی کی صفائی ہو گئی۔ اور عوام نے کوئی تین کے غافل این رائق کی مدد کی، اس طرح دیلم شہست کھا گیا۔ اس کے بے صاب آدمی مارا اتے گئے اور کوئی تین بھائی کا تھیس چھپ گیا۔ اس طرح این رائق تاب آگیا اور خلیفہ نے اسے ملکت سے فرازدی یہ نہیں، بلکہ اسے لے لیا گئے۔ اتفاق سے وہاں کوئی تین پر این رائق کی نظر پڑ گئی، اور اسے کیڑوں اور دارالخلافی کی قید خاند میں اسے الی دیا۔

اہن اجوزی نے کہا ہے کہ بارہویں جمادی الاولی جمع کئے دن برائی کی جامع مسجد میں جمع کی نماز کے لیے آئئے ہوئے۔ حالانکہ مقدتر نے اپنے دور میں اسے آگ لگادی تھی۔ کیونکہ اس نے جب اس پر حملہ کیا تھا تو اسے معلوم ہوا تھا کہ اس میں شیعہ حضرات صحابہ کرام کو شب و تم کے لیے اکٹھا ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت سے وہ بے آباد اور ویران پڑی تھی۔ یہاں تک کہ نجکم نے راضی کے زمانہ میں اسے پھر سے آباد کیا تھا۔ اب متقی نے اس میں اس منبر کو لا کر رکھنے کا حکم دیا، جس پر الرشید کا نام لکھا ہوا تھا اور اسی نے اس میں لوگوں کو جمع کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد وہ سن چار سو پچاس بھری تک آباد رہی اور جماعتیں ہوتی رہیں۔

اور یہ بھی کہا ہے کہ جمادی الاولی کی ساتویں تاریخ کی رات کو اولے کڑک اور بھلی چکنے کی رات تھی؛ جس کی وجہ سے قصر منصور کا سبز گنبد گر گیا۔ یہ گند بغا و دکا تاج اور بون عباس کی بڑی نشانیوں میں سے تھا۔ ان کے سب سے پہلے بادشاہ نے اسے بنوایا تھا۔ اس کے بنانے اور گرنے کے درمیان ایک مہستاکی برس کا فاصلہ تھا۔ پھر ان لوگوں سے نشرين<sup>۱</sup> کے دونوں مہینوں اسی طرح کا نمونہ کے بھی دونوں مہینوں میں بارش بالکل بند رہی۔ سوائے ایک مرتبہ ایسی بلکی بارش کے جس سے بدن کے کپڑے بھی ترند ہوئے تھے۔ پھر دوسرے دن بالکل نہ ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں غلوں کی سخت گرانی ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک کریگہوں ایک سوتیس دیناروں کے عوض فروخت ہوتا، اور لوگوں میں بدکت بھیل گئی۔ یہاں تک کہ ایک گڑھے میں پوری جماعت دفن کی جانے لگی، اور وہ بغیر غسل اور بغیر نماز کے اور جائیداد اور یقینی سامان بالکل معمولی قیمت سے فروخت ہونے لگے۔ یہاں تک کہ دوسرے دونوں میں جو سامان ایک دینار میں فروخت ہوتا، وہ ان دونوں صرف ایک درہم میں فروخت ہونے لگا۔

آن ہی دونوں ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا، فرمایا ہے یہ کہ سوان میں نکل کر صلوٰۃ الاستقامتہ پڑھو۔ خلیفہ نے خواب کی خبر سن کر عوام کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اور نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بارش ہو گئی اور اتنی ہوئی کہ فرات میں اتنا زیادہ پانی ہو گیا، جس کی نظیر نہیں ملتی، اور اس سے عبا سیہ دوب گیا اور بغداد کی سڑکوں پر پانی آگیا اور نئے پرانے سارے پل ٹوٹ گئے۔

۱۔ نشرين بربان روئی دو مہینوں کا نام ہے۔ پہلا نشرين تقریباً ماہ کا تک ب۔ اور دوسرا نشرين تقریباً ماہ اگسٹ کے مطابق ہوتا ہے۔

۲۔ کانون الاولی بندوں میں تقریباً ماہ پیس اور انگریزی میں ماہ دسمبر اور کانون آخر بندی میں ماہ ماگ ہا اور انگریزی میں ماہ جنوری ہوتا ہے۔  
(انوار الحق قاسمی ۱۹۸۴ء)

اے خدا تعالیٰ چہ آئے مالک فلک، کیون کر لیجئے، یوں نہ راست کاتے۔ اور اس سے اتنا مال دصول کیا جس کی قیمت تین ہزار روپیہ تھی۔ امر ترکی کے ماں سے اس سے بھی زیادہ دصول کیا۔ اور لوگ سرچ کے لیے گئے۔ پھر راستے سے ہی بلوٹ آئے۔ اس وجہ سے کہ عوامیں میں سے ایک شخص نے مدینہ نورہ تیس ہنکارے سرے اور لوگوں و دینی اتہائے بیان شروع کر دیا۔ اور غدار بن گیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن ابراہیم:

ابن ترمذ الفقیہ جوابن سر صحیح کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حمام سے نکل کر باہر آئے۔ اس وقت حمام اوپر سے گر گیا اور فوراً انتقال کر گئے۔

بیکم الترکی:

بغداد میں بنی بویہ سے پہلے امیر الامراء تھا۔ بہت عقلمند تھا۔ عربی سمجھ سکتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ وہ خود کہتا کہ مجھے گنتگو میں غلطی کا خوف ہوتا ہے۔ اور سردار سے زبان کی غلطی کا حادثہ ہونا بہت بری بات ہے۔ اس کے باوجود علم اور علماء بے محبت کرتا۔ بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ اس نے بغداد میں مارستان بنانا شروع کیا تھا۔ مگر مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس نے عضد الدولہ بن بویہ نے از سرنو اسے مکمل کر لیا۔ یہ بیکم کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کا معاملات میں عدل کرنا ہی دنیا و آخرت کا نفع ہے یہ میدانوں میں اپنا مال دفن کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرثے کے بعد پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ راضی کے سارے ہمنشین اس کے اردو گرد جمع ہو گئے تھے، جبکہ یہ واسطہ میں تھا اور اس نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ خلیفہ سے آٹھ لاکھ دینار دصول کر کے دے گا۔ وہ لوگ اس کے قریب اس طرح قصہ گوئی کرتے، جس طرح خلیفہ کے پاس کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی اکثر باتوں کو پورا سمجھتا بھی نہ تھا۔ چونکہ اس کے مزاج میں تندی اور گرمی ہو گئی تھی۔ اس نے سنان بن ثابت الصابی عکیم نے اس کا علاج کیا اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوا۔ یہاں تک کہ اس کا مزاج نرم ہو گیا، اس کی سیرت اچھی ہو گئی۔ اور مزاج کی گرمی میں بہت فرق آ گیا تھا۔ مگر اس کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا۔

ایک مرتبہ ایک شخص اس کے پاس آیا، اور اس کے سامنے کچھ تقریر کی۔ جس سے یہ بہت رویا اور اس کے دل پر کافی اثر ہوا۔ اس نے خوش ہو کر اس کو ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا۔ اس کا ملازم وہ لے کر اسے دینے کو گیا تو بیکم نے اپنے ہم نشیون سے کہا، میرے خیال میں یہ شخص یہ درہم نہیں لے گا۔ اور نہ اس کا خواہش مند ہو گا۔ آخر لے کر کیا کرے گا۔ یہ تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو گا۔ مگر فوراً ہی آدمی نے آ کر خبر دی کہ وہ رقم لے کر چلا گیا۔ اس پر بیکم کو خست تعجب ہوا۔ پھر کہا، ہم میں کاہر شخص شکاری ہے۔ البتہ چالی بد لے ہوئے ہیں۔

اسی سال میں جب کی تھیوں میں تاریخ کو اس کی وفات ہوئی۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکل رہا تھا زرست میں پچھے کرو یوں سے اس کی مددقات ہوتی۔ ان میں سے کسی کا اس نے مذاق اڑایا جس سے وہ تاراض ہو گئے اور اس پر مدد کر دی۔ آنکہ ایک شخص نے اس پر اپنا حمد کر دی جس سے نعمت و گیوں۔

اس کی سعدت لغدہ اور درس آٹھ مینے نو دن تک رہی۔ اپنے پیچھے اس نے لفڑیا میں دینا رکا مال چھوڑا۔ بے ساری قم انتہی بال اللہ نے لی۔

### محمد البر بہاری:

بڑے عالم، زاہد، حنبلی، فقیہ اور رواعظ تھے۔ مردوزی اور سہل تصریح کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے والد سے جو ستر بزار کی میراث ان کو مل سکتی تھی، کسی ناپسندیدگی کی بناء پر اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ بدعتیوں اور نافرمانوں کے خلاف دشمن تھے۔ بہت زیادہ عزت والے تھے۔ خاص و عام سب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ وعظ کرتے ہوئے انہیں ایک بار چھینک پر تمام حاضرین نے یرحک اللہ کہہ کر ان کی چھینک کا جواب دیا۔ پھر جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملتی گئی، سمجھی وہ جواب دیتے رہے۔ یہاں تک کہ سارے بغداد والوں نے یہ جواب دیا۔ اور یہ آواز خاص و اخلاقی میں بھی پہنچ گئی۔ اس نیک نامی کی وجہ سے خلیفہ کو بڑی غیرت ہوئی۔ اور کچھ حکومت والوں نے بھی اس کے کان بھر دیئے۔ تب خلیفہ نے ان کو بلوایا۔ ذر کی وجہ سے یہ بوران کے پاس ایک ماہ تک روپوش رہے۔ وہیں رہتے ہوئے ناگوں نہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ بالآخر اس مرض میں وہیں انتقال کر گئے۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو ان کے لیے انشطہ کرنے کا حکم دیا۔ وہیں جنازہ کی نماز ادا کی گئی۔ وہ اس وقت نماز میں شریک سفید کپڑے پہنے ہوئے مردوں سے بالکل بھر گیا، پھر اپنے پاس ہی ان کو دفن کرنے کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش ان کے بغل میں دفن کی جائے۔ اس وقت ان کی سرچھیا نوے برس کی تھی۔ رحمہ اللہ

### یوسف بن یعقوب:

بن اسحاق بن بہلول ابو بکر الارزق، کیونکہ ان کی دونوں آنکھیں نیلی تھیں۔ التوفی الکاتب ان کا لقب تھا۔ اپنے دادا زیر بن بکار اور حسین بن عرفہ وغیرہم سے احادیث سنیں۔ رہائش بہت ہی سادہ تھی۔ بہت زیادہ صدقات دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ دینار صدقے کئے۔ نیک کاموں کا بہت زیادہ حکم کرنے والے اور برے کاموں سے بہت روکنے والے تھے۔ دارقطنی اور دوسرے حافظین حدیث نے ان سے روایت کی ہے، ثقہ اور عادل تھے۔ اسی سال ماہ ذوالحجہ میں بانوے برس کی عمر پا کر وفات کی۔ رحمہ اللہ۔



## واقعات — ۳۴

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال مادھرم میں ایک دمدار ستارہ ظاہر ہوا تھا ایسا کہ اس کا سر غرب کی جانب اور اس کی دم مشرق کی جانب تھی۔ اور دم کی جانب کئی شاخیں بھی تھیں۔ تیرہ دن صاف نظر آتا رہا۔ اس کے بعد آہستہ و نظر وں سے اوچھل ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول میں گرانی اتنی بڑھی کہ ایک کر گیہوں کی قیمت دوسو دینار ہوتی اور غرباء مردے کھانے لگے۔ اور موت بہت زیادہ ہونے لگی۔ راستوں سے آمد و رفت بند ہو گئی اور تما محتاجی اور یہماری میں بنتا ہو گئے۔ لوگوں نے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیا اور کھیل کو دسب چھوڑ دیا۔ پھر بارش ہوئی تو ایسی زور دار گویا مشکلہ کے دہانے سے پانی کراپا جا رہا ہے۔ اور دجلہ کا پانی تجھیں ہاتھ اور نچا ہو گیا۔

ابن اثیر نے کامل میں ذکر کیا ہے کہ محمد بن رائق اور بریدی کے درمیان اس لیے اختلاف بڑھ گیا تھا کہ بریدی نے واسطے خراج دینا بند کر دیا تھا اس لیے ابن رائق اس کے پاس اپنا تمام بقیہ مال وصول کرنے کو گیا۔ مگر مصالحت ہو گئی، اور ابن رائق بغداد واپس آ گیا۔ تب لشکر والوں نے اس سے بھی بقا یا تخلو اہوں کا مطالبہ شروع کیا۔ اور حالات خراب ہونے لگے۔ یہاں تک کہ ترکیوں کی ایک جماعت اس سے برکشہ ہو کر بریدی سے مل گئی، جس سے ابن رائق کی حالت پتلی ہو گئی۔ اور محصور ہو کر بریدی سے بغداد کے لیے وزارت کے بارے میں خط و کتابت نہ نہ لگا۔ پھر وزارت کا نام اس نے ختم کر دیا اس وجہ سے بریدی ابن رائق پر سخت غصہ ہوا اور بغداد پر قبضہ کرنے کی سوچنے لگا۔ اسے اپنے بھائی ابو الحسین کو لشکر دے کر بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ تب ابن رائق خلیفہ سمیت دارالخلافہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ اور قلعہ کے اوپر سے تحقیق اور عزادات (توپ کی قسم کے تھیار) نصب کر دینے۔ عزادہ تحقیق سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح دجلہ پر نصب کر دینے۔ اب بغداد والوں کا حال بہت خراب ہو گیا اور دن رات ایک دوسرے کو لوٹنے لگا۔

بالآخر ابو عبد اللہ البریدی کا بھائی ابو الحسین اپنے فوجیوں کو لے کر پہنچ گیا۔ اور عوام سے آبادی اور دریا پر ہر جگہ لڑائی ہونے لگی اور حال بہت زیادہ خراب ہو گی۔ حالانکہ پہلے سے ہی یہ لوگ گرانی یہماری اور موت کی مصیبت میں بنتا ہوتے۔ انہوں نے انا الیہ راجعون۔ بالآخر خلیفہ اور ابن رائق دونوں جمادی الآخرۃ میں شکست کھا گئے۔ خلیفہ کے ساتھ اس کا بیٹا مص收受 بھی میں فوجیوں سمیت وہاں سے نکل کر موصال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ابو الحسین دارالخلافہ پر غالب آ گیا۔ خلیفہ کے طرفداروں میں جنتے وہاں موجود تھے سبھوں کو قتل اور اسوت مار کرتے ہوئے خاص زنان خانہ تک پہنچ گیا۔ لیکن قابر کو ان لوگوں نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ انہما اور لا چار تھا۔ اور کوئی تکمیل کو قید خانہ سے نکال لائے۔

پھر ابو الحسین نے اسے بریدی کے پاس پہنچ دیا اور یہیں پر اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ بغداد میں دن

دھڑائے لوٹ مار، مجاہنے لگئے اور ابو الحسین منش خاوم کے اس مکان میں جا کر چھپا جہاں اہن رائق بتا تھا لوگ وہاں کے گھروں کے توڑ پھوڑ میں لگے رہے۔ اور جس قدر مالے سکتے تھے لیتے رہے۔ اس طرح ظلم انتہا، وہ بخیج یا اور برچیرنے کی راستے شباب کو پہنچ گئی۔

هزیر یہ آں ابو الحسین نے گیوں اور جو پلکس ہفتہ ۲۰ یا اس طرح بغداد، والوں نے اپنے اعمال کے نتیجے میں حصہ اور خوف کا مزہ پورا پورا پایا۔ اس ابو الحسین کے ساتھ قرامطہ کی ایک بڑی جماعت تھی اس نے بھی شبر میں زبردست فساد پھیلایا۔ اور ان کے اور ترکوں کے درمیان گھسان کی جگہ چھڑ گئی۔ بالآخر یہ ترک ان پر غالب آگئے۔ اور انہیں بغداد سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد عوام اور ابو الحسین کے شکر دیلوں میں لڑائی ہونے لگی۔ پھر شعبان کے مہینے میں بھی حالت خراب ہوئی۔ گھر لوٹے جاتے اور باشندے دن رات مارے کائے جاتے۔ پھر بریدی کا شکر شہر سے نکل کر دیہاتوں میں جا کر وہاں بھی غلوں اور حیوانوں کو لوٹنے لگے اور بنے نظیر ظلم کرنے لگے۔

ابن اثیر نے اس موقع پر وضاحت کی ہے کہ میں نے یہ بتیں اتنی تفصیل سے صرف اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ ظالموں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال نامے اور ان کے کردار چھپنے کیسی رہتے بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور کتابوں میں لکھے بھی جاتے ہیں تاکہ دنیا والے ان کو اپنی طرح سمجھیں اور جس قدر ہو سکے برے الفاظ میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہی ان کے لیے دنیا کی رسولی کا سامان ہے اور آخوت میں ان کا معاملہ اللہ سے ہوگا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ لوگ ان باتوں میں غور کر کے بیویش کے نیے بدناہی سے بچنے کے خیال سے اپنے ظلم سے بازاً جائیں اگر اللہ کے ذرے وہ باز نہ بھی آئیں۔

ادھر خلیفہ نے بغداد میں رہتے ہوئے موصل کے نائب گورنر ناصر الدولہ بن حمدان کو خط لکھ کر اس سے مدد چاہی تھی اور بریدی کے خلاف لڑنے پر اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خط پاتے ہیں ناصر الدولہ نے اپنے بھائی سیف الدولہ علی کو بھاری شکر دے کر روانہ کر دیا تھا۔ مگر تکریت تک پہنچنے پایا تھا کہ خلیفہ اور ابن رائق وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اس نے سیف الدولہ ان لوگوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس لوٹ آیا۔

اس عرصہ میں سیف الدولہ نے خلیفہ کی خوب خدمت کی۔ جب یہ لوگ موصل کے قریب پہنچ گئے تو ناصر الدولہ، ہاں سے نکل کر موصل کے مشرقی حصہ میں ٹھہر گیا۔ اور وہاں سے بہت زیادہ بہایا اور تحائف خلیفہ کی خدمت میں بھیجے۔ لیکن خود خلیفہ کی خدمت میں بھی اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ اسے ابن رائق کے لوگوں سے ملکہ کا خطرہ تھا اس لیے خلیفہ نے اپنے بھیجیں ابو منصور کو ناصر الدولہ کے پاس سلام کرنے کی غرض سے بھیجا، اور اس کے ساتھ ابن رائق کو بھی روانہ کیا۔

جب یہ دونوں اس کے پاس پہنچ گئے تو ناصر الدولہ نے حکم دیا کہ خلیفہ کے لڑکے پر سونے اور چاندنی پنجاہور کیسے جائیں۔ پھر یہ دونوں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے رہے۔ بعد میں کھڑے ہو کر واپس لوٹنے لگے۔

ابن رائق کا قتل:

جب خلیفہ کا لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹنے لگا تو ابن رائق نے بھی اس کے ساتھ ہی لوٹا چاہا تو اس سے ناصر الدولہ نے

کیا ترقیت کی تجویز ہے۔ جو کہ جنم نہ ہے۔ پہنچ کر نہ ہے۔ طلاق کر نہ ہے اور کوئی فسید کر نہ ہے۔ لیکن اس نے مباہلہ نے سے غدر خدا ہی کی کیونکہ پھوختہ و محسوں کیا تھا۔ لیکن اتنے میں ابن حمدان نے اس کی آسمین پکڑ لی۔ اور ابن رائق نے بھی اپنی آسمین پکڑ لی انے کی تو شش ہی۔ نیجے میں اس فی آسمین بھتگی اور بہت مجلتے ساتھ ہموزے پر سوار ہوئے کی تو شش ہی آسمین پکڑ کے پہنچنے کا اور روز میں پر گر گیا۔

اس وقت ناصر الدولہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔

یہ واقعہ سوموار کے دن تھیوں میں تاریخ ماہ رجب کو ہوا۔ اس وقت خلیفہ نے ابن حمدان کو اپنے پاس آدمی بھیج کر بلوایا، اور اسے اس دن ناصر الدولہ کا لقب، اور امیر الامراء کا عہدہ دیا۔ اسی طرح اس کے بھائی ابو الحسن کو بھی خلعت دیا، اور اسی وقت سیف اللہ کا لقب دیا۔ جب ابن رائق کے قتل کی خبر حاکم مصر الاخشید محمد بن طغی کو پہنچی تو وہ فوراً سوار ہو کر دمشق پہنچا، اور ابن رائق کے نائب محمد بن یزاد سے دمشق کو اپنے قبضہ میں آسانی سے لے لیا۔ ان دونوں مینڈھوں میں لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

جب ابن رائق کے قتل کی خبر بغداد پہنچی تو بہت سے ترکیوں نے ابو الحسین البریدی کو اس کی بد خلقی اور بد سلوکی سے نگ آ کر چھوڑ دیا۔ اور خلیفہ اور ابن حمدان کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ بغداد کے قریب پہنچے بریدی کا بھائی ابو الحسین وہاں سے بھاگ گیا۔ اور مقنی ان کے ساتھ بحمدان کے بڑے لشکر کو لیے ہوئے شوال کے مہینے میں وہاں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر سارے مسلمان بہت خوش ہو گئے۔ خلیفہ وہاں سے نکلنے سے پہلے اہل و عیال کو سامرا بھیج دیا تھا۔ اب ان کو وہاں سے بلوانے کے لیے حکم دے دیا۔ اور وہ بھی واپس پہنچ گئے تھے۔ اب وہ پھر بغداد لوٹ آئے۔ پھر خلیفہ نے ابوالصالح فواری کو عہدہ وزارت پر اور نوزون کو بغداد کے دونوں علاقوں کی اتوادی پر بحال کر دیا۔ ناصر الدولہ نے اپنے بھائی سیف الدولہ کو ایک لشکر کے ساتھ بریدی کے بھائی ابو الحسین کے پیچھے روانہ کیا اور اس نے ان لوگوں کو مدائن کے نیشنی علاقوں میں پا لیا۔ ان منحوں دونوں میں ان دونوں فریقوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ سیف الدولہ واسط میں بریدی کے بھائی ابو الحسین سے شکست کھا گیا۔ ساتھ ہی ناصر الدولہ خود بھی روانہ ہو کر اپنے بھائی کی مدد کے لیے مدائن میں ٹھہرا۔ سیف الدولہ ایک بار بریدی کے بھائی کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ لیکن اس کے بھائی نے بھاری فوج سے اس کی معاونت کی۔ یہاں تک کہ بریدی کو شکست دے دی۔ اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھاری جماعت کو قیدی کر لیا۔ پھر اپنے بھائی سیف الدولہ کو ابو عبد اللہ البریدی سے قتال کے لیے بھیج دیا، جس سے یہ بریدی اور اس کا بھائی شکست کھا کر بصرہ کو چلا گیا۔ اور سیف الدولہ نے واسط پر قبضہ کر لیا۔ مزید تفصیل اور اس کے حالات آئندہ سال بریدی کے واقعات میں آئیں گے۔

ناصر الدولہ تیرہ ہویں ذوالحجہ کو وہاں سے بغداد لوٹتے ہوئے قیدیوں کو اپنے ساتھ اونٹوں پر لاد کر لے آیا، جس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے اطمینان کی انسیں لی اور عام لوگوں کے مفاد سے متعلق باقتوں پر غور و خوض شروع کیا۔ چنانچہ دینار کی قیمت کی اصلاح کی۔ اس طرح پر کہ پہلے جتنی اس کی قیمت تھی اب وہ نہ رہی تھی۔ اس لیے نئے دینار ڈھالے جن کا نام ابریز یہ رکھا۔ اس وقت ایک دینار کی قیمت تیرہ درہموں کے برابر طے پائی۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی قیمت دس

دریموں کے مساوی تھی۔ اور مد نشی کو دریائی کے عمدہ سے بطرف کر کے اسی عمدہ بر سامنہ الطور نہیں آیا۔ مگر اس کے فرات کے راست پر مقرر رکر دیا۔ وہاں سے وہ اخیہ نے پاس کیا تو اس نے اس کی بہت تفہیم، تحریم کی اور اسے دشمن کا نائب مقرر رکر دیا۔ بالآخر وہ وہیں مر گیا۔

اس سال رومی حلب کے بہت قریب پہنچ گئے۔ وہاں بہت ادوگوں کو قتل کیا اور تقریباً پندرہ لاکھ آرمیزیوں کو قید کیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

اس سال طرسوں کے نائب حاکم نے روی شہروں میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل کیا، قید کیا ان سے نیمت کا مال حاصل کیا اور صحیح و سالم والپیں بھی لوٹ آیا۔ قیدیوں میں رومیوں کے بڑے اور مشہور بطریقوں اور پادریوں کے علاوہ اور بھی دوسرے لوگوں کو جمع کیا۔ فلله الحمد۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

**احماد بن محمد:**

بن یعقوب انہر جوری، مشائخ صوفیہ میں سے ایجاد ہیں۔ جنید بن محمد وغیرہ ائمہ صوفیہ کی خدمت میں رہے اور مستقلًا کہ مکرمہ کی مجاورت میں رہے یہاں تک کہ وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے بہترین جملوں میں سے یہ ہے کہ دنیا کے چیل میدانوں کو قدموں سے طے کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے میدان کو تو دلوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔

**احمیم بن اسماعیل:**

بن محمد بن اسماعیل بن سعید بن ابیان، ابو عبد اللہ الفصی، القاضی المحالی، شافعی مسلک فقیہ اور محدث۔ بہت سے محدثین سے سماught کی ابن عینیہ کے تقریباً ستر شاگردوں کو پایا۔ اماموں کی ایک جماعت سے روایت کی۔ اور ان سے بھی دارقطنی کے علاوہ دوسروں نے روایت کی ہے۔ ان کی مجلس میں تقریباً دس ہزار افراد شریک ہوتے تھے۔ یہ بہت بیچ دیندار افقيہ اور محدث بھی تھے۔ ساٹھ برس کوفہ کے قاضی رہے۔ اس کے علاوہ فارس اور ملکات کی قضاۓ بھی ان کے سپرد کر دی گئی تھی۔ بالآخر ان تمام عبدوں سے استغفار کر اپنے گھر میں مقیم ہو گئے تھے۔ اور صرف حدیثوں کے سنانے اور سنن پر اتفاقاً کرتے تھے۔ پچانوے برس کی عمر پا کر اسی سال ماہ ربیع الآخر میں وفات پائی۔

ایک موقع پر کچھ بڑوں کی موجودگی میں ان سے کسی شیعی نے مناظرہ شروع کیا۔ اور حضرت علی بن ابی ذئب کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے أحد خندق، خیبر، حنین کے غزوات کا ذکر کیا۔ پھر ان محالی سے کہا۔ کیا آپ ان غزوات سے واقف ہیں؟ جواب دیا ہاں! لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بد رکی لڑائی کے موقع پر حضرت ابو بکر بن ابی ذئب کہاں پر تھے؟ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں ان کے محافظ تھے، اس سردار کے قائم مقام جو خاص آپ کی حفاظت پر نامور ہوں۔ اور حضرت علی بن ابی ذئب لڑائی

لے میداں تھیں تھے۔ بالائیں درود و شکرے حسب تفہیم کتبہ سے بتائی گئی تھے۔ پوچھنے کیا تھیں؟ من کے ۲۰  
شیعی پنکل کا بخوبی۔

پھر من ملی نے اس سے کہا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امامت مقدمیا ہے جسے عالم سے لیے نماز زکوٰۃ  
دوسروں کے مسائل کو فراہم کیا ہے۔ اس طرح انہیں لوگوں نے ان وحضرت علی بن مسعود پر اس وقت مقدمہ میا جبکہ ان کے پاس دو ممال  
تحانہ غلام تھے۔ اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا خاندان تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خاص اور ان پر  
جان شار تھے۔ اور ان لوگوں نے ان کی بھتری اور بزرگی کو جان کر ان پر مقدمہ کیا تھا۔  
یہ سن کر بھی وہ بکا بکا ہو کر رہ گیا۔

### علی بن محمد بن سہل:

ابو الحسن الصائغ بڑے زادہ عابد اور بڑے کرامات والے بزرگوں میں سے ایک تھے۔ مشاہد دینوری سے منقول ہے کہ  
انہوں نے ان ابو الحسن کو دیکھا کہ یہ سخت گھمی کے دنوں میں میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور گدھ اپنا بازو پھیلا کر ان کو گرفتاری کی  
تکلیف سے بچائے ہوئے تھا۔

ابن اثر نے کہا ہے کہ اس سال ابو الحسن علی بن سعیل اشعری نے جو مشہور متكلم بھی تھے وفات پائی ہے۔ ان کی ولادت  
سن دو سو سانچھ بھری میں ہوئی۔ حضرت ابو سعیل اشعری علیہ السلام کی ولادت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحیح قول یہ ہے کہ اشعری کی وفات سن دو سو جو میں بھری میں ہوئی ہے جیسا کہ موقع پر ان کا ذکر گزر چکا  
ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سال محمد بن یونس بن النضر الہبروی الفقیہ الشافعی کی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کی وفات سن دو سو  
انیس بھری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے الربيع بن سلیمان جوشافعی کے شاگرد تھے سے روایت سنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سال  
ابو حامد بن بلال، زکریا بن احمد الجعجی اور عبد الغافر مسلم بن رائق بغداد کے امیر نے وفات پائی ہے۔

اور اسی سال وفات پائی ہے ابو صالح مفلح الحبلي نے جو دمشق کے مشرقی دروازہ کے باہر مسجد ابی صالح میں  
پڑے رہنے والے تھے۔ ان کی کرتیں حالات اور مقامات بہت مشہور ہیں۔ ان کا نام مفلح بن عبد اللہ ابو صالح المعتبد ہے۔ ان  
ہی کی طرف وہ مسجد منسوب ہے جو دمشق کے مشرقی دروازے کے باہر ہے۔ شیخ ابو بکر بن سعید حمدون الدمشقی کی صحبت میں رہے  
ہیں اور ان سے ہی ادب سیکھا ہے۔ اور ان سے المودین اسحاق بن البری، ابو الحسن علی بن الحجہ، بانی مسجد ابو بکر بن داؤد  
الدینوری الدقی نے روایت کی ہے۔

حافظ ابن عساکر نے دتی ہے، انہوں نے شیخ ابو صالح سے یہ روایت کی ہے کہ میں ایک مرتبہ جبل الکام پر اللہ کے  
بندوں کی تلاش میں چکر لگا رہا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر، جو ایک بڑی چٹان پر سرجھا رہے ہوئے بیٹھا تھا۔  
میں نے اس سے پوچھا، آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور غور کر رہا ہوں۔ میں نے  
کہا، میں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہوں جسے آپ دیکھیں، یا اس میں غور کریں، سوائے ان پڑیوں اور پچھزوں

کئے۔ کچھ گھنٹے میں، کچھ اسی پیارے کے جانشی کو ادا کر کر اپنے سامنے کے امام میں غم کر رہا۔ اسیم سب اس ذات کی وجہ سے تمہارے مصلح کیا کہ تمہارے ساتھ اپنی اندر کی خوبیوں کے لئے کہاں بھی ایکیں اور اس سے تجھے آپ کی خوشی ہو اور میں آب تو یہو تو رجاسکوں۔ تجھے نئے نئے اس نے دروازہ پر چڑنا یا وہ خوشی ملتی ہے۔ خاتم قدر میرا۔ اس جس نے نوت کو زندہ باد کیا اس نے اپے اپے شرمندی کو دریا کیا۔ اور جس نے اللہ سے خدا چہا وہ فتنہ سے محفوظ رہا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

ابو صاحبؒ نے کہا ہے کہ میں نے متواتر چھ بیساٹ دنوں تک کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تو میں اس نہر کے کنارے آیا جو مسجد کے پیچے ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر اس کے پانی کو دیکھنے لگا۔ اچانک یہ آیت پاک وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ يَادَ أَكْيَ (کہ اس کا عرش پانی پر تھا) یاد آتے ہی میری پیاس ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اس دن پورے کر لیے اور کہا کہ میں نے چالیس دنوں تک ایک قطرہ نہ پیا۔ اس کے بعد پی لیا۔ پھر ایک شخص نے میرے اس پیچے ہوئے پانی کو لیا اور البیہ کے پاس لے جا کر کہا، اسے پیاؤ کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کا جھوٹا ہے جس نے چالیس دنوں تک پانی نہیں پیا ہے۔ ابو صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا میرے متعلق یہ جان لینا تجھ بخیز بات ہے کیونکہ سوائے میرے اور اللہ کے اس واقعہ میں کوئی بھی واقف نہیں ہوا (تو اسے کس طرح معلوم ہو گیا)۔

اور ابو صاحبؒ کے کلام میں سے یہ جملہ بھی ہے کہ جیا قلب کے لیے حرام ہے لیکن نفس کے لیے حلال ہے۔ کیونکہ جس چیز کو تمہارے سر کی آنکھ سے دیکھنا حلال ہوتا ہے تمہارے دل کی آنکھ سے اسے دیکھنا حرام ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدن قلب کا لباس ہے اور قلب دل کا لباس ہے اور دل ضمیر کا لباس ہے اور ضمیر راز کا لباس ہے اور راز اللہ کی معرفت کا لباس ہے۔

ابو صاحبؒ کے مناقب بے حد ہیں۔ رحمہ اللہ۔ اسی سال ماه جمادی الاولی میں وفات پائی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم



## اتفاقات — ۱۳۲۷ھ

اس سال سیف الدولہ واسط میں داخل ہوا اس کے قبل بریدی اور اس کا بھائی ابو الحسین نکست کھاکرہ ہاں سے نکل چکے تھے۔ لیکن ترکیوں کو سیف الدولہ نے اختلاف ہو گیا تھا اس لیے سیف الدولہ وہاں سے نکل کر بغداد جانے لگا۔ اس بات کی خبر اس کے بھائی امیر شکر کو مل جانے کی وجہ سے وہ بغداد سے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ اتنے میں اس کا گھر لوٹ لیا۔ اس کی حکومت بغداد پر تیرہ مہینے پانچ دن تک رہی۔ سیف الدولہ موصل سے بغداد میں اس وقت پہنچا، جبکہ اس کا بھائی وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس لیے باب حرب کے پاس پڑا ڈالا۔ اور خلیفہ سے درخواست کی کہ وہ اسے اتنا مال دے جس کی مدد سے تو زون کی لڑائی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس لیے خلیفہ نے اسے چار لاکھ درہم دیئے۔ اور اس سے انہیں اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن جیسے ہی تو زون کے آنے کی خبر ملی، وہ بندی اسے نکل گیا۔ اور تو زون وہاں پہنچیوں میں داخل ہو گیا۔ اس لیے خلیفہ نے اسے خلعت دیا، اور اسے امیر الامراء کا لقب دیا۔ اور اب بغداد میں اس کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ اس وقت بریدی واسط لوٹ گیا۔ اور وہاں تو زون کے مانے والے جتنے تھے، انہوں کو نکال باہر کیا۔ تو زون کے قیدیوں میں سیف الدولہ کے غلام ثمال بھی تھے۔ اس لیے اس کے آقا کے پاس بھیج دیا تاکہ اسے اس کی خبر دے سکے، اور آل محمد ان میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے۔ اس سال ”نسا“ کے علاقوں میں زبردست زلزلہ آیا، جس سے ہاں کی بہت سی عمارتیں گرنگیں۔ اور بہت سی مخلوق ہلاک و برباد ہو گئی۔ بغداد میں الیوں بہ طابق ماں کنوار اور نشیرین مطابق ماہ کا تک اور گھنیں میں زبردست لوجتی رہی۔

اور اس سال ماہ صفر میں یہ خبر پہنچی کہ روی ارزن اور میافارقین تک پہنچ چکے ہیں۔ اور لوگوں کو قید کر لیا ہے۔

اس سال ماہ ربیع الآخر میں خلیفہ مقتی کے بیٹے ابو منصور اسحاق نے ایک علویہ ناصر الدولہ بن محمد ان کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ مہر ایک لاکھ دینار اور دس لاکھ درہم مقرر کیا۔ اور اس لڑکی کے نکاح کا ولی ابو عبد اللہ محمد بن ابی موسیٰ الہاشی کو مقرر کیا۔ لیکن ناصر الدولہ خود حاضر نہیں ہوا۔

اس وقت ناصر الدولہ نے ایک سکم ڈھالا اور اس میں ناصر الدولہ عبد آمل محمد نکھا گیا۔

ابن الجوزی نے کہا کہ اس سال غلے بہت گراں ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کتوں کو بھی کھایا۔ اور لوگوں میں وہ انہیں پھوٹ پڑیں، جس کی تلافی کافی حد تک لوگوں نے مٹیوں سے کی۔ یہاں تک کہ پچاس رطل مٹی ایک درہم سے فروخت ہوتی۔ جس سے لوگوں نے کچھ گرانی سے بچاؤ کیا۔

اس سال شاہ روم نے خلیفہ کو ایک خط لکھ کر اپنے اس رومال کا مطالبہ کیا جو کسی کمیسہ میں تھا۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اس سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور اس میں ان کے چہرہ کا نقش اُتر گیا تھا۔ اگر وہ رومال بھیج دیں تو ہم اس کے عوض

بے شمار مسلمان قیدی آزاد کر دیں گے۔ خط پاکر خلیفہ نے علماء کو بلوا کر ان سے مشورہ لیا۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ان کے مقابلہ میں ہم اور حضرت نبی ﷺ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس رومال کے بحیث دینے سے مسلمانوں کی ذلت اور دین کی کمزوری کا اظہار ہے۔ سلیمان علیہ السلام عینی وزیر نے کہا، اے امیر المؤمنین! کفار کے بقدر سے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیں ہماں اس بات سے زیادہ بہتر اور زیادہ مفید ہے کہ رومال نبی مسیح میں پڑا رہے۔ بالآخر خلیفہ نے اس رومال کے بحیث دینے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ان کے قبضوں سے چھڑا لینے کے لیے کہا۔

اس سال یہ بھی خبر ملی کہ قرمطی کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں ابو عبد اللہ البریدی نے اس کے پاس بہت سے ہدایا اور تھائف بھیجے، جن میں سونے کا ایک بستر تھا جس میں جواہر اٹھائے گئے تھے۔ اس کا پردہ سونے کے تار کا بنا ہوا تھا۔ یا قوت سے مزین تھا اور بھی بہت چیزیں تھیں۔

اس زمانہ میں بغداد میں رافض بہت بڑھ گئے تھے۔ اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی کسی صحابیؓ کو برائیوں سے یاد کرے گا وہ غیر محفوظ سمجھا جائے گا۔

خلیفہ نے عمال الدولہ ابن یوپہ کو حکمت بھیجا، جسے اس نے قبول کیا، اور تمام قاضیوں اور تمام حکام کی موجودگی میں اسے پہننا۔ خراسان اور ماوراء النہر کے حاکم السعید بن احمد بن اسماعیل السامانی کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک برس اور ایک ماہ مرض سل میں گرفتار رہے تھے۔ اور اپنے گھر تھیں میں ایک کمرہ خاص کر لیا تھا، جس کا نام بیت العبادۃ رکھا گیا، اچھے اور صاف کپڑے پہن کرنے لگے پاؤں پر اس طرف جاتے اور اس میں نمازیں ادا کرتے۔ آہ و زاری کرتے، زیادہ نمازیں پڑھتے، درود بھیجتے، منکرات اور گناہوں کے کاموں سے مرنے تک احتیاط کرتے رہے۔ رحمہ اللہ۔ ان کے بعد ان کی ذمہ داریوں کو ان کے صاحبزادے نوح بن نصر السامانی نے سنبھالا، اور ان کو الامیر الحمید کا القطب، بیان کیا۔ ان کے زمانہ میں محمد بن احمد النسفي پر بہت الزامات لگا کر بالآخر انہیں سوئی دے دی گئی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں یہ ہیں:

ثابت بن سنان بن قرہ الصابی:

ابو سعید الطیب، یہ خود القاہر باللہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ لیکن نہ ان کا لڑکا اسلام لایا، اور نہ ان کے خاندان کا کوئی دوسرا شخص۔ فن طب میں اوپر مقام رکھتے تھے اور دوسرے بہت سے علوم میں بھی۔

اسی سال ماہ ذی القعده میں جگر کے ایک مہلک مرض میں گرفتار ہو کر وفات پائی۔ ان کے اپنے فن نے اس موقع پر انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، موت آئی۔ اس موقع پر کسی شاعر نے یہ چند اشعار بہت عمدہ کہے ہیں۔

فُل لِلَّذِي صَبَعَ الدَّوَاءَ بِكَفَهِ  
أَتَرَدُ مَقْدُورًا عَلَيْكَ قَدْ حَرَزَ

بے شمار مسلمان قیدی آزاد کر دیں گے۔ خط پاک خلیفہ نے علماء کو بلوا کران سے مشورہ لیا۔ پچھلے لوگوں نے جواب دیا کہ ان کے مقابلہ میں، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حظدار ہیں۔ اور اس رومال کے صحیح وینے سے مسلمانوں فی ذات اور ہمین فی ذمہ دہی کا اظہار ہے۔ نیشن علی ہن تینی وزیر نے کہا اے اے امیر المؤمنین کفار کے قبضے سے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا۔ اس بات سے زیادہ بہتر اور زیادہ مفید ہے کہ رومال نیسے میں پڑا رہے۔ بالآخر خلیفہ نے اس رومال کے صحیح وینے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ان کے قبضوں سے چھڑا لینے کے لیے کہا۔

اس سال یہ بھی خبر ملی کہ قرمطی کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں ابو عبد اللہ البریدی نے اس کے پاس بہت سے ہدایا اور تحائف صحیحہ جن میں سونے کا ایک بستر تھا جس میں جواہر انکائے گئے تھے۔ اس کا پردہ سونے کے تار کا بنا ہوا تھا۔ یا تو ت سے مزین تھا اور بھی بہت چیزیں تھیں۔

اس زمانہ میں بغداد میں رافض بہت بڑھ گئے تھے۔ اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی کسی صحابیؓ کو برائیوں سے یاد کرے گا وہ غیر محفوظ سمجھا جائے گا۔

خلیفہ نے عماد الدولہ ابن بویہ کو مخلوعت بھیجا، جسے اس نے قبول کیا، اور تمام قاضیوں اور تمام حکام کی موجودگی میں اسے پہننا۔ خراسان اور ماوراء النہر کے حاکم السعید هر بن احمد بن اسما عیل السامانی کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک برس اور ایک ماہ مرض سل میں گرفتار رہے تھے۔ اور اپنے گھر تبدیل میں ایک کرہ خاص کر لیا تھا، جس کا نام بیت العبادۃ رکھا گیا، اچھے اور صاف کپڑے پہن کر ننگے پاؤں پر اس طرف جاتے اور اس میں نمازیں ادا کرتے۔ آہ و زاری کرتے، زیادہ نمازیں پڑھتے، درود بھیجتے، منکرات اور گناہوں کے کاموں سے مرنے تک اختیاط کرتے رہے۔ رحمہ اللہ۔ ان کے بعد ان کی ذمہ داریوں کو ان کے صاحزادے نوح بن نصر السامانی نے سنبھالا، اور ان کو الامیر الحمید کا لقب دیا گیا۔ ان کے زمانہ میں محمد بن احمد الشفی پر بہت الزامات لگا کر بالآخر انہیں سونی دے دی گئی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں میں یہ ہیں:

ثابت بن سنان بن قرہ الصابی:

ابوسعید الطیب، یہ خود القاہر باللہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ لیکن نہ ان کا لڑکا اسلام لا یا، اور نہ ان کے خاندان کا کوئی دوسرا شخص۔ فن طب میں اونچا مقام رکھتے تھے اور دوسرے بہت سے علوم میں بھی۔

ای سال ماوڑی القعدہ میں جگر کے ایک مہلک مرض میں گرفتار ہو کر وفات پائی۔ ان کے اپنے فن نے اس موقع پر انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، موت آئی گئی۔ اس موقع پر کسی شاعر نے یہ چند اشعار بہت عمده کہے ہیں۔

فَلِلَّهِ صُبْعُ الدِّوَاءِ بَكْفِهِ      أَتَرْدُ مَقْدُورًا عَلَيْكَ فَدْ حِبْرِي

**ترجمہ:** جو شخص اپنے باتوں سے دو ایسیں بنا تا ہوا سے بہد دو تم پر جو مندر ہو چکا ہے یا تم اسے نال سکتے ہو۔

مات المداری والمنداری والدی صنیع اندھوں کھنڈہ و میں انتہائی

**ترجمہ:** سب موت کے گھات پہنچ کئے جس نے عالمیں جس کا عالم کیا ہے جس نے اپنے باتوں سے دو ایسا اور جس نے خریدا۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب امتنام میں اسی سال اشعری کی وفات کو ذکر کیا ہے۔ اس میں آنکھتوں کی ہے اور ان پر الازم لکھا ہے۔ جیسا کہ حنبیوں کی پہلے اور اب بھی عادت ہے۔ کہ وہ اشعریوں کے خلاف کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سن دوسو ساٹھ بھری میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور جبانی کے ہم خیال چالیس برس تک رہے مگر بعد میں رجوع کر لیا۔ بغداد میں وفات پائی اور مشرعة السروانی میں دفن کیے گئے۔

### محمد بن احمد بن یعقوب:

ابن شیبہ بن الصلت السدوی۔ ان کے آقا ابو بکر تھے۔ انہوں نے اپنے دادا اور عباس دوری وغیرہما سے روایتیں سنیں اور ان سے ابو بکر بن مہدی نے روایت کی ہے یہ ثقہ تھے۔ اور خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ جب ان محمد کے والد کی بیدائش ہوئی۔ اس وقت نجومیوں نے ان کا زاریجہ نکال کر ان کی عمر کا اندازہ بتایا کہ یہ اتنی عمر تک زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ان کے والد نے ایک گڑھا کھود دا کر جتنی عمر کا ان لوگوں نے اندازہ بتایا تھا شروع سے ہر روز ایک ایک دینار اس میں ڈالتے گئے۔ جب وہ بھر گیا تو اس طرح ایک دوسرا گڑھا تیار کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور گڑھا تیار کیا۔ اس طرح وہ اپنے لڑکے کی عمر کے اندازہ کے مطابق اس میں ہر روز تین دینار ڈالتے رہے۔ اس احتیاط کے باوجود ان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ اتنے زیادہ محتاج ہو گئے کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ اور مجلسِ مماع میں وہ اس بیویت کے ساتھ حاضر ہوتے کہ ان کے بدن پر ازار کے بغیر ہی عبا ہوتا۔ اور اہل مجلس ان پر حرم کھا کر ان کی کچھ کھد کر دیتے۔ الحاصل سعید وہی ہے جسے اللہ سعید بنادے۔

### محمد بن مخلد بن جعفر:

ابو عمر الدوری العطار دور میں رہا کرتے تھے۔ یہ دور بغداد کے ایک کنارے کا محلہ ہے۔ انہوں نے الحسن بن عرفہ زیر بن بکار اور مسلم بن حجاج وغیرہم سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور ان سے دارقطنی کے علاوہ اور لوگوں نے بھی روایت کی ہے۔ یہ ثقہ بہت سمجھدار اور بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے والے تھے۔ ان کی دیانت داری کی لوگ تعریفیں کرتے۔ عبادت گزاری میں مشہور تھے۔

اس سال ماہ جماوی الاولی میں وفات پائی۔ کل عمر تقریباً رس آٹھ میںیے اکیس دن کی پائی۔

### المجنون البغدادی:

ابن الجوزی نے ابو بکر شبلی کے واسطہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رصافہ کی جامع مسجد کے قریب نگی حالت میں دیکھا

بے اس وقت وہ کہا کرت تھے میں اللہ کا مجنون ہوں اللہ کا مجنون ہوں۔ اس حالت میں دیکھ کر میں نے کہا آپ کہہ بھئ کر مسجد میں داخل ہوئے ہماز یوسف نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اُنہیں کہا۔

تَقْبِيلُنَّ ثَقْبَنَا وَ قَضْنَا وَ أَبْتَهَنَا      وَقَدْ اسْتَقْبَلَ حَسْلَ حَقْوَقِهِمْ حَسْلَ

ترجمہ: اُوک لیتے ہیں ہماری ملاقات اور ہمارے حق و اجیٰ ادا کرو۔ حالانکہ نیزہ کی بدحالی نے ان کے حقوق کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔

إِذَا هُمْ رَأُوا حَالَىٰ وَلَمْ يَأْنِفُوا إِلَيْهَا      وَلَمْ يَأْنِفُوا مِنْهَا إِنْفَتْ لَهُمْ مِنْهَا

ترجمہ: جب انہوں نے میرے حال زار کو دیکھا اور ناک بھنوں نہ چڑھائے۔ اور اسے ناپسند کیا تو میں اپنے کو ہی ناپسند کرنے لگا۔

## واقعات — ۳۳۲

اس سال امیر المؤمنین تو زون سے ناراض ہو کر غصہ کی حالت میں بغداد سے نکل کر موصل کی طرف گئے کہ وہ اس وقت واسط میں تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی ابو عبد اللہ البریدی سے کر دی تھی۔ اس طرح وہ دونوں پادشاہ کے خلاف سیکھان ہو چکے تھے۔ اور ابن شیرزاد کو تین سو آدمیوں کی جماعت لے کر بغداد پہنچ دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر زبردست فساد پھیلایا اور لوٹ مار کیا۔ اور پچھلے لوگوں کو عہدوں پر فائز کیا، اور پچھلے لوگوں کو عہدوں سے برخاست کیا۔ متقیٰ کی غیوبت ہی میں وہاں سب پر قابض ہو گیا۔ یہ سب سن کر متقیٰ کو سخت غصہ آیا۔ اور وہاں سے غصہ کی حالت نہیں اپنے خاندان والوں اور بال بچوں اور وزیر کے علاوہ خاص حکام کو بھی ساتھ لے کر موصل کی طرف بنی ہمدان کے مقابلہ میں روانہ ہوا۔ راستہ میں سیف الدولہ تکریت کے پاس ملا۔ ناصر الدولہ بھی تکریت میں آ کر مل گیا۔

جب سے متقیٰ بغداد سے نکلا، ابن شیرزاد نے وہاں زبردست فساد برپا کر دیا۔ وہاں کے باشندوں پر ظلم ڈھانے لگا، ان سے زبردست مال وصول کرنے لگا، اور تو زون کو بھی خبر پہنچی، اس لیے وہ تیزی سے تکریت کی طرف بڑھا۔ راستہ ہی میں سیف الدولہ سے مقابلہ ہو گیا اور تو زون نے سیف الدولہ کو شکست دے کر اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ان کے بھائی ناصر الدولہ کے فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ سیف الدولہ نے پلٹ کر دو بارہ جملہ کیا، اس وقت بھی تو زون نے اسے شکست دے دی۔ اب متقیٰ ناصر الدولہ اور سیف الدولہ سب موصل کو چھوڑ کر نصیبیں چلے گئے۔ اور تو زون نے آ کر موصل پر قبضہ کر لیا۔ پھر خلیفہ کے پاس اپنا آدمی بھیج کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن خلیفہ نے جواب دیا۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ تم بنی ہمدان کو بھی راضی کرلو۔ بالآخر سب میں مصالحت ہو گئی اور ناصر الدولہ موصل کے علاقہ کا پیشیس لاکھ پر خاص من ہوا اور تو زون بغداد لوٹ گیا۔ اور خلیفہ نے بنی ہمدان کے درمیان اقامت کی۔

اس موقع پر تو زون جب واسط سے غائب رہا۔ معز الدین بن بویہ دیلمیوں کی ایک بڑی جماعت لے کر واسط کی طرف

بڑھ گیا۔ تو زون نے بھی بہت تیزی کے ساتھ اس کا زخم کیا اور، باں معز الدین، ہے اس انوں سے زیادہ تک لڑائی کرتا رہا۔ بالآخر معز الدین شکست کھا گیا، اور اس کی ساری چیزیں لوٹ لی گئیں۔ اس کے لشکر کے بے شمار آدمی قتل کیے گئے۔ اور خاص خاص ساتھی اور دکام کرنی تحریر کر لیے گئے۔ اس وقت تو زون پر مرگی کے مرض کا دورہ بڑھ گیا اس لیے وہ اپنی جان کے کر بغداد والپس آ گیا۔

### البریدی کا اپنے بھائی ابو یوسف کو قتل کر دینا:

اس سال ابو عبد اللہ البریدی نے اپنے بھائی ابو یوسف کو قتل کر دیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب بھی اس کے ہاتھ میں مال نہ ہوتا، اپنے بھائی ابو یوسف سے قرض مانگتا۔ اور وہ تھوڑا بہت اسے دے کر جان چھڑا لیتا۔ پھر اس کی برائی کرتا اور فوجیوں کے مال کو اپنے خرچ میں لانے میں اس کی برائی کرتا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی ابو یوسف کو چاہنے لگے، اور زیادہ تر بریدی سے نفرت کرنے لگے، اس لیے بریدی کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ اس سے کنارہ کش ہو کر اس کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت نکر لیں گے۔ اس نے اپنے چند آدمیوں کے کو اس کے قتل کر دینے پر مقرر کیا۔ اور انہوں نے اسے بالآخر قتل کر دیا۔

اس کے بعد اس کے گھر جا کر اس کی ساری جائیداد اور مال و دولت پر بقشہ کر لیا۔ اس وقت اس کا جو کچھ سامان اپنے بقشہ میں لیا اس کی قیمت تقریباً تین کروڑ تھی۔ لیکن اس سے صرف آٹھ مہینے فائدہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد وہ بہت تیز بخار کے مرض کا شکار ہوا، دیکھتے دیکھتے اس سال ماہ شوال میں اس کی وفات ہو گئی۔

اب اس کا بھائی ابو الحسین اس کا قائم مقام ہنا، اللہ اس کا براہمشر کرے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بری راہ پر لگا دیا۔ بالآخر ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ مجبوراً اسے قرامطہ کی پناہ لینی پڑی۔ اور اب ابو القاسم ابن ابی عبد اللہ البریدی واسطہ بصرہ اور اہواز کے آس پاس تمام علاقوں کا حاکم بن گیا۔

ادھر خلیفہ مقتبی بالله موصل میں اولاد محمدان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ بدسلوکیاں ہونے لگیں۔ اور اس کو علیحدہ کر دینے کی فکر میں لگ گئے۔ مجبوراً خلیفہ نے تو زون کو مصالحت کے لیے خط لکھا۔ خط پا کر تو زون نے اپنے قاضیوں اور امراء کو جمع کیا، اور ان کے سامنے خلیفہ کا خط پڑھا۔ اس خط کا بہت زیادہ ادب بجالایا۔ موافق تھیں قسم کھائی اور اس بات کا اقرار کیا کہ خود خلیفہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں سب کا انہی کی اکرام اور احترام کیا جائے گا۔ اس طرح خلیفہ کے لیے بغداد میں داغلہ کی صورت نکل آئی جس کی تفصیل آئندہ سال کے بیان میں آئے گی۔

اس سال روسیوں کی ایک جماعت آذربایجان کے علاقوں کی طرف آئی۔ علاقوں کے لوگوں نے اس کے دفع کرنے کا ارادہ کیا مگر ان لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان پر غالب آ گئے۔ بے شمار باشندوں کو قتل کر دیا، ان کے مال لوٹے۔ اور جو عورتیں پسند آئیں، انہیں قید کر لیا۔ پھر مراغہ کی طرف بڑھے۔ وہاں مختلف قسم کے بہت زیادہ بچل دیکھتے تو انہیں کھانے لگے، جس سے ان میں بیماریاں پھوٹ پڑیں، اور اکثر افراد مر گئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے کسی کو دفن کرتے تو اس کے سارے

کیٹے اور اس کے تھیمار بھی ساتھی فن کر دیتے، جسے مسلمان نکال لیتے۔ اس کے بعد ان کے مقابلہ میں المزبان بن محمد آیا جس نے ان لوگوں میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا۔

سال روائی مارٹنی میں شاہ روم الدّست قتل آئی ہزار فوجیوں کوئے کر رائے این آئین آئین کروہاں داخل ہو گیا اور لوٹ مار چکا کر لوگوں کو قتل کیا اور تقریباً پدرہ ہزار آدمیوں کو قید کر لیا۔ تین دنوں تک، ہاں مقیم رہا۔ مقامی لوگوں اور یہاں تک نے مل کر چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا، اور زبردست لڑائی کر کے انہیں مار بھاگایا۔

اس سال ماہ جمادی الاول میں بغداد کے اندر غلوں کی سخت گرانی ہوئی۔ پھر بارش ہوئی تو اس قدر رزیادہ گہرے عمارتیں اور مکانات گر گئے۔ عمارتوں سے دب کر بہت سے باشندے بھی مر گئے۔ آدمیوں کی کمی کی وجہ سے اکثر عسل خانے اور مسجدیں بند ہو گیں۔ جائیداد کی قیمت بہت گر گئی۔ یہاں تک کہ ایک دینار کی قیمت کی چیز صرف ایک درہم میں فروخت ہونے لگی اور مکانات خالی ہو گئے۔ مکانوں کی لوٹ مار سے حفاظت کے لیے دلائی لوگوں کو ان میں اجرت پر رکھنے لگے۔ رات کے وقت چوروں کی لوٹ کھسوٹ بہت بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ محلے والے ڈھول اور باجوں کے ساتھ رات کو پھرے دیتے اور ہر طرف سے فتنے ہی فتنے دکھائی دیتے جانے لگے۔ ﴿نَّاَللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾۔ ہم اپنے نفسوں کی خرابیوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

### سردار الجنابی القرمطی کا انتقال:

اس سال ماہ رمضان میں ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید الحنابی الہجری القرمطی، جو قرمط کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی شخص ہے جس نے خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے چاروں طرف حجاجوں کو قتل کیا اور اس کے خلاف اتار لیئے اس کے دروازے اکھیر لیے اور سونے وغیرہ سب لے گئے۔ اس کے حجر سود کو اپنی جگہ سے اکھیر کراپنے ساتھا اپنے شہر بھر لے گئے جو ان کے پاس سن تین سو نیس بھری سے تین سو سو نتالیس بھری تک رہا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔

جب یہ قرمطی مر گیا، تب اس کی ذمہ داریاں اس کے تینوں بھائیوں میں تقسیم کیے گئے۔ (۱) ابو العباس الفضل۔ (۲) ابو القاسم سعید۔ (۳) ابو یعقوب یوسف نے جو تینوں ہی ابو سعید الجنابی کے بیٹے تھے، سنہال لیں۔ ان میں سے ابو العباس دبلا بدن اور لکھنے پڑھنے میں لگا رہنے والا تھا۔ اور ابو یعقوب کھلیل کو دکا دلدا دہ تھا۔ اس اختلاف مزاج کے باوجود ایک دوسرے سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ وزراء تھے وہ سب بھی ہم خیال تھے۔

اس سال ماہ شوال میں ابو عبد اللہ البریدی کی وفات ہو گئی۔ اس طرح تمام مسلمانوں کو اس سے نجات مل گئی جیسا کہ دوسروں سے ملی تھی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پائے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پائے والوں میں ابوالعباس بن عقدہ اغافل

احمد بن محمد بن سعید:

بن عبدالرحمٰن ابوالعباس الکوفی یہں جو ابن عقدہ میں مشہور ہیں۔ لوگوں نے یہ لقب انہیں اس لیے دیا تھا کہ فُنْخو صرف میں محل کلام کرتے تھے۔ اسی طرح ورع اور عبادات میں بھی مختصر گفتگو کرتے تھے۔ بڑے حافظین حدیث میں سے تھے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں سنیں، اور مختلف مقامات میں سفر کر کے بہت سے مشائخ سے روایتیں سنیں اور ان سے طبرانی، دارقطنی، ابن حجاجی، ابن عدی، ابن مظفر اور ابن شاہین نے روایت کی ہے۔

دارقطنی نے کہا ہے کہ تمام اہل کوفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رض کے زمانہ سے ابن عقدہ کے زمانہ تک ان سے بڑھ کر زیادہ حافظہ دوسرے کسی میں نہیں دیکھا گیا ہے۔

لوگوں کا بیان ہے کہ انہیں جھلاکہ حدیثیں زبانی یا تھیں۔ ان میں سے تین لاکھ اہل بیت کی فضیلت میں ہیں جن میں صحیح اور ضعیف ہر قسم کی تھیں۔ ان کی کتابیں چھوٹے والوں کا بوجھ تھیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان کو شیعوں اور مسلک میں غلو کرنے والوں میں سے سمجھا جاتا تھا۔

دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑے انسان تھے۔ اور ابن عدی نے انہیں اس بات کی طرف منسوب کیا ہے کہ اپنے شیوخ کے لیے روایتیں لکھتے، اور انہیں ان کی روایت کا حکم دیتے۔ خطیب<sup>ؓ</sup> نے کہا ہے کہ مجھ سے علی بن محمد بن نصر نے روایت کی ہے کہ میں نے حمزہ بن یوسف کو کہتے ہوئے سناء ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو عمر جو یہ کہتے ہوئے سناء ہے کہ ابن عقدہ براثی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جور و افضل کا گڑھ تھا لوگوں کو صحابہؓ فرمایا۔ شخین کی براہمیں لکھوا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ان سے سنی ہوئی ساری حدیثیں بے اعتبار سمجھ لیں، اور کسی دوسرے کے سامنے انہیں ذکر نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب لکھیں میں ان کے بارے میں اتنی باتیں بیان کر دی ہیں جو بہت کافی ہیں۔ اسی سال ماہ ذی القعده میں وفات پائی۔

احمد بن عامر بن بشیر:

بن حامد المروروزی۔ مرد الروز کی طرف ان کی نسبت ہے، المرور ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شافعی المسلک فقیہ اور ابواسحاق المروروزی کے شاگرد تھے۔ ان کی نسبت مرود الشاہجهان کی طرف ہے جو اس علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا۔ ان کی ایک تصنیف مختصر المروني کی ایک شرح ہے۔ اور ایک کتاب الجامع فی المذہب ہے۔ فن اصول فقہ میں بھی ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ایسے امام تھے کہ ان کے غیر ایک بھی پہنچا مشکل کام تھا۔ اسی سال وفات پائی ہے۔

## واقعات — ۳۳۳

اس سال خلیفہ متقی بغداد کی طرف لوٹ آیا۔ خلافت سے دستبردار کر دیا گیا اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ یہ ابھی تک موصل ہی میں موجود تھا کہ اس نے وہاں سے اخیذ محمد بن طغی کو جو کہ مصر اور شامی علاقوں کا گورنر تھا، خط لکھا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ چنانچہ وہ سالی رواں کے ماہ محرم کے وسط میں اس کے پاس آیا اور خلیفہ کے سامنے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑا رہنے لگا۔ خود پیدل چلتا اور خلیفہ سواری پر سفر کرتا۔ پھر خلیفہ کے سامنے درخواست کی کہ وہ تکلیف کر کے اس کے ساتھ مصری علاقوں میں چلیں یا شامی علاقوں میں قیام کریں۔ ایک مرتبہ اس مشورہ پر عمل کرنا چاہا لیکن آخر میں انکار کر دیا۔ اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ اس طرح موصل ہی میں قیام کریں اور تو زون کے پاس بالکل نہ جائیں۔ تو زون کے مکار اور اس کے چکر سے اسے بہت ڈرایا۔ پھر تو اس کے مشورہ کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے وزیر ابو حسین بن مقلہ نے بھی مشورہ دیا لیکن اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ ابن طغی نے خلیفہ کو بہت سے قیمتی تھاکف پیش کیے۔ اسی طرح وزیر اور دوسرے حکام کو بھی دیے۔ پھر وہ اپنے شہر کو لوٹ گیا اور حلب سے گزر اتو وہاں کا حاکم ابو عبد اللہ بن سعید بن حمدان وہاں سے نکل گیا۔ لیکن ابن مقائل وہیں تھا۔ اس لیے اسے اپنی والپیں تک کے لیے اسے اپنا قائم مقام بنانے کا مرصد بھیج دیا۔ لیکن خلیفہ جلد میں رقد سے سوار ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔

اور تو زون کو خبر بھیج دی، اور اس سے جس قدر اقرار اور قسم لینا ممکن تھا۔ سب کر کے اپنی بات پختہ کر لی اور فیصلہ پر قائم رہا۔ اب جب یہ بغداد کے قریب پہنچا تو تو زون اپنے لشکر سمیت وہاں سے باہر آیا۔ خلیفہ کو دیکھ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ اس کے سامنے اپنی پرانی قسم کی وفاداری کا مظاہرہ کیا اور سب کے سامنے خلیفہ کو اتر دیا۔ خلیفہ کے ساتھ جتنے بھی امراء وغیرہ تھے، سب کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر خلیفہ کی دونوں آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔

اس تکلیف سے بے قرار ہو کر اس کے منہ سے ایک زبردست چیخ نکلی۔ جسے اس کی عورتوں نے بھی سن لیا۔ تو وہ بھی زبردست چیخ و پکار، اور ورنے دھونے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ نثارے بجائے جائیں تا کہ ان کی آواز نہ سی جائیں۔ پھر وہاں سے وہ فوراً نکل کر بغداد چلا گیا۔ اور فوراً الْمُسْتَلْهُ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اس طرح متقی کی خلافت کل تین برس پانچ مینے میں دن کی ہوئی۔ اور دوسرے قول کے مطابق گیارہ مینے۔

اس کے مزید حالاتِ زندگی اس کی وفات کے حالات میں مذکور ہوں گے۔

### امتناعی بالله عبد اللہ بن امتناعی بن المعتضد فی خلافت

جب تو زون بغداد اپس آیا اور متنعی کی رونوں آنکھیں اندازی کر دیں۔ اس نے بعد امتناعی کو بلوایا اور اس سے ہوتی اور اس کا نقب امتناعی بالله رکھا۔ نام عبد اللہ تھا۔ یہ معاملہ اس سال ماہ صفر کے آخری شرہ میں ہوا۔ اور تو زون اس کے سامنے بیخا۔ امتناعی نے اسے خلعت دیا۔ یہ امتناعی گندمی صورت، میانہ قدر، خوبصورت اور اچھے بدن، سفید رنگ، سرخی مائل تھا۔ تھنے تنگ، اونچی ناک، چھپے گالوں والا تھا۔

جس وقت اس کی خلافت فی بیعت لی گئی۔ اس وقت اس کی عمر اتنا لیس برس کی تھی۔ اس نے امتنعی کو اپنے سامنے بلوایا، اور اس سے بھی بیعت لی۔ اور اس سے خلافت کی چادر اور چھڑی لے لی۔ اور ابو الفرج محمد بن علی السامری کو اپنا وزیر بنالیا۔ لیکن اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ اختیارات کا مالک تو ابن شیرزاد تھا۔ اس کے بعد امتنعی جیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس امتناعی نے ابو القاسم الفضل بن المقذر کو بلوایا۔ یہ وہی ہے جو اس کے بعد خلیفہ بنایا جائے گا اور لقب الطیع للہ ہو گا۔ لیکن وہ اس وقت سامنے نہ آیا، بلکہ چھپ گیا اور اس امتناعی کی خلافت باقی رہنے تک چھپا رہا۔ اس لیے اس امتناعی نے اس کے اس گھر کو وجود جلد کے کنارے تھا، ڈھانے کا حکم دیا۔

جب القاسم الفاطمی مر گیا اور اس کا بیٹا المنصور سا عیل اس کی جگہ پر بیٹھ گیا تو اس نے اپنی مضبوطی نہ ہونے تک اپنے باب پ کی موت کی خبر چھپا کر رکھی۔ پھر ظاہر کردی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ القاسم اس سال کے بعد کے سال میں مرا ہے۔ اس سال ان لوگوں سے ابو یزید الخارجی نے زبردست لڑائی لڑی اور ان کے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کیا، اور بارہا انہیں توڑ پھوڑ کیا۔ پھر مقابلہ کیا اور ان سے لڑائی کی۔

آخر میں اسی منصور نے ان لوگوں کو خود سے لڑائی کی دعوت دی۔ اور بارہا ان سے زبردست لڑائیاں ہوئیں۔ ان کا ذکر طوالت کا موجب ہو گا۔ لیکن ابن اثیر نے اپنی کتاب کامل میں ان باتوں کو کس قدرت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ منصور کا لشکر کبھی بھی شکست بھی کھا گیا، اور صرف میں آدمی اس کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس لیے وہ خود کافی دریتک لڑتا رہا ہے۔ اس طرح قتل ہونے کے قریب ہو کر بھی اس نے خود کو بچا کر ابوزید کو شکست دے دی۔ اور منصور کی بہادری ثابت ہو گئی۔ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بہت بڑھ گئی اور عزت اور ہیبت بھی لوگوں کی نظر و ان میں زیادہ ہو گئی اور قیروان کے شہروں کو ان کے قبضہ سے نکال لیا اور اس سے برابر لڑتا ہی رہا۔

بالآخر منصور اس پر غالب آیا اور اسے قتل کر دلا۔ جب اس کا سر منصور کے سامنے لا یا گیا تو اس نے خدا کا سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ ابو سعید بدشکل، لشکر اتنا اور مسلکا کثر خارجی تھا۔ مذہب والوں کو وہ کافر کہا کرتا تھا۔

### ابو الحسین البریدی کا قتل:

اس سال ماہ ذی الحجه میں ابو الحسین البریدی قتل کیا گیا۔ سولی پر لکھا یا گیا، پھر اسے جلا دیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ اس

نے اپنے بھائی کے خلاف تھا۔ انہوں نے عفر بن شیرزادہ سے مدد چاہی۔ پھر تو زونیا، ابن شیرزادہ کے، میان فساد پا کر نہیں اگا، جسے ابن شیرزادہ نے تاذیا۔ اس وقت اسے جمل میں؛ اتنے اور مارنے کا حکم دیا۔ پھر بعض فقہاء نے اس کے مباح الدم ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ لہذا اس کے قتل اور سولی پھر جلاد ہے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی بریدی کا زور گھٹ کیا اور حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس سال مستکفی نے سابق خلیفہ قابوہ وہاں سے نکال دینے کا حکم دے کر اپنے ظاہر کے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ اس وقت یہ بالکل فتیز ہو چکا تھا۔ اس کے لباس میں صرف اس کی عبا کا ایک نکڑا باقی رہ گیا تھا۔ جسے یہ اپنے بدن پر لپیٹ رہتا تھا۔ اور پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں رہ گئی تھی۔

اس سال موسمی سردی اور گرمی دونوں ہی بہت زیادہ ہو گئیں۔

اس سال ماہ ربج میں معز الدوامہ تیار ہو کر واسطہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو اس کی خبر تو زون کو مل گئی، اس لیے وہ خلفیۃ المستکفی کو لے کر اس کے مقابلہ کو روانہ ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کی روائی کی خبر سنی تو اپنے علاقہ میں واپس لوٹ آیا۔ اور خلیفہ نے اس پر قبضہ کر لیا اور ابوالقاسم بن ابی عبد اللہ اس کا خاصمن بن گیا۔ پھر تو زون اور خلیفہ دونوں ماہ شوال میں بغداد واپس آگئے۔

اس سال سیف الدوامہ علی بن ابی الحجاج اعمیہ اللہ بن محمد ان حلب کی طرف گیا اور اسی حلب کا یہاں الموئی سے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر حصہ کا رخ کیا اس پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن اشید محمد ابن طغی اپنے آقا کافور کے ساتھ اس کے مقابلہ کو آگیا۔ اور قسرین میں دونوں فریق کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ لیکن کوئی بھی کسی پر غالب نہ آسکا۔ اس لیے یہ سیف الدوامہ جزیرہ کی طرف لوٹ آیا۔ پھر حلب کی طرف گیا اور وہاں اس کی حکومت مستقل ہو گئی۔ لیکن وہاں رومی بہت بڑا لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو آئے تو اس نے ان کا مقابلہ کیا اور ان پر غالب آیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔



بھائی خلیفہ کے پاس پہنچ گئی۔ پھر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور خلیفہ اس کے سامنے آئا۔ اور اس کا انتقبہ "معز الدولہ" لایا۔ اس کے بھائی ابو الحسن کا عزاداری کیا۔ اور اس کے بھائی ابو علی الحسن کا القب رکن الدوامہ رکھا گیا۔ اور دراہم و تاخیر پر ان کے القاب آندہ آندہ بیٹے گئے۔ اور اب معز الدوامہ میں موئی خاصم کے مکان میں ٹھہر۔ اور اس کے دوسرے ویٹی ساتھی، وہ مرے لوگوں کے ہمراں میں ٹھہرے۔ اس طرح لوگوں کو خخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور اب معز الدوامہ نے ابن شیرزاد کو اُن دے دیا۔ اس وقت جب اپنی روپیشی کے بعد لوگوں میں ظاہر ہو گیا تو اس سے خراج دینے پر معاملہ طے کر لیا۔ اور خلیفہ کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے روزانہ پانچ ہزار دراہم مقرر کر دیے گئے اسی طرح سارے انتظام درست ہو گئے۔

## لِمُسْتَكْفِيٍ بِاللَّهِ كُو پکڑ لینا اور اُسے خلافت سے معزول کر دینا خلیفہ اُسکے بارے میں

### المطیع اللہ کی خلافت:

بائیسویں ہجادی الآخرۃ کو جب معز الدوامہ سب کے سامنے آیا، اور خلیفہ کے سامنے تخت پر بیٹھ گیا، تب دو دلیلیں آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ خلیفہ کی طرف بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ پھر اسے کھینچ کر اس کی کرسی سے اتر دیا۔ پھر اس کے گلے میں اس کے عمامہ کو پیٹ کر پک دیا۔ اس وقت معز الدوامہ خود بھی اٹھا۔ دارالخلافہ میں زبردست ہل چل مجھ گئی۔ یہاں تک کہ وہ دارالخلافہ کے خاص محل میں داخل ہو گیا، اور اب حالات پر لگئے۔ پھر خلیفہ کو کھینچ کر پیدل چلا کر معز الدوامہ کے پاس لا یا گیا، اور اسے ہاں باندھ دیا گیا۔

پھر ابوالقاسم الفضل بن المقتندر کو حاضر کیا گیا۔ اس سے خلافت پر بیعت لی گئی۔ اور اُسکے لِمُسْتَكْفِي کی دونوں آنکھیں نکلوادی گئیں، اور جیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ سن تین سو اڑتمیں بھری ہیں وہیں مر گیا۔ جیسا کہ عنقریب اس موقع پر تفصیلی حالات میں ذکر کیا جائے گا۔ پھر معز الدوامہ نے بغداد آ کر اُسکے لِمُسْتَكْفِي کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں نکلوادیں۔ پھر ابوالقاسم الفضل بن المقتندر باللہ کو تلاش کروایا کہ وہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اس کی تلاش پر لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا، اور پوری پوری کوشش کر رہا تھا، پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ باطنی طور پر معز الدوامہ سے مل گیا تھا۔ وہی اسے اُسکے کو پکڑ لینے پر راجح تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔

پھر اسے حاضر کیا گیا، اور اس کی خلافت پر بیعت لی گئی اور لقب المطیع اللہ رکھا گیا۔ اور تمام ارکان دولت اور بڑے حکام اور عوام نے بھی اس کی خلافت پر بیعت کر لی، لیکن خلافت کے اندر بہت کمزوری آگئی، یہاں تک کہ خلیفہ اس قدر بے اختیار ہو گیا کہ کسی بات سے اسے نہ رو کے کا اختیار تھا، کسی کام کے لیے حکم کرنے کا، اس کا کوئی وزیر بھی نہ رہا۔ البتہ جگہ جگہ علاقوں میں اس کے فشی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت حکومت کے چھوٹے بڑے تمام امور میں اختیار صرف معز الدوامہ کو تھا۔ یہ اس لیے کہ بنی بویہ اور ان کے ساتھ دیلمیوں میں بھی بے راہ روی اور من مانی کا رواوی کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا پختہ عقیدہ یہ تھا کہ بنی عباس نے علویین کے اختیارات کو بزوہ بھیجنے ہے۔ اسی لیے معز الدوامہ نے خلافت کو علویین کی طرف منتقل کرنے کا پختہ ارادہ

کمزور اور اپنے نصل اوگوں سے اس پر مشورہ کیا تو سبھوں نے بھی اس کی تائید کی۔ گواہیک مخفی نے جو بہت ۱۰۰،۰۰۰ روپیہ رائے اور مشورے کا مالک تھا اس نے کہا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا۔ اس لیے کہ جب غایف کو تم اور تمہارے بھائی دلیل ہے میں اس کی حکومت صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ تم اپنے کسی بھی آدمی کو اس کے قتل کا حکم دو گئے اور وہ اسے آسانی سے قتل کر دے گا۔

اور اگر علویوں میں سے کسی کو جس کے بارے میں تھیں اور تمہارے ساتھیوں کو یقین ہو کہ اس کی حکومت درست ہے، اگر اس کے قتل کے بارے میں کسی کو تم کہو گے تو کوئی بھی تمہاری بات نہ مانے گا۔ اس کے بر عکس اگر وہی تم کو قتل کرنے کے لیے کسی کو کہدے تو وہ بآسانی تھیں قتل کر دے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی سمجھ میں آگئی اور اپنے خیال سے بازا آ گیا۔ صرف دنیاوی غرض سے اللہ کے ذرے نہیں۔

اس کے بعد ناصر الدولہ بن حمدان اور معز الدولہ بن بویہ کے درمیان لڑائی چڑھ گئی۔ ناصر الدولہ تیار ہو کر اس وقت لگلا، جبکہ معز الدولہ اور خلیفہ عکبر اٹک پہنچ چکے تھے۔ اور ناصر الدولہ نے بغداد کے قریب پہنچ کر پہلے شرقی حصہ پھر مغربی حصہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے معز الدولہ اور دیلمی جو اس کے ساتھ تھے، سبھوں میں کمزوری آ گئی۔ لیکن چالاکی اور دھوکہ بازی سے معز الدولہ غالب آ گیا اور اس کے ساتھی ناصر الدولہ کے ساتھیوں کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے شہر بغداد کو لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ تاجریوں اور غیر تاجریوں کے مال سے جو کچھ ہوسا سب لوٹ لیا۔ جتنا مال اس وقت لوٹا گیا، وہ تقریباً ایک کروڑ دینار کا تھا۔ بعد میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ ناصر الدولہ بن حمدان اپنے ہمہ موصل کی طرف لوٹ گیا۔ اور معز الدولہ کی حکومت بغداد پر مضبوط ہو گئی۔ پھر تیز دوڑ نے والوں کو استعمال میں لانے لگا۔ تاکہ جلد از جملہ اپنی خبریں اپنے بھائی رکن الدولہ کو پہنچا سکے۔ لیکن لوگ اس سلسلہ میں دھوکہ میں آ گئے۔ اور اپنے بچوں کو دوڑانے کی تعلیم شروع کی۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایک دن میں میل سے کافی زیادہ دوڑ جاتے۔ اس سے بڑھ کر وہ لوگ کشتی اور مکابی بازی کے کھلیوں میں بھی مقابلے پسند کرنے لگے۔ ان کے علاوہ ایسے ایسے کاموں میں مہارتیں حاصل کرنے لگے، جن سے صرف کم عقل اور انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہی فائدہ اٹھاتے، اور تیرا کی وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کرنے لگے، ان لوگوں کے چاروں طرف ان کے حوصلے بڑھانے کو ڈھونی بجاۓ جاتے۔ یہ سب کام تکبیر، کم عقلی اور بے حیائی کی بناء پر ہوتے۔

اس کے بعد فوجیوں کو ان کی ماہانہ تاخویں دینے کی ضرورت ہوئی تو ان کی تاخوں اہوں کے عوض آبادی اور زمینوں کے علاقے ان کے نام کر دیئے گئے۔ اس طرح وہ ساری عمارتیں اور زمین ویران ہو گئیں، سوائے ان زمینوں کے جو بڑوں کو دی کی تھیں۔

اس سال بھی بغداد میں غله کی سخت گرانی ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ مرے ہوئے جانور بلیاں اور کتے بھی کھانے لگے۔ کچھ لوگ تو دوسروں کے بچے پکڑ کر انہیں ذبح کر کے انہیں بھون کر کھا جاتے۔ اس طرح لوگوں میں وباء پھوٹ پڑی۔ اس کثرت سے انسان مرنے لگے کہ کوئی کسی کو دفن کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ مردے راستے ہی میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ انہیں کتنے کھا

جاتے۔ اسی طرح چند روندوں کے عوض مکانات اور زمینیں فروخت کر دی جاتیں، مجبور ہو کر وہاں کے باشندے بھرہ کی طرف منتقل ہونے لگے۔ لیکن پھر تو زمانہ دراز کے بعد وہاں تک پہنچ جاتے، اور پھر اتنے ہی میں مر جاتے۔

اس سال القائم باحر اللہ ابو القاسم محمد بن عبد اللہ المہدی کی وقت ہو گئی اور ان کی ذمہ داریوں کو ان کے بیٹے الحسن، اسماعیل نے سن چلا، جو بہت بحمدہ اور بڑا ہباد تھا جیسا کہ ہم نے گزشتہ سال کے حالات میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کی وفات بھی صحیح قول کے مطابق اسی سال ماہ شوال میں ہوئی۔

اس سال مصری اور شامی علاقوں کا گورنر الائخید محمد بن طغیہ کی دمشق میں وفات ہوئی، اس وقت اس کی عمر سانچھ سال سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا مقام اس کے بیٹے ابو القاسم ابو الجور کو بنایا گیا۔ چونکہ وہ ابھی تک چھوٹا تھا، اس لیے کافور الائخید کو اس کا نگران بنادیا گیا، جو سارے علاقوں کی نگہداشت کرتا اور سارے امور کی دیکھ بھال کرتا۔

یہ ایک مرتبہ مصر گیا تو سیف الدولہ بن حمدان نے دمشق کا رخ کیا اور ایشید کے آدمیوں سے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، اور بہت زیادہ خوش ہوا۔ اور وہاں محمد بن احمد بن نصر الفارابی الترکی الفیلسوف سے مل گیا۔ ایک دن سیف الدولہ شریف العقیلی کے ساتھ کہیں دمشق کے کسی علاقے میں لیا تو اس کی نظر سرز میں ”غوطہ“ پر گئی، جو اسے بہت پسند آئی۔ اور کہنے لگا، مناسب یہ ہے کہ پورا علاقہ سلطان کا محل خاص ہو۔ اس طرح ہمیں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان زمینوں کو ان کے مالکوں سے لے لیا جائے۔ اس بات سے عقیل کا ذہن غصہ سے بھر گیا اور دمشق والوں کو اس نے اس کے ارادہ سے مطلع کر دیا اور کافور الائخیدی کا کوخط لکھ کر اس سے نجات پانے کی درخواست کی۔ اس لیے وہ ایک بڑا شکر لے کر ان کے پاس پہنچا اور ان کی نظروں سے سیف الدولہ کو دور کر دیا۔ اور حلب سے بھی اسے بھگا دیا۔ اور وہاں کسی کو اپنا نسبت بنادیا۔ پھر دوبارہ دمشق پر حملہ کر دیا اور بدر الائخیدی کو اس پر نسبت مقرر کر دیا۔ جو بدری کے نام سے مشہور تھا۔ پھر جب کافور مصری علاقوں میں گیا، تو سیف الدولہ حلب چلا گیا اور اسے جوں کا توں پایا۔ اور اب اس کے لیے دمشق میں لاچ کے لاکن کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ کافور وہی ہے جس کی مشہور شاعر متنبی نے ہجوبھی کی ہے اور تعریف بھی کی ہے۔

## اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

عمر بن الحسین:

امام احمدؓ کے مسلک کے مطابق کتاب الحقر کے مصنف ہیں، قاضی ابو یعلیٰ بن الفراء اور الشیخ موفق الدین بن قدامة المقدی نے اس کی شرح کی ہے۔ یہ شریق فقہاء اور عابدوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ بہت زیادہ فضائل اور عبادتوں کے مالک ہیں۔ یہ بغداد سے اس وقت نکل گئے تھے، جبکہ وہاں صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرنے کا زور پکڑ گیا تھا۔ چلتے وقت انہوں نے اپنی تمام کتابیں ایک گھر میں رکھ دی تھیں، مگر بعد میں ہی آگ لگا دی گئی تھی، اس طرح ساری کتابیں جل گئیں، ان کی تمام تصنیفات معدوم ہو گئیں، پھر وہاں سے دمشق آگئے، وہیں اقامت اختیار کر لی۔ اسی سال وہیں انتقال بھی کیا۔ ان کی قبر باب

اصفیم کے یا اس بے جو شیدوں کی قبروں کے قریب سے۔ لوگ اس کی بھی زیارت کو برادر جانتے رہتے تھے میں۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب الحجۃ میں حج کے بیان میں لکھا ہے کہ حاجی جبرا اسود کے پاس جائے اور اسے بوس دے آکر وہ وہاں یہ موجود ہو۔ یہ شرط یہ ہے ملا اس لیے بڑھایا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف اس وقت ہوئی ہے جبکہ اس جبرا اسود و قرمدہ سے آئے ہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے بسیا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور ۳۲۲ھ سے پہلے تک اسے والپیش نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ اپنے موقع پر اس کا بیان آتے گا۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ مجھ سے قاضی ابویعلی نے کہا ہے کہ ان شرقي کو بہت سی تصنیفات تھیں، مسلک کے مطابق مسائل کی بہت سی جزئیات بیان کی تھیں۔ جن کا ظہور نہیں ہو سکا، کیونکہ جب ان کے اپنے شہر میں صحابہ کرام رض کو گالیوں کی بوچھاڑ پڑنے لگی تو اپنے علاقہ بغداد سے نکل گئے تھے۔ جس گھر میں اپنی کتابوں کو امامت رکھا آئے تھے۔ اسی گھر میں آگ لگادی گئی تھی۔ اس طرح ان کی ساری کتابیں جمل گئیں اور چونکہ یہ شہر سے دور تھیں، اس لیے دوسرے علاقوں میں پھیل نہ سکیں۔

پھر خطیب رض نے ابو الفضل عبدالسمع سے انہوں نے الفتح بن شرف سے انہوں نے الخرقی سے بیان کیا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رض کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انھیاء کا فقراء کے سامنے تواضع سے پیش آنا کیا ہی عمده بات ہے۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کچھ اور بھی فرمائیں تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے فقیروں کا امیروں کے سامنے ڈینگ مارنا۔

اس کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلی اور بچی کی تو میں نے اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے پائے:

۱۔ قد كنت ميتا فصرت حيًّا و عن قريب تعود ميتا

ترجمہ: یقیناً تم مردہ بے جان تھے اب جاندار ہو گئے ہو۔ غقریب تم بے جانی کی حالت میں پرلوٹ جاؤ گے۔

۲۔ فابن بدرا البقاء بيتا ودع بدرا الفساد بيتا

ترجمہ: اسے تم ہمیشور ہے والی جگہ پر اپنا ایک گھر بنالو اور ختم ہو جانے والی جگہ کے گھر کو چھوڑ دو۔

ابن بھن نے کہا ہے کہ ان شرقي کی وفات سن تین سو چوتھیس بھری میں دمشق میں ہوئی، اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کی

ہے۔

محمد بن عسیٰ:

اور ابو عبد اللہ بن موسی الفقيہ الحنفی، جو اپنے زمانہ کے عراقی آئندہ میں سے ایک تھے۔ خلیفہ الحنفی کے زمانوں میں قاضی رہے۔ یہ شہ بڑے فاضل تھے۔ چوروں نے ان کے گھر کو اس خیال سے لوٹا تھا کہ یہ بہت مالدار ہوں گے اور ان میں سے کسی نے انہیں بہت زیادہ مار پیٹ کی، جس کی تکلیف سے بے چین ہو کر انہوں نے خود کو زمین پر گرا دیا، بالآخر اسی چوٹ سے اس سال ماہ ربیع الاول میں وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ

**محمد بن محمد بن عبد اللہ:**

ابو الفضل اسمی، ابو زین، تحقیقی، الحمد لله، الشاعر بہت سی اس، یہ تینیں انہیں بع رکے کتابی ختم دی۔ ہر سو ماہ اور جمعرات کے ان روزے رخا رہت تھے۔ رات کی آواز اور تصنیف کے کام کو بھی تینیں چھوڑتے تھے۔ یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے دربار میں شہادت پانے کی، عاکرت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بادشاہ کا وزیر بنا دیا۔ پھر شرداروں نے ان سے اپنی ماہنہ تxonواہ کا مطالبہ کیا اور یہی جماعت لے کر وہ ان کے دروازہ پر اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے جام کو بلوار پر سر کے بال منڈوا لیے۔ گھر کو روشن کیا، خوشبو لگائی، اپنا کفن پہننا اور نماز پڑھنے کو کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں لوگ گھر میں داخل ہو گئے اور انہیں سجدے کی حالت میں قتل کر دیا۔ رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ اس سال ماہ ربیع الآخرۃ کا ہے۔

**الاشید محمد بن عبد اللہ بن رجح طفح:**

ابو بکر، جن کا لقب الاشید تھا، جس کے معنی ہوئے شاہنشاہ۔ یہ لقب الراضی نے ان کو دیا تھا۔ کیونکہ یہ فرغانہ کے بادشاہ تھے۔ اور ہر وہ شخص جو اس کا بادشاہ تھا اسے الاشید ہی کہا جاتا۔ جیسا کہ جو شخص اشرویہ کا بادشاہ بتا، اسے الاشید کہا جاتا۔ اور جو شخص خوارزم کا بادشاہ بتایا جاتا، اسے خوارزم شاہ کہا جاتا۔ اور جو شخص جرجان کا بادشاہ ہوتا، اسے صوک کہا جاتا۔ اور جو شخص آذربایجان کا بادشاہ ہوتا اسے اصہند اور جو شخص طبرستان کا بادشاہ ہوتا اسے ارسلان کہا جاتا۔ یہ تحقیق ابن الجوزی نے اپنی کتاب المختلجم میں کی ہے۔ اور سکیل نے کہا ہے کہ عرب والے اس کا فرض شخص کو جو شام اور سارے جزیروں کا بادشاہ ہوتا اسے قیصر اور جوفارس کا بادشاہ ہوتا اسے کسری اور جو شخص یعنی کا بادشاہ ہوتا اسے تیغ اور جو شخص جسہ کا بادشاہ ہوتا اسے نجاشی اور جو ہندوستان کا بادشاہ ہوتا اسے بطيموس، اور جو شخص مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون اور جو شخص اسکندر یہ کا بادشاہ ہوتا اسے موقس کہتے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ذکر کیا ہے۔

ان کی وفات دمشق میں ہوئی اور بیت المقدس لے جا کر انہیں دفن کیا گیا۔ رحمہ اللہ

**ابو بکر الشبلی:**

صوفیوں کے مشائخ میں سے ایک ہیں، ان کے نام کی تحقیق میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ یہ نام بتائے گئے ہیں۔ دلف بن جعفر، دلف بن مجدد، جعفر بن یونس، ان کا آبائی وطن وہ گاؤں تھا جس کو شبلہ کہا جاتا تھا جو ملک خراسان کے علاقہ اشرویہ کا ایک دیہات تھا۔ ان کے والد خلیفہ موفق کے دربار میں بڑے محافظ تھے۔ ان کے ماموں اسکندر یہ کے نائب حاکم تھے۔ خیر النساج کے باخنوں پرشلی نے توبہ کی تھی، اس طور پر کہ انہیں ایک جگہ وعظ کرتے ہوئے سناتوں کے دل پر بڑا اثر ہوا اور فوراً توبہ کر لی۔ پھر فقراء اور مشائخ کی صحبوتوں میں رہے گئے۔ پھر قوم کے اماموں میں سے ہو گئے۔ جنید نے کہا ہے کہ شبلہ تمام اولیاء کے تاج تھے۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ ہم سے ابو الحسن علی بن محمود الزوینی نے کہا ہے کہ میں نے علی بن امشی اتمی کو یہ کہتے

وَسَبَّ سَابِقٍ كَمْ مِنْ أَيْكَ دُرِّ شَلْلٍ كَمْ كَمْ مِنْ أَيْلَى۔ اَنْتَسِ وَيَكْحَا كَمْ جَوْشُ كَمْ حَالَتْ مِنْ يَهْ اَشْعَارَ كَمْ دَيْ تَهْ۔

عَلَىٰ عَدْكَ لَا بَصِيرٌ + مِنْ عَادِقَةِ الْقَرْبَ

تَرْجِيمَهُ: تمہاری ذوری پر وہ شخص صہر نہیں ترسنا ہے + جو تمہارے قرب کا عادی ہو چکا ہو۔ اور تیرے فرات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ شخص + جس کو تیری محبت لے خام بنا دیا ہو۔

فَإِنْ لَمْ تُرِكِ الْعَيْنُ فَقَدْ يَصْرُكَ الْقَلْبُ

تَرْجِيمَهُ: اگر تمہیں ہماری یہ ظاہری آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے کہ قلب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اَنَّ كَمْ دَوْسَرَ بَهْتَ سَے اَحَوَالَ اُوْرَكَ اَمْتَسِيْنَ مَنْقُولَ ہِيْن۔ ہُمْ نَے اَيْكَ مَوْقَعَ پَرِ يَهْ تَادِيَا ہَيْه کَمْ يَهْ بَھِي انَّ لَوْگُوں مِنْ سَے ہِيْن جِنْ پَرْ حَلَاجَ کِيْ حَقِيقَتَ اَقْوَالَ مِنْ وَاضْعَنَهِنِيْسِ ہُوْسَكِيْ جَوَاسَ کِيْ طَرْفَ مَنْسُوبَ ہَوَيْ تَهْ۔ کَيْوَنَکَه اَسَ مَعَالَمَه مِنْ وَهْ غُورَوْفَكَرَ نَهِيْنَ کَرْ سَكَنَه تَهْ، جَوْ حَلَاجَ کِيْ الْحَادَ اُوْرَتَحَادَذَاتَ وَغَيْرَه مِنْ اَسَ مَنْقُولَ ہِيْن۔

جَبْ اَنَّ کَيْ وَفَاتَ کَوَافِتَ قَرِيبَ آيَا، تَوَانَنِيْ اَيْكَ خَاصَ خَادِمَ سَے فَرْمَانَ لَگَه۔ تَجْهِيْزَ پَرِ اَيْكَ شَخْصَ کَأَيْكَ کُھُوْنَ دَرَبَمْ باقِي تَهَا۔ مِنْ نَے اَسَ کَعَوْضَ اَسَ کَتَحَقَّ کِيْ طَرْفَ سَے ہَزَارُوْنَ دَرَبَمْ صَدَقَ کَرْ دِيْنَه ہِيْن۔ لَيْكَنَ اَسَ کَبَادَوْنَ مِيرَادَلَ اَسَ سَے بَدَھَ کَرَ کَسِيْ اُوْرَچِيزَ سَے مَتَكْلِفَنِيْنَ ہِيْن۔ پَهْرَائَسَ کَمْ دَيْمَ دِيْا کَه اَنَّ کَوَضُوكَرَادَے۔ چَنَانِچَه اَسَ نَے وَضُوكَرَادَايَا، مَگَرَذَا زَھِيْ کَا خَلَالَ کَرَانَا چَھُوْرَ دِيَا۔ اَسَ وَقَتَ اَنَّ کَيْ زَبَانَ اَگَرْ چَهَ بَجَهَ ہُوْجَلِيْ تَهِيْ، پَھَرَبَھِيْ اَنْہُوْنَ نَے اَپَنَا ہَاتَھَ اَخْتَاهَا اُوْرَ اَپِيْ دَارَزَھِيْ کَا خَلَالَ کَرَنَ لَگَه۔

یَهْ بَاتِمِيْ اَبَنَ خَلَاكَانَ نَے وَفَاتَ مِنْ ذَكْرِکَیْ ہِيْن۔ اَنَّ کَا يَهْ وَاتَّ مَنْقُولَ ہِيْن کَمْ یَهْ جَنِيدَ کَيْ پَاسَ جَاَکَرَانَ کَسَانَه کَھَرَے ہوَگَئَه اُوْرَ اَپِيْ دَوْنَوْنَ ہَاتَھُوْنَ سَے تَالِيْ بَجاَکَرَیْ اَشْعَارَ پَڑَهَنَه لَگَه۔

عَوْدُونَى الْوَصَالُ وَالْوَصَلُ عَذْبُ

تَرْجِيمَهُ: دَوْسَتوْنَ نَے مجَھَه وَصَالَ کَا عَادِيِّ بَنَادِيَا ہَيْه وَصَالَ تو بَهْتَ شَيْرِيْسِ ہُوْتَا ہَيْه اُوْرَ روْکَ کَرْ مجَھَه تَكْلِيفَ پَہْنَچَائَیَ ہَيْه اُوْرَ رَكَاوَثَ سَخَتَ ہُوتَیَ ہَيْه۔

رَعْمَوا حِينَ اَعْتَبُوا انْ جَرْمَى فَرْطَ حَبْسِيْ لَهُمْ وَمَا ذَاكَ ذَنْبُ

تَرْجِيمَهُ: جَبْ مِيرَے دَوْسَتوْنَ نَے مجَھَه پَرِ عَتَابَ کَیَا تو لَوْگُوں نَے کَہَا کَه مِيرَاقْصُورَانَ سَے مِيرَى محْبَتَ کَا زَيَادَه ہُوْنَا ہَيْه، لَيْكَنَ یَهْ تَوْ کَوَئِيْ گَنَاهَ کَيْ بَاتَ نَهِيْنَ ہَيْه۔

لَا وَحْقَ الْخَضُوعَ عَنْدَ التَّلَاقِيْ مَا جَزَاءَ مَنْ يَحْبُبُ الْاِبْحَبَ

تَرْجِيمَهُ: نَهِيْنَ مَلَاقَاتَ کَوَقَتَ عَاجِزَیِّ کَاحْقَنَ ہَيْه، جَوْ شَخْصَ محْبَتَ کَیَا کَرَنَا ہَوَاسَ کَابَدَلَ سَوَائَیِّ محْبَتَ کَے اُوْرَ کَیَا ہوَسَکَتَا ہَيْه۔

اَنَّ کَا بَيَانَ ہَيْه کَمْ نَے رَصَافَهَ کَيْ جَامِعَ مَسْجِدَ کَے درَوازَے پَرِ اَيْكَ نَگَنَگَ مَجْنُونَ کَوَدِیْکَھَا۔ وَهْ کَمَه رَهَا تَھَا کَمْ مِنْ اللَّهِ کَا

دِيْوانَهَ ہُوْنَ، مِنْ نَے کَہَا تمَ چَھَپَ کَرْ مَسْجِدَ مِنْ جَاَکَرَنَا زَيْکَوْنَ نَهِيْنَ پَڑَهَتَے ہَوَ، تو جَوَابَ مِنْ یَهْ اَشْعَارَ کَھَه۔

وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَالَ حَقْمِ فِيْهِ عَسْرٍ  
شَجَنَّدَهُ لَوْكٌ لَبَتَّهُ هِنْ هَارِكٌ مَلَاقَتْ كَوْمَهُ  
وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَالَ حَقْمِ فِيْهِ عَسْرٍ  
شَجَنَّدَهُ لَوْكٌ لَبَتَّهُ هِنْ هَارِكٌ مَلَاقَتْ كَوْمَهُ

وَلَمْ يَأْفُوا مَسْتَقْبَلَهُ  
تَرَجَّهُمَا: جَبْ أَنْهُوْنَ نَمِيرَهُ حَالِي زَارَكُوْدَيْهَا وَنَاكَ  
وَلَمْ يَأْفُوا مَسْتَقْبَلَهُ  
تَرَجَّهُمَا: جَبْ أَنْهُوْنَ نَمِيرَهُ حَالِي زَارَكُوْدَيْهَا وَنَاكَ

خَطِيبٌ نَمِيرَهُ تَارِخَهُ مَلَكَهُ بَهَّهُ  
خَطِيبٌ نَمِيرَهُ تَارِخَهُ مَلَكَهُ بَهَّهُ

مَضَتِ الشَّبَّيْهَةُ وَالْجَلَّيْهَةُ فَانْبَرَى  
بَمْوَدِ عَيْنِ وَلِيْسَ لِيْ قَلْبَانِ

تَرَجَّهُمَا: زَمَانَهُ كَهَادِثَاتِهِ نَمِيرَهُ سَاطِحَهُ اَنْصَافَهُ نَهْيَنِ  
مَيرَهُ تَارِخَهُ مَلَكَهُ بَهَّهُ  
مَيرَهُ تَارِخَهُ مَلَكَهُ بَهَّهُ

ان کی وقت اس وقت ہوئی جبکہ سالی کے ختم ہونے میں صرف دو دن باقی رہ گئے تھے، اور ان کی عمر ستا سی برس کی ہوئی تھی۔ بغداد کے خیزان کے قبرستان میں مدفن ہوئے۔

## واقعات - ۳۳۵

اس سال خلیفہ المطیع اللہ کی دارالخلافہ میں خلافت پختہ ہو گئی۔ اور معز الدولہ بن بویہ اور ناصر الدولہ بن حمدان سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ پھر ناصر الدولہ اور تکین ترکی میں بارہاڑائیاں ہوئیں۔

بالآخر ناصر الدولہ تکین پر غائب آگیا اور اس کی موجودگی میں تکین کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ اور اب موصل اور جزیرہ پر بھی اس کی حکومت مضبوطی ہو گئی۔ رکن الدولہ نے اسی پر قبضہ کر لیا اور خراسانیوں سے اسے چھین لیا اور اب بنی بویہ کی حکومت بہت وسیع ہو گئی۔ کیونکہ اس کے قبضہ اختیار میں رہی کے پہاڑی علاقے، اصبهان، فارس، اہواز اور عراق بھی آگئے اور موصل اور دیار ریجہ وغیرہ سے اس کے پاس نیکس آنے لگا۔ پھر معز الدولہ اور ابوالقاسم بریدی کے شکروں میں لڑائیاں ہوئیں۔ بریدی کے لوگوں نے مخالف کو شکست دے دی اور ان کے بڑے سرداروں کی ایک جماعت کو قید کر لیا۔

اس سال رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی میں سرحدی علاقوں کے امیر سیف الدولہ بن حمدان کو کامیابی ہوئی تھی، اس لیے فریقین کے قیدیوں میں تبادلہ ہوا، جس میں ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کو دوسروں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا گیا۔  
والحمد لله والمنة.

## مشہور لوگوں میں انتقال کرنے والوں کے نام

اس سال تک ہو رہوں میں انہیں انتقال ہوا ان کے نام یہ ہیں۔

احسن بن جمیل بن الحسین:

قاضی استرابازی۔ بہت سی روایتیں نقش کی ہیں ان کے ہاں حدیثیں لکھوانے والوں کی باضابطہ جماعت ہوا کرتی تھی۔ اپنے شہر میں زمانہ دراز تک حاکم رہے۔ بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ تجدی کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان کی خوش طبعی اور بیشگی کی باتیں ضرب المثل ہوتی تھیں۔ ان کی باندی کے سینے پر انزال کے وقت ان کو اچانک موت آگئی۔

عبد الرحمن بن احمد:

بن عبد اللہ ابو عبد اللہ الحنفی۔ انہوں نے ابن ابی الدنیا وغیرہ سے حدیثیں سنی ہیں اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ اللہ بہت ذہین اور بڑے حافظہ کے مالک تھے۔ انہوں نے پچاس ہزار حدیثیں زبانی روایت کی ہیں۔

عبد السلام بن رغبان:

بن عبد السلام بن حبیب بن عبد اللہ بن رغبان بن زید بن تمیم ابو محمد الحنفی، جن کا لقب دیکھ لجن تھا۔ شاعر، نداۃ، اور شیعی اعتقیدہ تھے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ بنی تمیم کے غلاموں میں سے تھے۔ ان کے اشعار خماریہ اور غیر خماریہ سب مشہور ہیں۔ ابو لواس شاعر نے خماریات میں ان کے اشعار کو بہت پسند کیا ہے۔

علی بن عیسیٰ بن داؤد:

بن الجراح ابو الحسن۔ یہ المقتصد اور القاهر دونوں خلیفوں کے وزیر رہ چکے ہیں۔ سن و سو پنٹا لیس بھری میں ولادت ہوئی۔ بہت سے لوگوں سے روایتیں سنی ہیں۔ اور ان سے طبرانی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ ثقہ بہت ذہین، بڑے عالم اور پاک دامن تھے۔ بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، بہت روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے تھے۔ اہل علم کو بہت پسند کرتے، اور ان کی مخلسوں میں بہت رہتے۔ ان کا نسلی تعلق فارس سے تھا۔ حاج کی خدمت میں بہت رہنے والے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ساتھ لا کھ دینا کہا، جن میں سے پھلا کھا اتنی بزرگ دینا تینکی کے راستوں میں خرچ کیے۔

بغداد سے نکالے جانے کے بعد جب یہ مکہ معظمه میں داخل ہوئے تو سخت گرمیوں میں خانہ کعبہ اور صفا و مردہ کے درمیان طوف کیا۔ پھر اپنے گھر آ کر لیٹ گئے اور کہنے لگے میں برف کا شربت پینا چاہتا ہوں، کسی نے جواب دیا یہاں یہ ناممکن ہے۔ جواب دیا، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے اگر چاہا تو عنقریب اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اور میں شام تک صبر کروں گا۔ دو پھر کے وقت ایک بد لی آئی اور اس سے بہت سے اولے گرے۔ ان کے کسی ساتھی نے ان میں سے کچھ برف ان کے لیے جمع کر لی، اور

یہاں کر کرکھدی۔ اس وقت بروزے سے تھے، شام کے وقت برف نکال کر لائی گئی۔ ہے۔ محمد میں گئے تو کچھ تحریر کے ثبوت پیش کیے گئے اور جو ایک میں برف دی گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے قریبے کے تمام حسنیوں اور حجاوہ ان کے پلانا شروع کیا۔ لیکن نو دن میں سے درہ بہر بھی نہیں پیا۔ جب وہ اپنے گھر بھی تھے تو پھر ان کے ساتھی کے ان دشربت پیش یا جو پہلے شربت سے ٹھوڑا انسان ان کے لیے چھپا کر رکھا یا تھار اور ساتھی نے ان کے پینے کے لیے انہیں زبردست تسمیں دیں۔ بہت کوشش کے بعد انہوں نے اس میں سے کچھ پی لیا، اور کہنے لگا، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے کاش میں اس وقت اپنی مغفرت کی تمنا کیے ہوتا۔ رحمہ اللہ وغفرله۔

فمن کان عسی سائلًا بشماتةٍ لِمَا نابَنِی او شامتاً غیر سائلٍ

**ترجمہ:** اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرنے والا ہو مصیبت پر خوش ہوتے ہوئے جبکہ وہ مجھے لاحق ہو یا بغیر سوال کے ہی وہ خوش ہو رہا ہو۔

فقد ابرزت مني الخطوب ابن مرة صبوراً على اهوان تلك الزلازل

**ترجمہ:** تو یقیناً ایک شریف کو میری مصیبتوں نے ظاہر کر دیا ہے، ان زبردست بلادیں والی مصیبتوں پر بہت زیادہ صابر ہنا کر۔ ابو القاسم علی بن الحسن الغنوی نے اپنے والد سے انہوں نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ کرخ کا باشندہ ایک عطار عامل سنت ہونے پر مشہور تھا۔ اتفاق سے اس پر چھ سو دیناروں کا قرض چڑھ گیا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی دکان بند کر دی اور اپنی کمائی کے ذریعہ سے محروم ہو کر اپنے گھر بیٹھ گیا۔ اور دعا کرنے اللہ کے پاس گڑ گڑا نے اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگ گیا۔

ان ہی دنوں اس نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ کر میں نے اسے حکم دیا ہے کہ تم کو چار سو دینار دے۔ صحیح کے وقت وہ وزیر کے دروازہ پر پہنچا، لیکن کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ اس لیے وہ وہیں پر بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ شاید ایسا کوئی آدمی مل جائے جس سے وزیر تک اس کی رسائی ہو جائے۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہ گیا۔ یہاں تک کہ اب ان لوگوں کی واپسی کا وقت قریب ہو گیا، تو اس نے ایک دربان سے کہا، تم وزیر کو جا کر یہ کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ خواب کے واقعہ کو اس کے سامنے ظاہر کروں۔ یہ سن کر دربان نے کہا، کیا تم ہی خواب والے آدمی ہو؟ وزیر نے تو تمہاری تلاش میں بار بار مختلف آدمیوں کو بیچا رہا، پھر وہ دربان وزیر کے پاس گیا اور خبر سے مطلع کر دیا تو اس نے کہا، اسے فرائے آؤ۔ یہ وہاں گیا تو وزیر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے اس کے حالات نام، گھر کا پتہ اور کیفیتیں ساری باتیں دریافت کیں، اس نے ساری باتوں کے جواب دیئے۔

پھر وزیر نے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے حکم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چار سو دینار دوں۔ لیکن صحیح ہونے کے بعد سے میں کسی ایسے شخص کو نہیں پار ہا ہوں، جو تمہارا پتہ بتا سکے اور نہ میں تمہیں پیچا سنا ہوں۔ اور نہ مجھے تمہارا

پتہ معلوم ہے۔ شیخ نے ان وقت سے اب تک بہ بالوں کو تمہاری تاشی میں بھجا۔ اب اللہ تمہارا بھاگرے کہ تم خود ہی سیرے پاس آ گئے ہو۔ پھر وزیر نے ایک ہزار دینار لاکر دینے کے لیے کسی کو حکم دیا۔ اس کے بعد کہا یہ چار سو تو رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ چھ سو یہری طرف سے ہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اللہ کی تم! میں تو اس سے زائد چھ سو نیس بیس بیس کا، جس کا مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ میں تو اسی میں خیر و برکت پانے کا یقین رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر صرف چار دینار لے لئے۔

وزیر نے لوگوں سے کہا، یہ اس کی سچائی اور اس کا یقین ہے۔ وہاں سے چار سو دینار لے کر گھر چلا آیا، اور اپنے قرض خواہوں کو ان کے قرض دینے لگا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تین برس تک انتظار کر لیں گے۔ تم ان سے اپنی دکان کھولو اور اپنا کاروبار بڑھاؤ۔ لیکن اس نے کم از کم ایک تھائی لینے پر ان کو مجبور کیا۔ اس طرح دوسراں میں تقسیم کر دیئے اور یقینہ دوسو سے اپنی دکان شروع کر لی۔ انہیں سے سال ختم ہونے سے پہلے ہی اسے ایک ہزار کا فتح ہو گیا۔ اس علی ہن وزیر عسیٰ وزیر کے بہت سے اچھے واقعات منتقل ہیں۔ ان کی وفات اس سال نوے برس کی عمر میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کے سال میں انتقال ہوا۔ واللہ اعلم

**محمد بن اسماعیل:**

بن اسحاق بن بحر، ابو عبد اللہ الفارسی الفقيہ الشافعی۔ حدیث میں ثقہ، ثبت اور بڑے عالم تھے۔ ابو زرع، دمشقی وغیرہ سے حدیثیں سنیں، ان سے دارقطنی وغیرہ نے اور دوسرے شخص نے ان سے روایت کی ہے، وہ ابو عمر بن مہدی ہیں۔ اسی سال ماہ شوال میں وفات پائی۔

**ہارون بن محمد:**

بن ہارون بن علی ہن عمرو ہن جابر ہن یزید ہن جابر ہن عامر ہن اسید ہن تمیم ہن صحیح ہن ذہل ہن مالک ہن سعید ہن حبہۃ البُوْجعفر، قاضی ابو سعید عبد اللہ الحسن ہن ہارون کے والد، ان کے آباً اجداد اور قدیم زمانے میں عمان کے غلاموں میں سے تھے۔ ان کے دادا یزید بن جابر نے زمانہ اسلام پایا۔ اسلام لانے اور بہتر طور پر اسلام لائے۔ یہی ہارون سب سے پہلے اپنے قدیمی وطن عمان سے منتقل ہو کر بغداد آئے اور حدیث کی روایت کی۔ اپنے والد سے بھی روایت کی، جو بڑے عالم اور ہر فن میں ماہر تھے۔ ان کا گھر ہر زمانہ میں علماء کا مرکز تھا۔ ان کے خرچے ان ہی علماء کے ذمے ہوتے۔ ان کا مرتبہ بغداد میں بہت بلند اور بازعب تھا۔ دارقطنی نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نحو، لغت اور شعر، معانی قرآن اور علم قرآن میں بلند پایہ کے تھے۔

ابن الاشیر نے کہا ہے کہ اسی سال ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن العباس بن صول الصوی کی وفات ہوئی۔ فنون آداب و اخبار کے بڑے عالم تھے اور ابن الجوزی نے اس کے بعد کے سال میں ان کی وفات کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

### ابو العباس بن القاضی احمد:

بن ابی احمد الطبری جو شافعی مسکل کے فقیر تھے۔ این سریع کے شاہزاد۔ کتاب الحجیم اور کتاب المفتاح انہی کی تفاصیل ہیں۔ یہ کتابیں متن میں ان قی شرح ابو عبد اللہ الحسین کے علاوه ابو عبد اللہ الحنفی کے بھی ہیں۔ ان کے والد اول و اخبار اور آثار سنایا کرتے تھے اور یہ خود طرسوں کے قاضی بنے۔

یہ بھی لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ول پر خشیت اللہ کا غلبہ ہوا، گرنے بیہوش ہو گئے اور اسی سال وفات پائی۔

## واقعات — ۳۳۶ھ

اس سال معز الدولہ اور خلیفہ المطیع للہ نے بغداد سے بصرہ جا کر اسے ابوالقاسم البریدی کے قبضہ سے چھین لیا اور ابو القاسم خود اور اس کے بہت سے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس طرح معز الدولہ بصرہ پر قابض ہو گیا۔ قرامط کو پورے طور پر ڈرانے اور دھمکی دینے لگا کہ ان کے تمام شہروں کو ان سے چھین لے گا۔ خلیفہ کی زمینوں میں اتنی زمین کا اضافہ کر دیا کہ وہ دو لاکھ کی آمدی ہونے لگی۔

پھر معز الدولہ اپنے بھائی عماد الدولہ کی ملاقات وابہاڑ گیا۔ وہاں اپنے بھائی کے سامنے زمین کو بوسہ دیا، اور بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر اس نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر نہ نہ بیٹھا۔ پھر خلیفہ کے پاس بغداد لوٹ گیا۔ اور انتظامات پھر سے درست کیے۔

اس سال رکن الدولہ نے دیلم کے بادشاہ کے بھائی دشکیر سے طبرستان اور جرجان کے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس لیے دشکیر نے خراسان جا کر اس کے حاکم سے مدد چاہی جس کی تفصیل غقریب آتی ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### ابو الحسین بن المنادی:

احمد بن جعفر بن محمد بن عبد اللہ بن یزید۔ انہوں نے احادیث اپنے دادا اور عباس الدوری اور محمد بن اسحاق الصانعی سے سنی ہیں۔ حدیث کی روایت میں ثقہ، امین، جیۃ اور صادق تھے۔ بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اور بہت سے علوم کو جمع کیا ہے۔ جبکہ ان میں سے صرف تھوڑے سے بھی علوم کو دوسروں سے سنائے۔ یہ ان کی اپنی تیزی طبع کا نتیجہ ہے۔ سب کے آخر میں ان میں سے جس نے روایت کی ہے وہ محمد بن فارسی اللغوی ہیں۔

ابن الجوزی نے ابو یوسف القدمی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابو الحسین بن المنادی نے علوم قرآن کی چار سو

امرو جا لیتیں تے کیجیا اند کتا جسی تصنیف کوئی نہیں نہیں کی کہ، میر کوئی فضل یا فخر کی نہیں تھا لیکن میر کی ملکیت اور حکومت اور سلطنت میں مغل و عُتل کا جامع ہوتا ہے۔

ابن الجوزی نے یہ کہی تھی کہ بولوئی ان فی مصنفات اور بائیوگرافیوں میں اونچی اپنی پیشہ و نسبت اور اپنے علم و خدمت کے حوالوں کے معاوہ کسی دوسری سہیب میں نہیں مل سکتی ہیں۔ اسی برس کی مرحوم پاکستانی محروم تیس وفات پائی ہے۔

### الصوی محمد بن عبد اللہ:

بن العباس بن محمد صول ابو بکر الصوی۔ یہ فتوی ادب بادشاہوں کے حالات سے اچھی طرح واقف اور خلفاء کے حالات و اتفاقات اشراف اور طبقات شعراء کے حالات کے جانے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ انہوں نے ابو داؤد السجستاني، مبرد، شلب اور ابوالعناء، غیرہم سے روایت کی ہے۔ یہ بہت زیادہ روایت کرنے والے اچھے حافظوں والے اور کتابوں کی تصنیف میں بہت ماہر تھے ان کی بے شمار کتابیں ہیں۔ خلفاء کی ایک جماعت کی ہم نشینی کی ہے اور ان میں سے بلند مرتبہ پایا ہے۔ ان کے دادا اصول اور ان کے گھروالے جرجان کے بادشاہی خاندان سے تھے۔ ان کی اولاد بڑے محروم میں تھی۔ یہ صوی اچھے عقیدے اور اچھے مسلک کے تھے۔ ان کے اشعار بہت عمدہ ہوتے۔ ان دارقطنی جیسے دوسرے حافظین حدیث نے روایت کی ہے۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

احببت من أحجله من كان يشبهه و كل شيء من المعشوق معشوق

ترجمہ: میں نے اس کی چھت کی بناء پر ہر اس شخص سے محبت کی جو اس کے مشابہ ہو کہ معشوق کی ہر چیز معشوق ہے۔

حشی حکیت بجسمی ماء مقلته کمال سقemi من عینیه مسروق

ترجمہ: یہاں تک کہ میں نے اپنے جسم کو اس کی آنکھ کے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ گویا کہ میرا مرشد اس کی آنکھوں سے چرا لیا گیا ہے۔

یہ صوی اپنی ذاتی ضرورت سے بغداد سے بصرہ کو گئے، اور اس سال و ہیں انتقال کر گئے۔

اسی سال شیخ ابو زید بکی لڑکی کی وفات ہوئی ہے، جو کہ بڑی عابدہ، عبادت گزار مکمل کرم میں مستقلار ہے و الی تھیں۔ ان کے والد بھجوں کے پتوں کو فروخت کر کے روزگار فراہم کرتے اور اس میں سے ہر سال اپنی لڑکی کو تمیں درہم بھیج دیا کرتے۔ انہی درہموں سے یہ اپنی زندگی گزارتیں۔

ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ان کے والد نے اپنے کسی ساتھی کے ہاتھو وہ درہم لڑکی کو بھیج دیے۔ اس نے راستہ میں اپنی طرف سے ان میں میں درہم اور ملا کران کی لڑکی کو اس غرض سے دیئے تا کہ اس سے کچھ نیک سلوک ہو اور ان کے اخراجات میں کچھ سہولت ہو۔ انہوں نے یہ درہم الٹ پلٹ کر دیکھے، اور ان سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے کچھ درہم ان میں ملا دیئے ہیں۔ میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں، جس کی خوشنودی کے لیے آپ ادا بیگی حج کو آئے ہیں۔ جواب دیا کہ ہاں

میں نے میں درہم ان میں ملائے ہیں۔ کچھ لگنی آپ پر واپس لے جائیں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیت نیکی کی دہوتی تو میں آپ پر بدعا کرتی۔ کیونکہ آپ نے مجھے اب سے آندہ سال تک جیونا رکھا ہے۔ اور اب گھوڑوں کی خود و بڑیوں کے عادوں سے یہ کوئی خدا باتی نہیں۔ انہوں نے کہا اپنا آپ ان میں سے وہ قریں درہم تو میں جو آپ کیکے والد سے آپ کو بھیجیں ہیں۔ اور میرے جس چھوٹے ہیں۔ کچھ لہیں اب یہ کہنی نہ ہو گا۔ کیونکہ آپ نے میرے اور اپنے سب ملا دیے ہیں۔ اور میں اپنے درہموں کی تمیز نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے کہا، مجبوراً میں وہ سارے درہم لے کر ان کے والد کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی ان کے لینے سے انکار کر دیا۔ اور کہا، تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، اور میری لڑکی کی میمعشت میں شنگلی کر دی۔ اب انہیں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔

## واقعات — ۳۴۵

اس سال معز الدولہ بغداد سے موصل گیا، وہاں ناصر الدولہ سے مقابلہ ہو گیا اور اسے شکست دے دی۔ اس طرح معز الدولہ بن بویہ ماہ رمضان میں موصل کا حاکم بن گیا۔ اور ان کے مال چھین لیے۔ پھر اس ناصر الدولہ بن حمدان سے اس کے ماتحت تمام لوگوں پر قبضہ کر لینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں اس کے بھائی رکن الدولہ کے پاس سے خبر آئی کہ خراسانیوں کے مقابلہ میں اس کی مذکوری۔ اس لیے یہ اس بات پر مجبور ہو گیا۔ ناصر الدولہ سے یہ معاهدہ کر لےتا کہ اس کے قبضہ میں جزیرہ اور شام کے جنتے علاقے ہیں ان کے بد لے وہ سالانہ اسی ہزار درہم دیا کرے۔ اور یہ کہ اس کے لیے اور اس کے دونوں بھائیوں عواد الدولہ اور رکن الدولہ کے نام اس کے علاقے کے تمام منبروں پر خطبوں کے دوران لیا کرے چنانچہ وہ ان شرطوں پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد معز الدولہ بغداد لوٹ گیا۔ وہاں سے اپنے بھائی کے پانچ بھاری شکر بھیج دیا، اور خلیفہ سے اس کے لیے خراسان کی حکومت کا وعدہ لے لیا۔

اس سال سیف الدولہ بن حمدان حلب کا حاکم روئی مملکتوں میں داخل ہو گیا تو رومیوں کے ایک بڑے شکر نے اس کا مقابلہ کیا، اور دونوں فریقوں میں زبردست قتل و قتال کی نوبت آئی، یہاں تک کہ سیف الدولہ شکست کھا گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب رومیوں نے لے لیا۔ اور طرسوں والوں سے سخت نقصان اٹھایا۔ فاتح اللہ وانا الیہ راجعون۔  
ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماہ رمضان میں دجلہ میں اکیس اور ایک تھائی ہاتھ پانی اونچا ہو گیا۔

## مشہور لوگوں میں انتقال کرنے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں جن کا انتقال ہوا، ان کے نام یہ ہیں:

عبداللہ بن محمد:

بن حمودیہ بن نعیم بن الحکم ابو محمد الجعجع۔ یہی حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری کے والد ہیں۔ ترstell سال تک اذان دیتے رہے۔

اور یا نئی بہادر دوں میں شرکت کی اور علماء، برائے ایک لاکھ خرچ کیا۔ رات کے وقت، دریتک تجدید یافتہ رہتے۔ بہت زیاد صد قات دیتے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل اور مسلم بن الحجاج سے ملاقات کی ہے۔ ان فرزیمہ وغیرہ سے حدیثیں غل کی ہیں۔ تراویہ پر اس کی مریا تروفات پائی۔

### قدامہ الکاتب المشهور

یہ قدامہ بن جعفر بن قدامہ ابو الفرج اکابر ہیں۔ مسئلہ خراج اور فن تابت میں ان کی تصنیفیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کی اقتداء کرتے۔ ثلب سے کئی مسائل دریافت کیے ہیں۔

### محمد بن علی:

بن عمر ابو علی جو نیسا پور میں اکثر فصیحت کیا کرتے۔ اپنے ان مشائخ سے جن جن سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ان سے روایت میں تدلیس کا کام بہت کرتے۔ اسی سال ایک سو سات برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ اللہ ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے۔

### محمد بن مطہر:

بن عبداللہ ابوالمجہاج۔ مالکی مسلک کے فقیہ اور فرائضی ہیں۔ مدھب مالکیہ کی فقہ پر ان کی ایک تصنیف ہے۔ فن فرائض میں ان کی کئی تصنیفات ہیں جن کی تطہیر کرم ہے۔ یاد یہ امام ضل اور سچ تھے۔ رحمۃ اللہ

## واقعات — ۳۳۸

اس سال ماہ ربیع الاول میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان زبردست بنتے کھڑے ہوئے اور کرخ لوٹ لیا گیا۔ ماہ جمادی الآخرہ میں ابوالسائب عتبہ بن عبید اللہ الہمد افی قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز ہوا۔ اس سال ایک شخص کا ظہور ہوا۔ جسے عمران بن شاہین کہا جاتا۔ دراصل اس پر بہت سے فرد، جرم عائد تھے۔ اس لیے بادشاہ کے علاقے سے بھاگ کر میدانی علاقوں میں بھاگ گیا، اور وہاں مچھلیوں اور پرندوں کے شکار سے اپنا پیٹ پالتا۔ آہستہ آہستہ اس علاقے کے بہت سے شکاری اور ڈاکوں کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی طاقت بڑھ گئی۔

پھر ابوالقاسم بن البریدی نے اپنے کچھ علاقوں پر اسے عامل بنالیا۔ تو اس کے مقابلے کے لیے معز الدولہ بن بویہ نے اپنے وزیر ابو جعفر بن بویہ ضمیری کو ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن اسی شکاری نے وزیر کو شکست دی، اور اس کے ساتھ جو کچھ مال و اسباب تھا، سب پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس شکاری کی طاقت زبردست ہو گئی۔

عماد الدولہ بن بویہ اور اس وزیر کی موت اتفاقاً ایک ساتھ ہی ہوئی۔

### ابوالحسن علی بن بویہ:

یہ بویہ کا سب سے بڑا لڑکا ہے۔ اور یہی ان میں سب سے پہلے بادشاہ بنا ہے۔ بہت عظیم، سمجھدار اور اچھی حوصلتوں کا

مالک اور فاطمہ پر نیک تھا

اس کا ظہور سب سے پہلے ۲۲ھ میں ہوا۔ جیسا کہ جم بیان کرچکے ہیں۔ سال روائیں میں اس پر بینا۔ یوں اور سبتوں ہاتھا بڑھ کر تو اس نے موٹہ اس سے کیا۔ لیکن اس کی بڑی حکومت بادشاہیت آئی ہے اور ماں والی کی زیارتی میں تھیں نے بھی اس خدا کی فیصلے کے سامنے بھی بد دنہی رکوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی جنابودی یہ یوں ترکیوں اور بھیوں کی بڑی سے بڑی تعداد نے اس کا مقابلہ کیا۔ بلکہ وہ سب اسے محتاج بناتے ہوئے اس سے کفارے ہو گئے۔

پاک ہے وہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قادرِ مطلق ہے، سب پر غالب ہے اور سب کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اولاد میں اس کا کوئی مرد لڑ کا نہ تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی اور اس کے بیٹے عضد الدولہ کو خط لکھ کر دونوں سے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس آئے تاکہ اسے اپنے بعد اپنا قائم مقام کر دے۔ بحث صحیح جب اس کا خط پا کر اس کے پاس پہنچا تو یہ بے حد خوش ہوا، اور خود مع اپنے لشکر کے اس کے استقبال کو نکلا، جب اس کو لے کر دارالسلطنت میں پہنچا تو اسے اپنے تحفہ پر بٹھایا۔ اور دوسرے حکام کی مانند یہ خود بھی اس کے سامنے کھڑا رہا۔ تاکہ امراء و وزراء اور دوسروں کی نظر میں اس کا مرتبہ بہت بڑھ جائے۔

پھر یہ جن ملکوں، شہروں کا مالک تھا، اور حکومت میں جتنے افراد تھے، سب سے اس کی بیعت لی۔ ان میں سے جن حکام نے اسے ناپسند کیا، انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر ان میں سے جسے مناسب سمجھا، قتل کیا اور باقی کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ عضد الدولہ کی حکومت کی بنیاد مضمبوط ہو گئی۔

اسی سال شیراز میں عمار الدولہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر ستادن برس اور مدستِ حکومت سولہ برس تھی۔ اپنے زمانہ کے ایجھے بادشاہوں میں سے تھا۔ یہ اپنے تمام ہم عمروں میں سب سے آگے تھا۔ یہ امیر الامراء کہلاتا تھا، اسی لیے خلفاء اس سے خط و کتابت کرتے تھے۔ لیکن اس کا بھائی معز الدولہ عراق اور سواد میں اس کی قائم مقامی کرتا تھا۔

جب عمار الدولہ کا انتقال ہو گیا تو وزیر ابو جعفر الضمیری عمران بن شاہین صیاد کی لڑائی سے علیحدہ ہو گیا۔ حالانکہ معز الدولہ نے اسے یہ لکھا تھا کہ وہ شیراز جائے اور وہاں کے حالات پر قابو پائے۔ اس وجہ سے یہ عمران کمزور ہو جانے کے باوجود ادب قوی ہو گیا تھا۔ اس کے بقیہ حالات اپنی جگہ پر ذکر کیے جائیں گے۔

اس سال مشہور لوگوں میں جن کا انتقال ہوا، ان میں ابو جعفر النخاس الخوی بھی ہے۔

### احمد بن محمد اسماعیل:

بن یونس ابو جعفر الرأوی المصری الخوی جو النخاس کے نام سے مشہور ہے۔ لغوی، مفسر اور ادیب بھی ہیں۔ فن تفسیر میں ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ میرد کے شاگردوں سے ملاقات کی، اور ان میں سے حدیثیں سنیں۔ ان کی وفات اسی سال ماہ ذی الحجه میں ہوئی۔ این خلکاں نے پانچویں تاریخ اور ہفتہ کے دن کی تعین بھی کی ہے۔ ان کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ مقیاس (ناپنے تو لئے وغیرہ کا آرہ) کے پاس بیٹھے ہوئے کسی چیز کو کاٹ رہے تھے۔ کسی اجنبی شخص نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہ تیروں پر جادو منتر کر رہے ہیں۔ اس لیے غصہ میں انہیں ایک لات مار دی، اور یہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اور یہ پتہ بھی نہ چلا

کر آخوند کی اشیٰ کیا اور جملگی آنہوں نے فرمی نبھا مل، جن سامانیں الاحصاء، ابوالصالح ابرار اور نفطہ وغیرہ، سے حاصل کیا ہے۔ ان کی بہت سی بہت مخفی احتیفات ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں تفسیر القرآن العظیم و امداد فی۔ ابیات زیدہ و می شریع۔ اس تجھی دوسری لوئی شریع نہیں ہو سکی ہے۔ اور نہ اس تجھی کوئی دوسری تصنیف ہوئی ہے۔ عقائد کی شریع دوادین عشرہ کی شریع وغیرہ۔ حدیث نسائی ہے روایت کی ہے۔ یہ مال کے خرچ میں بہت بخشنی تھا۔ لیکن دوسرے لوگوں نے ان کے مال سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔

اسی سال خلیفہ المستکفی بالله کی وفات ہوئی ہے، جن کا نام عبد اللہ بن علی المکتبی بالله ہے۔ ایک برس چار مہینے دو دن خلافت کی ہے۔ پھر انہیں بزر و معزول کر دیا گیا۔ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جبکہ یہ اپنے گھر میں مقید تھے، ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر چھیالیں سال دو مہینے تھیں۔

### علی بن مشاد بن سحوان:

بن نصر ابوالمعدل۔ نیشاپور میں اپنے زمانہ کے محدث تھے۔ بہت سے شہروں کا سفر کیا اور بہت سی حدیثیں بیان کیں۔ چار سو اجزاء کی ایک مندرجہ تصنیف کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں۔ ان میں مضامین حاصل کرنے، اور حفظ کرنے کی قوت بہت زیادہ تھی۔ ساتھ ہی عبادت کرنے بادلتی، گناہوں سے خود کو بچانا اور اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنے کا بہت خیال تھا۔ ان کے ہارے میں کسی نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ حضرا و سفر، ہر حالت میں رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جان سکا کہ کسی بھی موقع پر ان کے فرشتوں نے ان کا کوئی گناہ لکھا ہو۔ ان کی ایک تفسیر دوسرے بھی زیادہ حصوں کی ہے۔ اچھی تدریست کی حالت میں غسل خانہ میں گئے، اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک وہیں وفات پا گئے۔

یہ واقعہ سالی رواں کے ماہ شوال کی چودھویں تاریخ اور جمادی دن ہوا رحمہ اللہ

### علی بن محمد بن احمد:

بن الحسن ابوالحسن الوعظ البغدادی۔ بغداد سے سفر کر کے مصر آگئے، اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ مصری کہلانے لگے۔ بہت سے لوگوں سے حدیثیں سنیں۔ ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ان کے گھر میں مجلس وعظ ہوا کرتی اور اس میں مرد و عورتیں سب شامل ہوتے۔ گفتگو کرتے ہوئے چہرہ پر نقاب ڈالے رکھتے تاکہ عورتیں ان کے حسین چہرہ کو نہ دیکھ سکیں۔

ایک مرتبہ ابو بکر العقاد حچپ کران کی مجلس میں شریک ہوئے۔ جب ان کی گفتگو سنی تو سیدھے کھڑے ہوئے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے ان سے کہا۔ آپ کی مجلس کے بعد اب قصے بیان کرنا حرام ہے۔

خطیب نے کہا کہ یہ شفہ امانت دار اور عارف بالله تھے۔ لیت اور ابن طلیع کی حدیثیں جمع کیں۔ زہد کے مسئلہ میں ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ستا سی برس کی عمر میں اسی سال مادذی القعدہ میں وفات پائی۔ واللہ اعلم

## واقعات — ۳۳۹

اس مبارک سال کے ماہ ذی القعده میں جبراً سود کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر راسی جگہ لاگر کھو دیا گیا، جہاں سے اسے قرامطہ سن تین سو سترہ بھری میں لے کر چلے گئے تھے۔ جیسا کہ ذکر کیا جا پکا ہے۔ اس وقت میں قرامطہ کا بادشاہ ابو طاہر سیمان بن ابی سعید الحسین البخاری تھا۔ اس کے لے جانے پر تمام مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوئی۔ اس کی واپسی کے لیے امیر حکم الترکی نے اسے پیچاں ہے اور دینار کی پیش کش اس شرط پر کی کہ وہ اسے اپنی جگہ پر لا کر رکھ دے، مگر ایسا نہیں کیا۔ بلکہ جواب دیا۔ کہ ہم نے کسی کے حکم سے اسے اس کی جگہ سے اٹھایا ہے، اسی لیے صرف اسی حاکم کے دوبارہ حکم کرنے پر ہی ہم لوٹا سکتے ہیں۔ لیکن اس سال اسے کونڈ میں لے آئے اور وہاں کے جامع مسجد کے ساقویں ستون پر اسے لکھا دیا۔ تاکہ تمام لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ابو طاہر کے بھائی نے ایک پرچھی لکھ کر لگا دیا کہ جس نے ہمیں اس کے لینے کا حکم دیا تھا، اب اسی کے حکم کی بناء پر اسے لوٹا دیا ہے تاکہ حاجیوں کا حج اور اس کے فرائض پورے ہو جائیں۔ پھر کسی مطالبہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں اسے واپس کر دیا۔ اس طرح وہ اس سال ماہ ذی القعده میں پہنچ گیا۔ اللہ ہی کا مزار شکر اور احسان ہے۔ وہ جبراً سود اپنی جگہ سے باہمیں برس تک غائب رہا۔ اس کے پالینے سے تمام مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔

اس موقع پر بہت سے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرامطہ جب اسے لے کر جا رہے تھے، اس وقت اسے بہت سے اوتاؤں پر لادنا پڑا تھا۔ کیونکہ اونٹ پر لادنے کے بعد وہ یکے بعد دیگرے بک ہوتے جاتے تھے، اور ان کے کوہان زخمی ہوتے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسے واپس کیا تو صرف ایک ہی اونٹ پر لاد کر لیتے آئے اور اسے کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی۔

اس سال سیف الدولہ بن حمدان تقریباً تیس ہزار کا ایک بہت بڑا شکر لے کر رومی شہروں تک گیا۔ اور چھپ کر درست کچلا گیا۔ بہت سے قلعوں کو فتح کیا۔ بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ اور غنیمت کا بہت سامال لے کر واپس چلا آیا، لیکن رومی راستہ کاٹ کر ایسی جگہ پر آ کر روز کے گئے جہاں انہیں نکلا تھا اس وقت رومیوں نے ان پر اچاک ک زبردست حملہ کر دیا۔ اس کے بے شمار ساتھیوں کو قتل کیا اور جو بچے انہیں قیدی بنا کر لے گئے اور جو کچھ ان سے لوٹا تھا، وہ سب واپس لے گئے۔ لیکن خود سیف الدولہ اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر جان بچا کر کسی طرح واپس لوٹ آیا۔

اسی سال ابو جعفر الصیمری وزیر مرگیا تو معز الدولہ نے اس کی جگہ پر ابو محمد الحسین بن محمد الجبلی کو ماہ جماadi الاولی میں وزیر بنادیا۔ اس وقت عمران بن شاہین الصیاد کی اہمیت بڑھ گئی اور حالات اس کے درست ہو گئے۔ اس لیے معز الدولہ نے اس کے مقابلہ میں شکر پر شکر بھیجا شروع کیا۔ لیکن ہر بار وہ انہیں شکست دیتا رہا۔ اب معز الدولہ نے اس سے مصالحت کر لیتے میں مصلحت کر لی۔ اور اس کو اس طرف کے کچھ علاقوں کا حاکم بنادیا۔ اس کے بعد کے حالات انشاء اللہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس بارے مشہور لوگوں میں جن کا انتقال ہوا ہے ان کے نام یہ ہیں۔

### اُسن بن داؤد بن باب شاذ:

ابو احسن مصر کے باشندہ تھے۔ مگر بغداد آگئے تھے۔ وہاں کے بڑے فضلاء اور علماء میں سے تھے۔ ابوحنفیہ کے مسلک پر عامل تھے۔ زیارت، بہت زیادہ اور سمجھ بہت پختہ تھی، حدیثیں لکھیں۔ اور اس میں وہ ثقہ بھی تھے۔ اسی سال بغداد میں وفات ہوئی اور شونیز یہ کے مقبرہ میں مدفن ہوئے، چالیس سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔

### محمد القاہر باللہ امیر المؤمنین:

ابن المعتضد باللہ۔ ایک برس چھ مہینے سات دن تک خلیفہ رہے۔ بہت جلد غصہ ہو جانے والے اور جلد بدله لینے والے تھے۔ اس لیے ان کا وزیر ابو علی بن مقلد ان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ اور ان کے خلاف ترکیوں سے مل کر انھیں ابھارا۔ بالآخر انہوں نے ان کو عہدہ سے معزول کر دیا، اور ان کی دونوں آنکھیں نکلوادیں۔ کچھ ہی دونوں تک یہ دار الغلاد میں رہے۔ پھر سن تین سو یتھریں میں ابن طاہر کے گھر میں پہنچ ہو گئے۔ وہاں بھوکے رہنے کے علاوہ دوسرا محتاجیاں بھی رہیں۔ اسی سال وفات پائی۔ جبکہ یہ باون برس کے تھے۔ اپنے والد امیرالمؤمنین کے بغیر میں مدفن ہوئے۔

### محمد بن عبد اللہ بن احمد:

ابو عبد اللہ الصفار الاصبهانی، خراسان میں اپنے زمانے کے بڑے ہمدرد تھے۔ بہت سے لوگوں سے حدیثیں سنیں اور ابن ابی الدنيا سے ان کی کچھ کتابوں کی حدیثیں بیان کیں۔ مستجاب الدعوات تھے جاہل برس سے بھی زیادہ دونوں تک آسمان کی طرف نظر آٹھ کرنیں دیکھا۔ کہا کرتے تھے کہ میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبد اللہ اور والد کا نام آمنہ ہے۔ اس طرح وہ اپنے اور اپنے والدین کے ناموں میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے والدین کے ناموں میں مطابقت پائے جانے سے بہت خوش رہتے تھے۔

### ابونصر الفارابی:

ترکی فلسفی ہیں۔ فن موسیقی کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو اور ان کے اس فن کو لوگوں میں وسیلہ بنایا جاتا۔ ان کی موسیقی کی مجلس کے سنبھالوں میں سے جسے چاہئے، خواہ وہ رورہا ہو یا نہس رہا ہو۔ بے قابو کر دیتے۔ فن فلسفہ کے بھی ماہر تھے۔ ان ہی کی کتابوں سے ابن سینا نے مہارت حاصل کی۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ صرف روحانی زندہ کیے جانے کے قائل تھے۔ اور جسمانی معاد کا انکار کرتے۔ وہ بھی عالموں کی روحوں کے معاد کو مانتے اور جاہلوں کی روحوں کے معاد کو نہیں مانتے۔ لیکن ان کا یہ مسلک عام مسلمانوں اور دوسرے فلسفیوں کے بھی بالکل مخالف ہیں۔ اس لیے اگر اسی عقیدہ پر ان کی موت آئی ہو تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔

ابن الاشیر نے اپنی کتاب اکامل میں لکھا ہے کہ ان کی وفات دمشق میں ہوئی اور حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان کا تذکرہ تک نہیں کیا ہے ان کے عقیدہ کی خرابی اور گندگی کی وجہ سے۔ واللہ عالم

## و اتفاقات — ٣٢٥

اس سال عمان کے حاکم نے یہ طے کیا کہ بصرہ جا کر وہاں کا تمام سامان بہت سی کشتیوں میں لا دکر لے آیا جائے اور اس کی مدد کے لیے ابو یعقوب ہجری بھی آیا۔ لیکن ابو محمد مہلی نے اس میں رکاوٹ ڈالی اور اس کام سے اسے باز رکھا۔ اور اس کے بہت سے آدمیوں کو قید کر لیا، اور اس کی بہت سی کشتیاں بھی چھین کر اپنے ساتھ دجلہ میں لے گیا اور اس طرف سے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ بغداد پہنچا دیا۔ فلّهُ الْحَمْدُ

اسی سال ابو محمد مہلی وزیر کے سامنے ایک شخص کو حاضر کیا گیا جو ابو جعفر بن ابی المعز کے ساتھیوں میں سے تھا، جسے زندقی ہونے کی بناء پر حلّاج کی طرح قتل کیا گیا تھا۔ پس یہ بھی وہی دعویٰ کرتا جو اس کا ساتھی ابن ابی المعز دعویٰ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ بغداد کے بہت سے جاہل بھی اس سے مل گئے اور اس کے رو بیت کے دعوے کی تصدیق کرنے لگے اور یہ کہ انہیاء اور صدیقین کی رو جیں ان کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور انکی گھر میں کچھ ایسی تحریری دستاویزات بھی مل گئیں جن سے ان دعووں کا ثبوت ملتا تھا۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ گرفت میں آچکا ہے اور اب ہلاک کر دیا جائے گا تو اس نے خود کو شیعی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تا کہ اس کا معاملہ معزز الدولہ بن بویہ کے پاس جائے کیونکہ وہ بھی شیعیت کو پسند کرتا تھا خدا اس کا برآ کرے۔

جب اس کی بات مشہور ہو گئی تو وزیر کے لیے اس کو پس کر رکھنا اور سزا دینا ممکن نہ رہا کہ اسے خود اپنی جان کا ہی معز الدولہ سے خطرہ ہو گیا۔ اور یہ کہ اس کی مدد کو تمام شیعہ صفت سے ہو جائیں گے۔ ان اللہ و ان ایہ راجعون۔ پھر بھی اس کے بہت سے مال پر قبضہ کر لیا۔ اور اس مال کو زنا دقدہ کا مال کہتا۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماوراء میان میں وہاں شیعہ اور سنی کی زبردست نہیں لڑائی ہوئی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں انتقال کرنے والوں کے نام یہ ہیں:

اشہب بن عبد العزیز:

بن ابی داؤد بن ابراہیم ابو عمر العامری۔ عامر بن لوی کی طرف منسوب ہے۔ مشہور فقہاء میں سے تھے اسی سال ماہ شوال میں انتقال کیا۔

ابوالحسن الکرخی:

حنفی مشہور اماموں میں سے ہیں۔ سن و سو ساتھ میں ولادت ہوئی۔ بغداد میں سکونت اختیار کی، فقہ حنفی کو پڑھایا۔ تمام

عما توڑ، میں ۱۱ کے شاگردوں کا ہی نام مشہور رہا۔ ہرے چابد اور بہت زیادہ نمازوں و روزوں کے باہم تھے۔ فتحر میں بھروسہ حضرت کے نام  
و ائمہ کوں کے ناموں پر ان کی نظر بالکل نہ ہوتی۔ اسے باوجود بہت زیادہ کنارہ کش تھے۔ قاغن اسائیں بن اسحاق سے  
حدیثیں نہیں اور ان سے نیوچ اور اہم ثابتین نے روایت کی ہے۔ آخری مرگیں فاتحہ اس پر مدد ہوا۔ اس موقع پر ان کے خاتم  
و گوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سیف الدہلی بن حمدان کو علاالت سے منظع کیا جائے تاکہ ان سے اس مرشی میں  
علاق کے لیے کچھ مدلل لکھے۔ جب ان کو اس بات کی اطاعت ملی، تو انہوں نے اپنا سرآسمان کی طرف اٹھا کر کہا۔ اللہ تعالیٰ  
مجھے رزق دینے کا جس طرح وعدہ کیا ہے، اسی طرح دے۔

چنانچہ قبل اس کے کہ سیف الدہلی نے جو دس ہزار درہم انہیں علاج کی غرض سے بھیجے تھے وہ ملتے ان کا انتقال ہو گیا۔  
جم کو لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد صدقہ کر دیا انتقال کے وقت اسی برس کے تھے۔

ان کے جنائزہ کی نماز ابو تمام الحسن بن محمد بن الزیلیعنی نے پڑھائی، جو کہ ان کے شاگرد تھے۔ نہرو اسطبین پر ابو زید کی گلی  
میں ان کو دفن کیا گیا۔

### محمد بن صالح بن زید:

ابو جعفر الوراق سے بہت سی روایتیں میں لی گئیں اور حفظ کر لیتے تھے۔ اللہ اور دنیا سے کنارہ کش تھے، اپنے ہاتھ کی محنت  
کے علاوہ دوسرا کوئی چیز نہیں کھاتے، رات تجدی کی نماز میں بھی ناغنہیں کرتے تھے کسی نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ سالہ بالا سال  
رہا ہوں۔ اس طویل عرصہ میں میں نے ان کو اللہ العزوجل کی رذیمندی کے سوا دوسرا کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ سوال کے  
جواب کے علاوہ کچھ نہ بولتے، رات کے زیادہ حصے میں عبادت کرتے رہتے۔

اسی سال منصور بن قرابکین کی بھی وفات ہوئی۔ یہ امیر نوح سامانی کی طرف سے خراسانی شکر کے امیر تھے۔ اسی  
زمانہ میں ان کو کوئی مرض لگ گیا، جس سے ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے متواتر کتنی دنوں تک بہت زیادہ شراب  
نوشی کی اس لیے موت آئی۔ ان کے بعد ابو علی الحجاج ازرجابی کو شکر کے امیر بنایا گیا۔

ان کا نام ابوالقاسم عبد الرحمن بن اسحاق الخوی الملغوی ہے۔ نسل ایذاخداو کے باشندہ تھے۔ پھر دمشق میں سکونت اختیار کی۔  
فن خوکے ایک مشہور رسالہ الجمل کے مصنف ہیں، جو بہت فتح بخش اور بہت فائدہ پہنچانے والا ہے۔ مکہ گرہ میں رہ کر اس کی  
تصنیف کی تکھتہ وقت اس کے ہر باب کے لکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے کہ اسے فتح بخش بنائے۔

انہوں نے اولاً فتح محمد بن بن العباس الیزیدی، ابو بکر بن درید اور ابن الابناری سے حاصل کیا۔ سن تین سو چالیس یا  
تین سو اتنا لیس یا تین سو سیتیں ہجری کے ماہ ربیع میں وفات پائی، دمشق یا طبریہ میں۔ ان کی کتاب الجمل کی بہت سی شریحیں لکھی  
گئیں، ان میں سب سے بہتر اور جامع وہ ہے جسے ابن عصافور نے جمع کیا ہے۔ واللہ اعلم



## واقعات — ۱۳۲۱ھ

اس سال رومیوں نے سروج پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کو قتل کیا۔ ان کی مسجدوں میں آگ لگادی۔ ابن الاشری نے کہا ہے کہ عمان کے حاکم موی بن وحید نے بصرہ پر حملہ کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن مہلی نے اس سے روک دیا۔ جیسا کہ پہلے گز رچا ہے۔ اس سال معز الدولہ نے اپنے وزیر کو پکڑ کر ایک سو پچاس کوڑے مارے۔ لیکن عہدہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ ان پر کچھ نیکس لگادیا۔

اس سال مصریوں اور عراقوں کے درمیان مکہ معظمہ میں زبردست لڑائی ہوئی تو اولاد مصر والوں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر عراقوں کو غلبہ ہوا، تو رکن الدولہ بن یوسف کا نام خطبہ میں لیا گیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

المنصور الفاطمی:

جن کا نام ابو طاہر اسماعیل بن القاسم بالله ابی القاسم محمد بن عبیہ اللہ المهدی ہے۔ مغرب کے مصنف ہیں۔ اس وقت ان کی عمر اتنا یہس بر س کی تھی۔ خلافت سات برس سولہ دن کی ہے۔ بہت عقیل مفتخر ہے بہادر، نذر تھے ابو یزید الائرجی کو مغلوب کیا، جس کا مقابلہ بہادری، ولیری اور صبر و برداشت کرنے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت ہی فصح و بلغ بھی تھے۔ پریشانی کے حالات میں بھی فوری طور پر زبردست خطبہ دے سکتے تھے۔ ان کی موت کا سبب حرارتِ عزیز یہ کی کی ہوئی تھی، جیسا کہ ابن الاشری نے اپنی کتابِ اکامل میں ذکر کیا ہے، اس لیے اطباء کا ان کی مرض کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ قاہرہ معزیہ کے بانی المعز الفاطمی کے زمانہ کے قریب ہی ان کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ غفریب اس کا بیان اور نام ذکر کیا جائے گا۔ اس وقت ان کی عمر صرف چوبیس بر س تھی۔ بہادر، عقیل اور رائے کے بہت پختہ تھے۔ بربر اور اس کے اطراف کے لوگوں نے بھی ان کی اطاعت کی ہے۔ انہوں نے اپنے غلام جواہر القائد کو حکم دیا۔ اور اس نے ان کے لیے مصر کے علاقے میں ایک عمارت القاہرۃ المتأخمة بنادی ای، اور ایک عمارت دارالملک کے نام کی بھی بنائی۔ یہ دونوں عمارتیں اب بھی وہاں ہیں۔ جن کو آج کل بین القصرین کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ بن تین سو چونسھ بھری کا ہے۔ اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

اسماعیل بن محمد بن اسماعیل:

بن صالح ابو علی الصفار۔ مدینہ میں سے ایک ہیں۔ مبرد سے ملاقات کی ہے۔ اور ان کی شاگردی کی وجہ سے مشہور

اُن کی بیوی اکش سی، وہ دو تاریخیں تحریر کی چلتے۔ حسن سعید، عین الہادی، فتحی بن عاصم، شعبان بن عاصم، معاذ بن جبل، عاصم بن عاصم اور اُنکے معاونوں کی تحریر کی جاتی ہے۔

اُو یہ بھی کہا جائے کہ انہوں نے چور اسکی رمضان لے گئیں میں روزے رکھے ہیں، مفات کے وقت انہیم پورا نہ ہے  
برسَتی تکشی۔ رحمَهُ اللہُ

احمد بن محمد بن زیاد:

بن یونس بن درهم ابوسعید بن الاعرابی، مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی، اور شیخ الحرم بن گنے۔ جنید بن محمد اور النوری وغیرہما کی شاگردی اختیار کی، حدیث کی سند س بیان کیں اور صوفیہ کے لیے کتابیں تصنیف کیں۔

اسما عيل بن القائم:

بن المهدی، جن کا لقب المنصور العبیدی تھا۔ اور اپنے متعلق فاطمی ہونے کا دعویٰ تھا۔ مغربی شہروں کے حاکم اور قاہر کے بانی، المعرکے والد اور بیکی مغربی علاقوں میں منصوریہ کے بھی بانی تھے۔ ابو جعفر المرزوکی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ اس وقت نکلا تھا، جبکہ انہوں نے ابو یزید الخارجی کو شکست دی، دی تھی۔ ان ہی دنوں میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ اتفاقاً ان کے ہاتھ سے ان کا نیزہ گرگیا تو میں اُتر گیا اور وہ اٹھا کر میں نے انہیں دیے دیا اور یہ شعر ان کے سامنے پڑھنے لگا:

فالقت عصاها واستقر بها النوى  
كما قرّ عيناً باللابياب المسافر

**شیخستہ:** جب اس محبوبہ نے اپنی چھٹری ڈال دی اور وہاں اس کا نجکانا لے پا گیا۔ جیسا کہ مسافت میں آنکھ کو ٹھنڈک ہوئی سفر سے واپسی کے وقت۔

یہ سن کر انہوں نے کہا، تم نے یہ آیت کیوں تلاوت نہیں کی:

فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَعَلِبُوا

هُنَالِكَ وَانْقُلِبُوا صَاغِرِينَ ۝ {بٰ ۙ، رَكْوَعٌ ۚ} ۝

”اس وقت موی (علیہ السلام) نے اپنا ڈنڈا میں پرڈال دیا۔ اچانک وہ سانپ بن کر ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگفٹے لگا۔ اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، سب کو ان نے بر باد کر دیا۔ اس وقت وہ مغلوب اور ذلیل خوار ہو گئے۔“  
کہا کہ میں نے کہا کہ آپ قریبی کے نواسہ ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے علم سے تھوڑا اسما کہا۔ لیکن میں نے تو اپنے علم کے زمادہ سے زیادہ پہنچ کے مطابق کہا ہے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عبد الملک بن مروان کا ہوا کہ اس نے ایک بار جاج کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے پاس ایک دروازہ بنوایا کر اس پر لکھوادے۔ اس نے حکم کے مطابق ایک دروازہ بنوایا۔ ساتھ ہی ایک دروازہ بھی بنوایا کر اس پر اپنانام لکھوادیا۔

اتفاق ایسا ہوا کہ عبد الملک کے دروازہ پر بخیلی گری، اور اسے جلا دا۔ اس عبد الملک نے خبر پا کر جاج کو عراق میں اس کی

## واقعات — ۳۵

اس سال ماہ محرم میں معز الدوّلہ بن یوسیہ پیش اب بند ہو چکے تھے کیونکہ جس سے اس کو بہت پیشامی ہوتی اور اپنے خاص لوگوں میں سے سکنگین اور اپنے وزیر امپری کو ایک جگہ بلوکر دنوں میں مصالحت کراوی۔ اور اپنے لڑکے بختیار کے بارے میں ان کو بہتر سلوک کرنے کی وصیت کی، پھر اس مرغ سے اسے شفایاں ہو گئی تو اس نے بغداد سے اہواز منتقل ہو چکے اپنے خیال کر لیا۔ اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ اس مرغ کے ہونے کا سبب بغداد کی ہوا اور پانی کا نام موافق ہونا ہے، لیکن تمام مشیروں نے اس خیال کی مخالفت کرتے ہوئے بیہقی رہنے پر زور دیا، ساتھ ہی بغداد کے بالائی حصوں میں ایسی جگہ پر رہائشی مکان بنانے کا اصرار کیا، جہاں کی ہوا بہت عمدہ اور پانی بہت صاف ہو۔ چنانچہ اس نے ایک گھر بنایا جس پر ایک کروڑ تیس لاکھ اور ایک قول میں میں لاکھ دین، خرچ ہوئے اس سلسلہ میں کچھ لوگوں پر مال کی فراہمی کے لیے اسے جرب بھی کرنا پڑا۔ لیکن اس کی بد قسمتی سے ابھی تک اس کا کام پور نہیں ہوا اور اس میں اسے رہنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ عزرا تیل نے اس کا گلہ دبا دیا۔ اور پہلے خلفاء نے جو کچھ خاصی تعمیرات اور تحسیں ان میں بہت سی چیزوں کو اس نے برباد بھی کر دیا تھا۔ ان ہی میں سُرَّمن رای کو بھی اس نے برباد کر دیا۔ اسی طرح لوہتے بکے وہ دروازے بھی جو شہر منصورہ اور رصافہ اور اس کے محلات سے اس نے گھر تک لگائے ہوئے تھے سب توڑ ڈالے خدا کرے کہ اس کی خوشی اسے راس نہ آئے، کیونکہ وہ خبیث راضی تھا۔ اس سال.....

### قاضی ابوالسائب عقبہ بن عبد اللہ:

کا انتقال ہو گیا اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس عہدہ پر ابو عبد اللہ الحسین بن ابی الشوارب کو مقرر کیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس عہدے کے عوض وہ ہر سال دولاکھ درہم معز الدوّلہ کو ادا کرتا رہے گا، معاملہ طے پا جانے کے بعد معز الدوّلہ نے اسے خلعت پہنایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر تک نقارے اور ذھول باجے بجا تے ہوئے گیا۔ یہی پہلا شخص ہے جس نے عہدة قضاحا حاصل کرنے کے لیے رشوت دی۔ والله اعلم

لیکن غلیفہ المطیع اللہ نے اس قاضی کو اپنے پاس آنے کی یا اس کی سواری کے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ غلیفہ اس قاضی سے بہت ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد معز الدوّلہ پولیس اور محاسب مقرر کرنے پر بھی رشوت لینے لگا۔

اس سال انطا کیہ کا ایک قافلہ جو طرسوں جا رہا تھا، اور اس میں انطا کیہ نائب حاکم بھی تھا، اس پر فرنگیوں نے حملہ کر کے اپنے باپ کی جماعت کے بدالے ان پر قبضہ کر لیا۔ ایسا قبضہ کیا کہ سوائے نائب حاکم کے جو کہ خود بھی اپنے بدن میں بہت زیادہ زخم کھائے ہوئے تھا، کوئی بھی نہ بھاگ سکا۔

اس سال سیف الدولہ کا غلام نجاروی شہروں میں ٹھس گہا اور ان کے لوگوں کو قتل کیا، قید کیا، ان سے غیمت کا مال اوتا اور سچ دسائیا تھا۔ اس سال .....

### امیر نوح بن عبد الملک:

السامیٰ نے جو خراسان، فخر، اور ماوراء النهر کا حاکم تھا، وفات پائی ہے۔ اس طرح پر کوئی حادثہ نہ سے رہا، مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی منصور بن علیج السامیٰ اس عہدہ پر مقرر کیا گیا۔ اور اس سال .....

### الناصر لدین اللہ عبد الرحمن الاموی:

کا بھی انتقال ہوا ہے جو کہ اندرس کے خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت پچاس برس چھ ماہ تک باقی رہی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تہتر برس کی ہوئی تھی۔ گیارہ اولاد چھوڑی۔ سفید رنگ، خوبصورت بڑا جسم، لمبی پیٹھ اور چوڑی پنڈلیوں والے تھے یہ اموی خاندان کے پہلے وہ شخص میں جن کا رسول مغربی طقوں تک تھا اور اپنا القب امیر المؤمنین رکھا تھا، اس وقت جبکہ ان کو عراق کے خلفاء کی کمزوری اور فاطمیین کے غلبہ کی خبر ملی تھی تو اپنی موت سے تنہیں برس پہلے یہ لقب اختیار کر لیا تھا، مسلک اشافعی المذهب عبادت گزار اور اپنے شاعر تھے۔ خلفاء میں ان سے زائد مدت تک کسی دوسرے خلیفہ نے خلافت نہیں کی، کیونکہ مسلسل پچاس برس تک انہوں نے خلافت کی تھی، سو اے ایک فاطمی خلیفہ المستنصر بن الحاکم، کہ انہوں نے مسلسل سانچہ برس تک مصر میں خلافت کی تھی، اس کی تفصیل عنقریب آ رہی ہے۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### ابوہل بن زیاد القطان:

احمد بن محمد بن عبد اللہ بن زیاد ابوہلقطان ثقہ اور حافظ تھے، قرآن پاک کی اکثر تلاوت کرتے رہتے۔ قرآن پاک سے عمدہ عمدہ معانی اخذ کرتے، اسی بنا پر انہوں نے معززہ کے کافر ہونے پر اس آیت پاک سے استنباط کیا ہے۔

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ بونجنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جبکہ وہ سفر میں ہوں یا غزوہ کی حالت میں ہوں کہ اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ خود موت سے مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔“

### اسماعیل بن علی بن اسماعیل:

بن بیان ابو محمد الحنفی، انہوں نے ابن ابی اسامہ عبد اللہ بن احمد اور کوئی وغیرہم سے حدیث کی ساعت کی ہے اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، یہ ثقہ اور بڑے پایہ کے حافظ، فاضل اور تاریخ عالم کے اچھے جانے والے تھے، ان کی تاریخ سنوار مرتب ہے۔ بڑے ہی ادیب، عقلمز، سمجھدار اور بہت سچے تھے، اسی سال ماہ جمادی الآخرہ میں اکا سی برس کی عمر پا کر انہوں

لے انتقال کیا ہے۔

#### احمد بن محمد بن سعید:

ابن جبید اللہ بن احمد بن سعید ابن ابی صریح اترشی الوراقی ابن فضیل میں مشہور ہیں، خوش خطی میں بہت مشہور ہیں اُن بن جو صاحب کے لیے حدیث کھاکر تھے اُن عساکر نے ان کے حالت اللہ کرتارخ وفات اسی سال دوسری شوال بتائی ہے۔

#### تمام بن محمد بن عباس:

بن عبد المطلب ابو بکر الہاشمی العجسی عبد اللہ بن احمد سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے ابن زرقویہ نے روایت کی ہے، اکاسی برس کی عمر میں اسی سال وفات پائی ہے۔

#### احسین بن القاسم:

ابو علی الطبری مسلم شافعی کے فقیہ تھے، اختلافی صورت میں بڑے ائمہ میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ مسئلہ اختلافیات میں سب سے پہلے انہی نے تصنیف کی ہے، ان کی الایضاح فی المذهب اور مناظر اور اصول فقہ میں بھی ان کی کتاب میں ہیں، علاوہ ازیں اور دوسری تصنیفات بھی ہیں، ہم نے ان کے حالات الطبقات میں ذکر کیے ہیں۔

#### عبد اللہ بن اسماعیل:

بن ابراہیم بن عیسیٰ بن جعفر المنصور الہاشمی امام اُن بویہ میں مشہور ہیں، سن دوسو تر سٹھن بھری میں ان کی ولادت ہوئی۔ ابن ابی الدنیا وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے ابن زرقویہ نے روایت کی ہے، زمانہ دراز تک جامع منصور کے خطیب رہے، اس جامع مسجد میں انہوں نے سن تین سو تیس بھری میں اور اس سے قبل پورا ایک برس خطبہ دیا ہے، اور اسی مسجد میں دوستیں بھری میں واشق نے بھی خطبہ دیا ہے۔ یہ دونوں منصور کی طرف منسوب ہونے میں برابر ہیں، اسی سال ماہ صفر میں وفات پائی ہے۔

#### عقبہ بن عبد اللہ:

بن موسیٰ بن عبد اللہ ابوالسابق القاضی الہمدانی، الشافعی بڑے قابل اور فاضل تھے، عہدہ قضا پر بھی فائز رہ چکے ہیں، لوگوں کے معاملات اکثر خراب کر دینے کی ان میں عادت تھی، ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر رسول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی اور جنت میں جانے کا مجھے حکم دیا۔ باوجود یہ کچھ میں معاملات کو خراب کر دینے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن مجھ سے میرے مولیٰ نے کہا کہ چونکہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی ہے کہ میں اسی برس کی عمر والوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ شافعیوں میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر سب سے پہلے آپ ہی فائز ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم

#### محمد بن احمد بن حیان:

ابو بکر الدہقان، بغدادی، بخارا میں سکونت اختیار کی، اور وہیں تکیٰ بن ابی طالب اور حسن بن مکرم وغیرہما سے حدیث

روایت کی ہے۔ ستائیں بریں کی عمر میں وفات یاں ہے۔

### ابو علی الحازن:

سائیں روان سے ۷۰ شعبان تین وفات یاں تو ان سے گھرست مدفن نہ اٹے اور لوگوں سے پاس سے بھی ہوتی امانتیں ملیں جو تقریباً چار لاکھ ہوئیں۔ لکی ہوا رہی۔ واللہ اعلم

## واقعات — ۱۵۲۵ھ

اس سال شاہ روم دستق کی معیت میں دولاکھرومی جنگجو بہادروں کے ساتھ حلب میں داخل ہو گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا رہے، کیونکہ انہوں نے اچانک ایسا حملہ کیا تھا، اس لیے سیف الدولہ بن محمد ان لوگوں کو لے کر جو اس کے پاس موجود تھے، ان کے مقابلہ میں آیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کر سکا، چنانچہ رومیوں نے سیف الدولہ کے بے شمار آدمیوں کو قتل کر دلا، چونکہ سیف الدولہ میں صبر کرنے کا مادہ زیادہ تھا، اس طرح اس نے اس خاص محل سے جتنا بھی مال و دولت افراد اُڑائی کے سامان اور دوسرے لوازمات پائے، سب پر اس نے قبضہ کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ اس نے بے شمار مال پایا اور اس میں عورتیں اور لڑکے وغیرہ تھے، سب کو گرفنا کر لیا، اس کے بعد حلب شہر کی چهار دیواری کا بھی اس نے محاصرہ کر لیا۔ شہر والوں نے بھی ان کا زبردست مقابلہ کیا اور رومیوں نے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا۔ تب رومیوں نے شہر کی چهار دیواری میں جگہ جگہ سے سوراخ کر دیے اور اس میں سے وہ داخل ہوئے، مسلمانوں نے ان پر بھی حملہ کر کے مزید اندر آنے سے روک دیا۔ اور رات کے آتے ہی ان لوگوں نے ان شگافوں کو اچھی طرح بند کر دیا، صبح ہوتے ہوتے وہ دیوار پہلی جیسی حالت پر آگئی اور اس دیوار کو خوب مضبوط کر دیا۔ اس وقت ان مسلمانوں کو خبری کہ پچھے لہنگہ اور لشیرے اندر وہ شہر گھروں کو بہت زیادہ لوٹ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے آئے اور ان لشیروں کو ایسی حرکت کرنے سے منع کرنے لگے۔ اللہ ان لوگوں کی عاقبت خراب کرے کہ یہی لوگ بڑے شر پسند اور فسادی بنے۔ آخر کار اس رومی نے چهار دیواری پر قبضہ کر لیا اور اپنے چڑھ کر اس شہر کے اندر داخل ہو گئے، یہاں جس کسی پر نظر پڑتی اسی کو قتل کرتے، اس طرح مسلمانوں کی بڑی تعداد مقتول بھی ہوئی اور ان کے مال بھی لوٹے گئے، اور ان کے بچے اور عورتیں گرفتار ہو گئیں اور وہ تمام رومی جواب تک ان مسلمانوں کے قبضہ میں جو چودہ سو تھے، سب کو انہوں نے چھڑا لیا۔ اب ان قیدیوں نے بھی تواریں اپنے باخوس میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، ان سے جو نقصان پہنچا وہ اس سے بہت زیادہ تھا، جو داخل ہونے والے رومیوں سے پہنچا تھا، اور اب دس ہزار سے بھی زیادہ بچوں، بچیوں اور عورتوں کو قید کرنے کے علاوہ مال و سامان بھی بے حساب لوٹا اور جوان مردوں سے بھی دو ہزار کو قید کر لیا۔ مسجدوں کو دیرین کر کے ان میں آگ لگادی، پھر وہاں کے نیل کے کنوؤں میں اتنا زیادہ پانی ڈالا کہ نیچے سے نیل اور پر آ کر راستوں میں بہنے لگا، اس کے بعد جو چیز بھی ان کے ہاتھ آئی سب کو لے لیا یا بر باد کر دلا، اور جو چیز وہ اپنے قبضہ میں نہ لاسکے اسے آگ لگادی، اس قسم کی لوٹ مار، آتش زنی اور قتل و غارت گری کا بازار مسلسل نو دنوں تک گرم رکھا۔ یہ سارا نقصان ان

کمینوں اور لمحے وں کی وجہ سے انہیں برداشت کرنا پڑا اہل اللہ ان کا حشر خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح ان کا حاکم ابن حمدان بھی اتفاقاً وہ ہوا، ہمارا بُشی تھا، شیعوں سے محبت اور اپنی سنت سے بغسل رکھتا تھا، اس وقت طلب والوں و مختلف طریقوں سے مختلف اقسام اس کے لئے پڑے۔ اس کا میابی کے بعد، حق تھے اپنے بھی بُش جانے کا ارادہ کر لیا۔ سیف الدولہ سے اتفاقی کا بروائی کا اسے خطرو تھا، لیکن اس کے سمجھتے ہے کہا، آپ پر، یہ تلععہ کا سچ و سالم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، لوگوں کا زیادہ مال اور ان کی عورتیں تو اسی میں اب تک محفوظ ہیں؛ مستق نے جواب دیا کہ انہیں جتنی کامیابی کی امید تھی، ہم اس سے کہیں زیادہ حاصل کر چکے ہیں اور اس تلععہ میں لٹنے اور قتل و قفال کرنے والوں کا مجمع ہو گا، اس کے سمجھنے کا پھر بھی انہیں اسے لوٹا ہی ہے مجبوراً مستق نے اس سے کہا اچھا وہاں جاؤ، وہ ایک بڑا لشکر لے کر اس تلععہ کے محاصرہ کو گیا، لوگوں نے اپر سے اسے ایسا پھر مارا کہ وہ اسی وقت اتنے بڑے لشکر کے درمیان وہیں پر ختم ہو گیا، یہ سن کر مستق کو خست غصہ آگیا اور اتفاقی جذبہ میں اس نے تمام مسلمان قیدیوں کو جو تقریباً دو ہزار تھے اپنے پاس بلوا کر ایک ایک کر کے سب کو اپنی نظر وہ کے سامنے قتل کر وا دیا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا، وہ لوگ ماہ محرم میں میں زربہ میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے وہاں کے باشندوں نے اس شاید وہم سے امان چاہی، تو اس نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر امان دی کہ تم مسجد میں چلے جاؤ، اس کے بعد اب جو کوئی کہیں اور پایا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ سنت ہی وہ سب اپنے گھر چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گئے، مگر بعد میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ مسجد بھی چھوڑ کر جہاں جی چاہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص اس جگہ پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ وہاں سے بھی نکل پڑے اور سامنے کی سمت چلنے لگے، انہیں اس کی بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اس بے سرو سامنی کے ساتھ نکل پڑنے اور چلنے رہنے کی وجہ سے راستے میں بے شمار مسلمان مرنے لگے، جامع مسجد کے خالی ہوتے ہی اس نے جامع مسجد کو ڈھار دیا، اس کا منبر توڑ دیا، شہر کے چاروں طرف جو چالیس ہزار بھگوروں کے درخت لگا رکھے تھے ان لوگوں نے ان سب کو کاٹ کر پھیک دیا، شہر کی چہار دیواری ڈھار دی اور راستے پر جتنے نشانات وغیرہ تھے، ان سب کو بھی ختم کر دیا اور اس کے چاروں طرف کے چون قلعے انہوں نے فتح کر لیے، بعضوں کو طاقت سے اور بعضوں کو امان دے کر۔ اس موقع پر بھی اس ملعون نے بے شمار انسانوں کو قتل کر دیا، جو لوگ قتل کر دیئے گئے ان میں سیف الدولہ کی طرف سے معین کیا ہوا شیخ کا نائب ابو فراس بن سعید بن ہمدان بھی تھا، جو بڑا زبردست شاعر تھا، اس کا اپنا ایک عمدہ دیوان بھی ہے، یہ رومی بادشاہ میں زربہ پر اکیس دن تک رہا، بھروسہ وہاں سے قیسر یہ چلا گیا، تو وہاں کا نائب ابن الزبات وہاں کے چار ہزار باشندوں سمیت اس کے مقابلہ پر آیا، تو اس نے ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اتنے میں نصاریٰ کے روزے رکھنے کے دن آ گئے، تو وہ قتل و قفال سے کچھ دنوں کے لیے رک گیا، جب روزوں سے وہ فارغ ہو گئے، تو پھر اچانک حلب والوں پر حملہ کر دیا۔ جس کا حال ابھی کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ اس سال عام راضیوں نے تمام مسجدوں کے دروازوں پر مختلف جملے اور نغمے لکھوادیے تھے، ان میں سے چند یہ ہیں:

☆ ”معاوية“ بن سفیان پر لعنت ہو۔ (رضی اللہ عنہ و عنہم)

۹۔ ”جس نے فاطمہ کی حجت کو غصہ پر کیا اس پر لعنت مولانا اس سے مراد حضرت ابو الحسن عسکری تھے  
جس نے حضرت عباس کو مجلس شوریٰ سے نکال باہر کیا اس (یعنی حضرت عثمان بن عفی) پر لعنت ہوا۔ اللہ تمام صاحبِ کرام  
سے راضی رہے اور ان پر لعنت نہ رئے والوں پر لعنت لرے۔

۱۰۔ ”اور جس نے حضرت حنفی خود کو ان کے ننانا جان کے پاس فتن کرنے سے روکا (یعنی مروان بن حنفی) اس پر لعنت ہوا۔  
ان باتوں کی خبر جب معز الدولہ و تپنگی تو اس نے بھی ان باتوں کو ناپسند نہیں کیا اور نہ ان جملوں کو منانے یا بدلنے کا حکم دیا۔ پھر اس  
کو یہ خبر تپنگی کا مل سنت نے ان تمام عبارتوں کو مٹا دیا ہے اور اس کے بر عکس ان جگہوں میں لکھ دیا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں پر  
لعنت کرے جنہوں نے ابتداء سے انتہاء تک آل محمد پر ظلم کیا ہو، لیکن معز الدولہ نے اس میں اس خاص جملہ ”حاوا یہ پر لعنت ہو“  
کو بڑھا کر لکھنے کو کہا دیا۔ اللہ اس معز الدولہ اور اس کے تمام معاون شیعوں اور روانض پر لعنت کرے، یعنی طور پر یہ لوگ کبھی بھی  
کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح حلب میں سیف الدولہ بن محمدان کے اندر بھی شیعیت بھری ہوئی تھی اور روانض کی طرف اس کا میلان تھا۔  
اس لیے اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کی ہرگز مدد نہیں کرتا ہے بلکہ ان پر تو ان کے دشمنوں کو کامیاب کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اپنی  
خواہشات کی تکمیل میں اپنے سرداروں اپنے بڑوں، اپنے آباؤ اجداد کی متابعت اور موافقت کرتے رہنے اور اپنے انبیاء اور علماء  
کی موافقت اور متابعت چھوڑ دینے میں ہم خیال ہیں۔

اسی بنا پر جب مصر اور شام کے شہروں پر فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور ان میں روانض بھرے ہوئے تھے، شام کے  
ساحلی اور شہری تمام علاقوں، یہاں تک کہ بیت المقدس پر بھی فرنگیوں کا نسل ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضہ میں یہ علاقے زدہ رکنے  
سوائے حمص، حلب، حماۃ اور دمشق اور جبل جگہ چند عاملوں کے۔ یقینہ ساحلی علاقے غیرہ سب فرنگیوں کے قبضہ میں آگئے تھے، تمام  
بڑی بڑی شاندار عمارتوں اور محلات پر ان ہی انگریزوں کے ناقوس اور طبل بجتے رہے اور ایمان کے مرکزوں اور مسجدوں اور  
محترم عمارتوں اور مقامات میں کفر یہ افعال بر ملائیے جاتے اور کلمات کہے جاتے، تمام مسلمان ان کے قبضہ میں انتہائی گھٹٹن اور  
دینی تپنگی میں زندگی گزار رہے تھے اور اس علاقے کے لوگ بھی جو مسلمانوں کے قبضہ میں تھے ان فرنگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ  
خوف اور وحشت کی حالت میں اپنے شب و روز گزار رہے تھے۔ ان اللہ و ان الیه راجعون۔ یہ سب ان کے گناہوں اور نافرمانیوں  
اور نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل لوگوں کو گالیاں دینے کے نتیجے میں تھا۔

اسی سال گالی دینے کے سبب بصرہ والوں پر بھی زبردست فتنہ آیا اور اس میں بے شمار انسان قتل کیے گئے۔

اسی سال سیف الدولہ بن محمدان نے عین زرہ کی عمارت دوبارہ بنائی اور اپنے غلام نجاشیا کو لشکر دے کر روانہ کیا تو اس نے  
روی شہروں میں داخل ہو کر بے شمار آدمیوں کو قتل کیا، اسی طرح بے حساب آدمیوں کو گرفتار کیا، اور غنیمت کا مال حاصل کر کے صحیح  
ساملم و اپس لوٹ آیا، اسی طرح اپنے دربان کو بھی ایک لشکر دے کر طرسوں روانہ کیا تو وہ بھی روی علاقوں میں داخل ہو کر غنیمت کا  
مال لے کر لوگوں کو قیدی ہنا کر صحیح و سالم لوٹ آیا۔

اسی سال معاویہ فاطمی نے مغربی عراق کے طبقہ صین کے علاقہ کو فتح کر لیا جو کہ فرنگیوں کے شہروں میں بہت سی تعداد شمار ہوتا تھا، سارے ہے سات ماہ مسلسل اس کا محاصرہ کرنے کے بعد وہ فتح کیا جاسکا تھا۔

ان فرنگیوں نے جزیرہ افریقہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنا تھا، ایک منزع نے بشفکل اس کے باشندوں کو بیجانیا اس طرح پر کہ اس نے بھی فرنگیوں کے مقابلہ میں ایک لٹکر بھیج دیا۔ جس نے فرنگیوں پر کامیابی ساصل کر لی۔ الحمد لله رب العالمین۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے لوگوں کے نام یہ ہیں:

احسن بن محمد بن ہارون:

امہلی، جو کہ معز الدولہ بن بویہ کا تیرہ برس تک وزیرہ چکا تھا، اس میں بردباری، شرافت اور سنجیدگی کا مادہ بھرا ہوا تھا، ابو اسحاق الصابی نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن میں اس کی مجلس میں موجود تھا، اسے میں اس کے پاس ایک دوات لائی گئی جو خاص اس کے لیے بنوائی گئی تھی اور ایک جوڑا بھی اس کے پاس لا یا گیا، جسے عمدہ اور قیمتی نقش و نگار کے ساتھ خاص اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، یہ دیکھ کر ابو محمد الفضل بن محمد اللہ الشیرازی نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ مجھ سے کہا، مجھ سے بڑھ کر وہ اس کا ضرورت مند نہ تھا، کہ میں اسے نیچ کر اپنا فائدہ حاصل کرتا، میں نے کہا تو وزیر کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو گا، تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب اس کے خزانے میں ہی تو واپس چلے جائیں گے۔ وزیر ہماری طرف کا ان لگائے ہوئے ہماری باتیں سن رہا تھا، مگر ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہ تھا، شام کے وقت اس نے وہ دوات وہ جوڑا، دس پکڑے مزید برآں پانچ بڑا درہم بھی ابو محمد الشیرازی کے پاس پہنچ دیئے اور اس نے اپنے لیے دوسرا سامان بنوایا۔ ایک دن پھر ہم اتفاقاً اس کے پاس پہنچ گئے وہ اس نئی دوات سے دستخط کا کام کر رہا تھا، اس نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، تم میں سے کون اب اس کا خواہش مند ہے، یہ سن کر ہمیں اس سے بہت شرمندگی ہوئی، اس وقت ہمیں یقین آ گیا کہ اس دن کی بات اس نے سن لی تھی، ہم نے کہا، اللہ ہمارے وزیر کو اس جیسا مال اور دے اور اس کی عمر دراز کرئے تاکہ وہ پھر ہمیں اس جیسا دے سکے۔ یہ مہلی اسی سال چونٹھ برس کی عمر پا کر انتقال کر گیا۔

دنخ بن احمد بن دنخ:

بن عبد الرحمن بن محمد الجتنی المعدل، خراسان، حلوان، بغداد، بصرہ، کوفہ اور کہ میں جا کر حدیثیں حاصل کیں، بہت ہی مالدار اور نیکی، صدقات، خیرات کرنے میں بہت مشہور تھے۔ ان کے صدقہ جاریہ کے کام اور ان کی طرف سے اوقاف بہت زیادہ تھے، کہ دنیا میں بغداد کے مانند کوئی جگہ نہیں ہے اور بغداد میں قطیعہ کی طرح اور قطیعہ میں دارالی خلف کی طرح اور دارالی خلف میں میرے گھر کی طرح کوئی گھر نہیں ہے۔ دارقطنی نے ان کی ایک منڈل کھی ہے، ان کو اگر کسی حدیث میں ذرہ برابر کسی قسم کا شک ہوتا تو اس پوری روایت کو ترک کر دیتے۔ دارقطنی کہا کرتے تھے کہ میرے اساتذہ میں ان سے بڑھ کر دوسرا کوئی پنځۂ نہیں ہے، انہوں نے اہل علم اور ضرورت مندوں میں بے شمار مال خرچ کیا تھا، ایک موقع پر کسی تاجر نے ان سے دس ہزار دینار قرض

لیے اور ان سے کارہ بار کہا شروع کیا، ابھاں تک کر صاف تین سال کی مدت میں اسے تمیں خارج نہ کا فائدہ حاصل ہو گی، تو ان میں سے دس ہزار گن کر قرض و اپس کرنے کے لیے ان کے پاس آیا۔ اس تاجر کو دیکھ کر انہوں نے ان کے لیے شاندار مہمانی کا انتظام کیا اس سے فارغ ہونے کے بعد ان سے دریافت کیا۔ اس وقت آپ کا آتا گیوگر ہوا جواب دیا تھا ایک وقت آپ نے جو مجھے دس ہزار دینار دے کر مجھ پر احسان کیا تھا، اب میں انہیں لے کر آپ کے پاس دیکھ کرنے کو آیا ہوں، کہنے لگے بجان اللہ! میں نے تو آپ کو دیکھ لیئے کی نیت سے نہیں دیجے تھے، آپ ان سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ صدر جی کریں، کہنے لگے میں نے ان سے تمیں ہزار کا فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ ان ہی میں سے یہ دس ہزار ہیں۔ دلخ نے اس سے کہا آپ دیکھ لے جائیں، اللہ اور بھی برکت دے۔ آخر میں اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کے مال میں اتنی برکت کہاں سے آئی اور یہ مال آپ کو کہاں سے دستیاب ہوا؟ دلخ کہنے لگے کہ میں اپنی جوانی کی عمر میں طلب حدیث میں مشغول تھا کہ ایک ایسا تاجر جو دریا و اس میں سفر کر کے دور دراز علاقوں میں کاروبار کیا کرتا تھا، اس نے مجھے دس لاکھ درہم دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ان سے کاروبار کریں، جو نفع حاصل ہواں میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر کبھی نقصان ہو تو وہ صرف میرے مال سے ہو گا، آپ کے مال سے نہیں ہو گا، پھر میں اللہ کو حاضر و نظر رکھ کر آپ پر یہ لازم کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ضرورت مندا و رحتاج کو پالیں تو خاص میرے مال سے اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کے بعد وہ تاجر دوبارہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اب میں دریائی سفر پر جارب ہوں، اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میرا مال آپ کے پاس، اس شرط کے ساتھ رہے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، چنانچہ اب تک ان کا مال میرے پاس اس ان ہی شرطوں کے ساتھ رہے، پھر مجھے دلخ نے کہا کہ میری زندگی تک تم یہ باتیں کسی دوسرے سے نہ کہنا، چنانچہ میں نے بھی ان کی زندگی میں کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

اسی سال ماہ جمادی الآخرہ میں چورانوے یا بچانوے برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔

### عبد الباقی بن قانع:

ابن مرزوق ابو الحسن الاموی، کہ یہ ان کے غلاموں میں سے تھے۔ الحارث بن اسامہ سے حدیث سماعت کی، اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، یہ ثقہ اور امین و حافظ بھی تھے، لیکن آخری عمر میں حفظ میں فرق آ گیا تھا، دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ روایت میں خطاب بھی کرتے تھے اور اس پر اصرار بھی کرتے۔ اس سال ماہ شوال میں وفات پائی۔

### ابو بکر العقاد الشافعی المفسر:

محمد بن الحسن بن محمد بن زید بن ہارون بن جعفر، ابو بکر العقاد، المفسر المقرئ، ابو دجانہ سماک بن خرشد کے آزاد کردہ غلام تھے آبائی وطن موصل تھا، تفسیر اور قراءات کے بڑے عالم تھے، مختلف علاقوں میں جا کر مختلف مشائخ سے بہت سی روایتیں سنی تھیں، اور ان سے ابو بکر بن مجاہد، الحنفی، ابن شاہین، ابن رزق وغیرے کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی روایتیں کی ہیں، سب سے آخر میں ان سے ابن شاذان نے روایت کی ہے، کہی مکفر روایتوں کے بیان میں یہ منفرد ہیں۔ دارقطنی نے ان کی مختلف غلطیوں پر

نشاندہی کی تب بعد میں اس سے رجوع کر لیا ہے، بعضوں نے کھل کر انہیں جھوٹا کہا ہے۔ واللہ اعلم ان کی ایک کتاب تفسیر میں ہے، جس کا نام انہوں نے شفا، الصدوق، رحابہ بنے بعضوں نے اس سے ناراض ہو کر اس کا نام استقام الصدوق رکھ دیا ہے۔ یعنی نفس نیک اور عبادت گزار تھے ان کی جان تی کے وقت حاضر ہونے والوں میں ایک شخص نے کہا ہے کہ یہاں وقت پچھوڑا گئیں مانگ رہے تھے آنر میں بلند آواز سے انہوں نے کہا:

﴿لِمُثْلِ هَذَا فَلَيَعْمَلُ الْعَمَلُونَ﴾۔ (اب ۲۳، رکوع ۶)

”عمل کرنے والوں کو ان کی طرح عمل کرنا چاہیے۔“

اسی آیت پاک کو انہوں نے تین بار کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔

سالی رووال کی دوسری شوال منگل کے دن ان کی وفات ہوئی اور دارقطنی کے اپنے مکان میں مدفون ہوئے۔

محمد بن سعید:

ابو بکر الحربی الزاهد اور یہ ابن الصریر سے بھی مشہور تھے۔ ثقة نیک اور عبادت گزار تھے، ان کا ایک جملہ ہے کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانی کا خوب مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میری خواہشات ہی مقابلہ کرنے والی ہو گئیں۔

## — ۳۵۲ —

اس سال دسویں محرم کو معزز الدولہ بن یویہ (الله اس کا احشر کرے کہ اس) نے عام حکم دیا کہ سارے بازار بند رکھے جائیں، عورتیں بالوں کے کمبل بدن پر ڈالیں، اور چہرے کھول کر سرستے بال بکھیرے ہوئے اپنے چہروں پر طماقچے مارتے ہوئے حسین بن علی بن ابی طالب پر نوح خوانی کرتے ہوئے بازاروں میں نکلیں۔ شیعوں کی بہت زیادتی اور بادشاہ وقت کی اس کام میں موافقت کی وجہ سے اہل سنت کو بھی اس کی مخالفت ممکن نہ ہو سکی، اسی سال دسویں ذی الحجه کو معزز الدولہ بن یویہ نے بغداد میں اظہار زینت کرنے، عید کے دن کی طرح رات کو بھی بازار کھلے رکھنے اور نثارے اور بگل وغیرہ کے بجائے اور امراء کے دروازوں اور فوجیوں کے پاس چاغاں کرنے کا بھی حکم دیا، عذریخ، عید الغدیر کی خوشی کی مندوہ وقت انتہائی تجرب خیز اور تاریخی تھا، اور انتہائی بدترین بدعت اور حکم کھلما مکفر کا مرتبہ تھا۔

اسی سال رومیوں نے رہا پر غارت گردی کی، لوگوں کو قتل کیا، قید کیا اور باعزت واپس لوٹ آئے۔ رومیوں نے دوبارہ ان کے ملک پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا، پھر دوسری طرف رُخ کیا۔

اس سال ارمیں کا بادشاہ الد مستق مر گیا، اس نے حلب پر قبضہ کر کے لوٹ کھوٹ کا بازار گرم کیا تھا، اسکے بعد لوگوں نے دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر لیا۔

ارمن کے بادشاہ انقور کے حالات زندگی جس کا نام الد مستق تھا:

یہ شخص تین سو باون یا چھپن یا چھپن میں مرا ہے، اللہ اس پر بالکل رحم نہ کرے۔ یہ ملعون تمام بادشاہوں میں انتہائی سخت

لے سے ہے بکھر، بہت طاقتور تھا، اس کی ماں بہت زیادتی تھی، اسے زمانہ میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ قدر، قاتل کرنے والا تھا، اللہ اس پر لعنت کرے کہ اس نے اپنے زمانہ میں بہت سے سلطی عاقلوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا ان میں زیادہ تر عاقلوں کو طاقت کے ذریعہ مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اسی کے قبضہ میں زمانہ دراز تک وہ حلقہ انتہائی مغلوبیت نے ساڑھہ رہا ان عاقلوں کو رومنی حکومت میں داخل کر لیا تھا، یہ سب کچھ مغض اس زمانہ کے لوگوں کی کوتاہی اور لاپرواہی کے ظہور اور ان بدترین حکم کی بدعتوں کے پھیل جانے اور ان کے خاص و عام کے گناہوں میں ڈوب جانے کا نتیجہ تھا، ان میں بدعتیں بھی زیادہ عام ہو گئی تھیں اور رفض و شیعیت کی بھی ان میں بہت زیادتی ہو گئی تھی، اور ان کے درمیان جو اہل سنت تھے ان پر بھی ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کے دشمنوں کو مسلط کر رکھا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے ان مسلمانوں سے ان کے قبضہ کی تمام چیزیں انتہائی دہشت کے ساتھ ان کے قبضہ سے ان کے شہر چھین لیے، ان کی زندگی ان پر اچیرن کردی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگتے پھرتے تھے دشمنوں کی دشمنی اور متواتر آفات و بلیات کے نازل ہوتے رہنے کے خوف سے کسی ایک جگہ رات بسر نہیں کر سکتے تھے۔ بس اللہ کی مدد و رخواست ہے۔

دن دوسرا کا ون میں اچانک دولاء نے والے گھس پڑے اور سارے علاقہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کسی طرح ان کے درمیان سے وہاں کا حاکم سیف الدولہ نکل بھاگ کیا، اس کے بعد اس علاقہ پر اس لعین کا بزرور قبضہ ہو گیا، اور وہاں کے باشندوں، عورتوں اور مردوں کو اتنا زیادہ قتل کیا کہ ان کی صحیح تعداد خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکی۔

سیف الدولہ کا وہ محل جو حلب کے کھلے علاقہ میں تھا اس نے بالکل ویران کر دیا اور اس میں جو کچھ مال و متاع اور جتنے انسان تھے، سب پر پورا قبضہ کر لیا۔ تمام باشندوں کی کمر توڑ دی، انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اور اس ملعون کا زور وہاں بہت بڑھ گیا تھا۔ انا اللہ و انا الیه راجعون۔ اسلام اور اس کے ماننے والوں کو قتل اور نیس، و تابود کر دینے میں بھر پور کوشش کی، اصلی حکومت تو اس خدا ہی کے لیے ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ملعون جس شہر میں بھی جاتا وہاں کے لئے والوں جوانوں اور مردوں کو قتل کر دالتا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتا، وہاں کی مسجدوں کو اپنے گھوڑوں کے اصطبل بنادیتا، مسجد کے ممبروں کو قوت ڈالتا اور ان کی اذان گاہوں کو گھوڑوں پریوں اور جس طرح بھی ہوتا، ویران کر دیتے۔

آخر تک اس کا طور طریق یہی رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی بیوی کو اس پر مسلط کر دیا کہ اس کی بیوی نے اپنی باندیوں کی مدد سے گھر کے پیچ میں اسے قتل کر دیا، اس طرح اللہ نے اس سے اسلام اور مسلمانوں کو نجات دی، اس منحوس بادل کو ان سے چھانٹ دیا، اور اس کی طاقت ختم کر دی، ان میں انتشار برپا کر دیا۔ اللہ کے لیے ساری نعمتیں اور فضیلیتیں ہیں۔ والحمد للہ علی کل حال، بہر حال اللہ ہی نکے لیے تعریفیں ثابت ہیں۔

یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی وفات کے سال میں ہی قسطنطینیہ کا بادشاہ مر گیا۔ اس لیے مسلمانوں کی خوشیاں کمل ہو گئیں اور ساری تھنا میں حاصل ہو گئیں، ساری تعریفیں اسی خدا کو لائق ہیں کہ اسی کی نعمتوں کے طفیل نیکیاں کمل ہوتی ہیں اور برا نیا نام ہوتی ہیں اور اسی کی رحمت کے صدقے لغزشوں اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔

خداوند کا حکم کیا ہے کہ اس کو جو شفہ اُجھے کو اپنے سنت تھی، اس ملعون نے خایرِ بطیعہ کے پاس ایک طویل قصیدہ پڑھنا تھا، جسے کسی ایسے شخص نے لکھا تھا جسے اللہ نے ذلیل درس اکیا تھا اور اس کے کام اور اعلیٰ پر مہر لگادی تھی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا تھا اور اسے اسلام اور بنیاد اسلام سے بالکل دور کر دیا تھا، وہ مدد و دوسرا اس قصیدہ سے اپنے لیے خیر کا اطمینان رہتا ہے اور عام مسلمانوں اور نفسِ اسلام کو گھنی دیتا ہے اور اس میں تمام حلقة گوشان اسلام کو یہ ٹھیکی دیتا ہے کہ آنے والے صرف چند سالوں میں وہ تمام ممالک اسلامیہ یہاں تک کہ حرمین شریفین پر بھی قابض ہو جائے گا، حالانکہ وہ خود چار پایوں اور جانوروں سے بھی بدترین ذلیل اور گمراہ ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس طرح وہ دین مسیحی بن بتول عینیتیہ کی مدد اور نصرت کر رہا ہے، اس میں جگہ جگہ باری تعالیٰ کی طرف سے رسولِ خدا کی طرف خطاب کا اندازہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ پر حمیتیں نازل کرے۔

یہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ کسی نے بھی اس کے قصیدہ کا مناسب جواب دیا ہو یا تو اس لیے کہ یہ قصیدہ زیادہ مشہور نہیں ہوا کیا اس لیے کہ وہ کھلم کھلا ملکر تھا، جس کا مناسب جواب یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے، کہ وہ خود ہی گمنام اور ختم ہو جائے۔ اس ناظم کی روشن شیطانی معلوم ہوتی ہے۔ البتہ صرف ایک شخص ابو محمد بن حزم الظاہری نے اس کی طرف توجہ دی اور بطور فرض کفایہ اس کا بھرپور اور بہت معقول منہ توڑ جواب دیا ہے، اس میں ہرباب اور ہر فصل کا خیال کر کے مناسب اور معقول جواب دیا ہے۔ اللہ اس کی قبر کو اپنی رحمتی سے ترکہ اور جنت میں اس کا مٹھکانہ بنائے۔

اب میں اس قصیدہ کو جواریہ نام سے مشہور ہے وہ بہشہ بدنام اور سوار ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہی اس اسلامی قصیدہ کو بھی ذکر کروں گا، جو کیتا اور منصور اور مقبول ہے وہ شاعر مرد اس قصیدہ کو اپنے اسی بادشاہ کی زبان سے کھلوا رہا ہے اور ان دونوں پر اور ان کے تمام مددگاروں پر اللہ قیامت تک لعنت کرے۔ آمین یا رب العالمین میں نے اسے ابن عساکر کے خط سے نقل کیا ہے اور ان لوگوں نے صلة السلسلة المفترغاني کی کتاب سے نقل کیا ہے۔

## الْقَصِيْدَةُ الْأَرْمِيْنِيَّةُ الْمُذْوَلَةُ الْمَلْعُوْنَةُ

۱. من الملك الظاهر المسيحي مالك الى خلف الاملاك من الهاشم

ترجمہ: یہ خط بمشکل قصیدہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو پاک ہے مسیحی ہے مالک ہے اس آخری بادشاہ کے نام جو باشی خاندان کا ہے۔

۲. الى الملك الفضل المطهع اخي العلاء و من يرجى للغضبلات العظام

ترجمہ: اس بادشاہ کے نام جو فاضل ہے اس کا نام مطیع ہے علاوہ الدولہ کا بھائی ہے اور ان تمام لوگوں کے نام ہے جو بڑی سخت پریشانیوں میں گھبرائے ہوئے ہیں۔

۳. اما سمعت اذناك ما انا صانع ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم

**ترجمہ:** سی تباہ سے کافی تھے وہ خوبیں سنی جو میں کرنے والے توں، لیکن ہوشیاری کے کام کرنے کے سبق کرنے نے تم کو آفت میں بنا کر دیا ہے۔

۴. فلان شائی م افلاں تقدیت نائما فانی عَمَّا هُمْ يَنْهَا

**ترجمہ:** اب اگر تم اپنی ذمہ داریوں لو جانا سے غافل ہو تو رہو کیونکہ میں تو اپنی ذمہ داری جانا سے غافل نہیں ہوں۔

۵. شغور کم لم یقین فیها - لوهنکم وضع فکم - الارسوم المعنام

**ترجمہ:** تمہاری سستی اور کمزوری کی وجہ سے تمہاری سرحدیں باقی نہیں رہیں بلکہ چند میٹھے ہوئے نشانات رہ گے۔

۶. فتحنا الشغور الارمنیة كلها بفتیان صدق كالليوث الضراجم

**ترجمہ:** ہم نے تمام ارمنی سرحدوں کو فتح کر لیا ہے ایسے بہادر جوانوں کی مرد سے جوز بردست شیروں کی طرح ہیں۔

۷. و نحن صلبنا الخيل تعلك لجمها و تبلیغ منها قضمها للشكائم

**ترجمہ:** ہم نے لاٹی کے میدان میں اپنے ایسے گھوڑوں کو ختم کر لالا ہے جو اپنی گام کو اتنا چباتے رہتے تھے کہ چباتے ہوئے گام کے کڑے کو بھی چباؤ لتے تھے۔

۸. الی كل ثغر بالجزیرۃ آهل الى جند قنسرينکم فالعواصم

**ترجمہ:** جزیرہ آبل کی تمام سرحدوں کی طرف بھی، تمہاری قصرین اور عواصم کے لشکر کی طرف بھی۔

۹. ملطيۃ مع سمیساط من بعد كرکر و فی البحر اضعاف الفتوح الواخم

**ترجمہ:** کر کر کے بعد ملطیہ کے ساتھ سمیسا کی طرف بھی، اور دریا میں بھی زیادہ سے زیادہ سرحدی کامیابی کی طرف۔

۱۰. و بالحدث الحمراء جلت عساکری و نیسوم بعد الجعفری للمعالم

**ترجمہ:** اور ہمارے لشکر نے الحدث الحمراء کی طرف پیش قدی کی ہے اور جعفری کے بعد کیسوم کی طرف بھی اپنی نشانیاں باقی رکھنے کے لیے۔

۱۱. و کم قد ذللتانا من اعزّة اهلها فصارولنا من بين عبد و خادم

**ترجمہ:** ہم نے وہاں کے کتنے ہی معزز لوگوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا، اس لیے وہ لوگ ہمارے یہاں غلام اور خادم بن کر رہ گئے ہیں۔

۱۲. و سد سروج اذ خربنا بمحمنا لسارتۃ تعلوا على کل قائم

**ترجمہ:** اور زینوں کو کس کر کے جبکہ ہم نے اپنی جماعت کے ذریعہ خراب کر دیا ہے، ہمارا رتبہ اونچا ہے جو ہر کھڑے ہونے والے سے بھی بلند ہے۔

۱۳. و اهل الرُّهَا لَا ذوابنا و تَخَرِّبوا بمندیل مولیٰ علام عن وصف آدمی

**ترجمہ:** اور حاویوں نے ہماری پناہی اور ٹوٹی نولی بنائی، اپنے ایسے آقا کے رومال کو لے کر جو آدمی کی صفت سے کہیں بلند ہو

لکھا۔

۱۴۔ وَ صَبَّحَ رَامِ الْعَنْ عَسَا طَارِقٌ سبص غزو ناہا نصب الحمام حم

تترجمہ: اور رات کے وقت آئے واسے ہمارے لشکروں نے راس اُمین میں ٹھنڈی سے۔ بدن پر تھیارہ اسے ہونے ہوئے ہم نے  
ہاں حملہ کر دیا ان لوگوں کی کھوپیاں اڑا کر کے۔

۱۵۔ وَ دَارًا وَ مِيَافِارِقِينَ وَ اَرْزَنَا اذ قَنَاهُمْ بِالْخَيلِ طَعْمَ الْعَالَمِ

تترجمہ: اور دارا اور میافارِقین اور ارزن پر ہم نے گھوڑوں سے حملہ کر کے ان کو ایوا کا مزہ چکھا دیا ہے۔

۱۶۔ وَ اقْرِيْطِشْ قَدْ جَازَتِ الْيَهَا مَرَاكِبِيْ

تترجمہ: اور ہماری کشتیاں اقریطش سے آگے بڑھ گئیں، ایسے سمندر پر سے گزر کر جو جھاگ اڑانے والا اور موچن تھا۔

۱۷۔ فَخَرَّتْهُمْ اَسْرَى وَ سِيقَتْ نَسَاءُهُمْ ذُوَاتُ الشَّعُورِ الْمُسَبِّلَاتُ النَّوَاعِمُ

تترجمہ: پس میں نے وہاں کے باشندوں کو قیدی کی حیثیت سے جمع کر لیا اور ان کی عورتیں بنا کر لائی گئیں، جو بڑے لابنے  
بالوں والی اور نرم و نازک تھیں۔

۱۸۔ هَنَاكَ فَحْنَاعِينَ زَرَّةً عَنْهُ نعم وَ أَبْدَنَا كَلْ طَاغِ وَ ظَالِمِ

تترجمہ: ہم نے وہاں عین زربہ کو بزور فتح کیا، ہاں! اور ہم نے ہر سرکش اور ظالم کو قابو میں کر لیا ہے۔

۱۹۔ إِلَى حَلْبٍ حَتَّى اسْتَبْحَنَا حَرِيمَهَا وَهَدَمْ مِنْهَا سُورَهَا كَلْ هَادِمٌ

تترجمہ: فتح کرتے ہوئے ہم حلب تک پہنچ گئے یہاں تک کہ وہاں کی کیامات کو بھی ہم نے اپنے لیے حلال کر لیا، اور اس شہر کی  
ساری چاروں یواری کو توڑانے والوں نے چور چور کر دیا۔

۲۰۔ أَخْدَنَا النِّسَاءَ ثُمَّ الْبَنَاتِ نَسْوَقَهُمْ وَصَبَّانَهُمْ مِثْلَ الْمُمَالِيكِ خَادِمٌ

تترجمہ: ہم نے ان کی عورتوں پھر لڑکیوں کو کپڑا پھر انہیں بنا کر ہم لاتے رہے، اور ان کے بچوں کو بھی مثل غلاموں اور خادموں  
کے لئے آئے۔

۲۱۔ وَ قَدْ فَرَّعَنَّا سَيفَ دُولَةِ دِينِكُمْ وَ نَاصِرَ كَمْ مَنَّا عَلَى رَغْمِ رَاغِمِ

تترجمہ: اور تمہارا دینی سیف الدولہ ہم سے کسی طرح بھاگ نکلا، اور ہماری گرفت سے تمہاری مدد کرنے والا ہماری سخت  
نگواری کے باوجود بھاگ گیا۔

۲۲۔ وَ عَلَنَا عَلَى طَرْسُوِ مِيلَةَ حَارِمٍ اذْقَنَ الْمَنَ فِيهَا الْحَرَّ الْحَلَاقِمُ

تترجمہ: اور ہم نے بہت ہوشیار شخص کی طرح طرسوں کا رخ کیا، وہاں جتنے بھی ہیں سب کو ہم نے حلقوں کی تکلیف پہنچا دی ہے۔

۲۳۔ فَكَمْ ذَاتٌ عَزَّ حَرَّاً عَلَوِيَّةً بِنَعْمَةِ الْأَطْرَافِ رِيَّاً الْمَعَاصِمِ

تترجمہ: پس کتنی ہی ایسی باعزت، شریف اور علوی خاندان کی نرم و نازک اعضاء بدن، خوشبو دار کلائیوں والی عورتیں ہیں۔

۲۴ سببائیہ سنتا سائنساً بیناً میں کیا تھا۔ میرے میتوں، لاہور لاہور حاکم حاکم  
تترجمہ: ہم نے انہیں قید کیا پھر انہیں ہنکایا اس سال میں کہ وہ سرجھاناے والی ننگے سر ٹھیں مہر دیجئے بغیر ہی انہیں نہیں یہ صرف  
ایک حکم حاکم کی وجہ سے ہوا۔

۲۵ و کم من فتیلی قد تر کنا منحدلاً  
تترجمہ: اور کتنے ہی مقتول ہیں کہ ہم نے انہیں چنان کی مانند چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہ حلق اور گردان کی نیچے کی ہڈی کے  
درمیان خون بھار ہے تھے۔

۲۶ و کم وقعةٍ في الرب افت كماتكم و سقناهم تسرًا كسوق البهائم  
تترجمہ: اور سڑکوں میں کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے تمہاری جڑوں کو ختم کر دیا۔ اور ہم نے انہیں بزور ہنکایا  
جانوروں کے ہنکانے کی طرح۔

۲۷ و ملنا على اصحابكم و حريمها مدوحة تحت العجاج السواهم  
تترجمہ: ہم نے تمہاری عمدہ چیزوں پر حملہ کیا اس حال میں کہ ان کے محافظ تیروں کے سائے کے نیچے ذیل پڑے ہوئے تھے۔

۲۸ فاهوت اعالیها و بدل رسماها من الانس و حشا بعد يرض نواعم  
تترجمہ: اور اس کے بلند حصہ کو گرا دیا اور اس کی علامتوں کو بدل دیا ہے، گوری نرم و نازک انسان عورتوں کی جگہ وحشی جانوروں سے۔

۲۹ اذا صاح فيها اليوم جاوبه الصدای واتبعه في الرابع نوع الحمام  
تترجمہ: جب اس میں کوئی الوچحتا ہے تو آواز نکل کر اسے جواب دیتی ہے پھر اس علاقہ میں کبوتروں کا رونا متواتر ہونے لگتا ہے۔

۳۰ و انطاك لم تُبعد على واثنى ساقتها يوماً بهتك المحارم  
تترجمہ: اور انطا کیہ بھارے لیے کوئی بہت ذور نہیں ہے اور یقیناً میں عنقریب ایک دن اسے فتح کرلوں گا اس کے محترم مقامات  
کو رومند تے ہوئے۔

۳۱ و مسبكس اباىي دمشق فاننى سارجع فيها ملکتنا تحت خاتمى  
تترجمہ: میرے آباء کا وطن دمشق ہے اور یقیناً میں عنقریب اس میں اپنے ملک کو اپنی انگوٹھی کے نیچے لے آؤں گا۔

۳۲ و مصر ساقتها بسيفي عنوةً واحذا اموالاً بها وبهائمى  
تترجمہ: اور عنقریب میں اپنی تلوار کے زور سے اسے فتح کرلوں گا، اور وہاں کے تمام مال اور جانوروں پر قبضہ کرلوں گا۔

۳۳ واجزى كافوراً بما يستحقه بمشط ومقراض وقض محاجم  
تترجمہ: اور کافور کو جس کا وہ مستحق ہے پورا پورا بدلہ دوں گا، کنگھی اور قینچی اور نشرت لگانے کی جگہوں کو کاٹ کر۔

۳۴ الاشمرروا يا اهل حمدان شمررواً اتکم جيوش الروم مثل الغمام  
تترجمہ: اے آل حمدان! تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تم پر روی لشکر مسلح بادلوں کے چھاپکا ہے۔

۳۵. فَإِنْ تَهْرُبُوا تَحْجُوا كَرِيمًا وَتَسْلِمُوا مِنَ الْمَهْلَكِ إِلَيْهِ أَدْعِي بِقَبْلِ الْمَسْأَلَةِ

ترجمہ: اس لیے اگر تم بھاگ جاؤ تو تم شریفانہ طور پر نجی بجاوے گے اور محفوظ رہ جاؤ گے حملہ آور بادشاہ کے ہمراپور قتل کر دینے

۳۶. كَذَلِكَ سَصِّنْ وَ مُوصِلْهَا إِنِّي حَزِيرٌ رَّاهَ إِبَائِي وَ مَلَكَ الْأَقَادِيمِ

ترجمہ: اسی طرح نصیبین اور موصل کو بھی شامل کرلوں گا اپنے آباء کے علاقوں اور اگلوں کی حکومت میں۔

۳۷. سَافَّحْ سَامِرًا وَلُوئًا وَ عَبَكْرًا وَ تَكْرِيْتَهَا مَعَ مَارِدِينِ الْعَوَاصِمِ

ترجمہ: میں عنقریب فتح کرلوں گا سامرا، لوث اور عبکر اکو، اور تکریت کو مار دین دار اسلطنوں کے ساتھ۔

۳۸. وَ اقْتَلْ أَهْلِيْهَا الرِّجَالَ بَاسِرَهَا وَ اغْسِمْ أَمْوَالَهَا حَرَائِمِ

ترجمہ: میں وہاں کے تمام باشندوں کو قتل کر دوں گا اور غنیمت بنانے کے آؤں گا وہاں کے مالوں اور تمام محترم چیزوں کو۔

۳۹. الْأَشْمَرُوْرَا يَا أَهْلَ بَغْدَادِ وَ يَلْكُمْ فَكَلَكِمْ مُسْتَفْعِفُ غَيْرِ رَائِمِ

ترجمہ: اے بغداد والو! تم سب تیار ہو جائی، تم سب کی بربادی ہو کہ تم سب لوگ حقیر بے مقصد ہو۔

۴۰. رَضِيْتُمْ بِحُكْمِ الدِّيَلِيَّيِّ وَ رَفَضْتُمْ فَصَرَّتْمُ عَبِيدًا الْأَعْبَدَ الدِّيَالِيَّ

ترجمہ: تم دیلی کے حکم اور اس کے رفع کے حکم کے مقابلہ چلنے پر راضی رہے، اب تم غلام بن گئے، لیکن دیلمیوں کے غلام نہیں۔

۴۱. وَ يَا قَاطِنِي الرِّمَلَاتِ وَ يَلْكُمْ ارْجَعُوا إِلَى أَرْضِ صَنْعَاءِ رَاعِينَ الْبَهَائِمِ

ترجمہ: اے بالوں میں اقامت کرنے والو! تمہاری بربادی ہو لوٹ جاؤ، صناء کے علاقہ کی طرف جانوروں کو چراتے ہوئے۔

۴۲. وَ عَوْدُوا إِلَى أَرْضِ الْحِجَازِ اَذْلَةً وَ خَلُوَّا بِلَادِ الرُّومِ أَهْلَ الْمَكَارِمِ

ترجمہ: اور تم حجاز کی سر زمین کی طرف ذلت کے ساتھ لوٹ جاؤ، اور شریف رومیوں کے علاقوں کو چھوڑ دو۔

۴۳. سَأْلَقَنِي حِيْوَشَهَا نَحْوَ بَغْدَادِ سَائِرًا إِلَى بَابِ طَاقِ حِيثَ دَارِ الْقَمَاقِيَّ

ترجمہ: میں عنقریب بغداد کی طرف بہت سے شکر بھیجوں گا، جو چلتا ہو جائے گا، باب طاق کی طرف جہاں دار القماقی ہے۔

۴۴. وَ احْرَقَ اعْلَاهَا وَاهْدَمْ سُورَهَا وَ اسْبَى ذَرَارِيْهَا عَلَى رَغْمِ رَاغِمِ

ترجمہ: میں اس کی بلند عمارتوں کو جلا دوں گا اور اس کی چہار دیواری کو توڑ دوں گا، اور میں اس کے بھیوں کو قید کرلوں گا،

ناراض ہونے والے کے نہ چاہنے کے باوجود۔

۴۵. وَاحْسَرَ أَمْوَالَهَا وَ اسْرَهَا وَ اقْتَلَ مَنْ فِيهَا بَسِيفَ النَّقَائِمِ

ترجمہ: اور وہاں کے سارے مالوں اور بختوں کو اپنے قبضہ میں لے لوں گا، اور غنیمت و نابود کر دینے والی تلوار سے اس کے تمام لوگوں کو قتل کر دوں گا۔

۶۷۔ داری سری چھپنی فتح الہوارم رعنی لا حَدَّ اِنْ دِسَاجٍ اَخْرَى لَمْسَ اسْمَهُ

ترجمہ: اور اہواز کی طرف اپنی فوج کو تیزی کے ساتھ راتوں رات لے جاؤں گا، ایشی اور قمی کپڑوں کو جمع کرنے کے لیے ۷۴ و اشعاعہا نصیباً اهداء فصلہ، ها واسیبی درازیہا کففع الاقادم

ترجمہ: اور میں اسے نوٹ لینے کے بعد جلاذالوں گا اور اس کی بلند و پانیمارتوں کو ویران کر دوں گا اور اس کے پکوں کو قید کر ڈالوں گا اپنے اگلے لوگوں کے عمل کے مطابق۔

۸۴۔ منها الی شیراز والری فاعلموا خراسان قصری والجیوش بحارم

ترجمہ: اور وہاں کے شیراز اور ری کی طرف فوج روانہ کر دوں گا، اس لیے یاد رکھو کہ خراسان میرا شاہی محل ہے اور سارا اشکر میرا محافظ ہے۔

۴۹۔ الی شاس بلخ بعدها و خواتها و فرغانة مع مروها والمخازم

ترجمہ: شاس کی طرف اور اس کے بعد بلخ اور اس کے قریب کے علاقے اور فرغانہ اور اس کے ساتھ مرداور خازم بھی۔

۵۰۔ و سابور اهدمها و اهدم حضونها واوردها يوماً كيوم السمائم

ترجمہ: اور سابور اور اس کے تمام قلعوں کو تھیس نہیں کر دوں گا، اور ایک دن میں اس میں داخل ہو جاؤں گا، اب اتیل پرندوں کی طرح۔

۵۱۔ و کرمان لا انسی سجستان کلها و کابلہا النائی و ملک الاعاجم

ترجمہ: اور کرمان میں بھی پھر پورے بختان میں داخل ہونے کو نہیں بھولوں گا، اور اس کے دور کے علاقے کامل اور عمجمی ملکوں کو بھی نہیں بھولوں گا۔

۵۲۔ اسیر بحدنی نحو بصرتها التي لها بحر عجاج رائع متلازم

ترجمہ: اور میں اپنے لشکر کو لے کر وہاں بصرہ کی طرف جاؤں گا، جس کے دریا کے اوپر ہمیشہ خوش کن دھنڈ چھائی رہتی ہے۔

۵۳۔ الی واسط وسط العراق و كوفة كما كان يوماً جندنا ذو العزائم

ترجمہ: اور میرا سفر و واسط کی طرف بھی ہو گا جو کہ عراق اور کوفہ کے وسط میں ہے، جیسا کہ کسی دن ہمارا پختہ ارادہ والا لشکر تھا۔

۵۴۔ و اخرج منها نحو مكة مسرعاً احرُّ جيُوشَا كالليلالي السواجم

ترجمہ: پھر میں وہاں سے نکل کر تیزی کے ساتھ کمکی طرف جاؤں گا، پھر میں وہاں اپنے ساتھ اتنا زبردست لشکر لے کر جاؤں گا، جو آنسو بہادر یعنی والی راتوں کی طرح ہو گا۔

۵۵۔ فاما لکھا دھرًا عزیزًا مسلماً اقیم بھاللحق کرسی عالم

ترجمہ: پھر میں اس علاقہ کا جم کرم زمانہ دراز تک مالک بنارہوں گا، وہاں میں سارے عالم پر حکومت کرنے کے لیے حق کی کرسی لگا کر رہوں گا۔

۵۶. واحوی نحداً كنهما و تهامتها و سرماً واتهاماً مذحج وفحاشم

ترجمہ: اور میں ساوی ہو جاؤں کا سارے بحدا و تهامتہ پر اور سرماں رائی پر اور قبیلہ مدّن اور حکم سے علاقوں پر۔  
۵۷. وانف بر ایسے از اک ایسا اور زیبادا و صنعتاء هامع صعدہ و انهانہ

ترجمہ: اور میں غزوہ کروں گا سارے یمان اور زیدہ پر اور صنعتاء یمن لے عاصہ صعدہ اور نہایت پر بھی۔

۵۸. فاتر کھا ایضا حرابا بلا قعاً حلاً من الاهلين اهل نعائم

ترجمہ: تب میں ان علاقوں کو دیران چیل میدان کر کے چھوڑوں گا، شتر مرغ والے باشندوں سے خالی کر کے رہوں گا۔

۵۹. واحوی اموال الیمانین كلها وما جمع القرمات يوم محارم

ترجمہ: اور میں سارے یمان کے مالوں پر قبضہ کروں گا، اور ان تمام چیزوں کو بھی جنہیں قرمطیوں نے محترم نہوں میں جمع کیا ہے۔

۶۰. اعود الى القدس التي شرفت بنا بعز مكين ثابت الاصل قائم

ترجمہ: اور میں لوٹ جاؤں گا اس مقدس مقام کی طرف جس نے ہماری شرافت بڑھائی ہے، اصل باشندے کو عزت دے کر جن کی اصل ثابت اور موجود ہے۔

۶۱. واعلوا سريري للمسجدود معظماً و تبقى ملوك الارض مثل الخواجم

ترجمہ: اور میں اپنے تحت معظم کو لوگوں کے بجدہ کے لیے بہت اونچا کروں گا، اور دنیا کے سارے بادشاہ خادموں کی طرح رہ جائیں گے۔

۶۲. هنالك تخلوا الارض من كل مسلم لـكل نقي الدين اغلـف زاعـم

ترجمہ: اس وقت وہ علاقہ ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے جو صاف دین والے بے ختنہ والے اور یقین رکھنے والے ہوں گے۔

۶۳. نصرنا عليكم حين جارت ولا تکم واعلنتموا بالمنكرات العظام

ترجمہ: ہمیں تمہارے خلاف نہیں مدد اس وقت میں جبکہ تمہارے حکام تم پر ظلم کرنے لگے تھے اور تم بڑے بڑے گناہوں کو حکم کھلانے لگے تھے۔

۶۴. قصاصكم باعواء القضاء بدينهـم كـبيـع ابن يـعقوـب بـيـخـس الدـراـهم

ترجمہ: تمہارے قاضیوں نے اپنادین دے کر قاضی کے عہدہ کو خریدا، جیسے کہ ابن یعقوب (یوسف علیہ السلام) کو چند درہموں کے عوض ان کے بھائیوں نے پیچا تھا۔

۶۵. عـدولـكـم بـالـزـورـ يـشهـدـ ظـاهـرـاً و بالآفـكـ والـبرـطـيلـ معـ كـلـ قـائـمـ

ترجمہ: تمہارے موافق کھلم کھلی جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہ دوڑے اور ہر ضرورت مند کے لیے جھوٹی تہمت اور رشت کے ساتھ۔

**۶۶۔ سافتح ارضَ اللّٰهِ شرقاً و مغرباً** وانشر دیناً للصلب بصارمي ترجمہ: میں منقريب مشرق سے مغرب تکَ الـلـٰـهـ کـیـ سـارـیـ زـمـنـ کـوـنـخـ اـرـلوـنـ گـاـ، اور میں اپنی توارکے زور سے صلیبی دین کو نیا میں پھیلان گا۔

**۶۷۔ فَيَسْبِّهُ عَلَىٰ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ عَرْشَهُ يَفْهُمُ الَّذِي وَالَّذِي يَوْمَ التَّحْسِيبِ** ترجمہ: پیش عیتی علیہ آسمانوں کے اوپر عرش سے بلند ہو گئے جو شخص ان سے ولی محبت رکھتا ہوگا وہی لڑائی کے درمیان کامیاب ہوگا۔

**۶۸۔ وَصَاحِبُكُمْ بِالْتَّرْبَةِ أَوْدِي بِهِ الشَّرِّ** فصار رفاتاً بینَ تلَكَ الرَّمَائِيمِ ترجمہ: لیکن تمہارے آقا مٹی میں مدفن ہیں، مٹی نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، اس طرح وہاں بوسیدہ ہدیوں کے درمیان ان کی ہدیاں بھی سرگل گئی ہیں۔

**۶۹۔ تَنَوَّلْتُمْ أَصْحَابَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ** بسببِ وقدف و انتهاء المحرام ترجمہ: تم نے اپنے نبی کے بعد ان کے مرتضیوں کو نشانہ بنایا ہے، گالیوں سے تھتوں سے اور ان کی بے عزتی کر کے۔ اس ناظم کی نظم کا یہ آخری شعر ہے، اللہ ان ناظم پر لعنت کرے اور اسے جہنم میں جگدے، اس دن جگد کسی بھی ظالم کو عذر خواہی کرنا فائدہ نہ ہوگا، اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کا محتلا بہت برا ہوگا، اس دن وہ نظم کہنے والا اپنی ہلاکت کو پکارے گا، اور جہنم کی آگ میں اسے جھونکا جائے گا، اس دن ظالم افسوس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا، اور انہار نداشت کے طور پر کہے گا، اسے کاش میں ان رسول کے ساتھ اپنا اچھا تعلق قائم کیے ہوتا۔ یقیناً ہمارے لیے نصیحت آئی تھی، قرآن آیا تھا لیکن ہمیں شیطان نے گراہ کر دیا تھا۔ اور شیطان تو انسان کو رسوایرنے والا ہے، اگر حال میں کفر میں مر گیا ہو۔

اب اس قصیدہ کا جواب دیا جاتا ہے، جو ابو محمد بن حزم الفقيہ الظاہری الاندلسی کا لکھا ہوا ہے۔ انہیں جو نبی اس ملعون کے قصیدہ کی خبر ملی، فوراً فی البدیہہ غصہ کی حالت میں اس کا جواب لکھا ڈالا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی حاصل کرنے اور اس کے دین کی حفاظت کی خاطر، جیسا کہ اس کے دیکھنے والے نے بیان کیا ہے۔

اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا نجات نعمہ بنائے، اور ان کے گناہوں کو معاف کر ڈالے۔ آمین



## الْحَسِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْمُنْصُورَةُ الْمَيْمُونَةُ

۱. من المحتوى بالله رب العالم

تترجمہ: اس شخص کی طرف سے یہ جواب ہے جو اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنے والا ہے اور ایسے رسول اللہ کے دین کا ماننے والا ہے جو ہاشمی خاندان سے ہے۔

۲. محمد الهادی الى الله بالتقى

تترجمہ: جن کا نام نامی محمد ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، تقویٰ رشد اور اسلام کا تمام لوگوں میں افضل ہیں۔

۳. عليه من السالم مردداً

تترجمہ: آپ پر اللہ کی طرف سے باز بار رحمت نازل ہوتی رہے، یہاں تک کہ حشر کا دن سارے عالم کو پورا پورا بدلتے۔

۴. الى قائل بالافك جهلاً مضلةً

تترجمہ: اس شخص کے نام جو جہالت اور مگراہی کی بناء پر جسمی باقیں کہنے والا ہے، اس ناقفور کی طرف سے جو عجیبوں میں جھوٹی باقیں پھیلانے والا ہے۔

۵. دعوت اماماً ليس من أمرائي

تترجمہ: تو نے ایسے امام کو مغلوب کیا ہے جس کے امراء اس کے ہاتھوں میں پکھنیں ہیں، مگر قوم طسم کے مئے ہوئے نشانات کی طرح۔

۶. دهته الدواهی في خلافته كما

تترجمہ: اس امام کی خلافت کے دور میں بہت سی آفتنیں نازل ہوئیں، جیسا کہ اس کے پہلے بھی بڑے بڑے باوشا ہوں پر سیاہ ترین مصیبتیں آتی رہیں۔

۷. ولاء سب من نكبة او ملمة

تترجمہ: اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے اس خرابی یا مصیبت کے آنے پر جو شریف اور نیک آباء و اجداد پر آتی رہی ہیں۔

۸. ولو انَّهُ فِي حَالٍ ماضِي حَدَوْدَه لَجُرَّعَتْمُ مِنْهُ سَمُومُ الْأَرَاقِم

تترجمہ: اور اگر وہ امام اپنے قدیم آباء کے نقش قدم پر ہوتا تو تم کو اس کی جانب سے بھی زہر میلے سانپوں کے زہر کے گھونٹ پلانے جاتے۔

٩۔ عسْنَى عَطْفَةُ اللَّهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ تَحْدِيدٌ مِنْهُ دَارِسَاتُ الْمَعَالِمِ

ترجمہ: بہت مددن ہے امتداد پری مہربالیت اپنے دین پر چڑھنے والوں کے تسلیل اس کے سازے پرانے مئے مٹائے انشات  
تھے بناواں لے بیٹھیں۔

١٠. فَخَرَّتْمُ بِمَا نَوْكَيْ كَانَ فِيْكُمْ حَقِيقَةً لِكَانَ بِغَصْبِ اللَّهِ احْكَمْ حَاكِمْ

ترجمہ: تم نے اپنے اندر ایسی باتوں کے ہونے پر اطمینان فخر کیا ہے کہ اگر وہ باقی تھیں تھیں تو امداد ریاضی جاتی ہیں تو وہ  
اللہ کے فضل سے شہنشاہ وقت ہو کر ہے گا۔

١١. أَذْنَ لَا عَتَرْتُكُمْ حِجَّةً عِنْدَ ذِكْرِهِ وَاحْرَسْ مِنْكُمْ كُلَّ فَاهٍ مُخَاصِّمٍ

ترجمہ: ایسی صورت میں اس کے ذکر سے ہی تم کو شرمندگی لاحق ہو گی اور تم میں سے ہر جگہ کرنے والے کی زبان کو گنگ کر  
دے گا۔

١٢. سَلَبِنَاكُمْ كَرَأْفَزْتُمْ بِغَرَّةٍ مِنَ الْكَرَافِعَ الْضَعَافِ الْعَزَّائِمِ

ترجمہ: ہم نے ذکر کی چوٹ تم پر حملہ کر کے تمہاری چیزیں چھینیں لیکن تم دھوکے بازی کے ساتھ حملہ کر کے کامیاب ہو گئے  
کمزور ارادوں کے حملہ کے وقت دھوکہ دہی سے۔

١٣. فُطِرْتُمْ سُرُورًا عِنْدَ ذَالِكَ وَنَمَوَةً كَفْعَلَ الْمَهِينَ النَّاقِصَ الْمُتَعَالِمِ

ترجمہ: اس وقت تو تم خوشی اور سستی کے ساتھ اڑنے لگے، تکریبہ، ذلیل، ناقص اور معمولی علم جانے والے کی طرح۔

١٤. وَمَا ذَاكَ إِلَّا فِي تَضَاعِيفِ عَقْلِهِ عَرِيقًا وَ صَرْفَ الدَّهْرِ جُمُّ الْمَلَاحِمِ

ترجمہ: نہیں تھا وہ گرچا جانے والا خون اپنی کم عقلی میں اور زمانے کا ہیر پھیر سمجھتیوں کا مجموعہ ہے۔

١٥. وَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْأَمْرَ تَحَادَّا وَ دَانَتْ لَاهِلِ الْجَهَلِ دُولَةُ ظَالِمٍ

ترجمہ: اور جبکہ ہم باہمی مدد کو چھوڑ کر معاملات میں آپس میں لڑنے لگے اور جاہلوں کو ظالم کی حکومت بھی میرا آگئی۔

١٦. وَقَدْ شَعَلْتَ فِيْنَا الْخَلَافَ فِتْنَةً لَعَبَدَ إِنْهُمْ مَعَ تُرْكِهِمْ وَ الدَّلَائِمِ

ترجمہ: اور ہمارے خلفاء نے فتنہ کی آگ بھڑکا دی، ان کے غلاموں اور ان کے ترکیوں اور دیلمیوں کے درمیان۔

١٧. بِكَفَرِ اِيَادِهِمْ وَ جَحَدِ حَقْوَهِمْ بِمَنْ رَفِعُوهُ مِنْ حَضِيْضِ الْبَهَائِمِ

ترجمہ: اور ایسے لوگوں کے احسانات کی ناشکری اور ان کے حقوق کے انکار کی وجہ سے جنہوں نے انہیں جانوروں کے درجے  
سے نکال کر اوپر مقام پر پہنچایا۔

١٨. وَثَبَّتْمُ عَلَى اطْرَافِنَا عِنْدَ ذَاكِمْ وُشُوبَ لِصُوْصِ عِنْدَ غَفْلَةِ نَائِمِ

ترجمہ: ان حالات میں تم نے ہمارے اطراف میں جملے کیے، چوروں کے جملوں کی طرح سونے والے کی غفلت کے وقت۔

١٩. الْمَ تَنْتَرَعْ مِنْكُمْ بِأَعْظَمْ قُوَّةٍ جَمِيعَ بِلَادِ الشَّامِ ضَرِبَةٌ لَازِمٌ

**۱۹۔** کیا پری قوت کے باعث تم سے نہیں چھین لیئے؟ وہ جملہ نے شام کے سارے علاقوں تک پڑھتا ہے:-

۲۰۔ و مفسرًا و ارض التغیر و ان باسرها و اندلس قسد الصراب الحمام

**۲۱۔** اور مصراً و ارقی و ان کے سارے علاقوں اور انہوں فی طاقتے ذریعہ ان لی شویزیوں و اڑاتے ہوئے۔

**۲۲۔** ائمہ تتزعزع ملکم عنی صعف حاتماً صنیعہ فی بحر خدا استلاعہم

**تہجید:** کیا ہم نے اپنی انتہائی کمزور حالت ہونے کے باوجود تم سے نہیں چھین لیا ہے، سقلیہ کو اس کے ٹھائیں مارنے والے سمندر میں۔

**۲۳۔** مشاهد تقدیسانکم و بیوتها لنا و بایدینا علی رغم راغم

**تہجید:** تمہاری متبرک جگہیں اور وہاں کے مکانات، ہمارے ہیں اور ہمارے قصہ میں ہیں، تمہاری مرضی کے نہ ہونے کے باوجود۔

**۲۴۔** أَمَا بَيْتُ الْحِمْمَ وَأَرْوَاهَا كَمْ جَمَاعَتِنِي بَهْلَ سَبْبَرْ بُرْ مُسْلِمَانُوں کَقَبْشَ مِنْ ہیں۔

**تہجید:** بیت الحم و اروہا کی جماعتیں بھل سب بُرے بُرے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔

**۲۵۔** وَسَرْ كِيسَكُمْ فِي ارْضِ الْمَكْنَدِرِيَّةِ وَكَرْسِيكُمْ فِي الْقَدْسِ اُورْثَانِكُمْ

**تہجید:** اور تمہاری کرسی اسکندریہ کی زمین میں ہے اور تمہاری کرسی قدس شہر کے گاؤں اور شالم میں ہے۔

**۲۶۔** ضَمَّنَاكُمْ قَسْرًا بِرَغْمِ اُنْوَفَكُمْ وَكَرْسِيَ قَسْطَنْطِنْيَهِ فِي الْمَعَادِمِ

**تہجید:** ہم نے تم کو بزر و تمہاری ناکوں کوئی کوشش میں رکھتے ہوئے اپنے اندر شامل کر لیا اور قسطنطینیہ کی شاہی کرسی کو کمزوروں میں تقسیم کر دیا ہے۔

**۲۷۔** وَلَا بُدْمَنْ عَوْدَ الْجَمِيعِ بَاسِرَهُ الْيَا بَعْزَ قَاهِرٍ مَتَعَاظِمٍ

**تہجید:** اس لیے یقینی طور پر ان ساری چیزوں کو دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آنا ہے، اس خدائے مہربانی سے جو غالب ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔

**۲۸۔** الْيَسْ يَرِيدُ حَلَّ وَسْطَ دِيَارِكُمْ عَلَى بَابِ قَسْطَنْطِنْيَهِ بِالصَّوَارِمِ

**تہجید:** کیا یہ تمہارے علاقوں کے وسط پر قابض نہیں ہوا ہے تلواروں کے زور سے قسطنطینیہ کے دروازے پر نہیں پہنچا ہے۔

**۲۹۔** وَمُسْلِمَةً قَدْ دَاسَهَا بَعْدَ ذَاكِمْ بِحِيشِ تَهَامَ قَدْ دَوَى بِالضَّرَاغِمِ

**تہجید:** ان تمام باتوں کے علاوہ مسلمہ نے بھی ان علاقوں کو پیروں تک روپنا ہے، عربی تہامی لشکروں کے ذریعہ جوشیروں کی طرح آوازنکاں رہے تھے۔

**۳۰۔** وَأَخْدَمَكُمْ بِالذِّلِّ مَسْجِدَنَا الذِّلِّ بَنِي فِيْكُمْ فِي عَصْرِهِ الْمُنْقَادِمِ

**تہجید:** اور زلت کے ساتھ تم سے خدمت لی ہے، ہماری اس مسجد نے جو پچھلے زمانوں میں تمہارے درمیان بنائی گئی تھی۔

۲۰۔ لیں جس قسر الشمل من خاریکم الْأَنْشَاءُ مِنْ خَارِجِ الْمَلَكَاتِ

ترجمہ: تمہارے ملک کے شہر میں شاہی محل کے بغل میں خبردار یہ تو تیر تلوار کی دھار کا حق ہے۔

۲۱۔ ولادی لہارو، الرشید ملیککم رَفِيَّاً دَادَةً مَغْلُوبَ وَحَزِيرَةً غَارِمَ

ترجمہ: اور تمہارے بڑے بادشاہ نے ہارون الرشید کو دیئے ہیں مغلوبوں کے عطیے کی طرح اور قرش خواہوں کے جزیہ کی طرح۔

۲۲۔ سلبنا کم مصر اشہود بقوۃ جَبَانًا بَهَا الرَّحْمَنُ أَرْحَمَ رَاحِمَ

ترجمہ: ہم نے تم سے مصر کو چھینا ہے اور وہ ہماری قوت کا بڑا گواہ ہے، جو کہ خدا نے رحمٰن و رحیم نے ہمیں بخشی ہے۔

۲۳۔ الی لجة البحر المحيط المحارم إِلَى لَجَةِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْمُحَارِمِ

ترجمہ: بیت یعقوب (علیہ السلام) اور رابر باب دوم تک بحر محیط کے زبردست شور منے کی جگہ تک قبضہ کر لیا ہے۔

۲۴۔ فهل سرتم فی ارضنا قط جمعة أَبَى لِلَّهِ ذَا كَمْ يَا بَقِيَا الْهَزَائِمِ

ترجمہ: کیا تم کبھی ہمارے علاقوں میں، اکٹھے داخل ہوئے ہوئے فکست خورده لوگوں میں بچے پچائے اللہ نے تمہارے لیے ایسا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔

۲۵۔ فما لكم الا الامانی و حدها بِضَاعِنَوْكِي تِلْكَ اَحْلَامِ نَائِمِ

ترجمہ: اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں صرف تمہارے پان متنا کیں باقی رہ گئی ہیں، یہ تنا کیں بے وقوف کی پوچیاں ہیں، سونے والوں کے خواب ہیں۔

۲۶۔ روید ابعد نحو الخلافة نورها و سَفَرْ مُغِيرَ وَجْهَ الْهَوَاشِ

ترجمہ: اس کی خلافت کی روشنی بجھ جانے کے بعد اور سفید ہو گئے سیاہ گرد آ لود چہرے۔

۲۷۔ و حينئذ تدرؤن كيف فراركم اِذَا صِدَمْتُكُمْ خَيْلَ جَيْشِ مَصَادِمِ

ترجمہ: اس وقت تم جان لو گے کہ تمہاراٹھکانا کیسا ہے، جبکہ برس پیکار لشکر کے گھوڑے تم کورونڈا میں گے۔

۲۸۔ على سالف العادات منا منكم لِيَالِيْ بُهْمَ فِي عَدَادِ الْغَائِمِ

ترجمہ: ہم اور تم سب اپنی اپنی عادتوں پر قائم ہیں، اندھیری راتوں میں غیمت کے مال جمع کرنے میں۔

۲۹۔ سبيتم سبايا يحصر العد دونها و سَبِيَّكُمْ فِي نَا كَفَطِ الْغَائِمِ

ترجمہ: تم نے تو ہمارے اتنے آدمیوں کو قید کیا ہے جو آسانی شار ہو سکتے ہیں، اور تمہارے قیدی تو ہمارے پاس بارش کے قطروں کے برابر ہیں۔

۳۰۔ فلورام خلق عدهارام معجزاً وَأَنْسَى بَعْدَادِ لِرْشِ الْحَمَائِمِ

ترجمہ: اگر کچھ لوگ ان لوگوں کے شمار کرنے کا ارادہ کریں تو وہ انہوںی بات کا ارادہ کریں گے۔

۳۱۔ بسانا بنی حمدان و كافور صلتم أَرَازِلَ اِنْجَاسَ قَصَارَ الْمَعَاصِمِ

**تہذیب:** تم نے بنی حمدان کے دو بیٹوں اور کافور پر حملہ کیا ہے جو قوم میں رہیں، گندے اور جھوٹی کلائیوں کے تھے۔

**۲۴۔ دعیٰ و حجاج سطوتِ تم علیہما**

**تہذیب:** وہ لوگ ایسے ہیں کا اُسپ سُنکوک ہے اور وہ نشر لگانے والے ہیں جبکہ غون کو پوں کرنے والے الگھی نشر لگانے والے کے خون کی قیمت کا انداز نہیں کر سکتا ہے۔

**۲۵۔ فهلا عن دمیانة قبل ذاك او**      **علیٰ محل اربا رمات الضراجم**

**تہذیب:** اگر تم اتنے ہی بہادر تھے تو اس سے پہلے دعیانہ پر حملہ کیوں نہیں کیا تھا، ایسے ہی پورب والوں کے علاقوں پر جوشیروں کو تیر کا نشانہ کرنے والے تھے، ان پر حملہ کیوں نہیں کیا تھا۔

**۲۶۔ ليالي قادوكم كما اقتادكم**      **اقبال جرجان بحر الحلاقهم**

**تہذیب:** ایسی راتوں میں انہوں نے تمہاری سرداری کی جیسا کہ تم کو کھینچ کر لائے، جرجان کے قبیلوں کے حلق کا نئے والے۔

**۲۷۔ و ساقوا على رسل بناات ملوکكم**      **سبایا كما سیقت ظباء الصرائم**

**تہذیب:** اور وہ اطمینان کے ساتھ تمہارے بادشاہوں کی لڑکیوں (شہزادیوں) کو لے آئے، قیدی بنا کر جس طرح کئے ہوئے کھیت کی ہر زیان آسانی سے پکڑ کر لائی جاتی ہیں۔

**۲۸۔ ولكن سلوا عن اهراقاً ومن علیهم**      **لکم من ملوکٍ مکرمین قمامق**

**تہذیب:** لیکن ہمارے بارے میں دریافت کرلو ہر قل سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے چھوڑ دیے ہیں تمہارے لیے شریف بادشاہوں اور فیاض سرداروں کو۔

**۲۹۔ يخبركم عنا التنوخ و قيصر**      **وکم قد سبينا من نساءٍ كرائيم**

**تہذیب:** ہمارے متعلق تم کو صحیح خبریں تو نہ اور قیصر دیں گے اور یہ کہ تم نے کتنی ہی شریف بہو بیٹیوں کو قید کیا ہے۔

**۳۰۔ و عما افتحنا من منيع بلادكم**      **وعما اقمنا فيكم من مآثرهم**

**تہذیب:** اور وہ یہ بھی بتلادیں گے کہ ہم نے تمہارے کتنے ہی مضبوط شہروں کو فتح کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تمہارے گناہوں کے سب تمہارے درمیان کتنے دن قیام کیے ہیں۔

**۳۱۔ و دع كل نذلٍ مفتر لا تعدّة**      **اماًماً ولا الدعوى له بالتقادم**

**تہذیب:** اور تم ایسے تمام لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دو جو حقیر جھوٹی باتیں بنانے والے ہوں، انہیں تم شارنہ کرو، امام کی حیثیت سے اور ندان کے پرانے ہونے کے دعویٰ کو مانو۔

**۳۲۔ فهیهات سامرًا و تکریت منکم**      **الى جبل تلکم امانی هائیم**

**تہذیب:** اور تمہارا سامر اور تکریت سے پہاڑی علاقوں تک قبضہ کا خواب دیکھنا تمہارے لیے قابل افسوس ہے کہ یہ سب تمہارے لیے پریشان کن خواب ہیں۔

۵۱. دُنْدَلْهَا الْجَمِيعَةِ وَدُونَهَا نَظَارَهَا حَتَّى الْغَلَاصَةِ

ترجمہ: یا میک آرڈر میں ہیں جن کی تھنا بولی مریل آدمی ہی کرتا ہے ان ہی جسی دوسری تمنا کیسیں بھی ہیں اور سردار ان قوم کو قتل کرنے کی تمنا بھی ہے۔

۵۲. سَرِيدُونْ سَعَادَ شُوقًا جَدِيدَةً مُسَيِّرَةً شَهْرَ التَّفْقِيقِ الْغَوَاصَةِ

ترجمہ: تم بغداد کے نئے بازار پہنچنے کا ارادہ کرتے ہو جس کی راہ ایک ماہ کا سفر ہے ایک شریف اور مضبوط اونٹ کے لیے۔

۵۳. مَحَلَّةُ أَهْلِ الزَّهْدِ وَالْعِلْمِ وَالتَّقْوِيَةِ وَمَنْزَلَةُ يَخْتَارِهَا كُلُّ عَالَمٍ

ترجمہ: جو کہ زادبوں عالموں اور پرہیزگاروں کی قرارگاہ ہے، جسے ہر عالم اپنی منزل بنا پسند کرتا ہے۔

۵۴. دُعَوا الرِّمَلَةِ الصَّهَباءِ عَنْكُمْ فَدُونَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْغَرَّ كُلُّ مَقاَوِمٍ

ترجمہ: لوگوں نے ریتلی زمین کے نکڑے پر کھی ہوئی شراب تم سے مانگی، مگر انہوں نے وہ شراب ایسے مسلمانوں سے پائی، جو بھولے بھالے پورا مقابلہ کرنے والے ہیں۔

۵۵. وَدُونْ دَمْشَقَ جَمِيعَ عِيشَ كَانَه سَحَابَ طَيْرَ يَنْتَحِي بِالْقَوَادِمِ

ترجمہ: اور دمشق کے قریب ہر قسم کا سامان زندگی میسر ہے، گویا کہ وہ اڑنے والے بادل ہیں جو آنے والوں کیک پہنچتے ہیں۔

۵۶. وَضَرَبَ يَلْقَى الْكُفَّارَ كُلَّ مَذَلَّةً كَمَا ضَرَبَ الْبَسْكُى بِيَضِ الدِّرَاهِمِ

ترجمہ: اور وہ ایک تکالیف میں ہے جو کافروں کو انتہائی ذلت کے ساتھ نکال پھیکلتا ہے، جیسا کہ تکالیف میں کام کرنے والا سفید درہم ڈھالتا ہے۔

۵۷. وَمِنْ دُونِ أَكْنَافِ الْحَجَازِ حَجَافِ كَمَطْرِ الْغَيْوَمِ الْهَائِلَاتِ السَّوَاجِمِ

ترجمہ: اور حجاز کے اطراف میں بھاری بھاری شکر ہیں، زوردار کالی کالی دل دہلانے والی گھٹاؤں کے قطروں کے مانند۔

۵۸. بِهَا مِنْ بَنِي عَدْنَانَ كُلَّ سَمِيدِعِ وَمِنْ حَى قَحْطَانَ كَرَامَ الْعَمَائِمِ

ترجمہ: وہاں بنی عدنان کا ہر فرد فیاض ہے، اور قبیلہ قحطان میں سے بھی بہت سے شریف لوگ موجود ہیں۔

۵۹. وَلَوْ قَدْ لَقِيتُمْ مِنْ قَضَايَةِ كَبَّةِ لَقِيتُمْ ضَرَاماً فِي يَبِيسِ الْهَشَائِمِ

ترجمہ: اور اگر قبیلہ قضاۓ کی ایک جماعت سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تو تم انہیں ایسے شیر پاؤ گے جو سوکھی جھاڑیوں میں پڑے ہوں۔

۶۰. إِذَا أَصْبَحْوَا ذَكْرَوْكُمْ بِمَا خَلَا لَهُمْ مَعَكُمْ مِنْ صَادِقِ مَتَّلَاحِمِ

ترجمہ: جب وہ بوقت صحیح تم سے ملاقات کریں گے تو وہ تمہیں گزری ہوئی وہ باقیں یاد دلادیں گے جو انہیں تمہارے ساتھ گھسان لڑائیوں میں پیش آئی تھیں۔

۶۱. زَمَانٌ يَقُودُونَ الصَّوَافِنَ نَحْوَكُمْ فَجَعَتُمْ ضَمَانًا إِنْكَمْ فِي الْغَنَائِمِ

ترجمہ: اس وقت کی باقیں جبکہ وہ تمہاری طرف تیز روگھوڑوں کو لے کر بڑھتے تھے، تو تم اس وقت ان کے پاس بطور ضمانت

بہت کم بکریاں مل جائی تھے۔

٦٢. ساتِکم منهم فریبا عصائب تسبیکم تذکار اخذ العواصم

**تشریحات:** اور یقینی طور پر تمہاری زمینوں اور علاقوں کو وہ بانٹ لیں گے جیسا کہ اس سے پہلے وہ زمانہ دراز تک باقاعدہ رہے ہیں۔

**تستھجتہ:** اور اگر پہنچ جائے کوئی جماعت نہ ہے، میں بس خراسان، شیراز اور حسین مناظروں لے رہی ہے۔

٦٦- لما كان منكم عند ذلك غير ما عهدنا لكم ذل و عض الا باهيم

ضرر چھتا: ایسی صورت میں اس کے سوا کوئی دوسری چیز تبارے پاس نہ ہوگی، جس کا ہم نے تمہارے بارے میں طے کر رکھا ہے، یعنی ذلت اور تمہارا الگیوں کو چھانا۔

**٦٧- فقد طالماز اروكم في دياركم مسيرة عام بالخيول الصوادم**

**ترجمہ:** اس سے پہلے بارہا وہ تمہارے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں، ایک نال کے راستے کو مضبوط گھوڑوں کے ذریعہ طے کر چکے ہیں۔

٦٨. فاما سجستان و کرمان بار أولی و کابل حلوان بلاد المراهم

**تشریحہ:** اس لیے بھت ان اور کرمان تک تو وہ بدرجہ اولیٰ پہنچ سکتے ہیں، اور کابل اور حلوان، تو وہ مرہم رکھنے اور شفاذینے والے علاقوں میں۔

٦٩- وفي فارس والسوس جمع عمرم وفى اصبهان كل اروع عارم

**تترچہتیں:** اور فارس اور سوس کے علاقوں میں بے شمار لشکر ہے، اور اسہاں میں تو سبھی ہوشیار اور دوسروں کے لیے بڑی موجہی ہیں۔

٧٠. فلو قد اتاكم جمعهم لغدوتم فرائنس كالأساد فوق البهائم

**تشریحیہ:** اگر ان کی جماعت تم رحملہ کر بیٹھے تو تم شکار بن جاؤ گے مثل ان شیروں کے جو جانوروں کے اوپر حملہ آور ہوں۔

**٧١- بالبصرة الغراء والكوفة التي سمعت وبأدي واسط بالعظائم**

**تشریحہ:** اور ایسے بصرہ سے جو روانہ ہے اور اس کوفہ سے جو بلند ہے۔

۷۲. جموع تسامی الرمل عداؤ كثرة فما احمد عادوه منه بسالم

**تشریحہ:** اور ان کی جماعت آنکنٹ اور زیادتی میں ریتوں کے برابر بے شمار ہے وہ جس کسی سے بھی دشمنی کر لیں گے اس کی خیریت نہیں ہے۔

۷۳. ومن دون بيته اللہ فی مکة التی حبها بمحمد للبر ایا سراحیم

**تشریحہ:** اور اس اللہ کے گھر کے مساوا جو اس مکہ کرمہ میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساری خلوق کے لیے اپنی مہربانیوں سے بزرگ بخشی ہے۔

۷۴. محل سفل الارض منها تيقنا مسحل جميع الارض منها تيقنا

**تشریحہ:** اسی کام کی زمین کے مقابلہ میں سارے علاقوں پر اُغلوٹی کے نگینہ کے مقابلہ میں موزے کے نچلے تلے کی جگہ میں ہیں۔

۷۵. دفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها ردد طرف برایم

**تشریحہ:** خدا ربِ رحمٰن کی طرف سے اسی پر یہی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔

۷۶. بها وقع الا جبوش هلكی وفيهم بحسباء طير فی ذرى الجو حائم

**تشریحہ:** وہاں سارے جیشی مدد آور ہلاک ہو گئے اور ان کے باقی بھی ان پرندوں کی کٹکریوں کی وجہ سے جونضا کی بلندیوں میں منڈلار ہے تھے۔

۷۷. وجمع كجمع البحر ماض عرموم حسبي بنية البطحاء ذات المحارم

**تشریحہ:** اور وہاں مخلوقات کی ایک جماعت ہے سمندر کی مخلوقات کی طرح جو اپنے ارادہ کو کرگزرنے والی ہے سخت ہے محفوظ ہے، بظاء کی بنیاد کی جو بڑی حرمتوں والا ہے۔

۷۸. ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة جموع كمسود من الليل فاخيم

**تشریحہ:** طیبہ (مدینہ منورہ) کے بالکل بیچ میں محمد مصطفیٰ ﷺ کی قبر مبارک کے ارد گرداتی زیادہ جماعتیں ہیں کہ ان کی زیادتی کی وجہ سے وہاں کابی رات کی اندھیری ہے۔

۷۹. يقودهم جيش الملائكة العلي دفاعاً و دفعاً عن مصلّ و صائم

**تشریحہ:** ان کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے بڑے بڑے فرشتوں کا لشکر بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے ہر نمازی اور ہر روزہ دار سے۔

۸۰. فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما كما فرق الاعصار عظم البهائم

**تشریحہ:** اگر ہم تم پر حملہ کریں تو تم سڑی گلی ہڈیوں کی طرح ہو جاؤ گے، جیسا کہ زمانہ جانداروں کی ہڈیوں کو جدا جدا کر دیتا ہے۔

۸۱. وَسَلَّمَ سَلَسْلَى فَيَلَانَ خَارِجَةً مُسْتَوْ كَمْ كَشْ كَلْمَسْ كَلْمَسْ

ترجمہ: اور یہیں میں جو بالکل محفوظ ہے، حملہ کرنے والے بہادر نوجوان یعنی جب وہ تم سے ملیں گے ( مقابلہ میں آ جائیں گے) تو تم خواہ اک اور تنوں والے ہیں جاؤ گے۔

۸۲. وَفِي جَاهِنِي أَرْضِ الْيَمَامَةِ عَصْبَةٍ

ترجمہ: اور یہاں کی زمین کے دونوں کناروں میں ایسی جماعت ہے جو شریفوں کے عذر والوں کو مان لینے والے انگلیوں کے لانے پوروں والے ہیں۔

۸۳. نَسْتَفِينَكُمْ وَالْقَرْمَطِينَ دُولَةً

ترجمہ: ہم تمہاری اور قرمطیوں کی حکومت تک آ جائیں گے۔

۸۴. وَلَا يَتَقَى فِي اللَّهِ لَوْمَةً

ترجمہ: حق کا خلیفہ ہے اس کا ہر حکم بن کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔

۸۵. إِلَى وَلَدِ الْعَبَاسِ تَنْمَى جَلْبُودَةً

بِفَخْرِ عَمِيمٍ مَزِيدَ الْمَوْجِ فَاعِمٌ

ترجمہ: اس کے باپ دادا کا نسب عباس ہی خدا کی اولاد کی پہنچ جاتا ہے، انتہائی فخر کے ساتھ وہ جو جھاگ اڑانے والی موج کی طرح چھا جانے والے تھے۔

۸۶. مَلُوكُ حِبْرَى بِالنَّصْرِ طَائِرُ سَعْدِهِمْ

فَاهْلًا بِمَاضِيِّهِمْ وَبِقَادِمِهِمْ

ترجمہ: وہ ایسے بادشاہ تھے جن کی خوش بختی کا پرندہ کامیابیوں کو لے کر اڑنے والا تھا، قبل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے اور بعد میں آنے والے بھی۔

۸۷. مَحْلَمَهُمْ فِي مَسْجِدِ الْقَدْسِ أَوْ لَدَى

مَنَازِلِ بَغْدَادِ مَحْلِ الْمَكَارِمِ

ترجمہ: ان کے ٹھہرے کی جگہ مسجد قدس میں ہے یا بغداد کے علاقوں کے پاس کرم مقام میں ہے۔

۸۸. وَمِنْ أَنْ كَانَ مِنْ عَلِيَا عَدِيٌّ وَتِيمَهَا

وَمِنْ أَنْ أَنْدَلَ الصَّلَاحُ الْحَضَارِمِ

ترجمہ: اور اگر عدی اور تیمی کے اوپر کے خاندان سے۔

۸۹. فَاهْلًا وَ سَهْلًا ثُمَّ نَعْمَنِي وَ مَرْحَبَا

بِهِمْ مِنْ خِيَارِ سَالَفِينَ اَقَادِمِ

ترجمہ: مبارک ہے باعث سہولت ہے، پھر نعمتیں ہیں اور خوش آمدید ہے، ان لوگوں کو جو ہمارے متقدمین اور بزرگوں میں بہترین لوگ ہیں۔

۹۰. هُمْ نَصَرُوا إِلَيْسَمْ نَصَرًا مُوزَراً

وَهُمْ فَتَحُوا الْبَلَدَانَ فَتْحَ الْمَرَاغِمِ

ترجمہ: ان ہی لوگوں نے اسلام کی پروارہ دکی، ان ہی لوگوں نے شہروں کو فتح کیا، زبردست غصہ کرنے والوں کے فتح کی مانند۔

۹۱. رویاً موسى عليه السلام و رَسُولُهُ سَلَّمَ اهلُ الْكِتَابَ جَنَعَ الْعَوَادَمَ

ترجمہ: ذرا تکہر و کہ اللہ کا خدا و عده پورا ہونے والا ہے ان کافروں کو الیسا کا تلخ گھونٹ ایک ایک قدر کر کے پائے گا۔

۹۲. سفوح قسطنطینیہ و دو ائمہٗ و نجعلکم فوق النسوٰ، الفعاشی

ترجمہ: عنقریب ہم فتح لریں کے قسطنطینیہ لو اور اس کے آس پاس کے علاقہ اور تم سب کو مادہ گدھوں کے سامنے ذیر کر کے رکھ دیں گے۔

۹۳. و نفتح ارض الصین والهند عنوةٌ بجیش لارض الترك والخزر حاطم

ترجمہ: اور عنقریب ہم چین اور ہند کے علاقے کو بھی بزور فتح کر لیں گے، ایسے لشکر کو لے کر جو مقابل کوہس نہیں کر کے رکھ دیں والا اور جو قوم ترک اور خزر کے علاقہ کا ہے۔

۹۴. مواعید الرحمن فینا صحیحةٌ و لیست کامال العقول السواقم

ترجمہ: ہمارے رحمن کے وعدے ہمارے حق میں بالکل صحیح ہیں، اور کم عقولوں کی تمناؤں کی طرح نہیں ہیں۔

۹۵. و نملک اقضیٰ ارضکم و بلادکم و نلزمکم ذل الحر او الغارم

ترجمہ: اور ہم تو تمہاری زمین اور تمہارے شہروں کے آخری حد تک مالک ہو کر رہیں گے اور ہم تم پر ایک شریف یا قرضخواہ کی ذات مسلط کر کے رہیں گے۔

۹۶. الی ان تر الاسلام قد عمَ حکمهٌ جمیع الا راضی بالجیوش الصوارم

ترجمہ: یہاں تک کہ تم اسلام کو ایسا دیکھ لو گے کہ اس کا حکم عام ہو چکا ہے، ساری دنیا پر بہادر فوجوں کے ذریعہ۔

۹۷. اتقرون یا محنول دینا مثلثاً بعيداً عن المعقول بادی الماثم

ترجمہ: اے ذلیل! کیا تو اپنے دین تسلیث کا ہمارے دین سے مقابلہ کرتا ہے جو عقل سے دور اور سراپا گناہ ہے۔

۹۸. تدين المخلوق یدین لغیرهٌ فیالک سحقاً لیس يخفی لعالم

ترجمہ: تم لوگوں کو آمادہ کرتے ہو ایسی مخلوق (عیسیٰ علیہ السلام) کی عبادت پر جو خود اپنے غیر (خدا) کی عبادت پر آمادہ کرتا ہے اور جاہل اتنی براکت ہو کہ اس خدا سے عالم نہیں ہے۔

۹۹. انا جیلکم مصنوعةٌ قد تشابهت کلام الاولیٰ فیها اتوا بالعظائم

ترجمہ: تمہاری مذہبی کتابیں انگلیں فرضی ہیں جو مشابہ ہیں، اگلے لوگوں کے کلاموں کے جن میں بہت سی بری اور نامناسب باتیں بھی کہیں ہیں۔

۱۰۰. وعود صلیب ما تزالون سخداً لَهُ يَا عقول الہاملات السرائم

ترجمہ: اور تم لوگ ہمیشہ صلیب کے تحفہ کو سجدہ کرتے رہو اے آزاد جانوروں کی عقلیں رکھنے والوں۔

۱۰۱. تدينون تضلا لا بصلبِ الہمْ بایدی یہود ارزذلین لائم

**ترجمہ:** تم نے پسند کیا ذلت کو اینے الٰکی صلیب کے ساتھ یہو، یوں کے ہاتھوں کے زیادہ لیلیں ہوتا ملامت کے سبب۔

**۱۰۲۔** أَلَّى مَلَةِ الْإِسْلَامِ بِوَحِيدِ رَبِّنَا فَمَا دَيْنُ ذَا دَيْرِ رَبِّنَا بِعَوْامٍ

**ترجمہ:** ملت اسلام کی طرف ہو ہمارے رب کی توسید کی دعوت دیتی ہے اس لیے کسی بھی دیندارہ دین ملت اسلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔

**۱۰۳۔** وَ صَدَقَ رِسَالَاتُ الَّذِي جَاءَ بِالْهُدَىٰ مُحَمَّدُ الْلَّاتِي بِرْفَعَ الْمَظَالِمَ

**ترجمہ:** دین اسلام نے ان تمام بیغا مous کی تصدیق کی ہے، جن کو ہادی برحق آنے والے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لے کر آئے ہیں، مظالم کو ختم کرنے کے لیے۔

**۱۰۴۔** وَ اذْعَنْتَ الْأَمْلَاكَ طَوْعًا لِدِينِهِ بِرَهَانِ صَدْقٍ ، طَاهِرٍ فِي الْمَوَاسِلِ

**ترجمہ:** سارے بادشاہوں نے ان کے دین کو خوشی کے ساتھ مان لیا ہے، جوچے دلائل کے ساتھ آیا ہے، ہمیشہ پاک و صاف رہا ہے۔

**۱۰۵۔** وَ سَائِرُ اَمْلَاكِ الْمَانِينَ اَسْلَمُوا وَمِنْ بَلْدِ الْبَحْرِ بِرِّ قَوْمِ الْلَّهَازِمِ

**ترجمہ:** اور سارے یمنی بادشاہوں نے اسلام نبول کر لیا ہے، اور بحرین کے علاقے کی اس قوم نے بھی جس کے کان کے نیچے کی ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں۔

**۱۰۶۔** كَمَادَانَ فِي صَنْعَاءِ مَالِكَ دُولَهُ وَ أَهْلَ عُمَانَ حِيثُ رَهَطَ لِجَهَاضِمِ

**ترجمہ:** جیسا کہ صنائع میں بادشاہ وقت نے سر جھکایا، اور اہل عمان نے بھی جہاں قبلہ جہضم موجود ہے اسلام لائے۔

**۱۰۷۔** اَجَابُوا الدِّينَ اللَّهُ لَا مِنْ مُخَافَةٍ وَلَا رَغْبَةٌ يَخْطُطُ بِهَا كَفَ عَادِمٌ

**ترجمہ:** ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بغیر کسی دھمکی کے خود سے قبول کیا ہے اور کسی ایسے لائق سے نہیں کہ جس سے فقیر ہتھیلی بھر کر فائدہ اٹھائے۔

**۱۰۸۔** فَحَلَوْا عَرِيَ التِّيجَانَ طَرْعَانَ وَ رَغْبَةً بِحَقِّ يَقِينٍ بِالْبَرَاهِينِ فَاحِمٌ

**ترجمہ:** اس وقت انہوں نے خوشی خوشی اپنے سروں سے تاج اتار دیئے، اس حق اور یقین کے ساتھ جو دلائل کے ساتھ خاموش کر دینے والا ہے۔

**۱۰۹۔** وَ جَابَاهُ بِالنَّصْرِ الْمُكِيْنِ اللَّهَ وَ صَيْرَ مِنْ عَادَاهُ تَحْتَ الْمَنَاسِبِ

**ترجمہ:** اور ان کے معبدوں نے تو ان کی ہر طرح کے سامان کے ساتھ مدد کی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، اونٹوں کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔

**۱۱۰۔** فَقِيرٌ وَ حِيدَلَمٌ تَعْنِهِ عَشِيرَةٌ وَ لَا دَفْعَوْا عَنْهُ شَتِيمَةَ شَاتِمٍ

**ترجمہ:** وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے کس، تباہ تھے، ان کے قبیلہ کے اکثر نے ان کی مد نہیں کی اور نہ کسی گالی دینے والے کی گالی کا ان کی

طرف سے جواب دیا۔

۱۱۱. ولا عصمه مال عند الناصح ولا مسامم  
تترجمہ: اور نہ آپ کے پاس توئی بہت زیادہ مال تھا اپنے مددگار کے لیے اور نہ زبردست کو دور کرنے کے لیے اور نہ مصالحت کرنے والے کے لیے۔

۱۱۲. ولا وعد الانصار ملا يخصهم بلى کان معصوماً لا قدر عاصم  
تترجمہ: اور آپ نے الانصار کے لیے کسی خاص مال کا وعدہ نہیں کیا، ہاں وہ تم مقصوم تھے۔

۱۱۳. ولم تنهنه قط قوة اسرى ولا مكث من جسمه يد ظالم  
تترجمہ: اور کسی بھی قید کرنے والے زبردست کی قوت نے ان کو نہیں روکا ہے؛ اور نہ ہی کسی ظالم کے ہاتھ کو ان کے جسم پر

قدرت حاصل ہوئی۔

۱۱۴. كما يفترى افكا و زوراً و ضلة على وجه عيسى منكم كل لاطم  
تترجمہ: جیسا کہ تھت، جھوٹ اور گراہی کی لرام، حضرت عیسیٰ ﷺ پر تم میں سے ہر ایک نے لگایا۔

۱۱۵. على انكم قد قتلتموا هو ربكم في الضلال في القيمة عائم  
تترجمہ: اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ تم نے اپنے رب پر کو اپنے عقیدہ کے مطابق قتل کر دیا ہے، ہائے کتنی ہی گمراہیاں ہیں، جو

قیامت میں بہالے جانے والی ہوں گی۔

۱۱۶. ابى لله ان يدعى له ابن و صاحب ستلقى دعاة الكفر حالة نادم  
تترجمہ: انہوں نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ اللہ کی طرف کسی بیوں یا بیٹی کی نسبت کی جائے، غنقریب تم کفر کی ایسی

دعوت دینے والوں کو شرمندگی کی حالت میں پاؤ گے۔

۱۱۷. ولكنَّه عبدُ بنِي رَسُولٍ مَكْرُمٍ من الناس مخلوق ولا قول زاعِم  
تترجمہ: حالانکہ حقیقت میں وہ تو اللہ کے ایک بندے، نبی رسول مکرم اور دوسرا مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہیں وہ دوسروں کے

غلط دعووں کے مطابق نہیں ہیں۔

۱۱۸. ايل لهم وجه رب؟ تبالي الدينكم لقد فقتم في قولهكم كل ظالم  
تترجمہ: کیا وہ اپنے رب کے منہ پر طما نچے مار سکتا ہے، تمہارے دین کی بر بادی ہو، تم تو ایسی بات کہہ کر ظالموں سے بڑھ

گئے ہو۔

۱۱۹. وَ كَمْ أَيَّةً بَدَأَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ وَ كَمْ عَلِمَ ابْدَأَهُ لِلشَّرِكِ حَاطِمٌ  
تترجمہ: اور ہمارے نبی محمد ﷺ نے تو اپنی نبوت کی بہت سی نشانیاں فاہر کر دیں ہیں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں ہیں جو

شرک کو ختم کرنے والی ہیں۔

- ۱۲۰۔ تسلوی حمیع النادر، فیت نصر حق۔ سلسلکن فی الحصایب حال حادث  
تشریحہ: ان کی حقانیت کی مدد میں ان کے لیے سارے انسان برادر ہیں بلکہ وہ تو عمومی راد و داش میں خادم کی طرح نظر آتے ہیں۔
- ۱۲۱۔ فعرب و احباش و هریس و بیور و کردیہم کل فاز قاتح العراجم  
تشریحہ: اس بنا پر عرب، جوشی، فارسی، بر اور کرد سب کے سب رعنی کے رتمے ہوئے پیالہ کوئے آر کامیاب ہو گئے۔
- ۱۲۲۔ وقبط و انباط و خزر و دیلم و روم رموز کم دونہ بالقواصم  
تشریحہ: اور قبطی، نبطی، خزری اور دیلمی، روی تمام قبیلے والوں نے ان کی طرف سے تم پر ہتھیاروں سے حملے کیے۔
- ۱۲۳۔ ابو اکفر اسلام لهم فتمعوا فابوا بحظہ فی السعادة لازم  
تشریحہ: انہوں نے اپنے اسلاف کے کفریہ عقیدہ کو مانے سے انکار کر دیا، اس طرح انہوں نے تو بکی مقدر سعادت مندی کے حصہ کے مطابق۔
- ۱۲۴۔ به دخلوا فی ملة الحق کلهم و دانوا لا حکام الاله اللوازم  
تشریحہ: اسی وجہ سے وہ سب کے سب ملت حنفی داخل ہو گئے اور وہ سب اپنے معبدوں کے ضروری احکام کے آگے جھک گئے۔
- ۱۲۵۔ به صلح تفسیر المنام الدین آثی به دانیال قبلہ حتم حاتم  
تشریحہ: ان سے ہی اس خواب کی تفسیر یقین طور پر صحیح ہو گئی جو انہی سے بہت پہلے دانیال نے دیکھا تھا۔
- ۱۲۶۔ وہندو سند اسلموا و تدینوا بدین الہدی رفض لدین الا عاجم  
تشریحہ: اور ہندی اور سندی سمجھی اسلام لے آئے، اور سب نے دین ہدایت کو قبول کر لیا، عجیبوں کے دینوں کو چھوڑ چھاڑ کر۔
- ۱۲۷۔ وشق لة بدر السَّمْوَاتِ آیة واشبَّع لة من صاع لة کل طاعه صاع تمام حاضرین کے کھانے کے لیے کافی ہو گیا۔  
تشریحہ: اور آپ کی تائید میں آسمانوں کا چاند بھی مجھہ کے طور پر دلکش ہو گیا، اور آپ کی طرف سے پیش کیا ہوا صرف ایک صاع تمام حاضرین کے کھانے کے لیے کافی ہو گیا۔
- ۱۲۸۔ و سالت عيون الماء فی وسط کفہ فاروی به جیسا کہیرا ہماہی  
تشریحہ: اور آپ ﷺ کی ہتھیلی کے پیچ سے پانی کے چشمے ابل پڑے، جس نے ہوئے پیاسے لشکر کو سیراب کر دیا۔
- ۱۲۹۔ وجاء بما تقضى العقول بصدقه ولا كدعاء غير ذات قوائم  
تشریحہ: اور آپ نے وہ کام کر دکھائے اور ایسی بتائیں جن کی تمام عقولوں نے تقدیق کر دی، اور بے پاؤں والوں کی آواز کی طرح ان کی آواز بے مطلب نہ تھی۔
- ۱۳۰۔ عليه سلام الله ما ذر شارق تعقبه ظلماء اسحیم قائم  
تشریحہ: ان پر اللہ کا سلام نازل ہوتا رہے جب تک کہ سورج چکلتا رہے، جن کے بعد قائم رہنے والے باولوں کی تاریکیاں بھی آتی رہیں۔

۱۲۱۔ پیر ہیون کا سسیں لامس قلکو ہے تھیٹ کا مفری حوه و افانہ

تہجیہ: ان کے دلائل تو سورج کی طرح روشن ہیں، تمہاری باتوں کی طرح نہیں ہیں اور تمہارے اتنے میں ہر سے ملا، یعنی کی طرح نہیں ہے۔

۱۲۲۔ لساکن علم من قدیم و محدث و ائمہ حمیر دامیات نمحارم

تہجیہ: ہمیں تو ہر ہنسی اور پرانی بات کا علم ہے اور تم تو ایسے گدھے ہو کہ جس کی پیٹھ کی تنگ باندھنے کی جگہ خون آ لو دے۔

۱۲۳۔ ایتم بشعر بارہ متحاذل ضعیف معانی النظم جم البلاعم

تہجیہ: تم نے تو ایسے اشعار کھہ بھیجے ہیں جو بے معنی اور بے ربط ہیں اور اسنظم کے معانی انتہائی کمزور ہیں، صرف حلقوں کو بھر دینے والے ہیں۔

۱۲۴۔ فدونکھا کالعقد فيه زمرد ورد و یاقوت باحکام حاکم

تہجیہ: تم قبول کر لو ان اشعار کو جو مثل ایسے ہار کے ہیں جس میں زمرد ہیں، موٹی ہیں اور یاقوت ہیں، حاکم کے احکام کے ہیں۔

اسی سال ابن ابی الشوارب عہدہ قضاۓ سکدوش کر دیئے گئے، ان کے رجسٹر اور دفاتر پھاڑ ڈالے گئے، ان کے زمانہ کے تمام احکام باطل کر دیئے گئے اور سالانہ ان سے جو پچھہ، صوبی کیے جاتے تھے سب موقوف کر دیئے گئے۔

اس سال بارش زمانہ دراز تک نہ ہونے کی وجہ سے ماہنی الحجہ میں استقماع کی نماز پڑھی گئی جو ماگھ یا جون کا مہینہ تھا، اس کے باوجود بارش نازل نہ ہوئی:

### ایک عجیب الخلق انسان:

ابن الجوزی نے ثابت بن سنان المورخ سے اپنی کتاب المنتظم میں نقل کیا ہے کہ مؤرخ نے کہا ہے، مجھ سے کئی ایسے افراد نے جن پر میں اعتماد کرتا ہوں، بیان کیا ہے کہ ارمیں کے کچھ پادریوں نے سن تین سو باون ہجری میں ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس دو جزوں آدمیوں کو بھیجا جو کچھ برسوں کے تھے، ان دونوں کے ساتھ ان کے باپ بھی تھے، ان کی دونافیں، دو پیٹ، دو معدے، ان کو علیحدہ علیحدہ بھوک لگتی تھی، ان کے پھیپھڑے بھی دو تھے، ان میں سے ایک عورتوں کی طرف مائل ہوتا تو دوسرا لڑکوں کی طرف خواہش مند ہوتا۔ آپس میں ان دونوں کے درمیان جھگڑے اور اختلافات بھی ہوتے۔ بیہاں تک کہ غصہ میں آ کر دہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنے کی مسمیں بھی کھالیا کرتے۔ کچھ دن اس پر قائم رہتے پھر ان میں مصالحت ہو جاتی۔ تو ناصر الدولہ نے ان دونوں کو دو ہزار رہم دیے اس کے علاوہ خلعت بھی دیئے۔ اور ان دونوں کو اسلام لانے کی دعوت دی، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ چاہا کہ بغداد میں ان دونوں کو بھیج دے تاکہ عوام انہیں دیکھ سکیں، لیکن ایسا نہیں کیا، خیال بدل دیا۔ پھر یہ دونوں اپنے والد کے ہمراہ اپنے وطن واپس چلے گئے، وہاں ان میں سے ایک شخص یہاں پڑھ گیا اور مر گیا اور اس کی بدبوخت ہوئی، دوسرے کے لیے اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوئی، ان دونوں کے درمیان کر کے پاس کا

حضرت مالک و انتہا شیخ ناصر الدین اور نے ایک بڑے کمیلہ کر کر بنے کہا۔ اپنے کشیدہ کشیدہ کر کر حکم بوجمع بھجو کیا۔ مگر اس کے لئے اس مکان دہواں اس ایک نے مر جائے تھا اس کے باپ اور خاتون بیوی شیخ ایشی اسی دہوانی کی کامی طرح ایک سنت و نیوں سے مدد و مدد و مدد اپنے بھائی کے لئے عزراں ایک بھائی کے مر جائے تھم میں اور اس کی ہدیوں فوجہ سے دوسرے نے اسی تدبیت خراب ہوئی۔ بالآخر وہ اسی سر بیو اور دو دوں ایک بھر میں فتح دیا کیا۔

مشہور لوگوں میں وفات یا نے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات یا نامہ یہ ہیں:

عمر بن اشلم:

بن احمد بن حیان بن بشر ابوالبشر الاسدیؑ سن دوسو چورا سی بھری میں ولادت ہوئی اور خلیفہ مطیع کی خلافت میں ابوالسائب عقبہ بن عبد اللہ کی جگہ خلافت کا عہدہ قبول کیا تھا، بعد میں یہ قاضی القضاۃ کے عہدہ پر بھی فائز ہو گئے تھے۔ یہ ابوالسائب کے ماسوا شافعیوں میں پہلے ہیں جو قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز ہوئے تھے، قضاۓ کے معاملہ میں اچھی نیک نامی پائی، اسی سال ماہ ربیع الاول میں وفات پائی ہے۔



## — ۳۵۳ — واقعات

اس سال بھی دسویں محرم کو راشنیوں نے سال گزشتہ کی طرح حضرت امام حسین بن علی کی یاد میں تعزیہ کا مہماں جام دیئے، چنانچہ ان میں اور اہل سنت میں سخت قفال کی نوبت آئی اور مال بھی خوب لوٹے گئے۔

اسی سال سیف الدولہ کے غلام نجاح نے سرکشی کی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سال گزشتہ میں اس سیف الدولہ نے حراث والوں سے بہت زائد مال جبر کے ساتھ وصول کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں سرکشی آگئی، اور بھاک کر آزاد ربانیجان چلا گیا، اور وہاں ایک بد وال بارود کے قبضہ سے کچھ آدمیوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اور اس شخص کو قتل کر کے اس کا بہت سامال بھی لے لیا۔ اس طرح اس کی طاقت بڑھ گئی، مجبوراً سیف الدولہ اس کے مقابلہ میں گیا اور اسے پکڑ لیا، پھر اس کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے سامنے ہی وہ قتل کر دیا گیا اس کی لاش ٹھوڑے پر چینک دی گئی۔

اس سال دمشق نے مصیحہ چینچ کرائے تھے میں لے لیا اور اس کی چہار دیواری میں سوراخ کر دیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس لیے اس نے وہاں کے دیواروں میں آگ لگادی اور اس کے ارد گرد جو تقریباً پندرہ ہزار تھے سب کو قتل کر دیا، اور اذنه اور طرسوں کے شہروں میں فساد برپا کر دیا۔ پھر اپنے علاقہ میں واپس چلا گیا۔

اسی سال معز الدولہ نے موصل اور جزیرہ ابن عمر و کارخ کر کے موصل پر قبضہ رکھا، اور وہیں تھہر گیا، مجبوراً وہاں کے باشندوں نے اس سے خط و کتابت کر کے اس سے مصالحت کر لی اور یہ شرط فرض بپائی کہ ہر سال کچھ اسے لیکس پہنچایا جائے گا، اور یہ کہ ناصر الدولہ کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہو گا، جسے معز الدولہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد بھی اسے وہاں بہت کچھ اہم واقعات میں آئے، جنہیں ابن اثیر نے ذکر کیا ہے، پھر وہاں سے بغداد لوٹ آیا۔

اسی سال ولیم کے شہروں میں ابو عبد اللہ محمد بن الحسین کا ظہور ہوا، جو خود کو اولاد حسین بن علی میں سے شمار کرتا تھا، اور ابن الراعی کے نام سے مشہور تھا۔

بہت سے لوگوں نے اس کی موافقت کی، اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور اپنا نام المبدی رکھا، اس کا آبائی وطن بغداد تھا، اس علاقہ میں اس کی بہت شهرت ہوئی اور اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس لیے ابن الناصر علوی وہاں سے بھاگ گیا۔

اسی سال شاہِ روم نے اور اس کے ساتھ ہی شاہ ارمیں دمشق نے بھی طرسوں کے شہروں کا رخ کیا، اور ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا، اسی بنا پر وہاں ہر چیز کی قیمت بہت بڑھ گئی، ساتھ ہی وہاں امراض بھی پھوٹ پڑے، اس لیے یہ لوگ اپنے علاقوں میں لوٹ آئے۔ (آیت کا ترجمہ)

”اور اللہ تعالیٰ نے کافر والوں کا ان کے غصہ میں بھرا ہوا شادباکہ ان کی کچھ بھجو، مراد پوری نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کافی بے موئین کے لیے قوال کے وقت کہ وہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔“ (ب ۲۱، ۱۹)

ان کا پختہ ارادہ یہ تھا کہ وہ سارے اسلامی مسوں پر غالب اجایس ایسا گھس اس وجہ سے ہوا کہ ان نے حکام بدرین سننے اور سخاہ نے بارے میں ان کے عقیدے بہت خراب تھے پھر یعنی اللہ نے بچا یا اور دتا کام ادا پس چلے گئے۔

اسی سال صقلیہ کے علاقوں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ رومیوں کا ایک برا شکر اسی طرح فرنگیوں کے بھی تقریباً ایک لاکھ آدمی ان پر حملہ آور ہو کر آئے، اس لیے صقلیہ والوں نے معز فاطمی کے پاس مدد کے لیے درخواست کی تو اس نے جہازوں کے بڑے بڑے میڑے میں ایک بھاری لشکر ان کے پاس روانہ کر دیا۔ پھر مسلمانوں اور مشرکوں میں صلح سے عصر تک زبردست لڑائی ہوتی رہی، آخر میں مویں روی سپہ سالار قتل کر دیا گیا اور سارے روی بھاگنے لگے، اس طرح انہیں زبردست شکست ہوئی، اس موقع پر مسلمانوں نے ان کے بے شمار آدمیوں کو قتل کر دیا، بھاگتے ہوئے یہ افرنجی گھرے پانی میں گر کر اکثر تو ڈوب گئے اور باقی کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے لگے۔ امیر شکر صقلیہ کے حاکم احمد نے بھی اپنے آدمی ان کے پیچھے کشتیوں میں روانہ کیئے تب ان لوگوں نے بھی ان بھاگنے والوں میں سے اکثر کو دریا ہی میں قتل کر دیا۔ اس غزوہ میں ان مسلمانوں کو بے حساب غنیمت کامال، حیوانات، سامان اور تھیار مبتدا ہوا، ان میں سے ایک ایسی تکوا بھی ہاتھ گلی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہندی تکوا رہے اور اس کا وزن ایک سو ستر مثقال ہے اس سے بارہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں لڑائی لڑی گئی، لوگوں نے خوش ہو کر یہ تکوا بطور خاص تخفہ افریقہ میں معز فاطمی کے پاس بٹھا رہی۔

اسی سال قرامطیوں نے طبریہ شہر پر دھاوا بول دیا تا کہ اسے دھرم شام کے حاکم اخشد سے چھین لے اسی وقت ان لوگوں نے سیف الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو لوہے بھیج کر مدد کریں تا کہ ان لوگوں سے تھیار بنا سکیں، چنانچہ سیف الدولہ نے فوراً ان کی درخواست پر رقد کے دروازے لکھردا کر ان کے پاس بھیج دیئے جو کہ بہت مضبوط لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کے علاوہ اور بھی لوگوں سے یہاں تک کہ دکانوں اور بازاروں سے تو لئے کے لوہے بھی لے کر ایک ساتھ سب ان کے پاس بھیج دیئے، ان لوگوں نے یہ لوہے پا کر یہ کہلوا بھیجا کہ بس ہمارے لیے کافی ہیں۔

اس سال معز الدولہ نے غلیفہ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ دارالخلافہ میں داخل ہو کر وہاں گھومنے پھرے اور وہاں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھئے، تو خلیفہ نے اسے اجازت دے دی ساتھ ہی اپنے کچھ آدمی بھی اس کے ساتھ شامل کر دیئے تا کہ وہ تمام ضروری مقامات کو اچھی طرح دکھادیں۔ چنانچہ ان سب نے خوب دل بھر کر دیکھا، مگر اس بات سے معز الدولہ کو ذرگار ہا کر کہیں کوئی دشمن استے بیہدہ پر ختم کر دے۔ اسی وجہ سے وہاں سے صحیح و سالم نکل آئے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ ہزار درہم صدقہ کر دیئے۔ مگر غلیفہ مطیع سے اس دن سے اس کی محبت اور خلوص میں بہت اضافہ ہو گیا۔ وہاں تفریح

کرنے لگے اسے جو دیوبندی میں تجویز نہیں معلوم ہوئی، ایک بڑتھا عین شیخ یا عالم ہوتے اور ایک حسین ہوتے کے روپ میں۔ تھا اور اس کے پاروں طرف چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت تھے میادہ اس کے خدمت کا۔ تھے جسے مقتدہ نے زمانہ میں وباں نامی کیا تھا اور اسے میں بھی اکر، یا تھا تاکہ باندیاں اور محور میں اس کا ناظراً نہ رکے دل بھلا کیں معز الدولہ و یہ بہت اتنے پسند آئے۔

نھیں رحیقہ سے ان تھے ملکنے کا راہ و یہ مگر پچھو سوچ کر اپنا خیال ترک کر دیا۔

اس سال ماوزی الحجہ میں کوفہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا اس نے خود کو علوی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بیشہ چہرہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا، اس لیے وہ متبرقع کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت جب کچھ زیادہ ہو گئی اس کے فتنے بھی بڑھنے لگے، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ معز الدولہ بغداد سے غائب رہ کر موصل کے معاملات میں مصروف تھا، جب وہ بغداد واپس آگیا تو وہ نقاب پوش بھی غائب ہو گیا اور کہیں دوسری جگہ چلا گیا، پھر اس کا کیا ہوا؟ معلوم نہ ہوا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

بکار بن احمد:

بن بکار بن بیان بن بکار بن درستویہ بن عیسیٰ النبی، حدیث کی روایت عبداللہ بن احمد سے کی ہے، اور ان سے ابو الحسن الجمانی نے روایت کی ہے، ثقہ تھے قرآن کریم کے بہترین فارسی تھے سانحہ بر س سے زیادہ عمر پائی، سال رواں کے ماہ ربیع الاول میں وفات پائی، بقول بعض ستر بر س سے زیادہ اسی بر س کے نزدیک عمر پائی ہے، ابوحنیفہ کے مزار کے قریب خیزان کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔

ابو اسحاق الحنفی:

سن دوسو پچاس میں پیدا شہوئی، حدیث کی ساعت کی، مگر جب کبھی ان سے حدیث کی روایت کی فرمائش کی جاتی تو قسم کھا بیٹھتے کہ سو بر س نہ ہونے تک روایت نہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم پوری کر دی اور سو بر س سے زیادہ ہونے کے بعد تھی روایت کی ہے، ایک سو تیس بر س کی عمر پا کر وفات پائی۔



## — ۳۵۴ —

اس سال بھی ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو شیعوں نے حسب سابق ماتم اور بدعت کے کام پرے کیئے، سارے بازار بند کروائے، اور چادریں بدن پر لٹکائیں، عورتیں اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے نگے پیر چلتی رہیں، بازاروں اور گلیوں میں حسین بن علی کے نام پر نوحہ کرتی چہروں پر طماقے مارتی جاتی تھیں، حالانکہ یہ کام بالکل غیر ضروری ہے، جس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ سب کام واقعۃ پسندیدہ ہوتے تو پہلی صدی ہجری کے صحابہؓ خوشی اور تابعین ضرور کرتے بلاشبہ پہلی صدی کا دور سب سے بہتر دور تھا: لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ (اگر یہ کام بہت اچھے ہوتے تو وہ ہم پر اس کام کے کرنے میں سبقت نہ لے جاتے)۔

اہل سنت اچھے کاموں میں اقتداء کرتے ہیں، مگر بدعت کی ایجاد نہیں کرتے ہیں، بعد میں اہل سنت روافض پر جب غالب آگئے تو ان کی مسجد، مسجد برائنا جو روافض سمجھے لیے مرکز کی حیثیت تھی، اس پر وہ غالب آگئے، اس میں جو لوگ موجود تھے، ان میں کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا۔

اس سال ماہ ربوم میں شاہزادہ بھاری شکر لے کر مصیبہ کی طرف بڑھا اور اسے طاقت سے لے لیا اور وہاں کے بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا اور بقیہ لوگوں کو جو تقریباً دوا کھ تھے قیدی بنایا گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔  
وہ پھر طرسوں کی طرف بڑھا تو وہاں کے باشندوں نے اس سے امان چاہی تو اس نے انہیں امن دیا۔ مگر وطن چھوڑ دینے کو کہا، اور وہاں کی بڑی مسجد کو گھوڑوں کا اصطبل بنایا، اور اس کے منبر کو جلا دیا۔ اور اس کی قدمیلوں کو اپنے شہر کے گرجوں میں لے گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے مذہب نصرانیت قبول کر لیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہی طرسوں اور مصیصہ والوں کو سخت قسم کی مصیبتوں اور زبردست قحط اور وہاں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک ایک دن میں آٹھ آٹھ سو آدمی ختم ہو جاتے تھے، پھر ان پر یہ مصیبۃ عظیمی آن پڑی۔

پھر شاہزادہ نے طرسوں میں قیام کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے مسلمانوں کا علاقہ قریب ہو جائے، لیکن اپنے خیال سے بازاً گیا، اور قسطنطینیہ کا رخ کیا، اس کی خدمت میں شاہزادہ امر من مستقیم بھی تھا، اللہ اس پر لعنت کرے۔

اس سال حاجیوں کے سفیر بنانے کی ذمہ داری طالبوں کے نقیب کے پرد کی گئی۔ جن کا نام ابو الحسن بن موسی الموسوی تھا، جو کہ رضی اور مرتضی کے والد تھے، اور ان کے لیے نقا بت اور حج کرانے کا فرمان لکھ دیا گیا۔

اس سال معز الدولہ کی بہن کی وفات ہوئی تو خلیفہ خود اپنی خاص سواری میں اس کی تعزیت کے لیے پہنچنے انہیں دیکھ کر معز الدولہ نے ان کے سامنے زمین کو بوس دیا اور ان کے آنے اور ساتھ عطیات لانے پر ان کا بہت شکر یہ ادا کیا۔

اس سال ہر ہوئی دش آپریں رضاش نے پرانی راستے کے طلاقیں بیٹھنے لیے۔ اس سال انتظامیہ پر آیا ایسے شخص کا نام پڑا۔ اسی کی وجہ سے شیخ الحسین کہتے تھے یہ شخص امیر بن الاحوازی کی مدد سے آیا تھا۔ اور ٹواجیں کا صاف تھا، اس لیے اب بہت مال ریا اور انٹا کیہے پر قبضہ۔ لیکن ملکی ایجنسی ایک رات تھوڑی یقین جنمی، میں اسیف الدہلی اور حسین کے قبضہ کر لینے کی نیت پوری ہو گئی۔ پھر یہاں سے ایک بھاری لشکر لے کر یہ طلب کی طرف روانہ ہوئے لیکن راستہ ہی میں ان دونوں سے نائب سیف الدولہ کا مقابلہ ہو گیا۔ اور زبردست لڑائی ہوئی تو اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور نائب حاکم قلعہ میں جا کر بند ہو گیا، تو اس کو سیف الدولہ کی طرف سے ملک پہنچی جسے سیف الدولہ کا ایک غلام جس کا نام بشارہ تھا لے کر آیا تھا، اس موقع پر رشیق شکست کھا گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑا، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً کوئی بدوسائی آیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کا سر لے کر طلب کی طرف چلا گیا، اس وقت ابن الاحوازی کمل طور پر تھبا انتظامیہ کا مالک بن گیا، وہاں اس نے ایک روپی شخص کو جس کا نام وزیر تھا، امیر کا عہدہ دے کر اپنا قائم مقام بنادیا۔ اور علویوں میں سے ایک دوسرے شخص کو بھی اپنا نائب بنادیا تاکہ بعد میں اسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے اور اکثر کا نام الاستاذ رکھ دیا۔ اس وقت طلب کے نائب نے جس کا نام قرعویہ تھا، اس طرف کا رخ کیا اور ایک موقع پر دونوں فریقوں میں زبردست لڑائی ہو گئی، بالآخر ابن الاحوازی نے اسے شکست دے دی اور وہ انتظامیہ میں جنم گیا۔ سیف الدولہ جیسے ہی طلب کی طرف، آیا وہاں صرف ایک رات ٹھہر کر انتظامیہ کا رخ کیا۔ وہاں ابن الاحوازی نے سیف الدولہ کا بھی مقابلہ کیا اور دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی، آخر کار وزیر اور ابن الاحوازی دونوں ہی شکست کھائے اور قیدی بنالیے گئے، آخر سیف الدولہ نے ان دونوں لوگوں قتل کر دیا۔

اسی سال ایک قرمطی نے جس کا نام مردانہ تھا، اور وہ سیف الدولہ کے آمد و رفت کے موقع پر اس کے لیے راستہ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اس نے حمص پر حملہ کر کے اس پر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس وقت طلب سے وہاں کے امیر نے جس کا نام بدر تھا، ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ کیا، دونوں فریقوں میں لڑائی ہوئی، اس موقع پر بدر نے اسے زہر سے بجھا ہوا ایک تیر مارا جونٹا نہ پر گلگ کیا، اوہ مردانہ کے ساتھیوں نے بدر کو قید کر لیا، بعد میں مردانہ نے اپنی آنکھ کے سامنے اسے باندھ کر قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد ہی خود مردانہ بھی مر گیا، اس کے مرتبے ہی اس کے تمام ساتھی منتشر ہو گئے۔

اسی سال جھنائی والوں نے اپنے امیر خلف بن احمد کی نافرمانی کی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سن تین سو تین ہجری میں یہ حج کو گیا اور اپنے علاقہ میں ظاہر بن الحسین کو اپنا نائب مقرر کر دیا، بعد میں خود باہشاہ بننے کی اسے خواہش پیدا ہو گئی، تو کچھ مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے حکومت اس کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت کر دی

محبود اور شخص بیان کے امیر منصور بن فوج سے بدھ طلب کی تو اس نے اس کی فوجی مدد کی اور اس علاقہ کو حاصل کر کے اس امیر غلف بن احمد کے دوست کر دیا۔ یہ خلاف نہاد نامہ اور علاوہ تھے محبت بھنی رکھتے تھے ظاہر نے وہاں سے انکل سرہ بر سے پھر اپنی فوج اگئی کر کے خلاف کے علاقہ کو دوبارہ دھواڑہ کر دیا اور شہر پر قبضہ بھی کر دیا۔ خلاف نے دوبارہ انہیں سورہ ساماںی سے فوجی مدد اور خلاف کی تھی اس نے بھنی، پارہ، فوجی، ...، ... کے کروں علاقہ کو اس سے چھین کر خلاف کے حوالہ کر دیا اب جبکہ پورے طور پر خلاف کی حکومت قائم ہو گئی تو اس سے پہلے یہ ہدپے اور تھنے جو امیر منصور ساماںی کو بخارا میں بھیجا کرتے تھے ان سب کے دینے سے انکار کر بیٹھے۔ غصہ میں آ کر منصور ساماںی نے خود اسی کے خلاف فوج سے چڑھائی کر دی تو خوف کے مارے وہ خلف قلعہ بند ہو گیا، جس کا نام حسن اراک تھا، اس فوج نے متواتر نو برس تک اس کے پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ یہ قلعہ بہت ہی محفوظ تھا، اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل، اس کی خندق بہت ہی گہری اور دیواریں بہت اوپری تھیں، آخر اس کا حشر کیا ہوا؟ ہم عنقریب تفصیل سے بیان کریں گے۔

اس سال بچھتار کیوں نے خزر کے شہروں پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے خوارزم والوں سے مدد چاہی، ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم لوگ اسلام لے آؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو سوائے ان کے بادشاہ کے سب اسلام لے آئے۔ اس لیے وعدہ کے مطابق خزر والوں نے خوارزم کا ساتھ دے کر ترکیوں کے خلاف مقاومت کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے مار بھیگایا۔ اس کے بعد خود بادشاہ بھی اسلام لے آیا۔ فیصلہ الحمد.

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:  
لمتنی الشاعر المشهور:

احمد بن الحسین بن عبد الصمد ابو الطیب الہنی جو متنی شاعر کے نام سے مشہور ہے اس کا باپ عیدان القاکے نام سے مشہور تھا، جو اپنے اونٹ پر پانی لا کر کوفہ والوں و پلایا کرتا تھا، یہ بہت بوزھا ہو گیا تھا۔  
ابن ماکوہ اور خطیب نے کہا ہے کہ عیدان میں کے سرہ اور اس کے بعد و نقطوں والی یسا کے ساتھ ہے ایک قول یہ ہے کہ میں وفات سرہ نہیں ہے۔ واللہ عالم

اس متنی کی پیدائش کو نہ میں سئیزین سو چھوٹی بھری میں ہوئی، شام کے دیہاتی علاقہ میں بڑا ہوا ادب سیکھا، اتنا کہ اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے ادب میں بڑا ہی سیف الدولہ بن حمدان کی مصاہیت میں لکھا دیا، اس کی تعریفیں کہتا اور لکھتا رہا، اس طرح اس کے نزدیک بڑا مرتبہ پالیا۔ پھر مصر جا کر الانشید کی بھی تعریفیں بیان کیں، پھر ناراض بہر اس کی بھجوکر کے اس کے پاس سے بھاگ گئی، وہاں سے بغداد پہنچا تو وہاں کے حاکموں کی تعریفیں بیان کیں، پھر کونہ پہنچا تو وہ باں ابن الجمید کی تعریفیں کہیں، اس مسلمہ میں ابن الجمید کی طرف سے اسے تیس بڑا دینار مل گئے، پھر فارس گیا اور وہاں عشد الدولہ بن بویں کی تعریفی کی تو اس نے خوش

بُوئیں ہے ایسا۔ یہی رائے تقریباً اکثر کارکن گردانے والے ایکہ قوال۔ بے کو مندر، مارے مارے جنمیں نہ اور مارے تھے  
پھر ان نے اس کی شکنی کو یہ بات بانتے کے لیے مقرر کیا کہ عضد الدولہ اور سیف الدین مارے جنم حمدان کے عظیمیں میں سے اس کا عظیم  
اس کے خیال میں بہتر ہے جو اب بے میرا یا اکر یہ بہت زیاد ہے یعنی تکلف کے ساتھ دیا جائے اور یہ تم ہے تین ہوش دنی کے ساتھے  
جب یہ جواب عضد الدولہ کو پہچایا گیا تو اس جواب سے اسے بہت زیاد فضد آیا اس لیے کچھ بد دوں کا اس نے اس کے خلاف  
مقرر کر دیا، چنانچہ وہ لوگ متنبی کے راستے میں چھپ لر لھڑے ہو گئے جبکہ وہ بغداد واپس جا رہا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ متنبی شاعر  
نے ان کے سر برادر این فاتحک اسدی کی جھوکی تھی، جبکہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ راستوں پر لوٹ مار کیا کرتا تھا، اس لیے عضد  
الدولہ نے ان لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ اسے گھیر کر اس پر حملہ کر دیں اور قتل کر کے اس کا سارا مال چھین لیں، چنانچہ بدھ کے دن  
جبکہ رمضان کے صرف تین دن باقی رہ گئے تھے، ان کے ساتھ آدمیوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بدھ کے  
دن جبکہ رمضان کے پانچ دن باقی رہ گئے تھے، قتل کیا گیا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ ماہ شعبان میں قتل کیا گیا ہے، جبکہ دامن کوہ  
میں درختوں کے نیچے چشمے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کے لیے اس کے سامنے دستر خوان بچھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کا لڑکا  
محسن اور دوسرے پندرہ ملاز میں بھی تھے جسے اس کے سامنے وہ لوگ آئے تو انہیں دیکھ کر اس نے کہا اے عرب والو! آؤ اور  
کھانے میں شرکت کرو، لیکن ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اسے خطرہ محسوس ہوا اور فوراً اپنا ہتھیار ہاتھ میں بلے کر اپنے  
گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں نے ایکبارگی حملہ کی کے اس کے میئے محسن اور کچھ دوسرے ملاز میں کوئی قتل کر دیا، یہ دیکھ  
کر اس نے راہ فرار اختیار کرنی چاہی تو اس کے خاص غلام نے ہماراپ کہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا یہ شعر ہے ۔

**فالخيل والليل والبيداء تعرفني** **والطعن والضرب والقرطاس والقلم**

**تشریحہ:** گھوڑے، رات اور میدان سب مجھے پہچانتے ہیں، نیزے، تکوار، کانڈا اور قلم بھی مجھے پہچانتے ہیں۔

اس عارد لانے پر متنی نے کہا تیرابرا ہوتونے مجھے قتل کروادیا یہ کہہ کرو لوٹ آیا، تب ان کے سردار نے اسی نیزہ سے جو اس کے گردن میں تھا، اس پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا اور اس کے پاس جو کچھ مال و اسباب تھا، سب چھین لیا، یہ واقعہ نعمانیہ کے قریب اس وقت ہوا جبکہ یہ بغداد لوٹ رہا تھا، ہیں اسے فن کر دیا گیا اس وقت یہ اڑتا لیس برس کا تھا، اب عساکرنے کہا ہے کہ جہاں یہ قتل کیا گیا ہے اس سے پہلے کی منزل میں کچھ بد و دل نے اس سے کہا کہ تم ہمیں بچا س درہم دو تو ہم تمہاری حلقی ٹھاٹ کا ذمہ لئتے ہیں، لیکن اس کے بخل، شیخی اور بہادری کے دعویٰ نے اتنی سی رقم دینے سے روک دیا۔

یہ متنیٰ نسبی لحاظ سے بھی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت جبکہ یہ حمص کے قریب سادہ کے علاقے میں تین کلب کے ساتھ تھا اس وقت اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ علوی ہے، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس دعویٰ کو کچھ لوگوں نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی بنا پر مان بھی لیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس پر قرآن کا نزول ہوا ہے، اسی

میں سے یہ چند آئیں ہیں:

والنجم السيار ، والفلک الدوار ، واللیل والنھار ، ان الکافر لفی خسار امض علی

یہ سب اس کی رسوائی اور بیہودہ بکواس اور لعن ترانی کرتے رہنے کا شرہ ہے، اگر وہ اپنی مدح میں النافق اور الشفاق کا اور بھوکر تے وقت الکذب اور الشفاق کا قافیہ لاتا تو فی الواقع بہت بڑا شاعر اور بڑا فضیح شمار کیا جاتا، لیکن اس نے اپنی جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی، جو ایسے رب العالمین کے کلام کے مشابہ ہو جائے کہ اگر سارے جنات اور تمام انسان اور پوری مخلوق ایک ساتھ مل کر بھی ایسا کلام کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کے برابر ہو تو بھی وہ طاقت نہ پائیں گے اور ایک جملہ بھی نہ کہہ سکیں گے۔

اور سادہ والوں میں اس کی ان باتوں کی شہرت ہوئی، اور یہ کہ جاہلوں کی ایک جماعت اس کے اردوگرد جمع ہو گئی۔ تو نبی الانشید کی جانب سے حص کا نائب حاکم الامیر لوال اس کے مقابلہ کو نکلا، اللہ اس کے چہرہ کو روشن کر دے، اس سے مقاتلہ کیا اور اس کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ اور اسے انتہائی ذلت کے ساتھ تقدیم کر لیا اور زمانہ دراز تک قید میں رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں یہاں پڑ گیا، اور مر نے کے قریب ہو گیا، اس وقت اس کو بلواء کرنے سے تو بے کرانی اور اس سے اس کے اذعاء نبوت کے بطلان پر ایک تحریر لکھوائی کر اس نے اپنی غلطی پر توبہ کی ہے اور دین اسلام یعنی دوبارہ داخل ہو گیا ہے، تب امیر نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جب کبھی اس کے سامنے اس کے متنبی بننے کا تذکرہ کیا جاتا تو اگر اس کے لیے اس سے جھٹانا ممکن ہوتا فوراً جھٹلا دیتا، ورنہ عذرخواہی کرتا اور شرم نہ ہو جاتا، وہ ایک ایسے لفظ سے مشہور ہو گیا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے نبوت کے دعویٰ کے جھوٹے دعویٰ اور الزام تراشی کے معاملہ میں جھوٹا ہے، وہ لفظ متنبی (جھکلف نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان) ہے۔ فلیلہ الحمد والمنہ.

کسی نے اس کی بھوکر نتیٰ ہونے پا اشعار کئے ہیں:

١. اي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرةً وعشياً

**ترجمہ:** کوئی بڑائی حاصل ہوئی اس شاعر کو جو تلاش کرتا ہے، فضیلت انسانوں سے صحیح اور شام۔

٢٠. عاش حيناً يبيع ماءً المحيا و حيناً يبيع في الكوفة الماء

**ترجمہ:** جو ایک وقت میں کوفہ میں بدلنی چاہتا ہے، تو ایک وقت میں چہرہ کی عزت یچاتا ہے۔

اس متنی کا اپنا ایک مشہور دیوان ہے، اس کے اشعار بہت عمدہ اور اس کے تجھیلات بالکل نئے ہیں، ایسے کہ اس سے پہلے

یقین ہے۔ کسی تحریر و نظر کو تجویز کرنا شرعاً ممکن، لیکن شرعاً کہتے ہوئے مبتداً میں شرعاً ممکن کہتے ہوئے ایک مداری میں تحریر کرنا کیا ہے؟ ایک مداری میں تحریر کرنا ایک کیا ہے؟ ایک اپنے تحریرات میں جو یہ شرعاً ممکن اپنے امکانات میں ہو چکا ہوا ہے۔

روانہ سرخ ابن جوزی نے اپنے کتاب تختیم میں اس کا ایک کمدہ تصدیق کیا ہے کہ انہوں نے اسے تمام اشعار میں سے پسند کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حشمت اپنے علاقہ کے شش وقت نے بھی ذکر کیا ہے ابن جوزی نے اس کے اس قول کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔

۱. عزیز انسی من دافہُ الحدق النجل عباءُ به ماتَ الْحِبُونَ مِنْ قَبْلِ

ترجمہ: ایسے شخص کا قیدی ہونا شاہد و نادر ہے جس کی پیاری آنکھوں کی سیاہی اور بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہو، کہ وہ پہلے ہی عجز نہ کر پہیت پھول کر مر جاتا ہے۔

۲. فَمِنْ شَاءَ فَلِسْطِرَ إِلَىٰ فِنْسْطَرِي نَذِيرَ الَّتِي مِنْ خَلَقَ إِنَّ الْهُوَ يَسْهِلُ

ترجمہ: اس لیے جو چاہے میری طرف دیکھ لے کہ میرا چہرہ اُڑ رانے والا ہے اس شخص کو جو یہ گمان کرتا ہے کہ عشق کرنا کھیل ہے۔

۳. جَرِيَ جَهَا مَجْرِي دَمِي فِي مَفَاصِلِ فَاصْبَحَ لِي عَنْ كُلِّ شَغْلٍ بِهَا شَغَلٌ

ترجمہ: اسی محبت میرے خون کے ساتھ دوڑتے ہوئے میرے تمام جوڑوں تک پہنچ چکی ہے اُبڑا اب وہی ایک شغل دوسرے تمام شلغوں کے لیے کافی ہو گیا ہے۔

۴. وَ مِنْ جَسْدِي لَمْ يَتَرَكِ السَّقْمُ شِعْرَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا وَفَانَهُ فَعَلَىٰ

ترجمہ: میری پیاری نے میرے بدن کے ایک بال کے برابر بھی جگہ نہیں چھوٹی ہے بلکہ اس سے کم تر گلہ میں بھی اس نے اپنا کام کر لیا ہے۔

۵. كَانَ رَفِيْأًا مِنْكَ سَدَّ مِسَامِعِي عن العَدْلِ حَتَّىٰ لَيْسَ يَدْخُلُهَا الْعَدْلُ

ترجمہ: گویا تمہارے رقبے میرے کانوں کے سوراخ کو بند کر دیا ہے ملامت کے سنتے سے یہاں تک کہ اب کانوں میں کسی کی بھی ملامت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔

۶. كَانَ سَهَادَ الدِّيَالِ يَعْشُقُ مَقْلَتِي فيَنِيمَاهُ فِي كَارَهِ لَنَا وَصَلَ

ترجمہ: گویا کہ شب بیداری میری آنکھوں کے دھیلوں سے عشق کرتی ہے اس طرح ان دونوں کے درمیان جدا گی سے ہمارے لیے ملاپ کا مزہ ہے۔

ان کے علاوہ متنی کا یہ قول بھی ہے:

۷. كَشَفَتِ ثَلَاثَ ذَوَابَ مِنْ شِعْرِهَا فِي لِيَلَةَ فَسَارَتْ نَيَاسِي أَرْبَعاً

ترجمہ: اس نے اپنے باوں کے تین جوڑوں کوکھول کر زرات کے وقت مجھے ایک ساتھ چار را نہیں دھاڑ دیں۔

اگرچہ اور اس نے پہلے دو ماں کے پار بھی طرف متوجہ کیا تو اس نے بھی ایک وقت میں پار بھاگا۔ اور یہیں ایک لئے انجام دیتے۔

۹۔ مان ان اهل انجاہیہ کنہم نامعرک ولا سماعت بسحرتی ملیں  
تقریبہ: تمام شعرائے جاہلیت میں سے کسی نے بھی مرتبہ نہیں پایا ہے میرے شعر جیسا اور نہ بالل والوں نے بھی بھی میرے  
جادو کے اثر سے اس سے پہلے نہ ہے۔

۱۰۔ اذا اتاك مذمّتى من ناقصٍ فهى الشهادة لى بانى كاملاً  
 ترجمہ: اور جب کسی کمینہ کی جانب سے تمہارے پاس میری برائی کی خبر پہنچے تو میں بات میرے کامل ہونے کے لیے ہر جی شہادت ہے۔

**۱۱. من لی بفهمِ افیل عصرِ یداعی** ان یحسب الہندی منهم باقلٰ  
 ترجمہ: ایسا کون ہے جو میرے ہم عصر بے دُنیوں کو یہ بتا دے جوان میں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندی مجھے سبزی فروش  
 سمجھنے لگیں۔

**١٢۔** وَمَنْ نَكَدَ الدِّينَى عَلَى لَهْرَانِ يَرَى عَدُوَّ اللَّهِ مَا مِنْ صَدَاقَةٍ بَدَّ تَرْجِعَهُ: ایک شریف انسان کے لیے دنیا کی مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو دشمن بتا دے جس کی دوستی کے بغیر گزرنہ ہو۔

اور یہ چند اشعار بھی علیحدہ علیحدہ اسی کے ہیں:

١٣. وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كَيْرًا تَعْبَتُ فِي سُرَادِهَا الْأَجْسَامَ  
تَرْجِمَة: اور جب لوگ کسی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو پانے کے لیے بہت سے جسم تھک جاتے ہیں (کہ وہ بآسانی  
ہاتھ نہیں آتے)۔

۱۱۔ و من صحب الدنيا صوپلا تغلبت علیٰ عینیه یہ ری صدقہا کذبا ترجمہ: اور جو شخص دنیا کی صحبت زیادہ دونوں تک اختیار کرتا ہے وہ الٹ جاتی ہے اس کی دونوں آنکھوں پر پھر وہ اس کے سچ کو جھونا سمجھنے لگتا ہے۔

**١٥۔ خذ ما تردد ودع شيئاً سمعتَ به**      فِي طُنْعَةِ الشَّمْسِ مَا يَغْيِيكُ عَنْ زَحْلٍ  
**ترجمہ:** جس چیز کا تم مشاہدہ کر رہے ہو تو اسے قبول کرلو اور چھوڑ دو تم کچھ ان باتوں کو بھی جن کو تم نے سورج کی روشنی میں سنائے ہے تو اسی کرنا تم دھنے سے بھادے گا۔

اس لئے یہ کسی اشعار ہیں جو اس نے اپنے مذہبی تحریر کرنے کے لئے لکھا ہے۔

۱۶۔ معنی انکو آدھ و لا بصر ماحصہ۔ مسجدت سنی سینک اسموس خانہ اور

ترجہ: تدریج حتم، اور بے ہیں اور پچھا نمیں غورتے۔ ملید رہی ہیں، ایسے باشہ ولی چانب جس کا پر نہ، قسمت مبارکہ ہے۔

۱۷۔ قد حزن فی ستر فی تاجه فمر۔ فی درعہ استددمی اخافہ

ترجمہ: ایسے شخص کے بارے میں ہر شخص غم کرتا ہے، جس کے تاج میں چاند ہو، جس کے زرد کے نیچے ایک شیر ہو جس کے ناخون خون نکال رہے ہوں۔

۱۸۔ حلو خلائقہ شومن حقائقہ۔ يحصى الحصى قبل ان تحصى ماثرة

ترجمہ: جس کے اخلاق شیریں اور اوصاف دلیرانہ ہوں، اس پرمی ڈال دی گئی ہواں سے پہلے کہ اس کی اچھائیاں شمار کر لی گئی ہوں۔

اور یہ بھی اسی کے اشعار ہیں:

۱۹۔ يامن الوذیہ فیما اُوْ ملَةٌ وَمِنْ اعوَذُبِهِ مَمَّا احَاذَرَهُ

ترجمہ: اے وہ شخص جس کی میں پناہ لیتا ہوں ان تمام کاموں میں جن میں اس سے امید رکھتا ہوں اور جن چیزوں میں میں اس سے خوف کھاتا ہوں، ان میں اس کے علاوہ اور کس نے پناہ پاسکتا ہوں۔

۲۰۔ لَا يجِيرُ النَّاسُ عَظِمًا انتَ كَاسِرَةٌ وَلَا يَهِيضُونَ عَظِمًا انتَ جَابِرَةٌ

ترجمہ: جس ہڈی کو تم توڑ دو اسے لوگ جو نہیں سکتے، اور جس ہڈی کو تم پھر دو اسے لوگ نہیں توڑ سکتے۔

ہمیں اپنے شیخ علامہ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس تنقی پر کسی مخلوق کی اس طرح بھر پور مبالغہ کے ساتھ تعریف کرنے پر ناراضگی کا بہت زیادہ اظہار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسی زبردست تعریف تو صرف خدائے وحدۃ لا شریک لہی کی شایان شان ہے۔

اور ہمیں علامہ شمس الدین بن القیم رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے شیخ تنقی الدین مذکور سے سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں تو ان دونوں اشعار کو اپنے سجدہ میں کہا کرتا ہوں اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسے پکارتا ہوں۔ اور اہن عساکر نے تنقی کے حالات ذکر کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے ان میں سے اسی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے:

۲۱۔ ابْعِينَ مَفْتَقِرِ الْيَكْ رَأَيْتَنِي فَاهْتَنَى وَقَذَفْتَنِي مِنْ حَالَقِي

ترجمہ: کیا تم نے مجھے اپنی طرف محتاجی کی آنکھ سے دیکھتے پایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم نے میری توہین کی ہے اور تم نے مجھے میرے بلند مقام سے نیچے گرا دیا ہے۔

۲۲۔ لَسْتَ الْمَلْوُمَ اَنَا الْمَلْوُمُ لَانِتِي اَنْزَلْتَ اَمَالِي بِغَيْرِ الْخَالِقِ

ترجمہ: ایسی صورت میں تم قابل ملامت نہیں ہو بلکہ میں خود ہی مستحق ملامت ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آرزوؤں کو غیر خالق

تسلیم ہے۔

ابن خلکان سنتا ہے کہ یہ نواس اشعارِ صحیح کے دیوان میں موجود نہیں ہیں۔ البتہ سلفیُ کندھی نے نمدجح کے ماتحت ان دونوں کو اس طرف مسوب کیا ہے۔ اور اس کے چند اشعار یہ یہیں ہیں:-

۲۳۔ اد ما کنت هی تصرف متروم ملا لمع بسم دون سنجوم

ترجمہ: جب کہ تم مقصد کے پائینے کے امیدوار ہوتے ستاروں کی بلندی سے کم پر اکتفاء نہ کرو۔

۲۴۔ فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم

ترجمہ: کیونکہ معمولی جیز کے لیے موت کا مزہ چکھنا ایسا ہی ہے جیسے کی بڑے اور اہم کام کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی اس کے اشعار میں۔

۲۵۔ وما أنا بالباغي الحب رشوة قبيح هوى يرجحى عنيه ثواب

ترجمہ: میں محبت کے لیے کسی رثوٰت کا طالب نہیں ہوں ایسی خواہش بری چیز ہے جس سے ثواب کی امید رکھی جائے۔

۲۶۔ اذا نلت منك الودفا كل هين و كل الذى فوق التراب تراب

ترجمہ: جب تم اپنی دوستی کو پالو تو بقیہ ساری چیزیں یعنی ہیں کیونکہ مٹی کے اوپر کی چیز بھی مٹی ہی ہے۔

اس سے پہلے یہ بات بتادی گئی ہے کہ متنبی کی والائیہ کوفہ میں ۲۵۳۰ھ میں ہوئی اور ۲۵۵۰ھ کے ماہ رمضان میں قتل کیا گیا ہے۔ ابن خلکان نے کہا ہے کہ ۲۵۵۰ھ میں ایک موقع پر ابن ہلالہ بن نعیم نے چابی کا پچھا اس کے منه پر پھینک کر مارا تھا جس سے اس کا منہ خون آلو ہو گیا۔ اسی وقت وہ سیف الدولہ بن حمدان کی مصائب جھوڑ کر بھاگ آیا اور مصر چلا گیا۔ وہاں کافور الانشید کی مدح خوانی کرتے ہوئے چار برس گزار دیئے اس کی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ اپنے غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ رہتا اور آمد و رفت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اچانک کافور بادشاہ کو اس کے خلاف خطروہ محسوس ہوا خود متنبی نے بھی اس کا عندیہ معلوم کر لیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کافور نے خبر پاتے ہی اس کے پیچھے اپنے آدمی دوزادیے لیکن وہ تیزی سے بھاگ کر بیچ نکلا۔ کسی نے کافور سے سوال کیا کہ تم متنبی سے کیوں ڈر گئے، کیا بات دیکھی؟ جواب دیا کہ یہ شخص جب بوت کا دعویٰ کر سکتا ہے جو کہ بادشاہت کے مقابلہ میں بہت بڑی چیز ہے تو کل کو مصر کی بادشاہت کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ متنبی وہاں سے بھاگ کر عضد الدولہ کے پاس گیا اور اس کی مدح سرائی کی تو اس نے اسے کثیر رقم دی۔ جب وہاں سے لوٹ رہا تھا راستے میں فانک ابن ابی جبل الاسدی اس کے سامنے آیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کا بیٹا محسن اور اس کا غلام مفلح بغداد کے علاقے میں بده کے روز چوبیسویں یا اٹھائی سویں تاریخ کو قتل کیا گیا۔ بہت سے شعراء نے اس کی مرثیہ خوانی کی ہے، فن شعر اور لغت کے بہت سے علماء نے اس کے دیوان کی شرح لکھی ہے جو قریب قریب سانچھ کی تعداد میں ہیں ان میں سے کچھ منحصر ہیں اور کچھ بہت مفصل بھی ہیں۔

مشہور لوگوں میں وفات یا نے والے

اس سال مشبوہ الگوں میں انتقال کرنے والوں کے نام یہ ہیں:

ابو حاتم الرضي صاحب اصحیح محمد بن حبان

بن احمد بن حبان بن معاذ بن معدب ابو حاتم الہبستی جو الانواع والتقايم کے مصنف اور بڑے مصنفوں اور مجتہدوں میں تھے۔ بہت سے شہروں کا سفر کیا اور بہت سے مشائخ سے بہت سی حدیثیں سنیں۔ پھر اپنے علاقے کے قاضی ہوئے اور وہیں اسی سال وفات پائی۔ کچھ لوگوں نے اعتقادی اعتبار سے ان کے کلام میں گفتگو کی ہے اور ان کو اس اعتقاد کی طرف منسوب کیا ہے کہ نبوت بھی کوشش سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہ فلسفی مونوگرافیاں ہیں۔ اللہ ہی صورت حال سے صحیح واقف کا رہے ہے کہ ایسی نسبت ان کی طرف کہاں تک درست ہے۔ میں نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

محمد بن الحسن بن يعقوب

بن الحسن بن الحسين بن مقدم ابو بکر بن قسم المفری، انگلی پیدائش ۲۵ھ میں ہوئی تھی۔ بہت سے مشائخ سے بہت سی روایتیں سنی ہیں۔ ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے علم القراءت کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ کوفیوں کے مسلک کے مطابق فنِ نحو میں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام انہوں نے کتاب انوار رکھا ہے۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ میں نے ان جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں دیکھا ہے۔ مذکورہ ایک کتاب کے علاوہ اور انہیں ان کی دوسری بہت سی مصنفات ہیں، لیکن لوگوں نے ان کے باارے میں یہ رائے قائم کی ہے کہ بہ مفردات اور قراءت شاذہ کا بہت ذکر کرتے تھے جو دوسروں کے ہاں غیر مقبول ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر وہ قراءت جو رسم قرآنی کے مخالف نہ ہو اور معنی کے اعتبار سے اس کی گنجائش ہو اس کی قراءۃ جائز ہے جیسے کہ اس فہرمان اللہ میں ”فَلَمَّا أَسْتَيْسُوا مِنْهُ حَلَصُونَجِيَا“ یہ نجیاً معنی میں یتنا جوں کے ہے۔ لیکن اگر اسی لفظ میں لفظ نجابت سے نجینیاً پڑھا جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ مگر بعد میں ایسا مضمون بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ان جیسے عقیدوں سے رجوع کر لیا تھا مگر اس کے باوجود اپنی آخری زندگی تک ان کا عمل اس قسم کاربا۔ یہ رائے ابن الجوزی کی ہے۔

محمد بن عبد الله بن ابراهيم:

بن عبد الرحمٰن بن موسی ابو بکر الشافعی جو ۲۶۰ھ میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ بہت سی احادیث سنیں۔ بغداد میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہ شفہ ثابت اور بہت زیادہ روایت کرنے والے تھے۔ ان سے دارقطنی کے علاوہ دوسرے حفاظ حدیث نے بھی روایت کی ہے جب کہ دلیمیوں نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے پر پابندی لگادی تھی اس وقت یہ مدینۃ المنصور کی جامع مسجد میں باواز بلند ان کی خالفت کرتے ہوئے صحابہ کرام نے شفہ ثابت کے فضائل بیان کیا تھے۔ اسی طرح باب الشام کی اپنی بھی بیان کیا کرتے تھے۔ چورانوے بر س کی عمر پا کر سال رواں میں ان کا انتقال ہوا۔ رحمہ اللہ

## واقعات — ۵۵۴ھ

اس سال بھی دسویں حرم کو رافضیوں نے اپنی پرانی عادت نے مطابق جیسا کہ بغداد میں بدعتی کام ماتم وغیرہ تھے تھے وہ سارے کام کیے۔ اس سال قرامط نے عمان سے بھجو والوں کو نکال باہر کیا۔ اور اس سال رومیوں نے آمد پر حملہ کے ارادہ سے اس کا محاصرہ کیا لیکن وہ پورے کامیاب نہ ہو سکے البتہ وہاں کے تین سو باشندوں کو قتل کیا اور چار نو کو قیدی بنا کر لے گئے۔ پھر وہاں سے نصیبین چلے گئے۔ وہاں سیف الدولہ موجود تھا، ان لوگوں کی خبر پا کر اپنی جماعت کو لے کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن روی اس وقت وہاں نہیں گئے اس لیے وہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا، اگرچہ سارے ارکانِ دولت متزلزل ہو چکے تھے۔ اس سال خراسان کی ایک جماعت وہاں پہنچی، جس میں ایک بڑا سے زائد آدمی تھے۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم لوگ رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رکن الدولہ بن بویہ نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی اور ان کو اطمینان سے رہنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ کر دے کر دیلمیوں کو پکڑ لیا۔ اس لیے رکن الدولہ نے ان لوگوں سے قتال کیا اور ان پر غالب بھی آ گیا۔ اکثر ان میں سے بھاگ گئے۔ اس سال معز الدین بیگ بغداد سے واسطہ کی طرف عمران بن شاذیں سے قتال کے لیے گیا تو وہاں کے حالات اس کے لیے ناموفق ہو گئے اور پورے علاقوں میں، یہاں تک کہ بغداد تک اس نے اعلان کر کے تمام لوگوں کو ان لوگوں سے جہاد کے لیے دعوت دی جو صحابہ کرام علیہم السلام کو گلایا دیتے تھے۔

اسی سال دیلم کے علاقے میں ابو عبد اللہ ابن الداعی کی بہت شہرت ہوئی۔ اس نے حج اور دوسری عبادت گزاری کی طرف توجہ دی اور اونی کپڑے کو اپنالباس بنایا۔ اس طرف کے سارے علاقوں میں، یہاں تک کہ بغداد تک اس نے اعلان کر کے تمام لوگوں کو ان لوگوں سے جہاد کے لیے دعوت دی جو صحابہ کرام علیہم السلام کو گلایا دیتے تھے۔

ماہ جمادی الآخرة میں ذوی الارحام کو بھی میراث دینے کا عام اعلان کیا گیا اور اسی سال سیف الدولہ اور رومیوں کے درمیان بے شمار قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ جن میں اس کا پیچازاد بھائی ابو فراس بن سعید بن محمدان اور ابو الجیش بن حسن القاضی بھی تھے۔ یہ واقعہ ماہ رب جب کا ہے۔ اسی سال معز الدین بیگ بن بویہ نے مارستان بنانے کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے بہت سے علاقت وقف کر دیئے۔

اس سال بنو سلیم نے شام، مصر اور مغربی علاقوں کے لوگوں کو حج سے واپسی میں راستے میں تھے، ان کے خلاف لوٹ مار کی اور ان سے بیک ہزار اونٹ مع ان کے لدے ہوئے سامان کے لوٹ لیا، ان پر مال و اسباب اتنا زیادہ تھا کہ ان کا شمار ناممکن تھا۔ ان میں سے ایک شخص جن کو ابن الحوتحی کہا جاتا تھا اور وہ طرسوں کے قاضی تھے، ان کے پاس نقد ایک لاکھ اور بیس ہزار روپیہ بیان

سے۔ یونانیوں اور اردو شاعر نے مرتقاً جو کمیں کہا، اس طبقہ میرے سے بھگنے نہ ہیں اور بکھرنا  
تھا۔ انے اپنے ویگرن و گونوں کو یہی مورثہ ادا کیا تھا۔ میں نے جو اپنے زندگی پر کامیاب تھا۔  
جس کی وجہ سے ان میں تحریر میں آئی تھیں کہ۔ اکثر تو میری کتب۔ ایسا دنہ ایسا دنیا۔ اجمعیں۔ اسی میں احمد عزیب الطالبین  
نے عراق کی جانب سے لوگوں کو جو گردانیا۔

مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

اکسن بن داؤد:

بن علی بن عیسیٰ بن محمد القاسم بہ احسن بن زید بن الحسین بن علی بن ابی طالب ابو عبد اللہ العلوی الحسنی - حاکم نے کہا ہے کہ ابو عبد اللہ آں رسول ﷺ کے شیخ اور اپنے زمانہ میں علوم کے سردار تھے۔ اور تمام انسانوں سے نماز پڑھنے، صدقے دینے اور صحابہ کرام حنفیت کی محبت میں بڑھے ہوئے تھے۔ میں ان کی خدمت میں زمانہ دراز تک رہا ہوں۔ اس عرصہ میں جب بھی خلیفہ ثالث کا نام لیتے تو وہ عثمان الشہید شناسد کہتے اور فرماتے۔ اور جب بھی میں نے حضرت صدیقہ شعبانہ کا نام لیتے سناتو وہ کہتے الصدیقہ صدیقہ میں کی لڑکی اور حبیب اللہ کی حبیبہ پھر روتے تھے۔ علی نے حدیث ابن خزیمہ اور ان کے ہم عصروں سے سنی ہے۔ ان کا آبائی وطن خراسان تھا اور ان کے پورے علاقوں میں نجیب الطریفین سردار باکرتے۔ ایک شعر ہے:

لهم دانت رقاب بنى معد  
من آل بيت رسول الله منهم  
ترجمہ: ان کے خاندان کا تعلق رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہے ان کے لیے بنی معد کی گرد نیں جھکی ہوئی ہیں۔

محمد بن الحسين بن علي:

بن الحسن بن محبی بن حسان بن الواضح۔ ابو عبد اللہ الانباری، الشاعر جو الواضحی کے نام سے مشہور ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے احادیث المحتاطی، ابن مخلد اور ابو روق سے سنی ہیں۔ حاکم نے ان کے کچھ اشعار کی روایت کی ہے جو اپنے وقت میں بہترین شاعر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ چند اشعار یہ ہیں:

١- سقي الله باب الكرخ ربعاً و متولاً و من حلة ضوب السحاب المجلل

تقریب: اللہ تعالیٰ باب کرنے کے میدان اور مکاتب کو سیراب کرے اور اسے بھی جو دنباں اقامات کرے زور سے برنسے والے مادل کے رُخ برنا

٢- فلو ان باكي دمنة الدار بالكوى وجارتها أم الرباب بـ مـائـيل

ترسیخ کیا: اور انگریج کے منے ہوئے مکانات پر رونے والا کوئی میں اور اس کے آس پاس امیر باب میں شامل ہیں۔

۳۔ ای عصالت الکبر یاً او حمل ارضها  
لامسلئ عن ذکر الدخول فحوصل  
تترجمہ: کرنے کے میدانوں کو دیکھتا یا اس کی زمین میں اتر تا توہہ اپنی زبان کو دخول اور حمل کے ذکر سے روک لیتا۔

### ابو بکر بن الجعفی:

محمد بن عمر بن سلم بن البراء بن سبیرہ بن سیار ابو بکر الجعفی جو موصل شہر کے قاضی تھے، سن و دوسو چوراںی بھری کے باہم صفر میں پیدا ہوئے، بہت سی حدیثیں سنیں، ابوالعباس بن عقدہ کی تربیت میں رہے، انہی سے علم حدیث حاصل کیا اور انہی سے کچھ شیعیت کا اثر قبول کیا۔ یہ حافظ حدیث اور بہت زیادہ روایت حدیث کرنے والے تھے، لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے چار لاکھ حدیثیں سنداور متن کے ساتھ حفظ کی تھیں، اور چھ لاکھ احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے، تقریباً اتنی ہی اور مقطوع اور حکایات بھی یاد تھیں، راویوں کے نام اور جرح و تعدیل، ان کی وفات کے اوقات، مذاہب سب کو یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے زمانہ میں سب سے فوقيت لے گئے، اور اپنے ہم عصروں سے بڑھ گئے، جس وقت یہاں احادیث لکھانے کے لیے بیٹھتے، ان کے گھر پر زبردست بھیڑ لگ جاتی۔ احادیث کی سنداور متن جو کچھ لکھواتے عمدگی کے ساتھ صاف اور بالکل صحیح، اپنے استاد ابن عقدہ کی طرح یہ بھی شیعیت کی طرف منسوب ہوتے، یہاں لوگوں کے پاس باب البصرہ میں رہتے، ان کے بارے میں دارقطنی سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ احادیث میں خلط ملطک دریا کرتے، اور ابو بکر البرقانی نے کہا ہے کہ یہ غریب احادیث نقل کرنے والے تھے، ان کا مذہب تشیع میں مشہور ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ ان میں دینہ اری کم تھی اور شراب پیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم  
جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں آگ لگادینے کا حکم دیا، چنانچہ وہ جلا دی گئیں۔ ان کے ساتھ بہت سی وہ بھی جلائی گئیں جو ان کے پاس دوسروں کی تھیں، ان کا یہ عمل بہت برا ہوا۔ جب ان کا جنازہ نکالا گیا تو ایک شیعی عورت نوحہ کرنے والی جس کا نام سکینہ تھا ان پر نوحہ کرتی جا رہی تھی۔

## ۳۵۷ — واقعات

اس سال کا نیا چاند نظر آیا تو اس وقت خلافت المطیع اللہ کی اور سلطنت معز الدولہ بن بویہ الدیلمی کی تھی، اس سال بھی شیعوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق دسویں محرم کو حضرت حسین بن علیؑ کے نام کا تعزیز نکالا اور مرشیہ اور نوحہ وغیرہ کا بھی انتظام کیا جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

### معز الدولہ بن بویہ:

سال روان کے ماہ ربیع الاول کی تیرھویں تاریخ ابو الحسن احمد بن بویہ الدیلمی کا انتقال ہوا، جس نے راضیوں کا زور بڑھادیا تھا، اس کو معز الدولہ (حکومت کی بکری) کا خطاب اس لیے ملا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایسی بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے معدہ میں ذرہ برابر کوئی غذائیں بھہرتی تھی، جب اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا تو اس نے توبہ کا اظہار کیا اور اللہ عز وجل کی طرف متوجہ ہوا، ظلم سے حاصل کی ہوئی بہت سی چیزیں والپیں کر دیں، بہت سماں صدقہ کر دیا اور اپنے

ناموں کی بڑی تعداد آزاد کر دی۔ پھر انہا ولی عہد اپنے بیٹے عزیز اللہ ولہ کو بیاندا۔ اس وقت کچھ علاما، اس کے یا اس جمع ہوئے تو انسوں نے الہست و الجماعت کے عقیدے کے بارے میں اس سے لفظگوئی اور یہ بتلایا کہ حضرت علی عاصد نے اپنی میٹنگ کا شو

شیخ و حضرت تم بن الخطاب شیخ زادہ کی زوجیت میں دیا تھا یہ سن کر اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم میں سے یہ حق بات کہیں کہیں نہیں نہ تھیں، اس کے بعد وہ اہل ختنہ کے مقیدہ اور اس کی اتابائ کی طرف اوٹ آیا، زور اُن لفظوں جب نماز کا وقت آیا تو وہ عالم اسے چھوڑ کر نکلنے لگے، اس نے ان سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ یہیں پر کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے؟ وہ کہنے لگے میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اس نے پھر پوچھا ایسا کیوں؟ جواب دیا کہ تمہارا یہ گھر دوسرے سے زبردستی حاصل کیا ہوا ہے، اس جواب سے وہ مطمئن ہو گیا۔ درحقیقت یہ معز الدولہ بہت بردبار، شریف اور عقائد بھی تھا، اس کا ایک ہاتھ کثا ہوا تھا اسی نے سب سے پہلے اپنے سامنے محروم کا ایسا انتظام کیا تھا جو اس کی خبریں اس کے بھائی رکن الدولہ کو، بہت جلد شیراز میں پہنچا دیا کرتے تھے، ایسے کام کرنے والوں کی عزت اس کے نزدیک بہت زیادہ تھی، بنداد میں اس کے پاس دو، بہت ماہر مجرم تھے۔ ایک کا نام فضل اور دوسرے کا نام برغوش تھا۔ ایک سے الہست کے عوام کو تعصّب تھا، تو دوسرے سے شیعوں کے عوام کو ان دونوں کے لیے اس کے پاس عزت اور تجھواہیں کافی تھیں، جب یہ معز الدولہ مر گیا تو اسے باب المتن میں قریش کے مقبرہ میں دفن کیا گیا اور اس کا لڑکا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ متواری تین دنوں تک وہاں بارش ہوتی رہی، اس زمانہ میں اس کے جانشیں عز الدولہ نے اس وقت کے تمام بڑے حکام کے پاس کافی قم بھجوائی، تاکہ اس کی بیعت سے پچھلی ہونے سے پہلے وہ لوگ اس کی مخالفت پر اکٹھے نہ ہوں، یہ اس کی انتہائی ہوشیاری تھی، اس وقت یہ معز الدولہ کی عمر ترپن برس کی ہو گئی تھی، اور حکومت پر ایکس سال گیارہ مہینے دون قابض رہا۔ اس نے اپنی حکومت کے زمانہ میں یہ یاام اعلان کر دیا تھا، کہ مستحقین میراث سے بچا ہوا مالی ترکہ بیت المال میں جمع کرنے سے پہلے اس کے ذوی الارحام کو دیا جائے، اگر وہ موجود ہوں، جس رات کو اس کی وفات ہوئی اسی رات کسی نے غبی آواز میں یہ چند اشعار سنے:

لما بلغت ابا الحسين

مراد نفسك بالطلب

ترجمہ: جبکہ تم نے ابو الحسین کو پہنچا دی، چاہ کراپنے دل کی مراد۔

و امنست من حدیث الليالي

واحتجبت عن النوب

ترجمہ: اور تم محفوظ ہو گئے، حادثہ زمانہ سے اور تم فتح گئے مصیبتوں سے۔

مدد اليك يدي الردى

واخذت من بين المرتب

ترجمہ: اب تمہاری طرف مصیبت کا ہاتھ بڑھ گیا ہے، اور رتبہ والوں میں سے تم کپڑ لیے گئے ہو۔

جب اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عز الدولہ اس کا قائم مقام ہو گیا تو وہ لہو و لعب اور عورتوں سے عشق بازی میں لگ گیا، یہ دیکھ کر اس کے لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اور اس کے خلاف مختلف قسم کی باتیں لوگوں میں ہونے لگیں، اس وقت خراسان کے حاکم امیر منصور بن نوح السامانی کے دل میں بنی بویہ کی حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور ایک بڑی فوج

شمشیر کے دگر کے باتوں کی طرف، اور کنہ اپنے کی ختم کیں۔ اللہ ماریں ہو یہ کہوں تو اس نے اپنے میٹے عضد الدولہ اور پس بھیجیں کہ اس کے خلاف مدد ۲۰۰ میں کمکتا۔ خط پاتتے ہی ان دونوں نے جو فوج ان کی مدد کو روانہ کر دی۔ اس موقع پر رکن الدولہ اور امیر اعلیٰ کے درمیان برادر اس مقام پر ہوا دونوں ایک دوسرے پر تمدداً رہتے ہوئے بیٹھے تھے لئے وہ شمشیر یہ لہتا کہ اگر میں تم پر غائب آ گیا تو تمہارے ساتھ اپنے سلوک اور درگز رکا معالمہ کروں گا۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اسی کو غلبہ حاصل ہوا اور اللہ نے اس کو دشمن کے شر سے بچایا۔ صورت یہ ہوتی کہ یہ شمشیر ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا جس پر سوار ہو کر جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اچانک کسی طرح ایک جگل میں خنزیر اس کے سامنے آ گیا اور اس پر حملہ کر بیٹھا جس سے اس کا گھوڑا بدک گیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ جس کی چوٹ سے اس کے دونوں کانوں کے راستے سے بہت زیادہ خون بہ گیا بالآخر اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کی فوج میں بھگڑا مج گئی، ایسی حالت میں اس کے بیٹھے نے رکن الدولہ کے پاس آدمی بھیج کر امان چاہی تو اس نے اسے امان دیتے ہوئے کافی مال بھی دیا اور اس کے آدمی بھی اس کے حوالے کر دیئے، اس طرح اس سے پہلے احسان کرنے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا اور اس طرح اللہ نے اسے سامانیوں کے چکر میں پڑنے سے بچایا۔ یہ اس کی پچی نیت اور نیک سلوک کا نتیجہ ہوا۔ واللہ اعلم

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں جن کا انتقال ہوا ان کے نام یہ ہیں  
ابو الفرج الاصفہانی:

ایک مشہور کتاب، کتاب الاغانی کے مصنف، ان کا نام علی بن الحسین بن محمد بن احمد بن الهیثم بن عبد الرحمن بن مروان بن محمد بن مروان بن الحکم الاموی ہے، کتاب الاغانی اور کتاب ایام العرب کے مصنف ہیں، اس میں انہوں نے اپنے زمانہ کے سترہ سو واقعات ذکر کیے ہیں، یہ اچھے شاعر، ادیب اور مصنف تھے، انسانوں اور زمانوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن ان میں شیعیت تھی، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر اعتقاد نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو معاشرت کے لوازمات میں سے ہیں اور شراب نوشی کو ایک معمولی بات بتاتے ہیں، ان میں سے باقی خود اپنی طرف سے بیان کی ہیں، جو شخص اس کتاب الاغانی کا مطالعہ کرے گا، وہ یقین کرے گا کہ اس میں ہر قسم کی خرابی اور برائی بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن بطیں اور ان کے علاوہ دوسروں سے بھی حدیث کی روایت کی ہے اور اس سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ انہوں نے سالِ رواں کے ماہِ ذی الحجه میں وفات پائی، ولادت سن دو سو چوراہی بھری میں ہوئی تھی، جس میں ستری شاعر کی وفات ہوئی۔ ابن خلکان نے ان کی کئی تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں چند یہ ہیں الاغانی، المزارات اور ایام العرب۔ اسی سال ان کی وفات ہوئی۔

سیف الدولہ

یہ بہادر حاکموں اور بہت زیادہ داد دہش کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ البتہ اس میں بھی شیعیت کا ماہ و تھا، یہ ایک وقت میں دمشق کا بھی بادشاہ بن گیا تھا، اس کی خوش قسمتی سے ائمہ باشیں اسے بیک وقت میرزا آئی تھیں، اس کا خطیب بڑے فصاء اور بلغاۓ میں سے تھا، جو خطب النبایت کا مصنف بھی تھا۔ اور اس کا شاہ مرثیٰ مشہور شاہ مرثیٰ اور اس کا گویا ابونصر فارابی مشہور مطرب تھا، یہ سیف الدولہ فطری طور پر شریف، بخی او بہت زیادہ داد دہش کرنے والا تھا۔ اس کے ان اشعار میں سے جو اس نے اپنے بھائی ناصر الدولہ کی شان میں کہے تھے، جو کہ موصل کا حاکم تھا، چند یہ ہیں:

۱۔ رضیت لک العلیا و قد کدت اهلہا و قلت لهم بینی و بین اخی فرق

ترجمہ: میں آپ کے لیے بلند مقام پر پہنچنے پر راضی ہو گیا، آپ تو اس کے اہل بھی تھے اور آپ نے دوسروں سے کہا کہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان بہت فرق ہے۔

۲۔ وما کان لی عهنا نکول و انما تجاوت عن حقی فتم لک السبق

ترجمہ: اور مجھے آپ کے استحقاق بلندی سے مطلقاً انکار نہیں ہے، البتہ آپ نے میرے حق سے بھی وصول کر لیا اس طرح آپ کی زیادتی مکمل ہو گئی ہے۔

۳۔ اما کنت ترضی ان اکون مصلیا اذا کنت ارضی ان یکون لک السبق

ترجمہ: کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ میں نمازی رہوں جکہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آگے بڑھنا آپ ہی کے لیے ہو۔

اور یہ اشعار بھی اسی کے ہیں:

۴۔ قد جری فی دمعہ دمۃ قال لی کم انت تظلمہ

ترجمہ: اس نے اپنے آنسو میں اپنے خون کو ملا دیا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ تم کب تک اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے۔

۵۔ رد عنہ الطرف منك فقد جرحتہ منك اسہمة

ترجمہ: اس نے اس سے تمہاری نظر کو پھیر دیا ہے، تمہاری طرف سے اس کے پھینکنے ہوئے تیروں ہی نے اسے زخمی کر دیا ہے۔

۶۔ كيف تست طبع التجلد من خطرات الوهم تولمه

ترجمہ: تم صبر کے برداشت کرنے کی کس طرح طاقت پاتے ہو، وہم کے خطرات سے جس سے تم اس کو تکلیف دیتے ہو۔ اس کی موت کا سبب اس پر فالج کا حملہ بنا، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے پیشہ کا بند ہونا سبب بنا، حلب میں اس کی وفات ہوئی اور اس کا جنازہ میافارقین لا کر دفن کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر ترپن برس تھی۔ اس کی وفات کے بعد حلب کے ملک میں اس کا لڑکا سیف الدولہ ابو المعالی الشریف اس کا جانشین ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر اس کے باپ کا غلام

قرآن یہ تاب آکریا۔ خس لے اسے دب میا فا قریب کی طرف بھاول پڑا۔ لیکن بعد میں یہ بادشاہ اپنے امیر آگیا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ ابن خلکان نے سیف الدولہ کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں، خلفاء کے بعد کسی بادشاہ کے دربار میں اتنے شعراء جمع نہیں ہوتے تھے جتنے اس کے دربار میں اکٹھے ہو جاتے۔ اس نے بہت سے شعراء توہنے بڑے انعامات دیے تھے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ولادت تین سو تین اور ایک قول میں سن تین سو ایک تھری میں ہوئی اور تین سو تین سو تین سو تین بھری کے بعد حلب کا بادشاہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے یہ واسطہ اور اس کے قریبی علاقوں کا بادشاہ تھا، بعد میں جب حالات بدل گئے تو یہ پورے حلب کا بھی بادشاہ بن بیٹھا، جسے اس نے اشید کے حاکم احمد بن سعید الکلبی سے چھینا تھا، ایک دن اس نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو میرے اس مصرع پر مصرع لگادے، ویسے میں میں سے کسی سے بھی اس بات کی امید نہیں رکھتا ہوں، مصرع یہ ہے۔

”لک جسمی تعله فدمی لم تحله“

ترجمہ: تم کو یہ اختیار ہے کہ تم میرے جسم کو بیمار کر دیں لیکن تم میرے خون کو حلال نہیں کر سکتے۔

مگر یہ سنتے ہی اس کے بھائی ابو اس نے فوراً یہ مصرع لگایا:

”ان کرت مالکا الامر کله“

ترجمہ: جب کہ ساری چیزوں کے تم ہی مالک بن جاؤ۔

یہ سارے بادشاہ اتفاق سے راضی تھے۔ لیکن یہ بادشاہ اس کی بہت برقی تھی۔ اسی سال .....

کافور الاشید:

کی بھی وفات ہوئی، جو محمد بن طغی الاشیدی کا آزاد کردہ غلام تھا اسی کی وفات کے بعد اس کے معاملات کی دلیل بھاول اس کے غلام کو کرنا پڑی تھی، کیونکہ اس کا لڑکا بہت چھوٹا تھا، یہ کافور مصر اور دمشق کا بادشاہ بنا تھا، سیف الدولہ اور پچھلے دوسرے بھی اس کے سپہ سالار بنے تھے اس کی قبر پر یہ چند اشعار لکھے ہوئے تھے۔

انظر الی غیر الایام ما صنعت افتت قرونًا بها کانوا و مافنیت

ترجمہ: گزرے ہوئے دنوں پر غور کرو کہ اس نے کیا کیا اور کتنے لوگوں کو فنا کیا، اس نے ان نام لوگوں کو فنا کے گھاٹ پہنچا دیا جو اس وقت موجود تھے۔

دنباهم ضحکت ایام دولتهم حتی اذا فنیت ناحت لهم وبكت

ترجمہ: ان بادشاہوں کی حکومت جب تک قائم رہی اس وقت تک دنیا ان سے خوش رہی، لیکن جب حکومت ختم ہوئی تو ان پر نوحہ کیا اور ان پر رو دھوکر بیٹھ گئی۔

ابوالی القالی:

الاماں کے مصنف ہیں، نام ہے اسماعیل بن القاسم بن عبدون بن ہارون بن عیسیٰ بن محمد بن سلیمان، ابو علی القاضی، القالی،

المخدوم الہ موسیٰ ابن کے نام پر تھے اس لیے اسے یہ سلیمان عبد الملک بن مردان کے نام تھا، اور قابو فارمی طنز منسوب ہے نہ کی وجہ سے قابو کہا جاتا ہے کہ یہ دم کا اردن ہے۔ والحمد لله عالم والا دلت میا فارقین میں ہمیں جو عالمی جزیرہ، یار بدر کا ایک حصہ ہے۔ ابو یعنی الموصی وغیرہ سے حدیث سنی فتنہ وادی و لغت ابن درید ابوبکر ابباری اور نفطی وغیرہ سے حاصل کیا۔ کتاب الامانی تصنیف کی جو شہور ہے اس طرح ایک کتاب تاریخ میں حروف ابجد کے اعتبار سے لکھی ہے جو پانچ ہزار اور اقلیٰ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ فتنہ لغت وغیرہ کی بھی کتابیں تصنیف کیں، انہوں نے بغداد جا کر روایتیں سنیں، پھر وہاں سے قرطبه بن تین سوتیں بھری میں داخل ہوئے اور اسی کو اپنا وطن بنالیا۔ اور وہیں کتابیں تصنیف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سالی روایا میں اڑسٹھ برس کی عمر پا کر یہیں انتقال کیا۔ یہ باقی میں ابن خلکان نے کہی ہیں۔

اسی سال ابو علی محمد بن الیاس کی وفات ہوئی، جو کرمان اور اس کے علاقوں کا بادشاہ تھا، اس کے انتقال کے بعد عضد الدولہ بن رکن الدولہ نے کرمانی کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جو کہ محمد بن الیاس کی اولاد سے تھا اور یہ تین بھائی تھے، الحسن، الیاس اور سلیمان عضد الدولہ کے علاوہ املک، الکبیر اور شمسکیر نے بھی قبضہ کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

## واقعاتہ — ۳۵۷

اس سال بغداد وغیرہ دوسرے شہروں میں یہ خبر پھیلی تھی کہ ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کو محمد بن عبد اللہ کہا جاتا، اور اس کا لقب المهدی تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی مہدی موعود ہوں، وہ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا اور بری باتوں سے روکتا، شیعہ حضرات اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا تھا کہ یہ علوی ہے اور ہماری جماعت کا ہے۔ کافور اخیڈی کی وفات سے پہلے تک یہ شخص مصر میں اس کے پاس رہتا تھا، اور وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، اس کو اچھا جانے والوں میں سے ایک سبکتیگین حاجب بھی تھا، چونکہ وہ خود شیعی تھا اس لیے اسے علوی سمجھ لیا اور اسے خط لکھا کہ وہ بغداد آجائے تاکہ اس کے لیے شہروں کو فتح کر لے۔ چنانچہ یہ عراق کی طرف جانے کی نیت سے مصر سے نکلا، راستے میں سبکتیگین حاجب سے انبار کے قریب ملاقات ہو گئی، سبکتیگین نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو محمد بن املک اعلیٰ بالله العباسی ہے، جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص علوی نہیں ہے بلکہ عباسی ہے، فوراً اس کے بارے میں اس کی رائے بدلتی نتیجہ یہ ہوا کہ المهدی کے سارے ماننے والے اس سے پھر گئے، اور اس کے حالات بدلتے گئے، تب اسے کپڑ کر لوگ معز الدولہ کے پاس لے گئے اس شخص لاپتہ ہو گیا اور کسی طرح اس کی خبر معلوم نہ ہو سکی۔

اسی سال رومیوں کی ایک جماعت انطا کیہ کے شہروں میں پہنچی اور بہت سے ایسے لوگوں کو جو اس کے ہاتھ لگے، انہیں قتل کیا اور بارہ ہزار باشندوں کو گرفتار کر کے قیدی بنایا کر اپنے شہروں میں لے گئے، کسی نے ذرا بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا۔

اس سال بھی عامہ تک کوہ مطابقی عاصمہ کے، اور حشمت حسین نامہ کا مرثیہ اور مقبرہ کیا اور نذرِ خم کے دن خوب خوشیاں منائی گئیں۔

اس سال فخرین (کاتب) کے میتے میں ان میں ایک بھاری پیشی بس سے بہت سے لوگ مر گئے۔

اپنی طرح اس سال اونٹ سوار اکثر حاجی جنگ کے لیے جاتے۔ وے راستہ بھی میں پیاس کی زیارتی کی وجہ سے مر گئے۔ صرف تھوڑے سے حاجی کہ معمول تک زندہ پہنچ سکے اور ان پہنچ والوں میں سے بھی بہت سے جن کے بعد انتقال کر گئے۔

اس سال ابوالمعالی شریف بن سیف الدلوہ اور اس کے ماموں اور باپ کے پچازاد بھائی کے درمیان میدان میں زبردست لڑائی ہوئی۔ ابھن اشیر نے کہا ہے کہ کہنے والے نے یہ بات بہت صحیح کہی ہے کہ حکومت بانجھ اور اندر گھی ہوتی ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں انتقال کرنے والوں میں یہ لوگ بھی ہیں:

ابراہیم بن المتنی اللہ:

جسے خلافت سوپی گئی تھی مگر سن تین سو بیتھیں بھری میں خلافت سے سکدوش کر دیا گیا اور وہ اپنے ہی گھر میں بند ہو کر زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ اس سال سانچھ بر سر نہ پا کر اس کا انتقال ہو گیا، اور اپنے ہی گھر میں دفن کر دیا گیا۔

عمر بن جعفر بن عبد اللہ:

بن ابی السری ابو جعفر البصری الحافظ سن دوسوائی بھری میں ملا دت ہوئی، ابو الفضل بن الحباب وغیرہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی، ان کے اوپر ایک سو حدیثوں کے وضع کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی تو عمر بن جعفر ہی کی روایت صحیح نکلی۔

محمد بن احمد بن علی:

بن خلدا ابو عبد اللہ الجوہری الحنفی جو ابن الحرم کے نام سے مشہور ہوئے، ابن جریر الطبری کے شاگردوں میں سے تھے۔ کدیکی وغیرہ سے روایت کی ہے، ان کے ساتھ یہ عجیب بات پیش آئی کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، جب اسے ان کے پاس لایا گیا تو یہ بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے، یہ دیکھ کر اس عورت کی ماں ان کے پاس آئی اور ان کی دوات لے کر چینک دی، اور کہا یہ تو میری لڑکی کے لیے سوکنوں سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ ہے۔ ترانوے بر سر کی عمر پا کر اس سال ان کا انتقال ہوا۔ یہ کمزور روایتیں بھی بیان کیا کرتے تھے۔

کافور بن عبد اللہ الانشیدی:

جو سلطان محمد بن طغج کا غلام تھا، جسے صرف اٹھارہ دینار کے عوض کسی مصری سے خریدا تھا، پھر اسے پاس بلایا اور رتبہ بڑھایا



دمشق میں شریف ابو القاسم بن یعلی الماشی کا دور و دورہ تھا اور وہی سب کے لیڈر بھی تھے، زمانہ دراز تک عباسیوں سے اس جعفر کا مقابلہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ المعزیزی کا نام مدینہ کی مسجد کے خطبوں میں لیا جانے لگا اور اس الشریف نے القاسم اسی طرح الحسن بن طغی کو بھی ایک جماعت لے ساتھ گرفتار کر کے مصر نے گئے جو ہر القائد نے ان تمام لوگوں کو مزکرے پاس افریقہ میں بھیج دیا۔ اس طرح فاطمیوں کی حکومت ۲۶۰ھ بھری میں دمشق میں جزاً پڑ گئی؛ جس کی تفصیل غقریب آتے گی۔ یہاں اور اس کے آس پاس تمام علاقوں میں حی علی خیر العمل کی نداسو برس تک دی جاتی رہی اور تمام جامع مساجد و اور دوسری مساجد و مساجد و مساجد کے دروازوں پر شیخین (حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر الفاروق رض) کے ناموں کے ساتھ لعنۃ الشیخین لکھا رہنے لگا۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ نور الدین الشہید اور سلطان صلاحی الدین ایوبی نے ان ترکیوں اور کردیوں کی حکومت ختم کر دی، جس کا بیان غقریب آتا ہے۔

اسی سال رومی جب حمص میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے اکثر باشندے اس علاقہ کو چھوڑ کر کھیس دوسری جگہ چلے گئے ہیں، اس لیے ان علاقوں میں انہوں نے آگ لگادی اور باقی جتنے وہاں اور اس کے آس پاس انسان نہیں سب کو جو تقریباً ایک لاکھ تھے قیدی بنا کر بے گئے۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

اس سال ماه ذی الحجه میں عز الدولہ بن بویہ کی نعش کو اپنے گھر سے نکال کر مقابر قریش میں دفن کر دیا۔

## واقعات — ۳۵۹

اس سال بھی ماہ محرم میں حسب سابق رافضیوں نے بدعت کے نہ کیے چنانچہ بازار بند کروائے، اداروں میں چھٹیاں دلوائیں، عورتیں چہرے کھول کر ننگے پیر چل کر حضرت حسین رض پر نوحہ کرتی ہوئی چہرے پر طماقچے مارتی ہوئی لکھیں، اس صورت سے کہ بازاروں میں جگہ جگہ ثاب کے ایسے نکارے لٹکا دیئے گئے تھے، جن میں بھوے بھرے ہوئے تھے۔

اسی سال رومی انتظامیہ میں داخل ہوئے، اور وہاں کے تمام بوڑھے بوڑھیوں کو قتل کر دیا، اور لڑکوں اور بچوں کو جو تقریباً بیس ہزار تھے سب کو قیدی بنا لیا۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ساری آفتیں رومی بادشاہ نقوفر کی کوشش کا نتیجہ تھیں۔ لعنة الله علیہ۔ اور ان کی اصل خرابی رفضی بادشاہوں سے پیدا ہوئی، جنہوں نے ان علاقوں پر چڑھایا کر کے وہاں فتحے اور فساد برپا کر دیئے تھے، اللہ ان کا حشر برآ کرے۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ یہ رومی شہنشاہ سرکشی اور ظلم و زیادتی میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس خبیث نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی تھی جس کے پہلے شوہر سے دولت کے تھے اور وہ شوہر اس سے پہلے بادشاہ بھی تھا، اس رومی بادشاہ نے دولت میں یہ طے کر لیا کہ ان دونوں لڑکوں کو خصی بنا کر گرجا خانے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی بادشاہت میں حصہ داری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ لیکن جب ان دونوں کی ماں اس موجودہ بادشاہ کی بیوی نے اس کے چھپے ہوئے ارادہ کو بھانپ لیا تو

اس کی پیغمبری تو گئی اور اس کے خلاف دکام کو مقتول کر دیا جنہوں نے اسے اتھے ہوئے میں قتل کر دیا اور اس کے بعد انہیں تو ان لاماؤں میں سے ہر کو اپنا باہشاہ بنالیا۔

اس سال ماہ ربیع الاول میں ابو براہم بن سیار و اونے عبیدہ قضاۓ مزول نرے ابو محمد بن عمر و فود و بارہ انے سائب عبیدہ پر حمل کر دیا گیا۔ اہن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال دجلہ کا پانی بہت کم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ نہوں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔

اس سال الشریف ابو الحمد القیوب نے لوگوں کو حج کرایا۔

ماہ ذی الحجه میں ایک تارہ نوٹ کرایا گرا تھا کہ اس سے سارا علاقہ بالکل روشن ہو گیا، یہاں تک کہ سورج جیسی روشنی ہو گئی تھی، بعد میں اس سے ایک زبردست دھماکہ کی آواز پیدا ہوئی۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس سال محرم میں دمشق کے اندر معز فاطمی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تھا، جعفر بن فلاح کے حکم سے جسے جوہر قائد نے مصر پر قبضہ کر لینے کے بعد یہاں پھیجا تھا، پھر ابو محمد الحسن بن طغی نے رملہ میں اس سے مقابلہ کیا، بالآخر ابن فلاح اس پر غالب آ گیا، اور اسے مقید کر کے جوہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اسے معز کے پاس افریقہ میں بھیج دیا۔

اس سال ناصر الدولہ بن حمدان اور ان کے بیٹے ابو تغلب کے درمیان نفرت بڑھ گئی، اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ جب معز الدولہ بن بویہ کا انتقال ہو گیا تو ابو تغلب اور اس کے گھر والوں میں سے اس کے مانے والوں نے بغداد پر حملہ کر لینے کا ارادہ کیا، تو ان کے باپ ناصر الدولہ نے ان سے کہا کہ معز الدولہ نے اپنے بیٹے عز الدولہ کے لیے بے حساب دولت چھوڑی، اس لیے تم لوگ فی الحال اس پر حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ دولت اس کے قبضہ سے ختم ہو جائے۔ ابھی کچھ اور انتظار کرو یہاں تک کہ وہ اپنی ساری دولت گنوادے کیونکہ وہ ویسے بھی ناجربہ کا دو رضوی خرچ ہے، جب اس کی دولت ختم ہو جائے گی اس وقت تم اس پر حملہ کر کے کامیاب ہو جاؤ، مگر باپ کی اس نصیحت سے ان لوگوں کو بالخصوص ابو تغلب کو سخت نگواری ہوئی اور اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس طرح اس کے دوسرا بھائیوں سے آپس میں ان بن ہوئی، اور یہ کئی جماعتوں میں بہت گئے، اور ان میں بہت بھی کمزوری آ گئی۔ اس لیے ابو تغلب نے عز الدولہ سے موصل کے علاقہ کے لیے سالانہ دس لاکھ دینار دینے پر رضا مندی اور رضانت حاصل کر لی۔ اس طرح ابو تغلب کو موصل کی مستقل حکومت مل گئی۔ البتہ وہ لوگ ہمیشہ آپس میں برس پیکار رہے۔ اسی سال شاہزادم نے طرابلس میں داخل ہو کر وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر دیا اور اکثر علاقہ کو جلا دیا۔ طرابلس کے شاہ کو وہاں کے تمام باشندوں نے اس کے ظلم سے عاجز ہو کر متفقہ طور پر وہاں سے نکال دیا تھا، پھر وہ لوگ نے اسے اپنا قیدی بنالیا اور اس کے سارے مال اور ساری جانیداد کو اپنے قبضہ میں لے لیا، جس کی مالیت بے شمار تھی، پھر وہ لوگ ساحلی علاقوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دیہاتوں کو چھوڑ کر اٹھاڑہ شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ان کے ہاتھوں پر بہت سے لوگوں نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا۔ فاتح اللہ وانا الیہ راجعون۔

پھر حفص کی طرف وہ لوگ گئے اور وہاں بھی علاقوں کو آگ لگائی، ان کے مال لوٹے اور ان لوگوں کو قیدی بنالیا۔ شاہ

روزگار و مہار، دو مہینہ کا رہا کہ ان ماقابل سے بعضاً مال لے کر آتھا تھا لیکن اس کو جنگ کا تھی کمی یا ناکامی تھی پہلی بار گول کے ہائی پیش میں اس کی ثبات بیٹھ گئی تھی جو باش سے رخصت ہوتے وقت اپنے ساتھ تمام قیدیوں کو لے کر یا جس میں تقریباً آئیں لاکھ بچوں پہنچ اور پیاس تھیں، اسینے علاقوں میں اسے اونٹے نی وجہ یہ ہوئی کہ شکر میں بماری پھیل کر تھی اور ان لوگوں کو اپنے بال پھیل سے ملنے کی خواہ بخش بہت بڑھ گئی تھی اس کے بعد لوگوں کی ایک بیانع جزیروں کی طرف بھیجی اُتے جنہوں نے وہاں پہنچ کر لوٹ ماری اور لوگوں کو قیدی بنایا کہ اپنے ساتھ لے یتے آئے سیف الدولہ کے غلام قرعویہ نے حلب پر قبضہ ہوا اس سے اپنے استاد شریف کے لئے کو نکال باہر کیا تو باش سے نکل کر اس کے آس پاس گیا، وہ علاقہ بھی اسی کے قبضہ میں تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے بھی اسے داخل نہیں ہونے دیا۔ لہذا بودھ میافارقین چلا گیا، جہاں اس کی ماں سعید بن حمدان کی بیٹی رہتی تھیں وہاں پہنچ دن رہ کر اس کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر ان پر قبضہ کر لیا۔ پھر دوسراں بعد حلب چلا گیا جیسا کہ عنقریب بیان کیا جائے گا۔

اس سال رومیوں نے جب شام میں بر بادیاں کر لیں تو قرعویہ نے حلب سے اس کی خوشامدیں کیں اور رشوتوں میں ان کے پاس بہت سے مال اور تختے بیسیجے پھر وہ لوگ انطا کیہے چلے گئے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں کے بے شمار آدمیوں کو تختہ کیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا کر لے گئے اسی کے بعد جب یہ حلب میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ابو المعالی شریف قرعویہ کو گھرے ہوئے تھے مگر ان کے پہنچتے ہی وہ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے تو ان رومیوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور بہت آسانی سے اس پر پورا قبضہ کر لیا، البتہ وہ لوگ اپنے قلعہ میں بھاگ گئے اس لیے ان کو پورا فقصان نہ پہنچا سکے۔ بالآخر قرعویہ نے ان لوگوں سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ سالانہ ہدیہ اور تخفہ مفردہ ان کے پاس بھیج دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر پھوڑ کر وہاں سے لوٹ آئے۔

اس سال جبکہ معز فاطمی افریقہ میں تھا، اس کے مقابلہ میں ایک شخص، دردار ہوا جس کا نام ابو خزر تھا، اسے جب خبر ملی تو وہ خود اپنے شکر سمیت اس کے مقابلہ میں آیا اور اسے نکال باہر کیا اور خود لوٹ آیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس سے امان چاہی تو اس نے درخواست قبول کر لی اور پہلی غلطیوں سے درگز رکیا، اس وقت جو ہر کی طرف سے ایک شخص فتح مصر کی خوشخبری لے کر اس کے پاس آیا اور وہاں جانے کی دعوت دی یہ سن کر اسے بہت خوشی ہوئی اور شعراء نے اس موقع پر اشعار میں اسکی مدح خوانی کی، ان شعراء میں محمد بن حانی نے بھی ایک قصیدہ لہما، جس کا پہلا شعر یہ ہے:

يقول بنى العباس قد فتحت مصر فقل لبني العباس قد قضى الامر

ترجمہ: بنو العباس یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مصر فتح کر لیا گیا ہے، تم ان بنو العباس کو کہہ دو کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اس سال بغداد کے باڈشاہ عز الدولہ نے عمران بن شاہین الصیاد کے محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اس لیے مصالحت کر کے وہ بغداد لوٹ آیا۔

اسی سال قرعویہ نے اس کا نام خطبہ میں لیا اور دوسرے تمام معاملات میں بھی معز فاطمی کا نام لیا جانے لگا۔ یہی حال حصہ اور دمشق کا بھی ہوا، مکہ معظمہ میں المطیع اللہ اور قرامظہ کا نام لیا جاتا، لیکن مدینہ منورہ میں معز الفاطمی کا اور اس کے باہر کے علاقوں

میں ابوہمام و مولیٰ نے ابطن اللہ کا نام لیا۔  
 ابن الاشری نے بیان کیا ہے کہ اسی سال تفتور کی موت ہو گئی تھی، اس کے بعد روم کی بادشاہت اس بادشاہ کے لارک کے کوٹ  
 گئی، جو اس سے پہلے بادشاہ تھا، اور اسے مستقیم کہا جاتا تھا وہ مسلمانوں کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا باپ طرسوس کا تھا اور وہ  
 دیندار مسلمانوں میں سے تھا، جو ابن الفقاہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کا یہ بڑا لز کا نصرانی ہو گیا تھا اور نصاریٰ میں اسے  
 مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اس کا مقام بہت اونچا ہو گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شش تھا، اسی لیے اس نے  
 مسلمانوں سے بہت سے شہر اور علاقوں طاقت سے چھین لیے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: طرسوس، الادنہ، عین ذربہ اور مصیصہ  
 وغیرہ۔ اور اتنے مسلمانوں کو قتل بھی کیا تھا، جن کی تعداد خدا کے سوا کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکی۔ اسی طرح اتنی زیادہ تعداد کو  
 قید بھی کیا جسے صرف خدا جانتا ہے۔ جن میں اکثر اپنا مذہب بدل کر نصرانی ہو گئے تھے، یہی وہ شخص ہے جس نے قصیدہ ارمدیہ المطیع  
 اللہ کو بھیجا تھا، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### محمد بن الحسین:

بن اسحاق بن ابراہیم بن عبد اللہ ابو علی الصواف۔ انہوں نے عبد اللہ بن احمد بن خبل اور ان جیسے لوگوں سے روایت کی  
 اور ان سے بھی بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے، جن میں دارقطنی بھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ میری آنکھوں نے ان جیسا مصنف  
 اور دیندار آدمی نہیں دیکھا ہے، تو اسی برس کی عمر پا کرو فات پائی۔ رحمہ اللہ

### محارب بن محمد بن محارب:

ابوالعلاء الفقيہ الشافعی، جو محارب بن دثار کی اولاد میں سے تھے، ثقة اور عالم تھے، انہوں نے جعفر فریابی وغیرہ سے روایت  
 کی ہے۔

### ابو الحسین احمد بن محمد:

یہ ابن القطان سے مشہور ہیں، یہ شافعی المذہب لوگوں کے امام تھے، ابن سرتج سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر شیخ ابو اسحاق  
 الشیرازی سے علم حاصل کیا۔ ابوالقاسم الداران کی وفات کے بعد اپنے مسلک کے سب سے بڑے رئیس ہوئے، اصول الفقہ  
 اور اس کے فروع کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے، یہ بغداد سے شیراز کی طرف گئے تھے، وہیں لوگوں کو سبق دیا، اور بہت  
 سی کتابیں تصنیف کی۔ سالی روان کے ماہ جماودی الاولی میں وفات پائی۔



## واقعات — ۳۶۰

اس سال بھی حسب دستور سابق عاشوراء محرم کے موقع پر رافضیوں نے بدعت کے کام کیئے ماہ ذی القعدہ میں قرامطیوں نے دمشق پر قبضہ کیا اور وہاں کے نائب حاکم جعفر بن فلاح کو قتل کر دیا۔ اس وقت قرامطیوں کا رئیس اور ان کا امیر حسین بن احمد بن بہرام تھا۔ عز الدولہ نے اس کے پاس بغداد سے تھیار اور فوج بھیج کر اس کی مدد کی، پھر یہ لوگ رملہ گئے۔ اور اس پر قبضہ کیا، جتنے مغاربہ وہاں تھے، سب کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ قرامطی ان لوگوں کو محاصرہ میں رکھنے کے لیے اپنے کچھ آدمیوں کو وہاں چھوڑ کر بہت سے بدوں، اشیدیہ اور کافوریہ کو ساتھ لے کر قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں عین شمس میں پہنچ کر وہاں کے باشندوں اور جو ہرقائد کے لشکر سے زبردست قتال کیا، آخر میں ان قرامطیوں کو ہی کامیابی ہوئی اور مغاربہ کو زبردست حصار میں لے لیا، پھر ایک دن موقع پا کر ان مغاربہ نے ان قرامطیوں کے مینہ پر حملہ کر کے ان کو زبردست شکست دی، تو وہ قرامطی شام کی طرف لوٹ آئے، اور یہاں آ کر باقی مغاربہ کے حصار کی کوشش بہت بڑھادی، تو جو ہرقائد نے اپنے لوگوں کی امداد کے لیے غلہ اور راشن کی پندرہ کشتیاں بھیج دیں، لیکن ان قرامطیوں نے سوائے دو کشتیوں کے بقیہ تمام پر قبضہ کر لیا اور ان دو کشتیوں کو افرنجیوں نے لے لیا۔ حالات میں کچھ اور بھی انوار چڑھا دیئے۔ اس موقع پر قرامطیوں کے امیر حسین بن احمد بن بہرام نے اشعار کہے۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ زعمت رجال الغرب ائی هبتها      فدمی اذن ما بینهم مطلول

تہذیب: مغاربہ نے گمان کیا کہ میں ان سے ڈر گیا ہوں، تو ایسی صورت میں میراخون ان کے درمیان چھڑکا ہوا ہے۔

۲۔ يا مصر ان لم اسوق ارضيك من دم      يروى ثراك فلا سقاني النيل

تہذیب: اے مصر! اگر میں تیری زمین کو اپنے استنے خون سے سیراب نہ کروں، جو تیری مٹی کو سیراب کر دے تو نیل بھی مجھے اپنا پانی نہ پلاتے۔

اس سال ابو تغلب بن حمدان نے بختیار عز الدولہ کی ایسی لڑکی سے نکاح کیا جس کی عمر صرف تیس برس کی تھی اور اس کا امیر ایک لاکھ دینار کھا تھا، یہ نکاح سال روایاں کے ماہ صفر میں ہوا تھا۔

اس سال مؤید الدولہ بن رکن الدولہ نے الصاحب ابو القاسم بن عباد کو اپنا وزیر بنایا تھا، جس نے اس کے سارے حالات درست کر دیئے اور اس کی حکومت کا انتظام بہت بہتر کر دیا۔

اس سال دمشق اور شام کے سارے علاقوں میں اذان کے دوران حی علی خیر العمل کا جملہ بڑھادیا گیا۔ این عساکرنے جعفر بن فلاح کے حالات میں جو کہ دمشق کا نائب حاکم تھا، اور یہی شخص فاطمیوں کی طرف سے سب سے پہلے وہاں کا امیر بنایا

کیا تھا ان بیان کیا ہے کہ مجھ سے ابو محمد الاغانی نے بیان دیا ہے کہ ابو جہر احمد بن محمد بن شرائیتے بیان بیان کیا ہے کہ ان گھنیم بن عاصم اور جعفر بن عاصم کے پانچویں ماہ صفر بمعراج کے لئے ان مشتقتیں جامیں مسجد اور اس کے علاوہ شہر کی دوسری اداں کا ہوں اور تمام ہم بھروسے ہیں تینیں اللدراج کے بعد جی علی حیرا عمل کے لئے کافی اتنا فرمادی رہیا کیا۔ اس کام کے لیے ان لوگوں و چشم بن الحداد نے حکم دیا اور اسی کو جس اس کی خلافت کی بہت زد ہوئی ان کے لیے اس کی فرمائبرداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مولانا مادی الآخری کی آنھوںیں تاریخ جمع کے دن موزنوں کو حکم دیا گیا کہ اداں کے وقت اور اقامت میں اللہ اکبر صرف دو مرتبہ کہے جائیں اور اقامت میں بھی جی علی خیر اعلیٰ کا اضافہ کیا کریں۔ لوگوں کو اس عکم سے اگرچہ بہت تکلیف ہوئی مگر اللہ کے اس فیصلہ پر انہوں نے صبر کیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### سلیمان بن احمد بن ایوب:

ابوالقاسم الطبری، الحافظ الکبیر، جو تینوں مجمع یعنی المجمع الکبیر، المجمع الاوسط اور المجمع الصغیر کے مصنف ہیں، ان ہی کی کتابیں بھی ہیں، کتاب السنۃ، کتاب منداشامین، ان کے علاوہ اور بھی کئی مفید تصنیفات ہیں، ان کی عمر سو برس کی ہوئی تھی، اصحابان میں ان کی وفات ہوئی، اور اس شہر کے دروازے پر جمدة الصحابي فی القراء کے پاس ہی مدفون ہیں، یہ باقیں ابو الفرق ابن الجوزی نے کہی ہیں۔ ابن غلکان نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ہزار شیوخ نے روابط سنی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی وفات سال روایت میں ماہ ذی القعده کی اٹھائی سویں تاریخ بختہ کے دن ہوئی ہے۔ اور یہ بات جھن کی گئی ہے کہ ماہ شوال میں وفات ہوئی۔  
ولادت سن و دو سو ساٹھ بھری میں ہوئی، وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ایک سو سال کی ہو گئی تھی۔

### الرفا الشاعر، احمد بن السری ابو الحسن:

الکندی الرفا الشاعر الموصلي۔ ابن اثیر نے ان کی تاریخ وفات سال روایت میں وفات پائی۔ لیکن ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سن تین سو باسٹھ میں وفات پائی ہے جیسا کہ عقریب آئے گا۔

### محمد بن جعفر:

بن محمد بن الہیثم بن عمران بن یزید ابو بکر بن المنذر، ان کی اصل انباری ہے۔ احمد بن خلیل بن البرجلانی، محمد بن العوام الرياحی، جعفر بن محمد الصانع اور ابو اسماعیل الترمذی سے حدیثیں سنیں، الجوزی نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے روایت کرنے والوں میں سب سے آخری یہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اصول عمدہ اور ان کا نمایع بالکل صحیح تھا، ان سے ابو عمرو البصري نے احادیث کا انتخاب کیا ہے، عاشوراء کے دن ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اس وقت ان کی عمر نوے برس سے زائد تھی۔

### محمد بن الحسن بن عبد اللہ:

ابو بکر الآخری انہوں نے جعفر فریابی، ابو شعیب الجرجانی اور ابو مسلم الحنفی کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں سے حدیثیں سنیں،

یہ شیخ ہے انہیں دیندار تھے سب سے دینی کتابوں کے صحن بھی تھے۔ ان میں سے ایک اداہ جو من اداہ بھی یہ بھی ہے۔ یہ ان تین سویں سے پہلے بغداد آئے۔ بھروسے میں سے کلد کرد چلے گئے اور وہیں مستقل اتمیں۔ سال تک زندگی گزار کرہ فاتح پائی۔ رحمۃ اللہ علیہ  
**محمد بن عثیر بن محمد:**

ابو عمر والزہد بہت سی روایتیں سنی ہیں اور دودھ رنگ بہت سے علاقوں کا سفر کیا ہے، جہاں بڑے بڑے حفاظت سے روایتیں سنیں، فقر کو پسند کرتے، تھوڑی آمدی سے زندگی بسر کرتے، فقیروں کی قبروں پر دودھ کا چھڑ کاؤ کرتے، روٹی اور گاجر یا بیاز سے پیٹ بھرتے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، پچانوے برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ جمادی الآخرہ میں وفات پائی۔

### محمد بن داود ابو بکر الصوفی:

جو الدقی کے نام سے مشہور تھے، ان کے آباء دینور کے تھے مگر انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی، پھر اسے چھوڑ کر دمشق کو اپنا مسکن بنایا، ابن مجاهد سے پڑھنا سیکھا، اور محمد بن الجفر الخراطی سے حدیث سنی، ابن الجلاء اور الدقاۃ کے شاگرد تھے، ایک سو سال سے زائد عمر پا کر سالی رواں میں وفات پائی۔

### محمد بن الفراتی:

بن زردیہ المرزوqi الطبیب، بغداد میں جا کر اپنے والد حکم نام سے منکر حدیثیں بیان کرتے، جنید اور ابن المرزوق سے بھی روایتیں بیان کرتے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ان کے اندر خوش بھی اور ذہانت بھری ہوئی تھی، لیکن لوگ ان پر وضع حدیث کا الزام رکھتے تھے۔

### احمد بن افاقت:

ان کو ابن ابی الفتح الحاتقانی اور ابو العباس الحجاج بھی کہا جاتا، دمشق کی جامع مسجد کے امام تھے، ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ بہت عابد اور صالح تھے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس ان کی ملاقات کو آئے تو ان سے کسی درد کی وجہ سے آہ آہ کرنے کی آواز سنی، اس پر لوگوں نے ان کے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے نام میں ہے، جس سے عالم بالا میں راحت حاصل کی جائے گی، یہ سن کر ان لوگوں کی نظر وہ میں ان کی عظمت بڑھ گئی اور انہیں یہ تحقیق ملی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اسماۓ الہی تو توفیقی اور سماعی ہیں، غیر نقل صحیح کے قبل قول نہیں ہوتے، یہی مسلک صحیح ہے۔



## — ۳۶۵ —

اس سال بھی رافضیوں نے حسب سابق عاشوراء محرم میں تعزیہ داری وغیرہ بدعتی کام کیئے ماہ محرم میں رومنیوں نے جزیرہ اور دیار بکر پر حملہ کر کے بہت سے رہاؤں کو قتل کیا اور شہروں میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل کرتے قیدی بناتے اور غنیمت کے مال جمع کرتے ہوئے نصیبیں تک پہنچ گئے اور وہاں بھی یہ سب کام کیئے اور ابو تغلب بن حمدان جو وہاں کا منتظم تھا، اس نے ان لوگوں کی نہ کچھ مدد کی اور نہ دشمنوں کا کچھ مقابلہ کیا اور بدنوقوت تھی، اس پریشانی میں جزیرہ دا لے بنداد چلے گئے اور چاہا کہ وہاں براؤ راست خلیفہ المطیع للہ اور اس کے مدعاو کے دربار میں پہنچ کر ان سے مدد چاہیں، اور ان کے پاس کچھ تجھ و پکار کریں۔ اس موقع پر بغداد والوں نے ان کی کچھ غنیواری کی اور ان کے ساتھ خلیفہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی، اس وقت بختیار بن معز الدولہ شکار کھیلنے میں مصروف تھا، اسے آدمیوں کی معرفت خبر پہنچائی گئی، اس وقت حاجب سینکڑیں کے ذریعہ ان کو منشر کر دیا، یہ کیکہ کرعوام کی بڑی جماعت نے خود اپنا سامان تیار کیا اور تغلب کو لکھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے خوراک اور رہائش کا انتظام کر کے رکھئے یہ سن کر اس نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب یہ عوام جہاد کی نیت سے نکلنے لگے اتفاق سے ان میں شیعی اور سنی کا مذہبی اختلاف زبردست بھڑک گیا، ان سنیوں نے رواض کے گھروں میں کرخ کے علاقہ میں آگ لگا دی۔ اور شیرے بنداد کے علاقہ میں لوگوں کے مال لوٹنے لگے، اور نقیب ابو الحسن الموسی اور روزیر ابو الفضل الشیرازی کے درمیان اختلاف بڑھ گیا، اس وقت بختیار بن معز الدولہ نے خلیفہ سے مل مدد کی درخواست کی تاکہ اس غزوہ میں اس سے کچھ تقویت حاصل ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میرے پاس خراج کا مال آتا تو میں اس سے مسلمانوں کی مدد کرتا، لیکن تم مسلمانوں سے مال وصول کر کے بالکل بے موقع خرچ کرتے ہو۔ اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ اس سے میں اس وقت تم لوگوں کی مدد کرسکوں، اس طرح بارہا ان میں خط و کتابت کا تبادلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ بختیار نے خلیفہ کے خلاف سخت جملے کئے شروع کیے، پھر دھمکیاں بھی دینے لگا، اس لیے خلیفہ نے مناسب سمجھا کہ ان کے لیے کچھ رقم کا انتظام کر دیا جائے اس لیے اس نے اپنے بدن کے کچھ استعمالی کپڑے اور کچھ گھر کے سامان اور گھر کی کچھ چیزوں کو توڑ کر ان کو فروخت کیا تو اسے لاکھ درہم حاصل ہوئے اور بختیار کو دے دیئے، بختیار نے یہ ساری رقم اپنی ضرورتوں میں خرچ کر دی اور ان غازیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، ان باتوں سے عوام کو خلیفہ سے ہمدردی ہوئی، اور ان بویہ راضی کی اس حرکت سے ان کی بہت رہش ہوئی کہ خلیفہ سے رقم بھی وصول کر لی اور جہاد کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے اللہ اس کو مسلمانوں کی طرف سے سزا دے۔

اس سال ابو تغلب بن حمدان نے قلعہ مار دین پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے وہاں کی ساری آمدنی موصل کی طرف پہنچی جانے لگی۔

اسی سال ام منصور ہری فوجِ السماں فی خراسان کے حاکم اور رکنِ اللہ مولیٰ بنی یهود را ہبیت کی بیٹی نے عصہِ اللہ مار دیا۔  
بات پر مصالحت کر لی کہ یہ دونوں اسے سالانہ زینت کر دیا کہو، یہ اگر یہی گئے اور رکنِ اللہ مولیٰ بنی یهود سے شامی مریٰ اس طرح  
اس کے پاس بے حد و ساب بدریاً اور تغافل نہیں ہے۔

اس سال معز الفاطمی شوال کے مینے میں اپنے اہل و عیالِ نوافیش اور اشکروں کے شہرِ منصورہ سے بھل کر  
مصری علاقوں کی طرف جانے کے لیے نکلا، اس سے پہلے ہی اس کے غلام جو ہرنے وہاں اس کے لیے مکمل انتظام کر لیا تھا، خاص  
کرو قلعے بھی بنو لیے تھے، وہاں سے لکنے سے پہلے معز الدولہ نے مغربی شہروں اس کے آس پاس کے علاقوں اور صقلیہ اور  
اس کے تمام علاقوں پر مختلف لوگوں کو اپنا قائم مقام بنادیا تھا، اور اپنے ساتھ اپنا مخصوص شاعر محمد بن ہانی الاندلسی کو بھی ساتھ لیا  
تھا، لیکن راستہ ہی میں اس کی وفات ہو گئی، معز کا قاہرہ کی طرف کا سفر سال آئندہ کے ماہ رمضان میں ہوا، جس کی تفصیل  
عنقریب آئے گی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال ان مشہور لوگوں نے وفات پائی:

### سعید بن ابی سعید الجنابی:

ابوالقاسم القرطی الْجَبَرِی، ان کے بعد ان کے کاموں کی ذمہ داری ان کے بھائی ابو یعقوب یوسف نے سنبھالی اور ابو  
سعید کے نسب سے اس کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔

### عثمان بن عمر بن خفیف:

ابو عمر المقری جو الدران کے نام سے مشہور ہیں، ابو بکر بن ابی داؤد سے روایتِ حدیث کی اور ان سے ابن زرقیہ نے  
روایت کی ہے، فن قراءت کے بڑے ماہروں میں سے تھے، اسی طرح فن فقہ، سمجھ بوجہ، دینداری اور اچھی سیرت کے مالک تھے،  
ابداں میں شمار کیے جاتے تھے، اسی سال ماہ رمضان میں جمع کے دن ان کا انتقال ہوا۔

### علی بن اسحاق بن خلف:

ابو الحسن القطن الشاعر جو المراہی کے نام سے مشہور ہیں۔

ان کے چند اشعار یہ ہیں:

۱۔ قسم فهن عاشقین اصحاباً مصطفیٰ حین، جمیعاً بعد فراقِ فوجعاً منه بین

ترجمہ: اللہو! کہ یہ دو عاشق ہیں، ایک ساتھ دونوں نے صبح کی، دونوں جدا ہیں کے بعد ملے ہیں، اس جدائی سے دونوں  
گھبرائے ہیں۔

۲۔ سم سادہ فی سرویر میں سب سو نہ امیں بھما روح و نکش و نست فی بد نیں  
بہر چہہ: پھر دونوں خوشی کی طرف اونٹے ہیں زوک انوں سے اُن کے ساتھ دونوں میں روح سے لیکن وہ ایک روح دو قلب تیز۔  
امد بن سہل۔

بن شداد ابو بکر الحنفی انہوں نے ابو خلیفہ و عفرا الفریابی اور ابن الوفارس اور ابن حجر یہ وغیرہم سے روایتیں سنیں ہیں اور ان سے دارقطنی، ابن زرقیہ اور ابو نعیم نے روایت کی ہے، لیکن البرقانی اور ابن الجوزی وغیرہم نے ان کو ضعیف کہا ہے۔

## واقعات — ۳۲۲

اس سال بھی عاشورہ ماہ محرم میں حسب دستور سابق مرثیہ تعزیۃ ثات اور کمبیل وغیرہ کا بازاروں میں لٹکانا اور بازاروں کا بند کرنا، یہ سارے کام ہوئے۔

اس سال فقیہ ابو بکر رازی حنفی، ابو الحسن علی بن عیسیٰ الرمانی اور ابن الدقاد الحنبلي، سب نے متفقہ طور پر عز الدولہ بختیار بن بویہ سے ملاقات کے بعد اسے رومیوں سے بھاگ کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک بھاری لشکر ان رومیوں سے قاتل کے لیے بھیجا اور اللہ نے ان لوگوں کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح عظیم دی۔ ان کے بے حساب آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سروں کو بغداد پہنچ دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں کے دلوں میں کچھ نہیں کیا۔

اسی سال رومی اپنے بادشاہ کی معیت میں آمد کے حصار کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت وہاں ابو الجیجاء بن حمدان کا غلام ہزر مرد کی نگرانی تھی اس لیے اس نے ابو تغلب کو خط لکھ کر اس کی مدد چاہی، چنانچہ اس نے اپنے بھائی ابو القاسم هبة اللہ ناصراً الدولہ بن حمدان کو اس کی مدد کے لیے بھیجا، دونوں نے متفقہ طور پر ماہ رمضان کے دنوں میں مقابلہ کیا، ایسی تگ جگہ میں جہاں گھوڑوں کو بھی لے جانے کا موقع تھا، بہر صورت ان رومیوں سے زبردست لڑائی ہوئی، تو رومیوں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا لیکن وہ بھاگ نہ سکے، اور لڑائی نے بھی بہت شدت اختیار کر لی۔ اسی طرح الد مستق شاہِ روم قید کر لیا گیا اور قید خانہ میں اسے ڈال دیا گیا، وہ وہیں بیمار پڑ کر سال آئندہ اس کا انتقال ہو گیا، اس موقع پر ابو تغلب نے بہت سے عکیسوں کو اس کے علاج کے سلسلہ میں آنکھا بھی کیا، مگر ان سے بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا، اس سال بغداد کے علاقہ میں کرخ کو آگ لگادی گئی، جس کی وجہ یہ ہوتی کہ کسی شخص نے کسی عام انسان کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اس بات پر عوام اور کچھ ترکیوں میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی، جس سے ڈر کر وہ شخص ایک گھر میں گھس گیا، مگر لوگوں نے اسے گھیر کر وہاں سے نکالا اور قتل کیا، پھر جلا بھی دیا۔ اس واقعہ سے وزیر ابو الفضل شیرازی جسے سینیوں سے انتہائی نفرت تھی، اور ان سے اسے سخت تعصب تھا، اس نے اپنے حاجب کو کرخ والوں کی طرف بھیج کر ان کے گھروں میں آگ لگوادی، اس آگ سے بہت سے مکانات اور مال وغیرہ جل کر خاک ہو گئے، جن میں تین سو دکانیں، تین تیس مسجدیں، سترہ ہزار انسان جل گئے، اس وقت بختیار نے اسے عبده وزارت سے معزول کر کے اس کی جگہ پر محمد بن بقیہ کو بٹھا دیا، اس طرزِ عمل سے لوگوں کو اس پر سخت تعجب ہوا کہ یہ شخص لوگوں کی نظر وہ میں انتہائی حیرت تھا، اس کی کوئی عزت نہ تھی، اس کا باپ ایک

: بہمات ”کوتا“ کا کوشکار تھا اور عز الدولہ کے خاص موافق تھا، اسی کے لیے کھانا اکر، یا کرنا، اپنے کوہ بھے پر مغل سے مطرود مال اس کے بالٹھ پوچھنے کو لیے رہتا تھا۔ ایسے شخص نہ مارست کی برسی پر بھا، یا کیا تھا ان تمام باتوں کے باوجود یہ شخص اپنے ماقبلہ میں دونوں لئے برا ظالم تھا اور اس کے زمانہ میں بغداد میں بد معاشوں فی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور معاشرات میں فسادات زیادہ ہونے لگے تھے۔

اسی سال عز الدولہ اور اس کے حاجب سنتین کے درمیان اختلاف بہت بڑھ گیا تھا، مگر بعد میں ان دونوں کے درمیان فریب کے ساتھ مصالحت بھی ہو گئی تھی۔

اسی سال معز فاطمی مصری علاقوں میں گیا، اس کے ساتھ اس کے آبائی خاندان کے رشتہ دار بھی تھے چنانچہ وہ ماو شعبان میں اسکندریہ پہنچا، وہاں مصر کے سر بر آور دہلوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اس نے وہاں فی البدیہہ ایک بہت ہی فتح و بلع خطبہ دیا، جس میں ان کی فضیلت اور شرافت کا ذکر کیا، حالانکہ ان باتوں میں وہ جھوٹ بھی بولا چنانچہ اس نے یہ کہا کہ ہماری اور ہماری حکومت کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے عوام کی فریاد رسی کی ہے، مصر کے علاقے کے قاضی نے جو اس کے ایک بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بیان کیا ہے کہ اس معز نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے مجھ سے بڑھ کر کسی خلیفہ کو بہتر پایا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، پھر کہا کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کی قبر کی زیارت کی ہے، میں نے کہا: ہاں، پھر سوال کیا اور ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہم) کی قبروں کی بھی زیارت کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس سوال پر میں تحریر ہو گیا کہ کباجواب دوں۔ اتفاقاً اس کے بڑے بیٹے پر میری نظر پڑ گئی جو بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان دونوں کی طرف توجہ کرنے کا مجھے خیال نہ رہا۔ جیسا کہ اس مجلس میں آپ کی موجودگی کی وجہ سے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے جو ولی عہد بھی ہیں ان کو میں سلام کرنا بھول گیا۔ یہ کہتے ہی میں انداز کر اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، پھر اپنی جگہ لوٹ آیا، اتنے میں مجلس برخاست ہو گئی، پھر وہ اسکندریہ سے مصر گیا اور وہاں رمضان کی پانچویں تاریخ کو داخل ہو گیا اور دونوں شاہی قلعوں میں جا کر رہا۔

کہا جاتا ہے کہ بھی وہ پہلا شخص ہے جو اپنے شاہی محل میں اللہ کے لیے بجہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوا، اور یہ کارنامہ بھی اسی کی حکومت کا پہلا کارنامہ ہے جیسا کہ کافور الانشیدی کی بیوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک یہودی کے پاس ایک ایسی قیامت کے طور پر کھلی جو سونے کے تار سے بنی آدم تھی اور اس پر موتی ملکے ہوئے تھے، مگر میرے مطالبہ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو میں نے معز سے اس کی شکایت کی، اس نے اسے بلا کر دریافت کیا تو اس نے اس کے سامنے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس وقت اس معز نے حکم دیا کہ اس کے گھر کی ساری زمین کھو دکر دیکھا جائے کہ اس نے گھر میں کہاں پر کیا کیا چیزیں چھپا کر کھی ہیں، چنانچہ کھونے کے بعد زمین سے ایک گھر انکلاس میں اس نے وہی قیا چھپا کر رکھ دی تھی۔ معز نے فوراً وہ جوں کا توں قبا اس عورت کے حوالہ کر دیا۔ اور مزید کچھ اور بھی دیا۔ اس معز نے قبا اس عورت کو دینے میں کسی طرح کی پس و پیش نہیں کی، تو عورت نے بھی اسے لینے سے انکار کرتے ہوئے اسے قبول کرنے کی پیش کش کی گئی معز نے اس کے لینے سے صاف انکار کر کے قبا

حورت کوہ پہنچ آ رہی۔ تمام لوگوں نے اس کی یہ انتہتہ بھرتی کی تھی کہ اس سب خوش ہے گئے۔ اپنے اس لیے ہوا کچھ سدیٹ شریف میں بے کر، سالِ اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس، زین کا ایک فاجر شخص کے ہاتھ میں بھی مضمون نہ مسلکتا ہے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ ہیں:

### السری بن احمد بن ابی السری:

ابو الحسن الکندی، الموصلی، الشاعر، سیف الدولہ، بن محمد ان وغیرہ بادشاہوں اور حکام کے لیے اس نے بہت سے مدحیہ کلام کہے ہیں، یہ بغداد آ کر اسی سال انتقال کر گیا، اور دوسرے قول سن چوالیں، پینتالیں اور چھیالیں کے بھی ہیں، اس کے اور محمد بن سعید کے درمیان بہت دشمنی تھی بلکہ اس پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اس نے دوسرے کے اشعار چڑائے ہیں، یہ بہترین گانے والا بھی تھا۔ کشاجم الشاعر کے دیوان کے طرز پر شعر کہتا اور گاتا تھا، اور کبھی کبھی خالد بیان کے اشعار بھی اس میں ملا دیتا تھا، تاکہ اس کی خنامت اور بھی بڑھ جائے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ اس السری الرفا الشاعر کا ایک بڑا اور عمدہ دیوان ہے اور اس کے یہ اشعار نقل کیے ہیں:

۱۔ يَسْقُى النَّدِي بِرَفِيقٍ وَجِهٍ مَسْفِرٍ فَإِذَا التَّقَى الْجَمْعَانِ عَادَ صَفِيقًا

ترجمہ: وہ مجلس کا استقبال کرتا ہے خوشحال اور خوبصورت چہروہ کے ساتھ لیکن ان سے ملاقات ہوتے ہی وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔

۲۔ رَحِبَ الْمَنَازِلُ مَا أَقَامَ فَانْ سَرِي فِي جَحْفَلٍ تَرَكَ الْقَضَاءَ مَضِيقًا

ترجمہ: جب تک وہ موجود رہتا ہے محلیں وسیع رہتی ہیں مگر وہ جب سفر کرتا ہے ایک ایک بڑے لشکر کو لے کر تو وہاں کی فضا ناگ و تاریک ہو جاتی ہے۔

### محمد بن حانی:

الاندلسی، الشاعر، المعاشر الفاطمی القیر و ان کے علاقہ سے مصر کی طرف آتے ہوئے اسے بھی ساتھ لایا تھا۔ لیکن راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے ماہر جب میں دریا کے کنارے مقتول پایا گیا۔ یہ بہترین نظم کہتا تھا۔ البتہ بہت سے علماء اسے مخلوق کی تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے اس پر کافر ہونے کا حکم لگایا ہے ان میں سے ایک شعر یہ ہے جو اس نے معززی مرح کرتے ہوئے کہا ہے:

۱۔ مَا شَيْتَ لَا مَا شَاءَتِ الْاَقْدَارُ فَاحْكِمْ فَانْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ترجمہ: تم نے جو چاہا وہی ہوا، قدرت نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، اس لیے تم جو چاہو فیصلہ کر لو کہ تم ہی تنہا اور زبردست

(۱) ونطالمزار احمد تحت رکابہ جبریل

ترجمہ: بسا وفات ان فی رہب کے تحت میں نے جبریل سے جویز اپنی فی بے

اویز لیے ابھن الا شیر نے کہا ہے کہ میں نے ان اشجار کو ان کے اذعا، میں اور ان کے، یو ان میں نہیں پلیا ہے۔

۲. حل بزرگادہ حل المسبیح بھا و حل ادم و نوح

ترجمہ: اس کا مرتبہ بہت بڑھ گیا جس طرح مسیح (علیہ السلام) کا مرتبہ بڑھ گیا ہے اور جس طرح آدم (علیہ السلام) اور نوح (علیہ السلام) کا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔

۳. حل بھا اللہ دو المعالی فکل شی سواہ ریح

ترجمہ: اس سے اللہ عز و جل کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے مساواتام چیزیں ہو ایں۔

البتہ کچھ اس کے تصصین نے اس کے کلاموں میں تاویل کر کے عذر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں اگر یہ کلام واقعۃ اسی کا ہے تو اس کلام کی توجیہ اور عذرخواہی قبل قول نہیں ہے۔ نہ آخرت کی زندگی میں اور نہ اس دنیاوی زندگی میں۔ اسی سال اس کا انتقال ہوا۔

ابراہیم بن محمد:

بن شجاعون بن عبد اللہ المزکی حافظوں میں سے کم ہیں، حدیث اور الہمدیث کی خدمت میں بہت زیادہ دولت خرچ کی ہے، اپنی روایت کردہ احادیث لوگوں کو سنائی ہیں، نیشاپور میں ان کی خاص مجلس حدیث منعقد کی جاتی، اس میں احادیث لکھوائی جاتیں، مشرق سے مغرب تک دور دور سفر کر کے بڑے بڑے مدینے سے حدیثیں سنی ہیں۔ ان کے مشائخ میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم بھی ہیں، ان کی حدیث کی مجلس میں بڑے بڑے حدیثیں شریک ہوائیں، جن میں ابوالعباس الاصم اور ان کے ہم مرتبہ حدیثیں بھی ہیں، سرسطہ بر س کی عمر میں وفات پائی ہے۔

سعید بن القاسم بن خالد:

ابو عمر والبردی، حفاظ میں سے ہیں ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

محمد بن الحسن بن کوثر:

بن علی ابوحرالبر بھاری، ابراہیم الحرمی، تمام الباغنڈی الکدی وغیرہم سے روایت حدیث کی ہے اور دارقطنی نے ان سے کچھ انتخاب کیا ہے اور کہا ہے کہ جتنی حدیثیں میں نے ان سے انتخاب کی ہیں، ان پر ہی اکتفا کرو، کیونکہ انہوں نے ان کے بارے میں عیوب ظاہر کیے ہیں، کیونکہ یہ روایتوں میں خلط مسلط کر دیا کرتے تھے، اور غفلت سے بھی کام لیتے، بعضوں نے تو ان پر کذب کا بھی الزام لگایا ہے۔



## — واقعات —

اس سال بھی حرب معمول سابق عاشوراء محرم میں روانچ نے من مانی حرکتیں کیں اور بدعت اور حرام کا مول کا ارتکاب کیا۔ اس سال بغداد میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان فتنہ برپا ہوا۔ دونوں ہی فریق نے کم عقلی بلکہ انتہائی جہالت کا مظاہرہ کیا جو ہوش و حواس سے بہت دور تھا۔ اس طور پر کہ سنیوں نے ایک سورت کوسواری پر سوار کیا اور اس کا نام عائشہ رکھا، اور ایک مرد کا نام طلحہ اور دوسرے کا نام زیر رکھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم علی کے ان مانے والوں سے قاتل کریں گے، اس مہمل کام کے موقع پر دونوں فریق میں زبردست قتال ہوا اور بے شمار انسان قتل کئے گئے، فسادیوں نے اس موقع پر نہر میں زبردست فتنے برپا کئے، لوگوں کے مال لوئے، بعد میں کچھ لوگ پکڑے گئے جنہیں قتل کیا گیا، اور رسولی دیا گیا، اس طرح فتنہ دب گیا۔

اسی سال بختیار بن معز الدولہ نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ اور اپنی بیٹی ابن ابی تغلب بن حمدان کے نکاح میں دے دی۔

اسی سال دیلمیوں اور ترکیوں کے رہیان بصرہ میں فتنہ برپا ہو گیا، اور دیلمی ترکیوں پر بھاری ہو گئے، کیونکہ خود بادشاہ ان ہی لوگوں میں تھا، اس لیے ان کے بہت سے آذیزیں کوقل کر دیا۔ اور ان کے سرداروں کو قید کر کے ان کا بہت سامال و متعال لوٹ لیا۔ اس وقت عز الدولہ نے اپنے گھر میں ایک خط لکھا کہ عنقریب میں تم کو یہ لکھوں گا کہ میں آ رہا ہوں، جب یہ خط تم کوں جائے، اس وقت تم لوگ گھر میں نوحہ وزاری کرنا اور غم کی مجلس منعقد کرنا اس موقع پر جب سبکتین قعزیت کے لیے گھر آئے، فوراً اسے کپڑہ کر بند کر دیا، کیونکہ وہ ترکیوں کا سرکن اور ان کا سردار ہے۔ اس کے بعد جب گھر میں عز الدولہ کا خط آ گیا تو گھروں والوں نے مشورہ کے مطابق نوحہ اور آ وزاری کرنا شروع کر دیا اور مرثیہ کی مجلس منعقد کی مگر یہ سبکتین بہت ہوشیار تھا، حالات کو جانپ گیا کہ یہ سب مکاری ہے، اس لیے وہ قعزیت کے لیے اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ اب اس کے اور عز الدولہ کے درمیان دشمنی بہت بڑھ گئی، اور وہ فوراً اپنی جماعت لے کر ترکیوں کے پاس پہنچ گیا اور دونوں تک عز الدولہ کے گھر کو ٹھیرے میں لیے رہا، پھر تمام لوگوں کو وہاں سے نکال کر باہر کیا اور گھر میں جو کچھ بھی تھا، سب لوٹ لیا اور ان لوگوں کو دجلہ اور واسط کے علاقوں میں بھیج دیا۔ اور یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ خلیفہ مطیع کو بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دے گا، لیکن خلیفہ نے کچھ خوارش سے معاملہ کو مٹھندا کیا اور ان لوگوں نے اسے معاف کر دیا اور خلیفہ کو اسی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، اس طرح سبکتین اور ترکیوں کی طاقت بغداد میں بہت بڑھ گئی، اور ترکیوں نے دیلمیوں کے گھروں کو لوٹ لیا اور عام مجتمع میں سبکتین کو خلعت پہنایا گیا، کیونکہ یہ لوگ اس کے ساتھ دیلمیوں کے مخالف تھے، اس وقت سنیوں کی شیعوں کے مقابلہ میں طاقت بڑھ گئی اور کرخ کو آگ لگادی گئی، کیونکہ یہ لوگ یہ راضیوں کا دوسرا گڑھ تھا، اور ترکیوں کے ہاتھوں سنیوں کا غلبہ ہو گیا، اب مطیع نے اپنی خلافت سے دستبرداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنادیا جیسا کہ ان شاء اللہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

## طائع کی خلافت اور المطیع کی دستبرداری:

اُن الاٹھیر نے ذہر لیا ہے کہ تمیر تھویں ذئی القعدہ نواز اور ابن الجوزی سے لہا ہے کہ یہ دن منگل کا تھا، اور ذی القعدہ کی انہیوں تاریخ تھی، المطیع نے اپنے عہد سے مستہدا رہی مل کر ہوتا۔ اس پر مرغ شفیع کا حملہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زبان بھاری، ہو گئی تھی، اس لیے سبکنگین نے اس کو مشورہ دیا کہ خود دستبردار ہو، اور اپنے بعد اپنے بیٹے طالع کو ولی عہد بنادے، چنانچہ اس نے اس مشورہ کو قبول کر لیا۔ اور حاجب سبکنگین کے ہاتھوں دارالخلافہ میں طالع کے لیے بیعت منعقد ہو گئی اور ان کے والد المطیع نے انہیں برس خلافت کے گزار کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنا قائم مقام اپنے بیٹے کو بنادیا، اس طالع کا نام ابو بکر عبد الکریم بن المطیع الی القاسم تھا، اس کے ماسواں سے پہلے کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں گزر ا تھا جس کا نام عبد الکریم ہو، اور ایسا بھی کوئی نہیں گزر ا تھا کہ اس کی خلافت کے وقت اس کا باپ بھی زندہ موجود ہو۔ اسی طرح ایسا بھی کوئی نہیں گزر اسوانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ اس کی لکیت ابو بکر ہو اور بنو العباس میں اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی معزز بھی نہیں گزرا، کیونکہ خلیفہ بنتے وقت اس کی عمر اڑتا یہیں برس کی تھی، اس کی ماں ام ولد تھی اور اس کا نام غیث تھا، جو اس کی خلافت کے وقت زندہ فوج رہی تھی، بیعت کا معاملہ ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس بیعت کے ساتھ آیا کہ اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سبکنگین اور شکر تھا، اس نے اس کے دوسروے دن سبکنگین کو شاہی خلعت پہنایا اور اس کا لقب ناصر الدولہ رکھا اور اسے امیر کی ذمہ داری سونپی۔ عید الاضحی کے دن طالع اس طریقہ ظاہر ہوا کہ اس کے بدن پر سیاہ کپڑے تھے، نماز عید کے بعد اس نے لوگوں کے سامنے ایک عمدہ اور منحصر خطبہ دیا۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب المختتم میں ذکر کیا ہے کہ مطیع اللہ کا نام دستبرداری کے بعد الشیخ الفاضل رکھ دیا گیا تھا۔

### معزز فاطمی اور حسین کے درمیان لڑائی:

جب معزز فاطمی نے مصری علاقوں میں اپنا قبضہ جمالیا اور اس میں قاہرہ اور دشائی محل بھی بنالیے اور اس کے ملک کی بنیاد پوری طرح مضبوط ہو گئی تو حسین بن احمد القرمطی اپنے ماننے والوں کی بہت بڑی جماعت لے کر سب ایک ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے آئے۔ المعزز فاطمی کو جب اس کی خبر ملی تو یہ بہت زیادہ گھبرا گیا، اور فوراً خوشامد میں ایک خط لکھا کہ تمہارے باپ دادوں کے خطوط ہمیشہ ہی ہمارے باپ دادوں کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اب تمہارا خط ہمارے پاس آیا، ساتھ ہی اس خط میں اس کی ذاتی اور آپا کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا، اس خط کے جواب میں اس نے خط لکھا کہ تمہارا وہ خط ملا جس کی بڑائی بہت ہے لیکن اس کا حاصل بہت کم ہے اور ہم اس خط کے ساتھ ساتھ آرہے ہیں۔ والسلام

اس کے ساتھ ہی یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور پہنچتے ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، اس قدر فساد برپا کر دیا کہ معزز حیرت میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کی فوج میں ان لوگوں سے مقابلہ کی ہمت بہت کم ہو گئی، اس لیے اس نے مکاری اور دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے، امیر عرب حسن بن الجراح کو خاموشی کے ساتھ خط لکھا، جس میں اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ

متقابلہ کے وقت سے کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لئے تو ایک لاکھ یارا سے، یعنے جائیں گے، اس نے جواب دیا کہ تم نے جو پچھو دعہ کیا ہے وہ بہت جلد ہمارے پاس بھیج دو اور جن کو تم لے کر آنا چاہتے ہو آ جاؤ، مقابلہ کے وقت میں اپنے آدمیوں کے ساتھ خلخت قبول کرنوں کا اُس وقت اُن قرموطی کی کوئی قوت نہ رہے کی، تم جس طرف چاہو گے تقدیر کرو گے جب اس امر نے اپنے وعدے کے مطابق ایک لاکھ یار تھیلوں میں رکھ کر اس کے پاس بھیج دیئے، لیکن ایسے جو خاص اسی مقصد کے لیے ہوا ہے گئے تھے، کہ ان میں اکثر پیش کے ڈھلو اکران کے اوپر سے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تھا، ان درہمتوں کو تھیلوں کے بالکل نیچے ڈال کر اوپر سے تھوڑے خالص سونے کے بھی دینار رکھوادیئے گے تھے، ان درہمتوں کے بھجوانے کے ساتھ ہی ساتھ پیچھے سے خود بھی فوجیوں کو لے کر اس کی طرف روانہ ہو گیا، فریقین میں لڑائی ہوتے ہی حسان نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت شکست تسلیم کر لی، اس وجہ سے قرموطی بھی کمزور پڑ گیا اور اس پر غالب آ گیا اور اسے پوری طرح کچل دیا۔ اب یہ وہاں سے بھاگ کر کسی طرح پچھو دو رگیا، تو معز نے اس کے پیچھے قائد ابو محمد بن ابراہیم کے دس ہزار فوجیوں کے ساتھ روانہ کر دیا، تاکہ اس کی بخش کنی کر دے اور ان کا نام و نشان مٹا دے۔

### معز فاطمی دمشق کو قرموطیوں سے چھینتا ہے:

قرموطی کے خلخت کھاجانے کے بعد معز نے ایک جماعت بھیجی اور ظالم بن موہوب عقلی کو اس کا سردار بنایا، یہ لوگ دمشق آئے اور زبردست حصار کے بعد دمشق کو ان کے قبضہ میں اپنے قبضہ میں لے لیا، اور اس کے متولی ابوالجیاء قرموطی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، ساتھ ہی ایک ایسے شخص کو بھی گرفتار کیا جس کا نام ابوکبر اور نابس کا باشندہ تھا، اور فاطمیوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس دس تیر ہوں تو ان میں سے صرف ایک تیر رو میوں کی سمت اور بقیہ تو تیر فاطمیوں کی طرف پھیکوں گا، اسے کپڑ کر معز کے سامنے اس کی کھال اور ہیڑی گئی پھر اس میں بھس بھر دیا گیا، اس کے بعد اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، ادھر ابو محمود القائد قرموطیوں کی لڑائی سے فارغ ہو کر دمشق کی طرف متوجہ ہوا تو ظالم بن موہوب بھی اس طرف آ گیا اور اس نے اس شہر کے باہر ہی استقبال کیا، اعزاز داکرام کیا اور دمشق کے کنارے اسے تھہرایا تو اس کے لوگوں نے غوطہ میں فساد پھیلایا اور ان کے کاشتکاروں میں لوٹ مار مچا دی، ان کے راستے بند کر دیئے، اس وقت لوٹ مار کی زیادتی کی وجہ سے شہر کے علاقوں میں منتقل ہو گئے، اور وہاں کے زخمیوں کی بڑی تعداد بھی یہاں لائی گئی، اس بنا پر وہاں زبردست چیخ و پکار ہوئی، بازار بند کر دیئے گئے، اور سارے عوام لڑائی کے لیے نکل پڑے اور مغارہ پر حملہ آور ہو گئے، اس طرح فریقین کے بے شمار آدمی قتل کیے گئے، اور بارہا عوام کو شکست ہوئی، ان مغارہ نے باب الفرادیس کے ایک علاقے میں آگ لگادی، جس کی وجہ سے بہت سامال جل کر خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ مکانات نیست و نابود ہو گئے، اور سن چونٹھ تک یہ لڑائی چلتی رہی، پھر ظالم بن موہوب کے معزول ہونے اور جیس بن حصامہ ابو محمد کے بھانجے کے حاکم بنادیئے جانے (اللہ اس کا براہش کرے) کے بعد دو بارہ شہر میں آگ لگائی گئی اور اور نالے نالیاں سب کاٹ کر کے شہر میں آب رسانی کے تمام ذرائع درہم برہم کر دیئے۔ یہاں تک کہ زمینوں اور

راستوں میں غرباً اور فقر، بھجو کے اور پیاس سے مر نے لگئی یہ سارے مظالم مسلسل تاہم رہے یہاں تک کہ معز الفاظی کی جانب سے الطواثی ریان خادم کو جب حاکم مقرر کر دیا گیا اس وقت سکون ہوا اور لوگوں کو اطمینان ہوا۔ والحمد لله

## فصل

بغداد میں ترکیوں کا پورا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے بختیار بن معز الدولہ کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر ہوئی۔ اس وقت وہ اہواز میں مقیم تھا اور بغداد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اپنے چچار کن الدولہ کے پاس خط لکھ کر اس سے مدد چاہی تو اس نے اپنے وزیر ابو الفتح بن الحمید کی ماحصلتی میں اس کے پاس لشکر روانہ کر دیا، اسی طرح اپنے چچازاد بھائی عضد الدولہ بن رکن الدولہ کو بھی خط لکھا لیکن اس نے جواب میں تاخیر کی، اس طرح عمران بن شاہین کے پاس آدمی بھیجا۔ لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ابو تغلب بن حمدان کے پاس بھی اپنا آدمی مدد چاہنے کے لیے بھیجا، تو اس نے بظاہر اس کی مدد کا وعدہ کیا لیکن درحقیقت اس طرح یہ خود بغداد پر قبضہ جانا چاہتا تھا، ان کے مقابلہ کے لیے بغداد سے ترکی بہت بڑا لشکر لے کر نکلے ان کے ساتھ خلیفہ مطیع بھی تھے، واسطہ تک پہنچتے ہی مطیع کا انتقال ہو گیا، اس کے چند دنوں کے بعد سلطنتیں کا بھی انتقال ہو گیا، ان دونوں کو بغداد پہنچا دیا گیا۔ اب ان ترکوں نے ایک ٹھنڈا فٹکیں کی امارت پر اتفاق کر لیا، اور سب متفق ہو کر بختیار کے مقابلہ کو نکلے اس وقت وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، اور اس کا چچازاد بھائی عضد الدولہ اس پر غالب آگیا اور اس نے اس سے عراق کی حکومت چھین لی اب اس کے آدمیوں میں انتشار پیدا ہو گیا، سب اور ارادہ صرف ہے گئے۔

اس وقت حریمین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں خطبوں کے دوران معز فاطمی کا نام لیا جانے لگا، اس سال بنو ہلال اور عرب کی ایک ایک جماعت نے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کر دیا۔ اور ہبھت سے حاجیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور جو حجاج اس سے نکل رہے ان کو اس سال حج ادا کرنے سے روک دیا۔ اس سال ثابت بن ننان بن ثابت بن قرہ کی تاریخ ختم ہو گئی، جبکہ ان کی ابتداء سن دوسو پچانوے سے ہوئی تھی، اور یہی مقتدر کی حکومت کی ابتداء ہے۔

اس سال واسطہ میں زبردست زلزلہ آیا۔ اور الشریف ابو الحسن الموسوی نے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال سوائے ان لوگوں کے جو عراق کے راستوں پر تھے، اور کسی کو حج ادا کرنے کی توفیق نہ ہو سکی۔ بہت سے مدینہ منورہ کے راستوں میں پکڑ لیے گئے تھے اس لیے ان کا حج حکماً کمل ہو گیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

العباس بن الحسین:

ابوالفضل السراجی جو عز الدولہ بختیار بن معز الدولہ بن بویہ کے وزیر تھے، سنیوں کے مددگار اور بہت زیادہ حاصل تھے،

اپنے مندوں کے بالکل بر عکس اسی لیے انہیں عز الدولہ نے معزول کر دیا تھا اور ان کی جگہ پر محمد بن یقیہ البابا کو وزیر بنادیا تھا جیسا کہ پہلے آور پہلا تب پھر انہیں قید سانہ میں زال دیا گیا۔ ماہ رمضان الآخر میں قتل بھی آر ریا گیا۔ اس وقت ان کی عمر اُس سے بڑی تھی ان کے اندر ظلم کرنے کا بھی مادہ تھا۔ واللہ عالم۔

### ابو بکر عبد الحزیر بن جعفر:

یہ حنبلی مذہب کے فقیہ تھے، غلام کے نام سے مشہور تھے بڑے مشہور نامور حنبلیوں میں سے ایک تھے انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف کیں اور لوگوں سے مناظرے بھی کیے تھے ابوالقاسم البغوي اور ان جیسے محدثین سے حدیثیں سنیں اسی برس سے کچھ زیادہ عمر پا کر انتقال کیا، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ان کی ایک تصنیف مقتضی ہے، سوا جراء کی، اور ایک الشافی ہے اسی اجزاء کی، اسی طرح زاد السفر، الخلاف مع الشافی، کتاب المقولین، مختصر الرنۃ، ان کے علاوه اور بھی کتابیں تفسیر اور اصول تفسیر میں ہیں۔

### علی بن محمد:

ابو الفتح لبستی، مشہور شاعر، ان کا بہت عمدہ دیوان ہے، ان کو فن مطابقت اور مجازت میں بہت زیادہ مہارت اور نئی باتوں کی ایجاد میں کمال تھا، ابن الجوزی نے اپنی کتاب منتظم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑا قطعہ نقل کیا ہے جو حروف تہجی کی ترتیب سے مرتب ہے۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

إذا قنعت بمسير من القبور بقيت في الناس حرًا غير ممقوت

ترجمہ: جبکہ تم اپنے فراخی کے زمانہ میں کم خوار کی پر قناعت بولو گے تو تم لوگوں میں معزز ہو کر کسی قسم کی ملامت سے بغیر زندگی گزار لو گے۔

ياقوت يومى اذا ما در خلفك لي فلسست اسى على درٌ و ياقوت

ترجمہ: اے میرے آج کے دن کی خوار اک جبکہ مجھے تیرا کسی طرح پتہ معلوم ہو جائے تو میں آئندہ کے لیے موتی اور یاقوت کا بھی غم نہیں کھاؤ گا۔

يا ايها السائل عن مذهبى ليقتدى فيه بمنها جى

ترجمہ: اے وہ شخص جو میرے مذہب کے متعلق جانے والا ہے تاکہ اس معاملہ میں میرے طریقہ کی اقتداء کر جائے۔

منها جى الحق و قمع الهوى فهل منها جى من هاجى

ترجمہ: میرا طریقہ حق گوئی اور خواہشات کو ثتم کرنا ہے تو کیا میرے طریقہ کی کوئی برائی کرنے والا ہے؟

اور یہ بھی اسی کا قول ہے:

أَفِدْ طبعك المكدوود بالجدر أَحَدْ

ترجمہ: تم اپنی مغلوب طبیعت کو کوشش کے ساتھ راحت پر فدا کر دو گے اور تھوڑا اندھا بھی اسے بار بار پاؤ۔

ولكن اذا اعطيت ذلك فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح

**ترجمہ:** اب جب تم کو ایسا کرنے کی توفیق ہو جائے تو اتنا مزاح کرو کہ کھانے کے اندر نمک ڈالنے کے برابر ہو۔  
ابوفراس بن محمد ان الشاخر:

ان کا دیوان مشہور ہے ان کے بھائی سیف الدولہ نے ان کو حرباں اور فتح پر نائب رئیس مقبرہ کیا تھا، ایک مرتبہ رہائیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں مقید لریا تھا، بعد میں سیف الدولہ نے انہیں مجھے لایا تھا، ان کی وفات اسی سال ۷۰ تا ۷۱ میں بریس کی عمر میں ہوئی، ان کے اشعار بہت اور ان کے معانی عمدہ ہوتے تھے، ان کے بھائی سیف الدولہ نے ان کا مرثیہ کہتے ہوئے یہ چند اشعار بھی کہے ہیں:

المرء رهن مصائب لا تفosti حتى يوارى جسمه في رمسه

**ترجمہ:** انسان اتنے مصائب میں گروئی رہتا ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس کے جسم کو اس کی قبر میں چھپا دیا جائے۔

فمؤجل يلقى الردى في اهله و معجل يلقى الاذى في نفسه

**ترجمہ:** پس مستقبل کے مصائب یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان میں مصیبت لا کر چھوڑ دیتا ہے اور فی الفور مصائب یہ ہیں کہ وہ خود کو تکالیف میں ڈالے رہتا ہے۔

ابوفراس نے جس وقت یہ دونوں اشعار کہے تھا اُنکا ایک عربی بھی وہاں پر موجود تھا اس سے اس نے یہ فرمائش کی کہ تم بھی اس مفہوم کے اشعار کہہ دو تو اس نے یہ دو اشعار فی البدیہ کہے۔

من يتمنى العمر فليتَحْدِثْ صبراً على فقد أحبابه

**ترجمہ:** جو شخص اپنے لیے درازی عمر کی تمنا کرتا ہو اُسے اپنے احباب کے گم وجانے پر صبر کا عادی ہو جانا چاہیے۔

ومن يعمر يلْقَ في نفسه ما يتمناه لاعدائِه

**ترجمہ:** اور جس کسی کی عمر بڑھائی جائے گی یقیناً اپنے سامنے ایسی چیزوں کو پائے گا، جنہیں وہ اپنے دشمنوں کے لیے تمنا کرتا تھا۔ این السائی نے ان دونوں اشعار کو سیف الدولہ کے اشعار میں ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بھائی ابوفراس کے بارے میں کہے ہیں۔ لیکن ابن الجوزی نے ان اشعار کو خود ابوفراس ہی کے بتائے ہیں۔ اور یہ کہ اس اعرابی نے مذکورہ دونوں اشعار ان کے بعد ہی کہے ہیں۔

ابوفراس کے اشعار یہ ہیں:

۱۔ سيفقدنى في قومي اذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

**ترجمہ:** عنقریب میری قوم مجھے اس وقت تلاش کرے گی جبکہ ان کی اپنی کوشش پوری ہو جائے گی، کہ اندر ہیری گھپ رات ہی میں چاند تلاش کیا جاتا ہے۔

۲۔ وَلَوْ سَدَغَيْرِيْ مَا سَدَدْتُ اَكْتَفَيْوَا

ترجمہ: اور میرے علاوہ لوئی دوسرا شخص ویسی ہی درست بات آہمہ دے چکی میں نے بھی بتے تو وہ لوگ اسی طرح بس نہیں  
گے جس طرح کسی گدھ نے اپنی ساتھی چیل کے ساتھ کیا ہے۔  
اور قصیدہ میں سے ایک کا قول یہ بھی ہے:

الى اللّهِ اشکو اَنَّا مُنَازِلٍ تَحْكُمْ فِي اَسَادِهِنَّ كَلَابٌ

ترجمہ: میں اللہ ہی کے پاس اپنے رتبوں کے بارے میں شکایت کرتا ہوں، کہ شریروں کے درمیان کتوں نے حکومت حاصل کر رکھی ہے۔

فَلِيلِكَ تَحْلُوا وَ الْحِيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلِيلِكَ تَرْضِي وَالْأَنَامُ غَضَابٌ

ترجمہ: کاش کہ تم شیریں رہو اور زندگی خونگوار ہو اور کاش کہ تم راضی رہو اور ساری خلوق غصہ سے ہو۔

وَلِيلِتُ الذِّي يَبْنِي وَ يَبْنِكَ عَامِيرٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنِ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ

ترجمہ: اور کاش وہ جگہ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے آباد رہے اور جو میرے اور دونوں جہان کے درمیان ہے ویران رہے۔

## واقعات — ۳۶۶

اس سال عضد الدولہ بن رکن الدولہ بن بویہ اپنے ساتھ اپنے والد کے وزیر ابو الفتح بن العیند کو لے کر آیا۔ اس لیے  
فتلین بغداد میں ترکیوں کے پاس بھاگ کر چلا گیا، تو عضد الدولہ بن اس کے پیچھے روانہ ہوا اور بغداد کے مشرقی حصہ میں قیام  
کر کے بختیار کو حکم دیا کہ وہ مغربی حصہ پر جا کر قیام کرے، اس طرح بغداد کو گھیر لیا اور ترکیوں پر زبردست دباوڈا اساتھی  
دوسرے حکام کو حکم دیا کہ آس پاس کے علاقوں پر غارت گری کریں اور وہ غله اور اسباب و خوارک وغیرہ جو کچھ باہر سے وہاں  
پہنچتا ہے سب کو وہاں پہنچنے سے روک دیں۔ اس طرح تمام چیزوں کی قیمت بہت بڑھ گئی اور فساد یوں اور لوث مار کرنے والوں  
کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی اور فتلین نے خوارک کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا،  
لوگوں کی حالت بہت خراب ہو گئی، آخر کار ان ترکیوں اور عضد الدولہ میں مقابلہ ہوا تو عضد الدولہ نے ان لوگوں کو تدبیہ والا کر کے  
رکھ دیا۔ مجبوراً وہ لوگ بختیار کی طرف بھاگ گئے، اور عضد الدولہ نے بغداد اور اس کے متعلقات پر قبضہ کر لیا، یہ ترکی اپنے  
ساتھ خلیفہ کو بھی لے جا رہے تھے، مگر عضد الدولہ نے خلیفہ کو باعزت طور پر دارالخلافہ میں واپس کر دیا اور خود شاہی قلعہ میں ٹھہرا،  
اس وقت بختیار کی حالت بہت خراب ہو گئی، اب اس کے پاس مطلقاً کوئی چیز باقی نہ رہی، اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، اور  
در بانوں مشیوں کو وہاں سے نکال دیا اور اپنی امارت سے استغفاء دے دیا، یہ سب کچھ عضد الدولہ کے مشورہ سے ہوا۔ اس لیے  
ظاہر میں عضد الدولہ نے اس پر رحم کیا اور جان بخشی کی، مگر ان درونی طور پر خلیفہ کو اشارہ کر دیا کہ اسے قبول نہ کرے، اس لیے اس  
کا استغفاء قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں میں درخواست کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بختیار نے ظاہری طور پر اپنے

اُنچھا دینے اور اس کی بحث کیں۔ اللہ وادیتے اسے مجھ پر کیا اور اُوں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ یہاں انتظامی امور سے ماجزہ ہے، بات کی بنا پر ایسا کہہ رہا ہے اس لیے اس نے بختیار اس کے اہل و عیال اور تمام بھائیوں کی گرفتاری کا حکم دیا، اس حکم سے خلیفہ طالع سب سے خوش ہوا۔ ماتحتہ دنیعہ الدولہ نے موجودہ مستور کے مطابق خلیفہ کی حد سے زیادہ تعظیم کا مظاہرہ کیا۔ اور دارالخلافہ کو از سر نواز است کرنے پورے قلعہ کو جگہ کا دیا، اس نے علاوه خلیفہ کے پاس عمدہ خوبصورت قسمی سامان اور مال بھیج دیا اور جتنے تر کی شریروں اور فتحہ پر ورثے سب کو قتل کر دیا۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال بغداد میں فتنہ پروروں پر زبردست مصیبیں ڈھالی گئیں، لوگوں نے باب الشیر کے باب کو جلا ڈالا، ان کے بے شمار مال لوٹ لیے ان کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اپنا القب قوادر کھا، سڑکوں اور بازاروں کے محاذین کو گرفتار کر لیا۔ یہاں تک کہ ان میں ایک ایسے شخص نے جو سیاہ رنگ اور بہت ہی غریب تھا، قسطلوں پر ان سے معاملہ کرنے لگا، اس طرح آہستہ آہستہ اس کے پاس بھی مال جمع ہو گیا اور اب مالدار ہو گیا تھا، اس نے ایک ہزار دینار سے ایک باندی خریدی، جب وہ اس کے قبضہ میں آگئی اور اس سے مطلب بڑا ری کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، تب اس نے اس باندی سے پوچھا تم کو میری کس چیز سے فترت ہے؟ اس نے کہا، تمہاری ہر چیز سے، پھر اس نے اس باندی سے پوچھا کہ تم اب کیا پسند کرتی ہو؟ اس باندی نے کہا آپ مجھے فروخت کر دیں، اس نے کہا اس سے بھی بہتر کام ہو سکتا ہے یہ کہہ کر اسے قاضی کے پاس لے گیا اور اسے آزاد کر دیا، مزید برآں اسے علیحدہ سے ایک ہزار دینار دے کر رخصت کر دیا۔ اس کی اس بردباری اور شرافت پر لوگوں کو بہت تعجب ہوا، حالانکہ وہ فاسق بھی تھا، اور طالعت و ربحی تھا۔

اور یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ماہ محرم میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حج کے موسم میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہوں میں خطبوں کے دوران خلیفہ طالع کے نام کی جگہ معزفاطی کا ہی نام لیا گیا۔

اور یہ بھی کہا ہے کہ ماہ ربیع میں بغداد شہر کے اندر غلوں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک کر گیہوں کا آٹا ایک سو ستر دینار سے بھی زائد میں فروخت ہوا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سال عضد الدولہ بن بویہ کی عزت بہت کم ہوئی، اس کا لشکر اس سے منتشر ہو گیا، صرف بغداد کے علاوہ اور کہیں بھی فوجی اس کے ساتھ نہیں رہے، تب اس نے اپنے والد کے پاس اس بات کی ٹکاکیت لکھتی ہی تھی، تو اس نے اس کا پہنچنے سے بختیار کے ساتھ غداری کرنے پر ملامت کی، جب یہ ملامت نام اسے ملا تو وہ بغداد چھوڑ کر فارس چلا گیا اور اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی بختیار کو قید خانہ سے رہائی والا دی اور اسے خلعت بخشا، اور اسے اپنی جگہ پر لا کر بھاڑایا۔ لیکن اس سے یہ شرط کر لی کہ یہ عراق میں اس کا نائب ہو کر رہے گا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ اپنے بھائی ابو اسحاق کو امیر لشکر مقرر کر دیا، کیونکہ بختیار میں انتظامی امور میں کمی آگئی تھی، اس کے بعد وہ اپنے ہی حلقة میں رہا، یہ سب کچھ اس نے اپنے والد کے حکم اور مشورہ سے کیا، اور اس پر اس کے ناراش رہنے کی وجہ سے کہ اس نے اپنے بختیجے کے ساتھ غداری کی اور خطوط کے تباہ لہ میں اس نے بے جا اصرار اور تکرار کیا تھا، اس کے چلے جانے کے بعد اپنے والد کے وزیر ابو الفتح بن العجمید کو علیحدہ کر دیا۔

سب بخدا اور ملک عراق میں عز الدولہ شیخیہ کی حکومت پرستے طور پر مستلزم ہو گئی تو انہیں اپنے چھوڑ دیا جائیں تھے جو کچھ  
وحدہ کیا تھا ان میں سے ایک بھی پوری نہیں کی اور جو کچھ اپنے اوپر لازم کیا تھا ان میں سے کچھ بھی نہیں ادا کیا ہے کیونکہ یہ اپنے  
پرانی سرگشی پر قائم ہاں، اپنی گمراہی را فصیحت اور شیعیت پر بھی جھان ہا۔

سال روایت دسویں ماہ ذی القعده میں تعراتے دن خلیفہ طائع نے عز الدولہ کی بیٹی شاہزادتے ایک لائھہ دینا ر  
مہر پر نکاح کر لیا اور ذی القعده ہی کے مہینے میں قاضی ابو الحسن محمد بن صالح بن ام شیبان کو عہدہ سے معزول کر کے ابو محمد معروف  
کو عہدہ دے دیا۔

اس سال حج کی امامت فاطمیوں نے کی اور بجائے خلیفہ طائع کے ان پر لوگوں کے نام حریم میں خطبوں کے دوران  
لیے گئے۔ واللہ اعلم

### دمشق کو فاطمیوں کے چنگل سے نکال لینے کا ذکر:

ابن الائیر نے اپنی کتاب کامل میں ذکر کیا ہے کہ معز الدولہ کے غلام فلکین نے جواس کی فرمانبرداری سے مکر ہو چکا تھا،  
جیسا کہ گزر چکا ہے اور اس سے تمام لشکر والے دیکھی اور ترکی اور دیہاتی سبل گئے تھے اس وقت اس دمشق پر فاطمیوں کی  
طرف سے ریان الخادم منتظم تھا، یہ جب دمشق کے قریب، اس کے باہر آ کر ٹھہرا تو وہاں کے تمام بڑے بوڑھے امراء حکام اور  
مشائخ نکل کر اس کے پاس آئے اور ان پر فاطمیوں کی طرف سے جو کچھ ظلم و زیادتی اور بد اعتمادی بڑھ گئی تھی، ان کا اس سے  
تنذکرہ کیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ دمشق پر حملہ کر کے ان کے قبضے کے چھڑا کیں، یہ سن کر اس نے اس دمشق پر قبضہ کر لینے  
کا پورا پورا ارادہ کر کے ان سے مقابلہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس شہر پر قبضہ کر لیا اور ریان خادم کو وہاں سے نکال کر تمام شر  
پسندوں کو بھی مار بھکایا، اچھے لوگوں کو منظر عام پر لایا، ان لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر دیا اور لہو و لعب کا خاتمہ کر دیا۔ ان  
بدوؤں کے ہاتھ باندھ دیئے، جنہوں نے شہر میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا، پھر چراگا ہوں اور غوطہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے  
باشددوں کو لوٹ لیا، جب فلکین کے ہاتھوں شام کے حالات درست ہو گئے اور وہاں کے حالات میں پائداری آگئی، تو معز  
الفاطمی نے خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے پاس بلوایا تاکہ اسے خلعت پہنائے اور اسے اپنا نائب مقرر کر دے۔ مگر  
اس فلکین نے اس کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شام کی مسجدوں کے خطبوں سے اس کا نام خارج کر کے طائع کا خاتمہ کا خطبہ  
پڑھنے لگا، پھر اس نے علاقہ صید کا رخ کیا جہاں مغاربہ بہت سے موجود تھے اور ان کے اوپر شیخ کا بینا حاکم تھا، اسی طرح ان  
لوگوں میں ظالم بن موہوب العقیلی بھی تھا، جو معز فاطمی کی طرف سے دمشق کا نائب مقرر کیا ہوا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں کے  
اخلاق کو ان لوگوں نے بہت بگاڑ کر کھو دیا تھا، فلکین نے وہاں پہنچ کر ان سب کا محاصرہ کیا اور اس محاصرہ کو اتنا طویل دیا کہ آہستہ  
آہستہ اس علاقہ پر اپنا پورا قبضہ جمالیا۔ اور ان کے تقریباً چار ہزار قیدیوں کو تھبہ تنخ کر دیا، اس کے بعد طبیریہ کا رخ کیا اور ان  
لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، ان پر بیشانیوں میں معز فاطمی نے خود اس کے مقابلہ کا ارادہ کیا، اب وہ مقاتلہ کے لیے شکر جمع  
کر رہا تھا کہ اسی موقع پر پہنچنے والے کی عمر میں اس کی اچانک موت ہو گئی، جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ اس کے بعد اس کا بینا  
العزیز اس کا قائم مقام بنا۔

اس کی اوت سے فتنہ میں وشام میں پورا امینان ہو گیا اس کی عظمت بہت بڑھنی اور شوکت زیادہ ہو گئی اس وقت مصر والوں نے اس ماتر اتفاق کیا کہ جو سر قائد کو فلکیں کے مقابلہ کے لیے بھجا جائے تاکہ وہ شام کو اس کے قبضہ میں کرے پہنچے۔ اس وقت شام والوں نے فلکیں نے پاس جا کر تم لھا ترہ کہ ہم لوگ فاطمیوں کے خلاف اور آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ سے پورا اخلاص ہے ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت جو سر قائد نے آ کر مشق کا ساتھ مہینوں تک زبردست محاصرہ کیے رکھا، اور فلکیں کی زبردست بہادری اور قابلیت کا مشاہدہ کیا، اس وقت کسی دشمنی نے فلکیں کو مشورہ دیا کہ حسین بن احمد قرمطی کو جو کہ حسنه میں ہے خط لکھ کر مدد کے لیے بلا یا جائے، وہ خط پاتے ہی مدد کے لیے روانہ ہو گیا، جو ہر کو جب ان لوگوں کے آنے کی خبر ملی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اندر وہ شہر کے باشندوں اور بیرون شہر سے آنے والوں کا بیک وقت مقابلہ مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ وہاں سے رخصت ہو کر رملہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن فلکیں اور آنے والے قرمطیوں نے پچاس ہزار افراد کے ساتھ پچھا لیا، یہاں تک کہ نہر الطوامین کے پاس جو کہ رملہ سے صرف تین فرسخ پر تھا، ان لوگوں کو پالیا اور مقابلہ کیا یہاں تک کہ جو ہر کو رملہ میں گھیر لیا، جس سنتے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور بھوک و پیاس کی زیادتی کی وجہ سے وہ اور اس کے دوسرے ساتھی مرنے کے قریب ہو گئے تو انہی نے فلکیں سے درخواست کی کہ ہم اور تم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ کچھ مشورے کریں، چنانچہ اس نے انہی کی بات مان لی۔ اس کے بعد جو ہر مسلسل اس سے نزدی کے ساتھ یہ کہتا رہا کہ وہ اسے چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے استاذ شاکر کے پاس جا کر اسے حالات سے مطلع کر کے مشورہ لے اور قرمطی سے اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہ لے۔ یہ جو ہر دراصل بہت چالاک اور ہوشیار تھا، فلکیں نے جب اس کی بات مان لی تو قرمطی نے فلکیں کو ملامت کی اور کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسے گھرے میں رکھیں اس وقت تک کہ وہ مرجائے، کیونکہ وہ جو ہر یہاں سے نکل کر اپنے استاذ کے پاس جائے گا، اور ممکن حد تک لشکر جمع کر کے ہم سے مقابلہ کے لیے انہیں لے کر آئے گا، اور اس وقت ہم لوگوں کو ان سے مقابلہ کی تاب نہ ہو گئی، بعد میں اس کی یہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ فلکیں نے جب جو ہر کو اس کی قید سے رہائی دے دی وہ اسی کام میں لگا رہا کہ وہ عزیز کو فلکیں کے خلاف حملہ کر دینے پر آمادہ کرتا رہا یہاں تک کہ عزیز پہاڑوں جیسے مضبوط لوگوں کا ایک بہت بڑا لشکر خود لے کر آگے بڑھا اور مقابلہ پر آیا اور اپنے لشکر میں لڑا کا لوگوں کی زیادتی کے ساتھ ساتھ ساز و سامان اور ہتھیار بھی زیادہ لے کر آیا۔ سامنے کے حصہ میں وہ جو سر قائد خود بھی تھا، اور فلکیں اور قرمطی اپنے لشکر اور بدوں کو جمع کر کے رملہ کی طرف بڑھے اور سن سرٹھ بھری کے ماہ محرم میں لڑائی شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو جانے کے بعد عزیز نے فلکیں کی بہادری اور ہوشیاری کا اندازہ کر کے اس کے پاس آدمی یہ کہہ کر بھیجے کہ اگر وہ اس کی اطاعت قبول کرے اور لڑائی کے میدان سے واپس چلا جائے تو وہ اسے اپنا سپہ سالار مقرر کرے گا اور اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے گا، یہ سن کر فلکیں و صفویوں کے درمیان اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور عزیز کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ اگر یہ بات موجودہ حالت سے پہلے ہوتی تو میرے لیے اس کا قبول کرنا ممکن ہوتا بلکہ میں خود اس کی اطاعت کو اپنی ذمہ تھی، لیکن اب یہ بات ممکن نہیں ہے، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور عزیز کو میرہ پر حملہ کر کے اس کے لشکر میں انتشار پیدا کر

یا، باری فوج کو تحریر کر دیا ای وقت عزیز بہادر بہان سے کھوادی، میں فوج کو حکم، ہاتھ اس نہیں دیا، اتمام کیا کو قرط مطہر اور اس کے ساتھی شہی شہادت کیا گئے ان کے بھائیوں کے پیچھے سے مفر پہنچی ان پر حملہ کرتے ہوئے آئے، ہر سترہ بنے سامنے آئے، والوں میں نہیں چاہتے قتل کرتے اور نہیں چاہتے قیدی بناتے جاتے، والوں کے عزیز اہل من معاشر اپنے تمام ساتھیوں سمیت شامیوں کے نیوں میں جا کر سپہرے اور بھائیوں کے پیچھے اپنے فوجیوں کو لگا دیا اور یہ اعلان کردیا کہ جو کوئی کسی کو قیدی بناؤ کر لے گا اسے خلعت دیا جائے گا اس موقع پر فٹلین کو زبردست پیاس لگ گئی اور وہ مفرج بن دغفل کے قریب سے گزر اجواس کا ساتھی تھا، اس سے اس نے پینے کو پانی مانگا، اس نے اسے پانی پلا کر اپنے گھر میں آرام سے رہنے کو کہا، ادھر خاموشی کے ساتھ عزیز کو یہ خبر بھی کہ آپ کا مطلوب میرے پاس ہے، مقررہ رقم دے کر کسی کو میرے پاس بیٹھ ج دیں اور اپنا مطلوب پکڑ کر لے جائیں، چنانچہ اس نے وعدہ کے مطابق اس کے پاس ایک لاکھ دینار بیٹھ دیئے اور اسے پکڑ کر اپنے پاس منتگوا لیا۔ اب فٹلین کو اس طرح گرفتار ہو جانے پر اسے اپنے قتل کیے جانے کے بارے میں ذرہ برابر شہر بھی باقی نہ رہا، لیکن بالکل خلاف توقع جب یہ فٹلین اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس بہت زیادہ اڑواکرام کیا اور اس کا مال و اسباب وغیرہ جو بھی اس سے چھینا گیا تھا ان میں سے ایک ایک چیز اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، کوئی چیز بھی کم نہ کی گئی اور اسے خاص مصاہیں اور حکام میں اسے داخل کر لیا اور اپنے گھر کے قریب بھی اسے رہنے کو جگدی پھر بہت باعزت طور پر اسے مصری علاقوں میں واپس کر دیا اور وہاں اس کے لیے قیمتی زمینیں حاصل کر دی گئیں اور قرطی کے بارے میں بھی یہ حکم لکھ کر بیٹھ دیا کہ اسے بھی سامنے لا لیا جائے اور جس طرح فٹلین کی عزت افزائی کی گئی ہے اس کی بھی عزت افزائی کی جائے، لیکن اس نے ان کے سامنے جانے سے انکار کر دیا، اسے اپنے اوپر خطرہ محسوس ہوا، اس لیے اس کے پاس بیس ہزار دینار بیٹھ دیئے گئے، مزید برآں اس کے لیے اتنی ہی رقم ہرسال کے لیے مقرر کر دی تاکہ ان دیناروں سے وہ اپنی تکالیف دور رہے اور ضروریات کا انتظام کرے۔ اس طرح فٹلین اس کے پاس بہت ہی اعزاز و کرام کے ساتھ رہنے لگا، بہاں تک کہ اس کے اور وزیر بن کلس کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اس وزیر نے اسے زہرا کا شربت پلا دیا، جس سے وہ مر گیا، عزیز کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو وہ اس پر سخت غصہ ہوا اور چالیس سے کچھ زائد دنوں تک اسے قید میں ڈال دیا اور پانچ لاکھ دینار اس سے وصول کیئے پھر سوچا کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو گا، اس لیے وہ واپس کر دیئے، اور اسے دوبارہ عہدہ وزارت پر بحال کر دیا، یہ مذکورہ باتیں ابن الاشیر کے بیان کا اختصار ہیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والا شخص

سبکنگین الحاجب الترکی:

یہ المعز الدیلمی کا آزاد کردہ غلام اور اس کا دربان ہے مرتبوں میں ترقی کرتے ہوئے بہاں تک پہنچا کر طائع خلیفہ نے اسے امارت سونپ دی، خلعت بخشی اور خاص جہنڈا دے کر نور الدولہ کا لقب دیا۔ اس جگہ پر اس کی مدت دو مہینے تیرہ دنوں کی

بے بغداد میں مدفن ہوا، اس کا گھر بغداد کے بادشاہ کا گھر تھا، جو بہت بڑا تھا، اس کے ساتھ ایک حادثہ یہ ہیش آیا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے چھوڑے سے ترکیا جس سے اس کی ریڑھی بڑی لوت آئی تھیں، صبیب کے معاملجے کے بعد اس حد تک اپھا ہو کیا تھا کہ سیدھا کھو، ابھے ساتھ تھا اور نہ: تھی پڑھ ساتھ تھا، سلیمان، وہ عکس نے سے محروم ہو کیا تھا، اس نے اپنے صبیب کو خوش ہو کر بہت زیادہ مال دیا۔ اپنے صبیب کو کہا ارتھ تھا کہ جب بھی میں اپنے درد اور تمہاری مسیحائی نویاد ارتھا ہوں تو میں تمہارے میں مسیحائی کا بدله ادا کرنے سے خود کو مجبور پاتا ہوں، لیکن جب کبھی مجھے تمہارا قدم میری پیٹھ پر رکھنا یاد آتا ہے تو تمہارے خلاف میرے غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

اس کی وفات حرم کی تیسویں تاریخ منگل کی رات کو ہوئی، بہت زیادہ مال چھوڑ کر مراہے، جن میں دس لاکھ دینار ایک، کروڑ درہم، جواہر کے دو صندوق، پندرہ صندوق بلور کے، پندرہ صندوق سونے کے برتوں کے، ایک سو تیس سونے کے پیالے، جن میں پچاس ایسے تھے، جن میں ہر ایک کا وزن ایک ہزار دینار تھا، چاندی کی چھ سو سواریاں، دیباچ کے چار ہزار کپڑے، دس ہزار دینی اور عتیبی، تین سو بستروں کی گھڑیاں، تین ہزار گھوڑے، ایک ہزار اونٹ، تین سو غلام، چالیس خادم یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ہیں جو اس کے اپنے خاص آدمی ابکبر البر ار کے پاس تھیں۔

## واعدات — ۳۶۵

اس سال رکن الدولہ بن یویہ نے اپنی سلطنت کو اپنی ہیرانہ سالی کی وجہ سے اپنی اولاد میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ عضد الدولہ کو فارس اور کرمان، مؤید الدولہ کو ری اور اصہان اور فخر الدولہ کو ہمدان اور دینور دیئے، اور اپنے بیٹے ابوالعباس کو عضد الدولہ کی گمراہی میں دیا اور اسے اس کی خاص وصیت کی۔

اس سال بغداد کے قاضی القضاۃ ابو محمد بن معروف کو عز الدولہ کے گھر میں مقدمات کے فیصلے کے لیے بھادیا، چنانچہ اس کی موجودگی میں لوگوں میں فیصلے کیے جاتے۔

اس سال عزیز فاطمی کی طرف سے مصریوں کے امیر نے لوگوں کو حج کرایا، اس سے پہلے مکملوں کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے خت تکنیفس برداشت کی تھیں، وہاں غلوں کی قیمتیں بہت مہنگی ہو گئی تھیں۔

ابن الاشریف نے ترکیا ہے کہ یوسف بلکین جو معز الفاطمی کی جانب سے افریقی شہروں پر نائب حاکم مقرر تھا، وہ سببۃ کی طرف گیا اور پہاڑ پر چڑھ کر ان لوگوں پر نظرڈالی، اسی وقت بلکل بارش شروع ہو گئی، اب وہ اس بات پر غور کرنے لگا کہ ان لوگوں پر کس طرف سے محاصرہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس نے صرف آدھے دن کا بن محاصرہ کیا تھا، وہ نواب بہت ریادہ گھبرا لئے، اس کے بعد وہ اس کے قریب مغرب کی جانب ایک اور شہر کی طرف گیا، جسے بصرہ کہا جاتا تھا، وہاں پہنچ کر اسے ذھادینے اور مال و اسباب کو لوٹ لینے کا حکم دیا، پھر وہاں سے برغواط شہر کی طرف گیا، وہاں ایک شخص عیسیٰ بن ام الانصار تھا اور وہی اس کا بادشاہ تھا،

بابل کے لوگ اس کے بادا اور شمودہ بازی اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بہت زماں و مروع تھے اسی بنا پر اس کی بہت خدمت افراد تھے اس نے ان لوگوں کے لیے اپنی بنائی ہوئی ایک شریعت بھی مقرر کر کی تھی جس کی وجہ اور اس کی وجہ اس پیشیں نے ان لوگوں سے مقابله کیا اور انہیں محکمت دے کر اس فاجر شخص کو قتل کر دیا اس نے مال و موت لیے اس کی اولاد و تقبیہ کی بنا پر ایسا اس وقت اس علاوہ میں ان سے بڑا کرکوئی بھی دوسرا قیدی خوبصورت نہیں تھا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

**احمد بن جعفر بن محمد:**

بن سلم ابو بکر الحسنی، ان کی تصنیف کردہ ایک مند کیر ہے انہوں نے عبد اللہ بن احمد بن حنبل اور ابو محمد الحنفی کے علاوہ اور دوسروں سے بھی حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ تھے تقریباً انوے بر س کی عمر پانی۔

**ثابت بن سنان بن ثابت:**

بن قرہ الصابی، بہت بڑا موئرخ ہے، ابن الاشیر نے کامل میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

**احسین بن محمد بن احمد:**

ابو علی الماسرس جسی الحافظ کئی ملکوں میں سفر کیا اور بہت سی حدیثیں سنیں، تیرہ سو حصوں میں ایک مند تصنیف کی، جس میں حدیثوں کی تمام سندوں اور راویوں اور روایتوں کے عیوب کو خوب بیان کیا ہے، ان ہی کی مصنفۃ القبائل اور المغازی بھی ہے، صحیح وغیرہ پر تجزیہ کی ہے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں اور اسلاف نیز انہیں حدث ہوئے ہیں، اسی سال ماہ رب جب میں وفات پائی۔

**ابو احمد بن عدی الحافظ:**

ابو عبد اللہ بن محمد بن ابی احمد الجرجانی، ابو احمد بن عدی، بہت بڑے حافظ، بہت بڑے فائدہ رسال، امام وقت، بڑے عالم، بہت بڑے سیاح، بہت زیادہ روایتیں نقل کرنے والے تھے حدیث کے فن جرح و تعلیل میں ایک کتاب الکامل نامی لکھی ہے، نہ اس سے قبل کسی نے ایسی کتاب لکھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی نے لکھی ہے، جزہ نے دارقطنی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کتاب اپنے فن اور ضروریات میں اتنی کافی ہے کہ اب اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی ولادت سن و سو سالانوے میں ہوئی اور اسی سال ۲۹۶ھ میں ابو حاتم الرازی کی وفات ہوئی، اور ابو احمد بن عدی کی وفات سال رواں کے ماہ جمادی الآخرہ میں ہوئی۔

**المعز الفاظی:**

قاہرہ کے بانی محمد بن اسماعیل بن سعید بن عبد اللہ ابو تمیم جو خود کے لیے فاطمی ہونے کا مدعی تھا، مصری علاقوں کا حاکم تھا،

فاطمیوں میں سے سب سے پہلے ہی ان علاقوں کا باڈشاہ بنا، مغربی ممالک میں افریقہ اور اس کے آس پاس شہروں کا سب سے پہلا باڈشاہ ہوا۔ سن یمن سوانحہ اون ہجری میں اپنے غلام جو ہر قائد کو شہروں میں بھیجا جس نے اس لئے کافور الائخیدی سے لا کر حصہ کر شہروں کو چھینا جس کی تفصیل پہلے کر دیا ہے اسی لئے اتھور فاطمیوں نے اپنے مظبوطہ جوئے اسی نے والان قاہرہ شہر آباد کیا اور شاہی محل کے دو قلعے بنوائے اسی جو ہر نجٹبوں کے درمیان سن تین سو باسٹھ ہجری میں معز فاطمی کا نام بڑھا۔ ان تمام کاموں کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ معز ایک بہت بڑا شکر اور بہت سے دوسرے مغارب اور بڑے ارکان دولت کو لے کر روانہ ہوا جس وقت یہ اسکندر یہ پہنچا، تمام لوگوں نے ان لوگوں کا استقبال کیا، اس وقت اس نے ان کے سامنے بہت زبردست فتح و بیخ خطبہ دیا، جس میں یہ بات بھی کہی کہ میں ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کروں گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی انصاف کرنے سے اس امت پر حرم کرتا ہے۔ ان دعووں کے باوجود یہ شخص ظاہر و باطن ہر طرح سے راضی تھا، جیسا کہ قاضی بالقلانی نے کہا ہے کہ اس کا نہ ہب حکم کھلا کفر اور اس کا عقیدہ رفض کا تھا۔ اللہ ان سب کا حشر برآ کرے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا زہد عابد پرہیز گار، متقدی ابو بکر الانبلسی کو لایا گیا تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم یوں کہا کرتے ہو کہ اگر میرے پاس دس تیر ہوں تو ان میں سے نو تیر و میوں کو اور ایک تیر بصریوں کو ماروں، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے، اتنا جملہ کہنے سے اس معز نے گمان کیا کہ شاید اس نے اپنے خیال سے رجوع کر لیا ہے۔ پھر بھی اس نے سوال کیا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے نو تیر ماروں اور دس سوan تیر و میوں کی طرف پھینکوں۔ اس نے کہا، ایسا کیوں خیال کیا ہے؟ جواب دیا، اس لیے کہ تم نے امت محمدیہ کے دین کو بدلتا ہے، نیکوں کو قتل کیا ہے اور نور الہی کو بجھادیا ہے اور تم نے ان باتوں کا دعویٰ کیا ہے جو تمہارے لاکن نہیں ہیں، اس گفتگو سے وہ ناراضی ہو گیا، اور حکم دیا کہ ایک دن پورے شہر میں ان کی تشییر کی جائے، دوسرے دن زوردار کوڑے بہت سے مارے جائیں، تیسرا دن ان کی کھال اور ہیڑی جائے، چنانچہ ایک یہودی کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ ان کی کھال اور ہیڑنے لگا اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اس موقع پر خود اس یہودی کا دل ان کے لیے پیچ گیا، پھر جب وہ ان کے سینے نکل پہنچا، اس وقت اس نے ان کے سینے میں چھرا پیوست کر دیا اور وہ اسی وقت انقلاب کر گئے، اسی وقت سے انہیں شہید کہا جانے لگا، اور نا بلس والوں کو آج تک بنا شہید کہا جاتا ہے اور ابھی تک ان میں اچھائی پائی جاتی ہے، خدا اس معز کا برا کرے، لیکن اس میں ذاتی طور پر بہادری، ارادہ کی پچشگی اور سیاست بھری ہوئی تھی، وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ انصاف کرتا ہے اور حق کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ستارہ شناس تھا اور ستاروں کی حرکتوں پر پورا یقین رکھتا تھا، نجومیوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ امسال تمہارے اوپر زبردست خطرہ ہے، اس لیے کسی طرح زمین والوں کی نظرؤں سے پوشیدہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ یہ مدت گزر جائے، چنانچہ مشورہ کے مطابق اس نے ایک تھانہ بنایا اور اپنے تمام حکام کو بلوا کر اس نے اپنے بیٹے نزار کے بارے میں ضروری وصیتیں کیں، اس لڑکے کا لقب العزیز رکھا، اور تمام معاملات اس کے واپس آنے تک کے لیے اس کے پرد کر دیئے، ان تمام کاموں کے بعد خاموشی کے ساتھ وہ اس تھانے میں داخل ہو گیا اور ایک سال تک لوگوں سے روپوش رہا، یہاں تک کہ ان مغارب کو یقین ہو گیا تھا کہ جب کبھی آسمان پر ابر دیکھتے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے وہ

گھوڑے سے اس خیال سے اتر جاتے اور اسے سلام کرتے اس خیال سے معز اسی ابر میں ہے: فاستخف قب مہ فاطمۃ عوہ  
بہم کا سو اقوماً فسقین۔ (اس نے اپنی قوم کو غائب کر دیا اور انہوں نے اس لی اطاعت لی یا کہ (پہلے تھی)  
شرارت کے بھرے تھے۔

جب ایک برس گزر گیا، خزانہ سے باہم آگی اور شاہی تخت پر بیٹھ گیا، اور حسب معمول بیٹھ رہے تھے اسی طرح ابھی  
صرف چند ہی دن اگزرے تھے کہ اس کی تدبیر بیکار ہو گئی، اس کی مقدار قضاۓ سامنے آگئی، قسمت کا کھاپور ابھی تھا اور اسی سال اس  
کی موت آگئی۔ مصر پر حکومت کرنے سے پہلے اور اس کے بعد جمیع طور پر اس کی مدت حکومت تھیں، برس پانچ ماہ دس دن رہی،  
جن میں مصر پر صرف دو برس نو ماہ اور باقی مدت دو مغربی ممالک پر رہی، اس کی عمر پینتالیس برس چھ ماہ کی تھی، کیونکہ اس کی  
ولادت افریقہ میں سن تین سو انیس ہجری کے ماہ رمضان کی دسویں تاریخ کو ہوئی اور وفات مصر میں سالِ رواں کے سن تین سو  
پنیٹھ ہجری کے ماہ ربیع الآخر کی ستر ہوئی تاریخ کو ہوئی۔

## واقعات — ۳۶۶

اس سال رکن الدولہ بن علی بن یوسف کا نوبت ہے برس سے زائد عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کی حکومت کے دن چالیس برس  
سے زائد ہوئے، اپنی موت سے ایک سال قبل اس نے اپنی حکومت اپنی اولاد میں تقسیم کر دی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا  
ہے۔ عید کے بیٹھے نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں مہمانداری کا انتظام کیا تھا، اس وقت جبکہ مجلس بالکل بھری ہوئی تھی، رکن الدولہ  
اور اس کے بیٹھے اور ارکان دولت سب موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں اپنے بیٹھے عضد الدولہ کو اپنا ولی عہد بنایا۔  
عضد الدولہ نے اپنے تمام بھائیوں اور تمام امراء کو دیلمیوں کی عادت نے مطابق قباء اور چادر وں کا خلعت بخشنا، اسی طرح  
عادت کے مطابق قیمتی عطر کا ان پر چھڑکا دیا، وہ دن سب کے لیے بہت ہی پرسرت تھا، اس وقت رکن الدولہ کی عمر بہت زیادہ  
ہو کر وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس تقریب کے چند ماہ بعد ہی اسی سال اس کا انتقال ہو گیا، وہ بہت زیادہ بردبار باؤقار بہت صدقات  
دینے والا علماء سے محبت کرنے والا تھا، اس میں نیکی، بخشش اور ایثار کا جذبہ بہت زیادہ تھا، قرابت داروں کے ساتھ بہتر سلوک  
اور بہتر حکومت کا جذبہ بھی تھا، رعایا اور رشتہ داروں پر بہت مہربان تھا۔ اس کے بیٹھے عضد الدولہ کی حکومت جب مضبوط ہو گئی تو  
اس نے عراق کا رُخ کیا، تاکہ اسے اپنے چیاز دبھائی، بختیار سے چھین لے، کیونکہ اس کی سیرت بہت خراب تھی اور اخلاقی  
رُدی تھے، اہواز میں ان بھائیوں کا مقابلہ ہو گیا، تو عضد الدولہ نے اسے شکست دے دی اور اس کا مال و سامان سب چھین لیا،  
اسی طرح اپنے لوگوں کو بصرہ کی طرف بھیجا تو اسے بھی حاصل کر لیا، اور وہاں کے دو مشہور قبیلوں رہیہ اور مصر کے درمیان  
مصالحت کر دی، جبکہ ان کے درمیان تقریباً ایک سو بیس برس سے مخالفت چلی آ رہی تھی، قبیلہ مصر اس کے مخالف اور ربیعہ اس  
کے مخالف تھا، یہ دونوں ہی قبیلے اس سے مل گئے، اس طرح اس کی قوت بہت بڑھ گئی اور بختیار بہت ذیل ہو گیا، پھر اپنے وزیر  
ابن بقیہ کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر وہ خود تمام کام انجام دینے لگا تھا، اور ساری دولت اسی کے خزانہ میں جمع کی جا

دن تھی اس سے بعد اضد اندھے میں امن بھیست پاس ہو چکا دوست اور ماں ۱۳ باب پریاں سے اس سے بہت تھیں یا اور اس سے بیٹھنیں پہنچا۔

اپنے شریں رکن الدولہ نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی وزیر ابو الفتح بن العینیہ کے پاس بھی جو کچھ پائے رہے بے اس سے چھین لے اس کی تفصیل کچھ پہلے کو رجھلی ہے۔ اور ابن العینیہ وزیر میں فشق، فخر رکا مادہ بہت زیادہ تھا، اس لیے تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اور بادشاہ کا غضب اس پر نازل ہو گیا، ہم اللہ الرحمن کے غضب سے پناہ لیتے ہیں۔

اس سال وسط شوال میں خراسان اور بخاری وغیرہ کے حاکم امیر منصور بن نوح السامانی کا انتقال ہو گیا، اس کی کل مدت حکومت پندرہ سال ہوئی، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اس کے بیٹے ابو القاسم نوح کو سپرد کر دی گئی تھیں، جبکہ وہ صرف تیرہ برس کا تھا اور اس کو منصور کا لقب دیا گیا۔

اس سال حاکم مستنصر بالله بن الناصر لدین اللہ عبد الرحمن اموی کا انتقال ہو گیا، جو بہترین بادشاہوں اور بڑے علماء میں سے تھے، یعنی فقط اخلاف اور ناجائز کے عالم تھے۔ علماء سے محبت کرنے والے اور ان پر احسان کرنے والوں میں سے بھی تھے۔ تریسٹھ بوس اور سات مہینے کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے پندرہ سال پانچ مہینے تک خلافت کی۔ اس کے بعد ان کے کاموں کی ذمہ داری ان کے بیٹے ہشام نے سنبلی، جن کا لقب المؤید بالله ہوا تھا، اس وقت وہ صرف دس برس کے تھے، ان کے زمانہ میں لوگوں میں اختلافات رہے اور عوام میں بہت سی بے چینی رہی، کچھ دنوں تک قید خانہ میں بھی رہے، پھر رہائی پائی اور دوبارہ مند خلافت پر آگئے، اس وقت ان کے کاموں کی تبدیلی اشتہرت ان کے حاجب المنصور ابو عامر محمد بن الی عامر المعاشری اور ان کے دو بیٹے الحفظ اور الناصر نے کی، اس دوران رعایا میں بہترین بوقت پر حکومت کی، ان کے درمیان انصاف سے کام لیا، دشمنوں سے لڑائیں بھی لڑی گئیں، تقریباً چھوپیں برس تک ان کا یہی حال رہا، اس موقع پر ابن الاشیر نے ان سے متعلق تفصیلی حالات لکھے ہیں۔

اسی سال حلب کا بادشاہ ابوالمعالی شریف بن سیف الدولہ بن حمدان کے پاس لوٹ کر گیا، کیونکہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پر یہی ان کے تمام مقام بنائے گئے، اس وقت ان کے غلام قرعویہ نے وہاں غلبہ حاصل کر لیا اور ان کا مالک بن گیا، آنے کے بعد اس نے اس جگہ سے نکال دیا اور مار بھگایا، دوبارہ وہ یہ شخص آ کر علاقہ کے قریب ہی ظہر گیا، اسی دوران رومیوں نے حمص کو دیران کر دیا تھا، اس لیے وہ اس شہر کو آباد کرنے اور وہاں کے حالات درست کرنے میں لگ گئے، جب قرعویہ سے اس کے اختلافات بڑھ گئے تو حلب والوں نے اس کو اپنے پاس آنے کے لیے خط لکھا، جب کہ یہ حمص میں تھا، تو یہ فوراً اس کے پاس گیا اور چار ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا، بالآخر سے فتح کر لیا، لیکن لکھو رقلمہ بند ہو گیا تھا، اس لیے ان تک یہ نہیں پہنچ سکا، بعد میں اس ابوالمعالی سے اس کی اس بات پر مصالحت ہو گئی کہ وہ اس کی جان بخشی کرے گا، اور حمص میں اسے اپنے تمام مقام بنائے گا، پھر اسے دمشق کی بھی نیابت حاصل ہو گئی اور اس کی طرف دمشق کے ظاہری حصوں کی نسبت ہو گئی جو لکھو ری محل سے مشہور ہوئے۔

## بُو بَكْرِيَّنَ کَيْ صَوْمَتْ كَيْ أَبْدَاءَ.

محمد، خونی کے مالک، سکنین، جو امریہ اسحاق بن عبدیں جو غیری، اور ان کے متعلقاً تھے کہ اشکر کا سپر سماں تھا، یہ سکنین وہ نہیں ہے جو معز الدولہ کا حاجب تھا، یونہ وہ تو نزشتہ سال ہی وفات پا پڑکا ہے جیسا کہ بیان لیا جا چکا ہے جب اس سکنین کے آقا کا انتقال ہو گیا، اور اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے شخص کو نہ پھوڑا جو اس کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے تو لشکر والوں نے متفقہ طور پر اس کی ذاتی صلاحیت، ملکی، حسن سیرت، انتہائی عظمی، بہادری اور دیانتداری کی بنا پر اس کو سپہ سالار منتخب کر لیا، چنانچہ اس کے ذریعہ ملک میں پاسیداری آگئی اور اس کے بعد اس کے بیٹے السعید محمود بن سکنین اس کا قائم مقام بنا، اس نے ہندوستانی علاقوں پر فوج کشی کی اور ان کے بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا اور غنیمت کا بہت سامال حاصل کیا، ان کے بہت سے بڑے بڑے بتوں کو اور نذر نیاز کے بہت سے سامان کو تھس کر دیا، جو کہ ایک بہت مشکل کام تھا، اور اسی کے لشکر والوں نے زبردست لڑائیاں لڑیں، اس کے مقابلہ میں ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ چپاں خود بڑی فوج لے کر آیا، اس راجہ کو دوبار سکنین نے زبردست شکست دے کر ان کو انتہائی ذلت کے ساتھ بہت بڑی حالت میں اپنی جگہ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔

ابن اثیر نے اپنی کتابِ الكامل میں ذکر کیا ہے کہ سکنین کا ہندوستان کے مہاراجہ جسے پال سے جب ایک لڑائی میں مقابلہ ہوا، وہ ایک ایسے تالاب کے پاس تھا، جو بالغ روک کے بچھے تھا، ان ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس تالاب میں جب کوئی گندگی پڑ جاتی ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے آسان پر کامی گھٹا چھا جاتی ہے، زور دار کڑک اور زبردست بجلی گرنے کے بعد بارش ہو جاتی ہے جو مسلسل برستی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ گندگی اس سے نکل کر بھر جاتی ہے اور اس کا پانی اور وہ علاقہ سب پاک ہو جاتا ہے، اس لیے سکنین نے حکم دیا کہ اس میں نجاست ڈال دی جائے اور وہ علاقہ اس وقت ان دشمنوں کے قریب تھا، چنانچہ بجلی کڑک اور مسلسل زور دار بارش ہوتی رہی، جس سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھروں میں بے عزتی کے ساتھ چلے جانے پر مجبور ہو گئے، بالآخر اس مہاراجہ نے سکنین سے مصالحت کے لیے آدمی بھیجے تو اس نے اپنے بیٹے محمود کی مخالفت کے باوجود اس سے مصالحت کر لی، اس شرط پر کہ وہ نہیں بہت زیادہ مال دے گا اور بہت سے علاقوں کے حوالے کر دے گا، اور ان کے علاوہ چچاں بھائیوں کی ادائیگی نہ ہو جانے تک کے لیے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو ان کے پاس گروئی رکھے گا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابو یعقوب یوسف:

بن الحسین الجنابی، بھر کے حاکم اور قرامطیوں کے سردار، اس کے بعد اس کی قوم کے چھ آدمی اس کے قائم مقام بنے جو سادہ کھلاتے تھے، اپنے معاملات کے انتظام میں یہ سب متفق رہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اسی سال اس کی وفات ہوئی۔

اک تین میں اک

ہن ای معداً بحمد انقریطی ابن عساکرنے کہا ہے کہ ابوسعید کا نام اُس تین بن ہبہام ہے اور ابن اتم بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی آجھا گیا ہے کہ یہ فارسی اللسل تھا، یہ سن تین و تاون بھری میں شام پر نائب آ کیا تھا، بھرا کیک سال لے بعد احسان علاقہ میں چلا گیا، پھر سن سانحہ بھری میں دمشق میں لوٹ آیا اور بعذر بن فلاخ کے شکرلو پہاڑ دیا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو حمز فاطمی کا شام میں نائب بن کر رہا اور اسے قتل بھی کر دیا، پھر مصر کا رخ کیا اور ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ میں ۲۱ھ اکٹھ بھری میں اس کا محاصرہ کیا اور مسلسل کئی ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا، خالم بن موبوب کو دمشق میں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس کے بعد پھر الاحسان کی طرف گیا، پھر رملہ لوٹ آیا اور وہیں سالی روائی میں انتقال کر گیا، اس وقت اس کی عمر نوے برس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ عبدالکریم الطائع للہ العبادی کی فرمابندواری کا اقرار کرتا تھا۔ ابن عساکرنے اس کے اشعار بھی نقل کیے ہیں جو بہت بہتر تھے، ان میں وہ چند اشعار ہیں جنہیں اس نے جعفر بن فلاخ کی شان میں لکھا تھا، اس سے اختلاف ہونے سے پہلے اور یہ بہترین اشعار ہیں:

#### ۱۔ الکتب معلذة والرسل مخبرة والحق متبع والخير محمود

**ترجمہ:** کتابیں الزام سے بری کرنے والی ہیں اور تمام رسول خبر دینے والے ہیں، اور حق اسی لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور خیر اسی لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔

#### ۲۔ وال Herb ساکنة والخيل صافنة والسلم مبتذل والظل ممدود

**ترجمہ:** اور لڑائی خاموش ہے اور گھوڑا اپنا ایک پاؤں اٹھائے ہوئے ہے، اور سلامتی رسوا ہے اور سایہ دراز ہے۔

#### ۳۔ فَإِنْ أَبْتَمْتُمْ فَمَقْبُولٌ أَنْابَتْكُمْ وَإِنْ أَيْتُمْ فَهَذَا الْكُورْ مَشْدُودٌ

**ترجمہ:** تو اگر تم تو بکرلو تو تمہاری تو ب مقبول ہے اور اگر انکار کرو تو یہ بندھن سخت ہے۔

#### ۴۔ عَلَى ظَهُورِ الْمَنَابِيَا او يَرْوَنْ بَنَا دَمْشَقَ وَالْبَابَ مَسْدُودٌ وَمَرْدُودٌ

**ترجمہ:** موتوں کی پیشہ پر یا یہ کہ ہمارے ساتھ وہ آئیں، دمشق میں ایسے وقت میں کہ دروازہ بند ہوا اور کاوش پڑی ہوئی ہو۔

#### ۵۔ اَنِي اَمْرُؤٌ لِّيُسَ عن شَانِي وَلَا اَرِبِي طَبْلُ يَرْنَ وَلَا نَائِي وَلَا عَوْدَ

**ترجمہ:** میں تو ایسا شخص ہوں کہ نہ تو میری شان سے ہے اور نہ میری ضرورت سے ہے کہ کوئی ڈھول بجتا ہو اور نہ بانسری ہے اور نہ سارگی۔

#### ۶۔ وَلَا اَعْتَكَافُ عَلَى حَمْرَ وَمَخْمَرَ وَذَاتِ دَلٍ لَهَا غَنْجٌ وَتَفْنِيدٌ

**ترجمہ:** اور نہ مائل رہنا ہے شراب پر گھونٹ والی پر اور ایسی نازمیں پر جس کے نازخرے ہوں اور اسے ملامت کرتے رہنا ہو۔

#### ۷۔ وَلَا اَبْيَسْ بَطِينَ الْبَطْنَ مِنْ شَبِيعَ وَلِي رَفِيقٌ حَمِيسُ الْبَطْنِ مَجْهُودٌ

**ترجمہ:** اور نہ میں اپنا پیٹ بھر کر آسودگی کے ساتھ پیٹ بچلا کر سوتا ہوں، اس حال میں کہ میرا دوست اپنی تکلیف اور پریشانی

کے سامنے اس کا یہیت بالکل دہرا دو۔

۸. ولا تسامت به اندازه صمعہ  
ترجمہ: اور دنیا نے مجھے کسی لائچ پر آمادہ یا ہے ایک دن بھی اور نہ مددوں کی بھروسہ رئے مجھے تو کہ میں ذائقہ ہے۔

۹. يا ساکن الجلد المنیف تعزراً  
ترجمہ: اے اوپنے شہر کے باشندے جس کو عزت حاصل ہے اپنے قلعوں سے اپنی بلڈنگوں سے اور اپنے غاروں سے۔

۱۰. لا عز الا عزیز بنفسه و بحبله و برجله و ضیوفه

ترجمہ: (سن لو کہ!) عزت نہیں ہے مگر اس شخص کو جو عزت کا خواہش مند ہو اپنی ذات سے اور اپنے گھوڑے سے اور اپنے پاؤں سے اور اپنی تواروں سے۔

۱۱. و بقبة بیضاء قد ضربت على شرف الخیام بحارہ و ضیوفہ

ترجمہ: اور سفید گنبد سے جسے بنایا گیا ہے، اس کے پڑوی اور مہمانوں کے خیموں کے قریب۔

۱۲. قوم اذا اشتد الوجع اردی العدا و شفی النقوص بضریبہ و زحوفہ

ترجمہ: ہم ایسی قوم ہیں کہ جب لڑائی سخت ہوتی ہے اس وقت تمدن کو ہلاک کر دیتی ہے اور لوگوں کو شفادیتی ہے اپنے تھملے سے اور اپنے لشکر سے۔

۱۳. لم يجعل الشرف التلید لنفسه حتى افاد تلیده بطریفہ

ترجمہ: اس نے اپنی شرافت نئے طور پر اپنے لیے حاصل نہیں کی ہے یہاں تک کہ اس نے تھی شرافت کو پرانوں کی شرافت سے ملا دیا ہو، یعنی اس کی شرافت نسل ابعد نہیں ہو۔

اس سال قابوس میں دشمن کرنے جر جان، طبرستان وغیرہ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وقت خلیفہ طائع نے عز الدولہ بن یوسف کی لڑکی شہباز سے شب زفاف منائی، یہ شادی بہت دھوم دھام سے منائی گئی، اس سال جمیلہ بنت ناصر الدولہ بن حمدان نے بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حج ادا کیا، یہاں تک کہ اس کا حج ضرب المثل بن گیا۔ اس طرح پر کہ بالکل ایک ٹکل کے چار سو کجاوے اور سواریاں تیار کی گئیں، ان میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ خود کس میں سوار ہوئی ہیں، بیت اللہ کے پاس پہنچنے پر اس نے فقراء اور مجاہدوں میں دس ہزار دینار شارکیے، حر میں شرفین کے تمام مجاہدوں کو کپڑے پہنانے اور جاتے اور آتے وقت بے شمار مال خرچ کیا، عراق سے الشریف احمد بن حسین بن محمد الحلوی نے لوگوں کو حج کرایا۔ اسی طرح سن تین سو اسی بھری تک متواتر دو حج کرتے رہے، ان تمام رسولوں میں بجائے عباسیوں کے مصر کے فاطمیوں کے لوگوں کے نام لیے جاتے رہے۔

اسماعیل بن نجید:

بن احمد بن یوسف ابو عمر والسلمی، جنید بغدادی وغیرہ بزرگوں کی صحبت میں رہے اور حدیث کی روایت کی ثقہ تھے ان کے

بڑیں ہوں میں تے یہ بند ہے اس کے زیر اسے تم بُرَى ہدایت۔ دوہ تہہ یہ ہے یہیں والائیں ہے۔ ایک بُرَى پر ان سے شن ابھی تو پھر مانی ضرورت ہے گئی تو اس کا تذکرہ اپنے شامگروں سے کیا تو انہوں نے ایک تھیل ایک ہزار ہزار ہم کی گھر سے انہوں اپنے شن کو دے دی، شن نے وہ تھیل ان سے لی اور روز میں شاگروں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اس وقت ابن نجید نے اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے اٹھ کر ان سے کہا، اے جناب اے مال جو میں نے آپ کو لا بردیا ہے یہ یہری ماں کا ہے اور میں ان سے زبردستی ان کو ناراض کر کے لایا ہوں، اس لیے آپ مہربانی فرمائی تھیل مجھے اپس کر دیں تاکہ میں اپنی والدہ کو ان کی تھیل واپس کر دوں، اس بات پر انہوں نے تھیل انہیں واپس کر دی، مگر رات کو وہ پھر وہی تھیل لے کر آئے اور انہیں دے دی ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ اپنی ضرورت میں خرچ کریں اور مہربانی فرمائی کر اس کا تذکرہ کسی سے نہ فرمائیں، ان کے شیخ ابو عثمان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو مہرو بن نجید کی ہمت پر رشک آتا ہے۔ حمّم اللہ تعالیٰ

### الحسن بن بویہ:

ابو علی رکن الدولہ ان پر مرغی تونج (آننوں میں درد کی بیماری کا) حملہ ہوا، جس سے سال رواں کے ماو محروم کی اٹھائیں سیں تاریخ ہفتہ کی رات کو ان کا انتقال ہو گیا، چوالیں برس ایک ماہ نو ہنوں تک حکومت کی اور کل اٹھتر برس عمر پائی، بہت بردبار اور شریف تھے۔

### محمد بن اسحاق:

بن ابراہیم بن افع بن رافع بن ابراہیم بن افع بن عبد الرحمن بن رفاء بن رافع ابو الحسن الانصاری الزرقی، انصار کے محافظ تھے، انہوں نے ابو القاسم الغوی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، لفظ تھے انصار کے حالات اور ان کے فضائل کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی وفات ماوجہادی الآخرہ میں ہوئی۔

### محمد بن الحسن:

بن احمد بن اسماعیل ابو الحسن السراج، انہوں نے یوسف بن یعقوب وغیرہ سے روایت سنی ہے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اپنا چہرہ ہو گئے، اور روتے روتے اندھے ہو گئے، سال رواں میں عاشورہ کے دن وفات پائی۔

### القاضی منذر البلوطی:

رحمہ اللہ انہیں کے قاضی القضاۃ تھے، بڑے امام عالم اور فصح تھے، اسی طرح بڑے خطیب، شاعر اور ادیب بھی تھے، یہ نیکی، تقویٰ اور زہد کی قسموں کی تمام خوبیوں کے مالک تھے، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، یہیں باتوں میں منفرد الخیال ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے اور جس سے نکالے گئے تھے وہ اسی دنیا میں تھی، اور وہ جنت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو قیامت کے بعد دینے کے لیے بنائی ہے، ان کی اس بارے میں ایک مستقل منفرد تصنیف ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی بہت عزت تھی۔

یہ ایک دن انہی سرحدیں اللہ بڑا ہے اس میں پاس دستے پہنچے تھے اور دادا بڑیتہ اخیر ہر اور اس کے قلعوں کی بیانی سے فارغ ہوا تھا۔ اس میں خاص اس کے لیے بہت بڑا شہزادہ رشاہی محل بھی ہوا یا کیا تھا۔ نئے مشق خوشبوں سے بسا یا کیا، اور پردوں سے جای گیا تھا، اور اس کے پاس ہے بڑے تمام امور اور ارکان روزات بیٹھے ہوئے تھے اسی روزات میں یہ تاضی القضاۃ آئے اور اس کے بغل میں بینے کئے تمام حاضرین بجس اس عمارت اور ساز و سامان کی مدح سراہیاں لر رہے تھے، لیکن یہ قاضی صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے ایک حرف بھی نہیں بول رہے تھے اتنے میں وہ بادشاہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا، اے ابو الحکم! آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سختے ہی قاضی صاحب انتاروئے کہ ان کی دارالحکم پر آنسو بننے لگے، پھر کہنے لگے کہ مجھے امید نہیں تھی، کہ شیطان لعنة اللہ علیہ آپ پر اس حد تک حاوی ہو کر آپ کو اس طرح رسوا کرے گا، اور دین اور دنیا ہر جگہ آپ کو ہلاک کرے گا، اور اس بابت کی بھی امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ آپ کو فضیلت اور صلاحیت بخشی ہے جو کہ دوسرے بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ ہے، ان باتوں کے باوجود آپ کو وہ کافروں اور فاسقوں کی جگہ پر بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

**ترجمہ:** ”اگر یہ بات (متوقع) نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے ہو جاویں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور نیز زینے بھی، جن پر سے چڑھا (اترا) کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے کواز بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہی چیزیں سونے کی بھی۔“ (پ ۲۵ / رکوع ۹)

بادشاہ نے یہ سن کر اپنا سر جھکایا، اور روڑا اور کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے اور مسلمانوں میں آپ جیسے بہت سے لوگوں کو بنادے۔

ایک سال ملک میں نقط سالی ہو گئی تو بادشاہ نے کسی کے ذریعہ ان کے پاس یہ بھیجی کہ یہ بارش کی نماز کا انتظام کریں اور اس کے لیے دعا مانگیں، جب آدمی ان کے پاس وہ پیغام لے کر پہنچا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے وہاں سے رخصت ہوتے وقت بادشاہ کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ جواب دیا کہ اس وقت ان پر بہت خوف طاری تھا اور دل میں اس کا بہت زیادہ اثر تھا اور وہ دعا اور آہ وزاری میں مشغول تھے۔ قاضی صاحب نے یہ سن کر کہا اب تو تم پر بارش ہو کر رہے گی، اللہ کی قسم جب زمین کے مکابر و اور بڑے لوگوں میں نری آ جاتی ہے تو آسمان والا بھی ان پر رحم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ اعلان کر دو۔ اعلان سن کر سب لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے جہاں استقاء کی نماز ہوتی تھی، اس وقت وہ قاضی منذر بھی آئے اور منبر پر چڑھ گئے سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور جو کچھ وہ بول رہے تھے سب ان کی باتیں سن رہے تھے جب ان کا لوگوں سے سامنا ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ آیت پاک تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے:

**ترجمہ:** ”تم پر سلامتی ہوتی ہو تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام

گھر پہنچے جماعت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھتے تو اللہ تعالیٰ فی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغربت کرنے والے میں بڑی رحمت والے میں ہیں۔ (پ ۲۴، کوئ ۱۶)

یہ آیت انہوں نے بار بار تلاوت کی یہ سنتی ہی لوگوں کے دلوں پر اثر پڑا اور وہ رونے دھونے اور آہ و زاری میں لگ گئے۔ کیونکہ درستک یہی کیفیت رہی، بالآخر وہ ہیں بارش ہو گئی اور پانی میں گرتے پڑتے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔

ابوالحسن علی بن احمد:

بن المرزبان، شافعی المذهب فقیر تھے، ابوالحسن بن القطان سے علم فقه حاصل کیا اور ان سے شیخ ابو حامد الاسفار آئین نے سیکھا۔ ابن خلکان نے کہا ہے کہ یہ بہت پر ہیز گار اور عبادت گزار تھے کسی کو ان سے ظلم کی شکایت نہیں تھی، ان کو مذہب کے بارے میں گہرا علم تھا، یہ بغداد میں سبق پڑھایا کرتے تھے، ماہ رجب میں ان کی وفات ہوئی۔

## واقعات — ۳۶۷

اس سال عضد الدولہ بغداد میں داخل ہوا اور عز الدولہ بختیار وہاں سے نکل آیا، عضد الدولہ نے اس کا پیچا کر کے اسے اور اس کے ساتھ خلیفہ الظائع کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان غلبہ کو بعد میں معاف چاہئے پر معاف کر دیا۔ لیکن عضد الدولہ کو گرفتار کر کے جلد ہی قتل کر دیا، اس کے بعد عضد الدولہ کی حکومت بغداد میں مضبوط ہو گئی پھر خلیفہ نے اسے قیمتی خلعت اور سنگن اور ہار پہنایا اور اسے ایک جہنمڈ اسونے کا دوسرا چاندی کا کل دو جہنمڈے دیجئے یہ چیزیں صرف ولی عہد کو دی جاتی تھیں اور عضد الدولہ نے بھی خلیفہ کو سونے چاندی کے علاوہ بہت قیمتی مال اور تختے دیے۔ اس طرح اس کی باادشاہت بغداد اور اس کے پاس کے تمام علاقوں پر مضبوط ہو گئی۔

اس سال بغداد میں بار بار زلزلے آئے اور دجلہ کا پانی اتنا زیادہ بڑھا کہ اس سے بہت سی مخلوق ڈوب گئی، اور دوسرے بہت سے نقصانات ہو گئے، اس عضد الدولہ سے ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہاں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی، طاعون اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے جوشیدع اور سنی کے فتنوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو کہا یہ فتنے لوگوں کے غلط قصے کہنے وعظ و نصیحت کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس لیے آئندہ سے پورے بغداد میں کوئی بھی نہ تو قصہ گوئی کرے اور نہ نصیحت و وعظ کرے اور کوئی کسی سے کسی صحابی کا نام دریافت کرے بلکہ اب صرف قرآن کی تلاوت کیا کرے، اس کے پڑھنے والے کو اگر کوئی کچھ دے تو وہ اسی کو لے چنا نچھ پورے شہر میں اسی پر عمل ہونے لگا، بعد میں اسے یہ خبر پہنچی کہ ابوالحسن بن سمعون واعظ جو کہ صالحین میں سے تھے ابھی تک حسب دستور اپنا کام کر رہے ہیں، وعظ کہنے کا کام نہیں چھوڑا ہے، یہ سن لینے کے بعد ان کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوایا اور وہ عضد الدولہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور تھہا ہو کر کہیں بیٹھ گیا، تاکہ یہاں سمعون بھرے مجمع میں کوئی ایسی بات نہ کہہ پہنچیں جسے خود اپنے کانوں سے سنبھالنے اور وہ ناپسند ہوا اور ابن سمعون کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جب

وربا شاہی میں پہنچیں تو اپنی گفتگو میں واضح سے کام لیں اور اس کے سامنے رہیں اور سوچیں یہ جب شاہی دربار میں کچھ ہے۔ باگل تھا پریا تر میں میں سامنے کی ایسی بات نہ سمجھیں جو کہ اسی دربار میں ہے۔ میں اس سے پاک ان کے خل ہوتے کے لیے اجازت چاہئے کوئی امہرا ہے ممدوں از خود اس کے پیچھے ہٹنے کے اور یہ آیت تلاوت لرتے لے۔ ترجمہ: ”اور تمہارے رب کی پڑا ایسی ہی جماعتی ہے جبکہ وہ آبا یوس کو پکڑتا ہے جبکہ والد میں کے لوگ ظلم تر نے والے ہوں۔“ (پ ۲، رکوع ۹)

پھر اپنا چہرہ عز الدولہ کے گھر کی طرف کیا اور اس آیت کی تلاوت شروع کی:

ترجمہ: ”پھر ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں اپنا خلیفہ بناتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔“

(پ ۱۱، رکوع ۷)

اس کے بعد بادشاہ کی طرف رخ کیا اور اسے نصیحت کرنے لگے، یہ سن کر وہ رونے لگا اور بہت زیادہ رو یا پھر جزاک اللہ خیر اکہہ کر رخصت کیا، جب وہ اس کے پاس سے نکل کر باہر آئے تو اپنے دربان سے کہا کہ تمیں ہزار درہم اور دوں جوڑے کپڑے انہیں جا کر دے دو، اگر یہ قبول کر لیں تو فرماں کا سر فرم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس دربان کا بیان ہے کہ میں سب لے کر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان چیزوں کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میرے یہ کپڑے میرے والد کے زمانے سے چالیس سال سے ہیں جب میں کسی کے پاس جاتا ہوں، انہیں پہن لیتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں انہیں تہہ کر کے رکھ دیتا ہوں اور میرا تک ذاتی مکان ہے جسے میرے والد نے میرے لیے چھوڑا ہے اس کے کرایے سے کھاتا پیتا ہوں۔ لہذا میں بہت آسودہ ہوں اور ان چیزوں کا مطلقاً تھاج نہیں ہوں، یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں اپنے گھر کے فقراء میں بانت دیں، انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کے گھر والے میرے گھروں سے زیادہ فقیر ہیں اور یہ خود ان کے مقابلہ میں سب سے زیادہ فقیر ہے، اس گفتگو کے بعد میں بادشاہ کے پاس آیا تاکہ میں اس گفتگو سے ان کو مطلع کر کے ان کے بارے میں مشورہ لے لوں، یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا اور کہا اس اللہ کی تعریف ہے جس نے انہیں میری تلوار سے بچالیا اور مجھے ان کی زبان سے بچالیا، پھر عضد الدولہ نے عز الدولہ کے وزیر بن بقیہ کو پکڑ کر ان کے پیر باندھ کر ہاتھی کے پیروں کے نیچے ڈال دیا جس نے اسے اپنے پیروں سے کچل کر مارڈا، پھر میل کے اوپر سے اسے سویں پر چڑھا دیا گیا، یہ واقعہ ماہشووال کا ہے، اہن الحسین بن الانباری نے اس کا مرثیہ کہا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں:

۱. علوی فی الحیات و فی الممات بحق انت احدی المعجزات

ترجمہ: تم اپنی زندگی میں بلند ہو اور مرنے میں بھی، قسم بخدا کتم ایک مجرہ ہو۔

۲. کأن الناس حولك حين قاموا وفود ندادك ایام الصلات

ترجمہ: جس وقت لوگ تمہارے چاروں طرف کھڑے ہوئے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ دادو، بہش کے دنوں میں وہ جو چندی کر کے تم کوآ وازدے رہے ہیں۔

۳۔ کسانک واقع فہمہ حضرا ملسمہ و قبف للصلوحة  
ترجمہ: اہم ایسا معلوم ہے تا ب کلمات کے درمیان خطبہ دے رہے رہا اور وہ سب کے سب نماز کے لیے کھڑے ہیں۔

ایجاد، اور تم اس کی طرف نکلے چیز تو کراپنے دونوں باتوں میں میانے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ۷۰۰۰ نامہ اس کی طرف عطا ہاتے ہیں کوہاٹ ہے ہوئے ہیں۔

یقیدہ بہت طویل ہے جسے ابن الاشیر نے اپنی کتاب کامل میں لکھ کر کیا ہے۔

### عز الدین بختیار کا قتل:

جب عز الدولہ بغداد میں داخل ہو گیا اور اس پر پورا قبضہ کر لیا تو بختیار وہاں سے انتہائی ذلت کے ساتھ چند آدمیوں سمیت نکل گیا اس کا ارادہ تھا کہ شام پہنچ کر اس پر قبضہ کر لے۔ لیکن عضد الدولہ نے اسے یہ قسم دے دی کہ ابو تغلب کو بالکل نہ چھیڑنا، کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی اور خط و تکاتب کے تعلقات قائم تھے اور اس نے بھی اس بات پر قسم کھالی تھی۔ لیکن بغداد سے نکلنے وقت اس کے ساتھ حمدان بن ناصر الدولہ بن حمدان بھی تھا جس نے عز الدولہ کو موصل کے علاقوں کو ابی تغلب سے چھینے کے لیے آمادہ اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جگہ شام سے بہت بہتر ہے اور بہت مالدار بھی ہے اور اس کے قریب بھی ہے اور یہ عز الدولہ کم عقل اور دینداری میں بھی بہت کم تھے، اس بات کی جب ابو تغلب کو خبر پہنچ گئی تو اس نے عز الدولہ کو یہ خبر پہنچی کہ اگر تم میرے پاس میرے بھتیجے حمدان بن ناصر الدولہ کو بھیج دو تو میں جان مال اور لشکر کی امداد دے کر عضد الدولہ سے بغداد پہنچیں کرم کو اس پر قبضہ لے دوں گا، یہ خبر پا کر اس نے حمدان کو لر قتل کر کے اس کے بھیجا ابو تغلب کے پاس بھیج دیا اور اس نے اسے کسی قلعہ میں بند کر دیا، اب جب عضد الدولہ کو یہ خبر ملی کہ یہ دونوں اس سے اڑائی کے لیے متفق ہو گئے ہیں تو اس نے خود ہی ان دونوں سے اڑنے کی تیاری کی پیش کی کہ ان کے پاس پہنچا اور یہ چاہا کہ اپنے ساتھ خلیفہ طائع کو بھی لے جائے مگر اس کے معافی چاہئے پر اس نے معاف کر دیا، بالآخر خود تھا ان دونوں کے مقابلہ کے لیے گیا اور ان دونوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان دونوں کو کچل دیا اور شکست دے دی، عز الدولہ کو قید کر کے فوراً قتل بھی کر دیا اور موصل اور اس کے تمام متعلقات پر قبضہ کر لیا پھر اپنے ساتھ بہت ساغلہ اور خوراک لیتا آیا، اور ابو تغلب کو دوسرے علاقوں کی طرف مار بھگایا، اس کے پیچھے بڑی تعداد فوجیوں کی روائی کردی، سن اڑائی کے آخوند موصل میں مقیم رہا پھر بکر اور بیجہ کے علاقوں میں سے میافارقین اور آمد کو فتح کیا، اور ابو تغلب کے قائم مقام لوگوں سے مضر کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے رجبہ کو بھی چھین لیا اور اس کے بقیہ حصوں کو حلب کے حاکم سعد الدولہ بن سیف الدولہ کے حوالہ کر دیا، پھر سعد الدولہ کو بھی پکڑ لیا، موصل سے واپسی کے وقت وہاں ابوالوفاء کو اپنا قائم مقام بنانے کر بغداد لوٹ آیا، اس وقت خود خلیفہ اور دوسرے تمام ارکان دولت نے شہر سے نکل کر اس کا استقبال کیا، وہ ایک دن تاریخی دن ہو گیا تھا۔

اس سال جو اہم و اتفاقات پیش آئے ان میں دو واقعے ہے جو عزیز بن المعر الفاطمی اور مدشق کے حاکم معز الدولد کے غلام فلکین کے درمیان پیش آیا تھا کہ عزیز سے شکست اے کر قیدی بننا کر بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے شامل مصری مالاقوں میں آئیں۔ اور عزیز نے دشمن اور ان کے متعاقبات پر قبضہ کرنیا تھا۔ یہ باعث تفصیل کے ساتھ سچاں چونہجہمی کے بیان میں اور بسطیں ہیں۔

اس سال قاضی عبدالجبار بن احمد المعتزی کو رکن اور ان تمام علاقوں کا قاضی القضاۃ بنا دیا گیا جو موذید الدولد بن رکن الدولہ کے ماتحت تھے ان کی کمی مفید اور عدمہ تصانیف ہیں جن میں دلائل الدلۃ اور عدمہ الادله وغیرہ بھی ہیں۔

اس سال مصریوں کے نائب حاکم، ایری بادلیس بن زیری، یوسف بن بلکین کے بھائی نے لوگوں کو حج کرایا، یہ جب مکہ میں پہنچنے تو بہت سے چوران کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور ان سے کہا کہ آپ جتنا بھی مال چاہیں لے کر اس سال کے لیے ہم لوگوں کی ضمانت لے لیں تو ظاہری طور پر ان سے رضا مندی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تم سب اکٹھے ہو کر میرے پاس آؤ تاکہ میں تم سب کی ضمانت لے لوں۔ تو ان کے پاس تیس سے بھی کچھ زائد افراد اکٹھے ہو کر آئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اور بھی کوئی باتی بجا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب کوئی بھی بیکی بجا ہے۔ تب انہوں نے فوراً ان سبھوں کو کپڑ لینے اور ان کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دیا، اس طرح انہوں نے جو کچھ کیا، بھتر کیا۔

جاز میں خطبہ کے دوران فاطمیوں کے نام لیے جاتے تھے عباسیوں کے نہیں۔

### بنخیتار بن یوی الدیلمی:

یہ اپنے باپ کے بعد حکومت کا بادشاہ بنا، اس وقت اس کی عمر صرف بیس برس کی تھی، بدن کا خوبصورت، حملہ میں سخت اور دل کا بہت قوی تھا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط بیل کے پاؤں پکڑ کر بھیر کر کی دوسرے کی مدد کے اسے زمین پر گرا دیا کرتے تھے اور سوراخوں میں بڑے بڑے سانپوں کو تلاش کرتا پھرتا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ لہو لعب میں مشغول رہتا اور لذتوں میں مست رہا کرتا تھا، اہواز کے علاقوں میں جب اس کے چیاز اد بھائی نے اسے شکست دی تو جتنے بھی آدمی اس کے گرفتار کیے گئے ان میں ایک امرد (بے داڑھی مونچھوں والا نوجوان) بھی تھا جس سے یہ بہت زیادہ محبت کرتا، اور اس کے بغیر اس کا عیش کامل نہیں ہوتا، اس لیے اس کی واپسی کے لیے اس نے بہت عاجزی اور نرمی کے ساتھ درخواست بھیجی اور قیمتی بے شمار تھے اور بہت سامال اور انتہائی صیمیں و جمیل انہوں دو باندیاں بھی بھیجیں۔ چنانچہ اس نے اس غلام کو واپس کر دیا مگر لوگوں نے اس وجہ سے اسے بہت برا بھلا کہنا شروع کیا اور بادشاہوں کی آنکھوں سے یہ گر گیا۔ اس کے جواب میں وہ کہا کرتا کہ پورے بغداد بکھ پورے عراق کے قبضہ سے انکل جانے سے بھی اس کا میرے پاس نہ رہنا زیادہ تکلیف وہ ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے اسی کو گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا یہ کل چھتیں برس زندہ رہا اور اکیس برس چند ماہ حکومت کی، اسی نے بغداد میں شعیت کو فروغ دیا اور اسی کی وجہ سے سینکڑوں خرابیاں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

محمد بن عبد الرحمن

ابو عبد الرحمن بن القاسم رضي الله عنهما مت مشهور ہے۔ تھتقلوہ میں برٹ مشق کلام آرٹے اور ان کا کلام بدھ تکفیر اور اخیر کسی نہ لئے تزعیز ہوا۔ مت مشہور کے چند اشعار یہ ہیں:

۱۔ نَسِيْ حَمِيلَهُ فَسِيْ مَنِيْ يَسِيْ  
مَوْلَيَسِيْ فِي الْكَلَابِ حَيَّة  
ترجمہ: پھلخور کے لیے میرے پاس علاج ہے، لیکن جھوٹے شخص کا کوئی علاج نہیں۔

۲. مَنْ كَانَ يَحْلِقُ مَا يَقُولُ فَحِيلَتِي فِي قَلِيلٍ  
ترجمہ: جو شخص اپنی بات بنا کر کہتا ہو اس کے لیے میرے پاس تھوڑا علاج ہے۔

یہ جب اپنے کسی ساتھی کے ساتھ چلتے تو کہا کرتے کہ اگر کسی وقت میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، اس وقت میں بھیت دو بان ہوں اور اگر پیچھے رہوں تو ملازم ہوں، سالی دور اس میں ماہ جمادی الآخرۃ کی بیسویں تاریخ ہفتہ کے دن وفات پائی ہے۔

## د اتفاقات — ۳۶۸

اس سال ماہ شعبان میں الٹائی اللہ نے حکم دیا کہ خلیفہ کے بغداد میں نہیں پر عضد الدولہ کا نام لیا جائے اور فتحر، مغرب اور عشاء کے بعد اس کے دروازہ پر ڈھوں بجائے جائیں۔ اتنا الجوزی نے کہا ہے کہ بنی بویہ میں کسی نے بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک مرتبہ معز الدولہ نے خلیفہ سے اس کے دروازے پر ڈھوں بجائے کے لیے اجازت چاہی تھی، مگر اس نے اجازت نہیں دی تھی؛ عز الدولہ نے اس وقت جب کہ یہ موصل میں موجود تھا، ابو تغلب بن حمدان کے بہت سے شہرآمد اور رجب وغیرہ فتح کر لیے تھے، پھر ذوالقدرہ کے آخر میں بغداد بھی فتح کر لیا تھا۔ اس وقت خود خلیفہ اور دوسرے بڑے لوگوں نے اس کا راستہ میں استقبال کیا تھا۔

### قسم التراب دمشق کا بادشاہ بنتا ہے:

جس زمانہ میں فٹکین مصر کے شہروں کی طرف گیا اسی زمانہ میں دمشق کے ایک شخص کا ظہور ہوا جسے قسام التراب کہا جاتا تھا، فٹکین اس کے پاس اکثر جاتا اور اس سے راز درانہ گنتگو کر کے راز کی باتیں اسے بتاتا اس طرح وہ آہستہ آہستہ دمشق والوں پر غالب آ گیا اور لوگوں نے اس کی فرمانبرداری قبول کر لی لیکن مصر کے عزیز کے لشکر نے اس کو پکڑنے کی کوشش میں اس کا محاصرہ کیا مگر اس پر وہ لوگ قابو نہ پا سکے۔ پھر ابو تغلب بن ناصر الدولہ بن حمدان نے اس کا محاصرہ کیا لیکن دمشق میں داخل نہ ہو سکا۔ اس لیے ناکام ہو کر طبریہ کی طرف وہ واپس چلا گیا اور وہاں اس کے اور عرب کے قبائل بنی عقیل وغیرہ کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر قتل کر دیا گیا اس وقت اس کے ساتھ اس کی بہن اور اس کی بیوی جمیلہ سیف الدولہ کی بیٹی تھی۔ دونوں حلب میں سعد الدولہ بن سیف الدولہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ جس نے اس کی بہن کو رکھ لیا اور جمیلہ کو بغداد بھیج دیا جسے ایک گھر میں بند کر دیا گیا اور اس سے بہت سی دولت وصول کی گئی، یہ قسام التراب بیکن کے بنی الحارث بن کعب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے شام میں اپنی اقامت اختیار کی، اس کی خرابیوں کو دور کیا اور کئی سال تک اس کی اصلاح کرتے رہے، وہاں کی جامع

بہیں اپنی خالص و تکمیرت اس میں اور گوہاں کو اسی کی تلقین کرتا ہے، لہجہ اس کی بات اس عمل کا ہے۔ اب عساکر نے کہا ہے کہ یہاں میں ایک گاؤں تاغیتہ ہے اب کے باشندہ تھے اور میں یہ کہتا ہوں اس عالم لوگ اسے ڈھرنا پڑا جسی کیتے۔ اس کے قریب قام تھا اس بکار پر بالائی ہو اکیس تھا بلکہ تراپ یعنی صنی تھیں میں نے ایک دینہات قریب ایک گاؤں تلقین تھا اس سی وہ ملی ہوتی تھی۔ اس شخص کی ابتدا اس طرح ہوتی کہ وہ دمشق کے ایک لوگوں نے احمد بن عثمان اسجا جاتا تھا اس کی طرف منسوب ہوا اس کے بعد وہ اس کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ پھر تمام معاملات پر حاوی ہو گیا اور تمام حکام اور امراء پر بھی غالب آ گیا، یہاں تک کہ مصر سے تین سو چھٹہ بھری کے ماہ محرم کی ستر ہوئی تاریخ جمعرات کے دن بلکل تکین ترکی پہنچا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قسام التراب ایک مدت تک روپوش رہا پھر ظاہر ہو گیا تو اسے قیدی بنا لیا گیا اور اسی حالت میں اسے مصری علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ وہاں رہائی مل گئی اور اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا گیا اور وہاں باعزت طور پر اقامت کی۔ اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### اعقیلی:

ان ہی کی طرف دمشق کے باب البریک ایک غسل خانہ اور ایک گھر منسوب ہے۔ احمد بن الحسن اعقیل بن ضعیف بن عبد اللہ بن الحسین الاصغر بن علی بن الحسن بن علی بن ابی طالب الشریف ابو القاسم الحسین اعقیلی ہے۔ اب عساکر نے کہا ہے کہ یہ دمشق کے شریف اور مشہور لوگوں میں سے تھے۔ محلہ باب البریک کے گھر اور غسل خانے ان ہی کی طرف منسوب ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سال روان کے ماہ جمادی الاولی کی چوتھی تاریخ کو ان کی وفات ہوتی اور دوسرے دن فتن کے گئے نماز جنازہ کے سلسلہ میں پورے شہر میں تعطیل منانی گئی اور ساری دکانیں وغیرہ بند کر گئیں، جنازہ میں غلوج ریعنی دمشق کا نائب حاکم اور اس کے مصادیق وغیرہ بھی شامل ہوئے اور باب الصیر کے باہر فن کیے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ نے ان کے گھر کو خرید کر مدرسہ اور دارالحدیث اور ایک مقبرہ بھی بنا لیا تھا اور اس میں ان کی قبر بنائی گئی ہے۔ یہ سب و اتفاقات سن چھ سو ستر بھری کے قریب وقوع پذیر ہوئے جیسا کہ عنقریب اس کا بیان ہو گا۔

### احمد بن جعفر:

بن مالک بن شیبہ بن عبد اللہ بن مالک اقطیعی۔ جس کا تعلق بغداد کے قطیعہ الدقیق سے ہے۔ مسند احمد کی اپنے بیٹے عبد اللہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان سے مصنفات احمد میں بھی روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے مشائخ سے بھی روایت کی ہے۔ یہ شفہ اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ ان سے دارقطنی، ابن شاہین، برقلانی، ابو نعیم اور حاکم نے بھی روایت کی ہے ایک وقت قطیعہ سیلاپ کے پانی سے ڈوب گیا تھا جس سے ان کی کتابیں بھی غرق ہو گئی تھیں بعد میں

۱) میرے خیال میں سن چھٹہ کا سال ناطق معلوم ہوتا ہے کہ سرستھو نونا چاہیے کیونکہ ۲۸ یہیں اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ واللہ عالم۔ (تاسی)

دوسرے نسخوں سے مل کر اتنا دوسرے انستورس کر لیا تھا اور اسے لیے اسی کتابوں اور رواياتیں برلو گواہ نے اعتماد فناست بھی کیے گیا ان عام محدثین نے ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے اس سے کوئی بھی خارجی نہیں ہوئی ہے بعضوں نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت عہدیں ان سے حافظہ میں تعمیر پیدا ہوئیا تھیں اس سے اُن وائی غایبوں کا اساس نہیں تھا تو یہ برس سے زیادہ عمر پانی ہے۔  
**تمیم بن المعز فاطمی:**

اسی کنیت سے مشہور تھے اپنے والد اور اپنے بھائی عزیز کے ہرے دکام اور افسران بالائیں سے تھے ان کے ساتھ یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ ایک مرتبہ بغداد گئے ہوئے تھے وہاں ایک عمدہ گانے والی باندی بہت زیادہ قیمت سے ان کے لیے خریدی گئی، اس کے آنے کے بعد اپنے لوگوں کی دعوت کی اور اسی دعوت میں اس نے حکم پا کر اپنا گانا سنایا، اس وقت بغداد کے ایک شخص سے بہت زیادہ دلی محبت تھی۔ اشعار یہ تھے:

۱. و بِدَالَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَا اَنْتَقَلَ الْهَوَى بُرْقٌ تَأْلُقٌ مِنْ هُنَالِمَعَانِي

**ترجمہ:** جب اس میں عشق منتقل ہو گیا تب اس کے سامنے ایک ایسی بجلی کونڈی جس کی چمک یہاں سے ظاہر ہوئی۔

۲. يَدُولُ حاشِيَةَ الرِّدَاءِ وَ درَنَةٌ صَعْبُ الدُّرِيِّ مُتَمْنِعٌ اِرْكَانِهِ

**ترجمہ:** ظاہر ہو رہے تھے اس کی چادر کے نشانات اور ڈھورے مشکل تھا اس کا اندازہ لگانا کیونکہ ڈھانپے ہوئے تھیں اس کی اطراف۔

۳. فِدَ الْيَنْظَرِ كَيْفَ لَا حَفْلَ بِطْقٌ نَظَرًا إِلَيْهِ وَ شَدَّهُ اشْجَانِهِ

**ترجمہ:** اسے یہ خیال آیا کہ دیکھنے کے چمک کیسی تھی لیکن اسے ممکن نہ ہوا، اس کی طرف دیکھنا، اس کی خواہشات نے تو اسے اور بھی مشکل بنادیا ہے۔

۴. فَالنَّارُ اشْتَمَّ لَتَ عَلَيْهِ ضَلْوَعَةٌ وَلِمَاءٌ مَا سَمِحَتْ بِهِ اِجْفَانَهُ

**ترجمہ:** پس جب تک اس کی پسلیاں باقی رہیں آگ باقی رہی اور پانی اس وقت تک رہا جب تک کہ اس کے پوٹے بہاتے رہے۔

ان کے علاوہ چند اور بھی اشعار گائے یہ سن کر یہ تمیم مست ہو گیا اور اس سے کہہ بیٹھا کہ تم مجھ سے ضرور کوئی چیز مانگو اس نے کہا آپ کی عافیت، تمیم نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور بھی، تب اس نے کہا کہ آپ مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں بھی یہ اشعار گا کر سنا سکوں۔ یہ فرمائش سن کر یہ لا جواب ہو گیا اور اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی کیونکہ اس نے خود اس کو فرمائش کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجبوراً اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ اسے پردہ میں اپنے ساتھ وہاں لے جائے۔ شام ہونے کے بعد وہ رات کے وقت کس طرح کہاں نکل گئی جس کا پتہ نہیں چل سکا۔ تمیم کو اس واقعہ کی خبر ملنے سے انتہائی دلی صدمہ ہوا اور حد سے زیادہ اسے شرمندگی بھی ہوئی مگر یہ شرمندگی لا حاصل تھی۔

**ابوسعید السیرافی:**

النحوی الحسن بن عبد اللہ بن المرزبان، القاضی۔ بغداد میں سکونت اختیار کی اور قائم مقامی میں قاضی بنے۔ کتاب سیبیویہ

۱۰۔ طبیعت اخلاق کی شریعہ کا ہم میں ادا کرنا۔ بد نیت میں، ماست کو کہا کے والہ آئشیت قتل۔ یہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بہوت سے فتوح میں مثلاً افغانستان، قراص، افغانستان، حساب، غیرہ، کے عالم تھے۔ اس نے باوجود دنیا سے انمارہ کش صرف اپنے ہاتھ کی حکمت کی مدد و رہنمائی سے اپنے اہل و عیال کا طرق پرداخت سے تھے۔ جو روز دس نئے نئے تباہت ترے دس دراہم حاصل کرتے ان سے ان کا نہ رہق پڑتا۔ بصریوں کے نجوم سے سب سے زیادہ عالم تھے۔ فیض اللہ میں اصل عراق کی طرف اپنے آپ کے منسوب کرتے۔ فتن قراءت ابن مجاهد سے علم لغت ابن درید سے نجومی بن الرانج اور ابن المزبان سے حاصل کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں اعتزال کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعضوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ چورا سی برس کی عمر پا کر سال روایت کے ماہ رجب میں وفات پائی اور خیز ران کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

### عبداللہ بن ابراہیم:

بن ابی القاسم الریحانی۔ یہ الانباری سے مشہور ہیں، طلب حدیث کے سلسلہ میں دور دراز علاقوں کا سفر کیا ہے، ابن عدی کا بھی انہوں نے کسی سفر میں ساتھ دیا ہے۔ پھر بغداد میں مکونت افتیار کی اور وہاں ابی یعلیٰ حسن بن سفیان اور ابن خزیمہ وغیرہم سے حدیث کی روایت کی ہے۔ یہ شفہ اور شبہ اور زاہد بھی تھے، ان کی تصنیفیں ہیں، ان سے البرقانی نے روایت کی اور کافی تعریف کی ہے، یہ بھی بتلایا کہ ان کے لھروالوں کی اکثریت خود خوارک میں روٹی ہوتی جو سبزی کے شوربے کے ساتھ کھائی جاتی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی کلفایت شعاراتی، زہد اور پرہیزگاری۔ واقعات بیان کیے ہیں۔ بچانوے برس کی عمر پا کر وفات پائی۔

### عبداللہ بن محمد بن ورقاء:

امیر ابو الحمد الشیعیانی جو بہت زیادہ مکاتات اور بہت زیادہ حشمت و شوکت کے مالک تھے۔ نوے برس کی عمر پائی۔ ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ انہوں نے عورتوں کی صفت ان اشعار میں بیان کی ہے۔

۱۔ هی الصلع الا وجاع لست تقيیمها      الٰا ان تقویم الصلوع انکسارها

ترجمہ: یہ عورتیں ٹیڑھی پیلیاں ہیں تم انہیں سیدھی نہیں کر سکتے، جبرا پیلیوں کو سیدھا کرنے کا مطلب ان کو توڑ دینا ہے۔

۲۔ ای جمیعن ضعفا و اقتدار اعلی الفتنی      الیس عجیباً ضعفها و اقتدارها

ترجمہ: یہ اپنے اندر کمزوری اور جوان پر بالادستی کی وصفتیں رکھتی ہیں، کیا ان کے اندر کمزوری اور بالادستی کی صفت کا ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ ان اشعار کا مضمون ایک صحیح حدیث کا ہے کہ عورت ٹیڑھی پیلی سے پیدا کی گئی ہے اور ان پیلیوں میں سب سے ٹیڑھی اور پر کی پیلی ہے، اب اگر تم اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر تم اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑھی حالت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

### محمد بن عیسیٰ:

بن عمرو بن الحبودی، صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے، ابراہیم بن محمد بن سفیان الفقیہ سے انہوں نے روایت کی ہے، مسلم

بن الحجاج سے بہت زاہد تھے، اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اسی برس کی عمر پائی۔

## واقعات — ۳۲۹

عمر بن شاہین جو کہ بٹیخے کے شہروں کا حاکم تھا چالیس برس تک حکومت کر کے سال روان کے ماہ محرم میں وفات پا گیا ہے۔ وہاں اس طرح غالب آ گیا تھا کہ اس کے مقابلہ میں اس علاقہ کے تمام امراء، بادشاہ اور خلفاء سب اس سے عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے خلاف بارہا اس کے خلاف لشکر کشی کی لیکن یہ اس کو دن دن شکن جواب دیتا رہا اور ہر بار اس کی قوت اور طاقت بڑھتی ہی رہی، تا دم مرگ اس کا یہی حال رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ شخص اچانک اپنے بستر پر بظاہر بلا سبب فوت ہو گیا، لیکن کمزوروں کی آنکھیں نہیں سوئیں (وہ مقصد میں کامیاب ہوئے) اس کے بعد اس کا بیٹا حسن اس کا قائم مقام بنا اس وقت عضد الدولہ کی خواہش یہ ہوئی کہ ملک کو اس کے ہاتھ سے چھین لے، اس لیے اس نے اس کے خلاف کافی تعداد میں فوج کشی کی، لیکن اس حسن بن عمر بن شاہین نے اسے شکست دے دی۔ ایسا بھی اسے موقع ہاتھ آیا تھا کہ ایک ایک ایک کر کے سب کو تہہ تھی کر دے لیکن عضد الدولہ نے اس کے پاس اپنے تجھی بھیجی جس نے اسے سالانہ سامان دینے پر آمادگی کا اظہار کر کے اس سے مصالحت کر لی اور یہ واقعہ انتہائی تجھب خیر ہے۔

ماہ صفر میں طالبین کے نمائندوں نے الشریف ابی الحسن بن موسیٰ الموسوی کو گرفتار کر لیا، حالانکہ وہ برسہا بر سر سے امیر چی ہوتا تھا۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ راز کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے اور یہ بھی الزام تھا کہ ان کے پاس عز الدولہ نے قبیلہ ہارکھا تھا۔ ان کے پاس سے لوگوں نے ایک ایسی تحریر پائی تھی جس میں رازدارانہ باتیں تھیں۔ لیکن انہوں نے اسے اپنی تحریر ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ درحقیقت ان پر یہ الزام تھا اور ہارکا انہوں نے اقرار کر لیا تھا، اس لیے ان سے لے لیا گیا۔ اور ذمہ دارانہ عہدے سے انہیں معزول کر کے کسی دوسرے کو یہ عہدہ پردازی کیا۔ درحقیقت ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس ماہ میں عضد الدولہ نے ابو محمد بن معروف کو بھی قاضی القضاۃ سے معزول کر کے کسی دوسرے کو یہ عہدہ دے دیا۔ ماہ شعبان میں عضد الدولہ کے پاس ڈاکیا بہت سے خطوط لے کر آیا اور اس نے ان تمام خطوط کا جواب دیا جن کا ماحصل نیت کی چالی اور خیالاتی اچھائی تھی، پھر عضد الدولہ نے خلیفہ طائع سے ازسرنو خلعت مرحمت کرنے اور جواہرات کے دینے کی درخواست کی اور اس کی بھی درخواست کی کہ اس کے اختیارات وغیرہ میں وسعت دی جائے، جسے طائع نے منظور کر لیا، چنانچہ اس نے مختلف قسم کے ایسے اور اتنے زیادہ خلعت پہنائے کہ ان کو پہن کر خلیفہ کے سامنے زمین کو بوسہ دینا بھی ممکن نہ تھا۔ نیز اپنے دروازے سے باہر پوڈب سے پچھم تک کے تمام علاقوں کی وہ تمام ذمہ داریاں اس کے متعلق کر دیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مصلحتوں سے ہو، ان تمام کاموں کی انجام دہی کے وقت ملک کے تمام بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ یہ ایک تماشہ اور تاریخی دن ہو گیا تھا۔ ماہ رمضان میں بنی شیبان کے بدودوں کی جانب اسے روانہ کیا گیا۔ تو اس نے ان پر حملہ کر کے تتر تکر کر دیا۔ ان کا

ائیں۔ اب بن محمد اور بدی حسین الحنفی رکن قاسم سنت تسلیم ہے۔ لیکن اس کے تاریخی ملک اور بادشاہی پر تاثیر بہت زیاد ہے۔ ایک دوسرے ملک کے دوں طائف اسلام کے عضد الدولہ کی رہی اور اس کے تباہ اور کافر کوں بواتے کی موجوں کی میں ایک ایسا نام ہے جو عوام کا حجاج یا عاصمہ ایک ایسا نام ہے جو اپنا وسائل میں خوبی کی وجہ پر ایضاً حجاج اور اس کا مصنف یعنی قاضی ابو طیل احسن بن علی المٹوفی نے نکان کا خطبہ پڑھا تھا۔

ابن الاشری نے کہا ہے کہ عضد الدولہ نے اسی سال بغداد کی عمارتوں کو اور اس کی خوبیوں کو از سر نو درست کیا اسی طرح تمام مسجدوں اور اہم جگہوں کی بھی اصلاح کی اور فقہاء کی تխواہیں مقرر کیں، اسی طرح محدثین اور فقہاء کے آئندہ طلبیوں اور حساب دانوں، وغيرہم کی بھی تخواہیں مقرر کیں۔ صاحب جانیداد اور معزز شہریوں کو بھی انعامات اور تحائف دیئے اور جانیداد والوں پر ان میں تعمیر مکان اور کمرے بنانا لازم کر دیا۔ راستے درست کر دیئے جانیداد کی ٹیکس اور چلنی معاف کر دی، بغداد سے مکہ معلّمہ تک جانے کے راستے کو بھی درست کر دیا، حرمین کے مجاہدوں کو ہدایا بھیجے اور اپنے نصرانی وزیر نصر بن ہارون کو گرجا گھر اور مندر غیر اسلامی عبادات گاہوں کے بنانے کی اجازت دے دی اور ان کے غربیوں کی بھی دل کھول کر مدد کی، اسی سال صویہ بن حسین الکردی کی وفات ہوئی، جنہوں نے دینور کے شہروں ہمدان اور نہاوند وغیرہ پر پچاس برس تک حکومت کی تھی۔ اچھی سیرت کے مالک اور حرمین وغیرہما میں بہت صداقتے دیا کرتے، ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا، اور وہ منتشر ہو گئے، اس لیے عضد الدولہ نے ان کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی قوت وہاں بہت زیادہ ہو گئی۔

سالِ رواں میں عضد الدولہ بہت بڑا شکر لے کر اپنے بھائی فخر الدولہ کے علاقوں میں گیا، کیونکہ اس نے عضد الدولہ سے تعلق قائم کر کے اس کی رائے سے پورا پورا اتفاق کر لیا تھا، اس لیے اپنے بھائی فخر الدولہ کے تمام علاقوں کے علاوہ ہمدان اور زے وغیرہ اور ان کے درمیان کے تمام شہروں پر بھی قبضہ کر کے اپنے دوسرا بھائی مؤید الدولہ کے حوالہ کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف سے وہاں کا نائب رہے۔ اس کے بعد صویہ کر دی کے علاقوں کا رخ کیا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں کی بے شمار دولت اور ذخیروں کو جو بے شمار اور حد سے زیادہ تھے، اپنے علاقے میں لے آیا۔ اس کی کچھ اولاد کو قید خانہ میں ڈال دیا اور کچھ دوسروں کو اپنا قیدی بنالیا۔ اسی طرح ہمارا یہ کردوں کی طرف بھی اپنا شکر بھیج کر ان کے کچھ علاقوں پر اپنا قبضہ جمالیا، اس طرح عضد الدولہ کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا اور اس کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی، آخر میں اس سفر کے دوران اس کو در درسر کی بیماری لگ گئی۔ موصل میں بھی اس پر اسی قسم کا حملہ ہوا تھا، مگر اس نے چھپا کر کھاتا یہاں تک کہ اسے بھولنے کی بیماری ہو گئی جو اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کسی بات کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا تھا، اسے یاد کرنے کے لیے حافظہ پر بہت زور دا ناپڑتا، الیصل دنیا جتنی تکلیف پہنچاتی ہے اتنا وہ خوشی میسر نہیں کرتی ہے:

دارٌ اذا ما اضحكْتُ فی یومها  
ابکثْ غدا بعدها من دارٍ



تکن میں مشہد، اگوں میں وفات یا نہیں والوں کے نام میں ہیں:

احمد بن زکریا ابو الحسن اللغوی:

جوئی نعمت تیر کتاب اخْلَلَ اور دوسرا نَّابُونَ کے سُفَرَ تین اپنی صوت سے حرف دوہنْ قُلَلَ یا شعاء کیہے تھے

پس اربَّ اَنَّ دُجَنِي فِي الْحَضْرَةِ بِهَا سَأَلَاهُوا مِنْ وَأَعْلَاهُ فِي الْمُسْرَكِي

ترجمہ: اے رب میرے! تو نے میرے سارے گناہوں کو جان لیا ہے اور مجھے بھی اور میرے ظاہر اور باطن ساری چیز دل کو جان لیا ہے۔

أَنَا الْمُوْحَدُ لِكُنْيَةِ الْمُقْرَبِ بِهَا فَهَبْ ذِبْوَبِي لِتَوْحِيدِي وَاقْرَارِي

ترجمہ: میں توحید کا مدعی ہوں لیکن اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، اس لیے میری توحید اور میرے اقرار کے سبب سے میرے گناہوں کو بخش دے۔

یہ اشعار ابن الاشیری نے ذکر کیے ہیں۔

احمد بن عطاب بن احمد:

ابو عبد اللہ الروزباری، یہ ابو علی الروزباری کے بھانجہ ہیں۔ حدیث کی سند حاصل کی، صوفیہ کے مطالبِ گفتگو کرتے، بغداد سے نقل مکانی کر کے صور میں اقامت لی اور سالی رواں میں وہیں وفات پائی۔ فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز زیادہ بہتر ہے؟ میں نے جواب دیا، ارادہ کا صحیح ہونا، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے قصد روایت کو بھی نظر انداز کر کے اصل مقصود کی روایت ہی کامل ہوتی ہے، اور یہ کہ متفاہ لوگوں کی ہمنشینی سوہان روح ہے اور ہم خیال لوگوں کی ہمنشینی عقولوں کو جلا دیتی ہے۔ لیکن جو شخص ہمنشینی کے لیے مناسب ہو ضروری نہیں ہے کہ اس سے دلی تعلق رکھنا بھی مناسب ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کسی سے دلی تعلق رکھنا مناسب ہو اس کو راز کی بتائیں باتا بھی مناسب ہو راز کی بتائیں باتا بھی مناسب ہو راز کی بتائیں صرف ایسے ہی لوگوں کو بتانا مناسب ہے، جو امانت دار ہو اور یہ بھی فرمایا کہ نماز میں خشوع کا پایا جانا کا میاہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”يَقِينًا وَ مُؤْمِنًا كَمِيَابٍ هُوَ نَعَيْ جَوَانِي نَمَازٍ مِّنْ خَشُوعٍ كَرَنَ وَ اَلَّا ہُنْ“۔ (ب ۱۸ / رکوع ۱)

اور نماز میں خشوع کا نہ ہونا نفاق اور دل کے دریان ہو جانے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”يَقِينًا كَافِرًا كَمِيَابٍ نَّبِيَّنَسْ“۔

عبداللہ بن ابراہیم:

بن ایوب بن ماسی ابو محمد البرزار بہت سے لوگوں سے سندیں حاصل کیں، پچانوے بر س کی عمر پائی۔ ثقہ اور ثابت تھے۔ سال رواں کے ماہِ ربیع میں وفات پائی۔

محمد بن صالح:

بن علی مسیحی ابو الحسن البشیری۔ یہ اتنی امیر شیعیان کے تھے۔ شیخ، جن، رہنما اور فاضل تھے۔ ان کی بہت سی تصویبیں میں بخدا کے قاضی ہی تھے ایک اپنی سیرت کی مالک تھے۔ سال ۴۰۰ ہجری فاتح پاکی۔ متبرکہ اس سے زادہ اور اپنی برس تے حمر پاکی۔

## واقعات — ۳۷

اس سال مؤید الدولہ کی طرف سے ان کے بھائی عضد الدولہ کے پاس الصاحب بن عباد آئے، اس لیے عضد الدولہ نے شہر سے نکل کر ان و خود اور تمام ہرے ہرے لوگوں نے شامدار استقبال کیا اور خلعت پہننا یا، ان کی جا گیر میں اضافہ کیا گیا، واپسی میں بہت سے ہدایا بھیجے۔ اس سال ماہ جمادی الآخرہ میں عضد الدولہ واپس آئے تو خود خلیفہ طائع نے ان کا استقبال کیا۔ گندہ بنوائے اور بازار سجائے۔ اس مہینے میں حاکم سکن کی طرف سے بھی عضد الدولہ کو بہت سے ہدایا اور تحائف ملے۔ حر میں شریفین میں حاکم مصر کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ نام الحنفی بن المعز الفاطمی تھا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سالی مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابو بکر الرازی الحنفی:

احمد بن علی ابو بکر الفقیہ الرازی ابو حنفیہ کے ماننے والوں میں ایک بڑے امام ان کی بہت سی مفید تصنیفوں میں کتاب احکام القرآن ہے۔ ابو الحسن الکرخی کے شاگرد ہیں۔ بہت ہی عابد زاہد اور پرہیزگار تھے۔ ان کے وقت میں حنفیوں کی سرداری ان کو ہی ملی ہوئی تھی۔ دور دور سے طلباء ان کی خدمت میں آتے رہتے تھے۔ انہوں نے ابوالعباس الاصم ابوالقاسم الطبرانی سے حدیثیں سنی ہیں۔ خلیفہ طائع نے ان کو قاضی بنانے کا خیال ظاہر کیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ سال روائی کے ماواذ والجہ میں وفات پائی اور ابو بکر محمد بن موسی الخوارزمی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

محمد بن جعفر:

بن محمد بن زکریا ابو بکر الوراق۔ ان کا لقب غندر تھا۔ بہت زیادہ چکر لگانے والے اور سفر کرنے والے تھے۔ ملک فارس اور خراسان بہت سے لوگوں سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ بالخصوص الباغندی ابن صاعد ابن درید وغیرہ سے حدیثیں سنی تھیں؛ اور ان سے حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے روایت کی ہے۔ شقا اور حافظ حدیث تھے۔

ابن خالویہ:

احمیم بن احمد ابن خالویہ ابو عبد اللہ الخویی اللغوی یہ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، آبائی تعلق ہمدان سے تھا۔ وہاں

ت بخدا آگئے اور دن بڑے بڑے مشائخ مشارک رہیں اور مجاهد اور ائمۃ الزاد کو بیان کیا۔ اور ابو حمید السیوطی کی خدمت میں رہے۔ دن سے سب میں پلے گئے تو آں جماد ان کے پاس ہمارتہ پیدا۔ ان کی بہت عزت کی تھی۔ سبadolah ان کے ہمراں شیعیوں میں سے تھا۔ اور ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ مختلف شاعر میں ان کے بارہ صفات میں سے۔

اہن خلک ان لے ان کی تصنیفیات کا تواریخ کیا ہے اس کی ایک کتاب بھی سر فیں کلام العرب ہے کیونکہ یہ اکثر کہ کرتے تھے کہ کلام العرب میں نہیں اور ایسا نہیں ہے اور ایک کتاب الف الام بھی میں اس کی تمام قسموں سے بحث کی گئی ہے نیز ایک کتاب جس میں بارہ اماموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جس کا نام ترجمہ الائمه الشیعیین ہے۔ اسی طرح ایک کتاب جس میں قرآن پاک کی تیس سورتوں کے ترجمے اور اعراب سے بحث کی گئی ہے اسی طرح شرح الدرید یہ کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں ہیں۔ اشعار بھی عمدہ کہتے تھے۔ ایک خاص بیماری میں بنتا ہو گئے تھے اسی میں ان کا انتقال ہوا۔

## واقعات — اکٹھے

سالی رواں کے ماہ ربیع الاولی میں کرخ میں بھیانک آگ لگی تھی۔ اور اس سال عضد الدولہ کی کوئی بہترین قیمتی جیز چوری ہو گئی تھی۔ اس لیے لوگوں کو اس چوری اور ہاتھ کی صفائی پر انتہائی تعجب ہوا تھا کہ اتنے زیادہ رعب و داہ و اے عضد الدولہ کے سامان کوکس نے اور کیونکہ جرالیا ہے پھر اس کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کر لی گئی پھر بھی وہ پکڑانہ جا سکا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حاکم مصر نے اپنے ہاں سے اسی مقصد سے اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجا ہوگا۔ واللہ اعلم

## مشہور لوگوں میں وفات ہیانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### الاسماعیلی احمد بن ابراہیم:

بن اسماعیل بن العباس ابو بکر الاسماعیلی الجرجانی الحافظ، مختلف شہروں میں بہت سیاچی اور سفر کرنے والے تھے۔ بہت سے لوگوں سے روایتیں سنتیں، پھر حدیثیں بیان کیں، ان سے مسائل کا استنباط کیا، کتابیں تصنیف کیں اور بے شمار عمدہ اور مفید باتیں جمع کیں، لوگوں کے پر کھنے اور ان سے عقیدت رکھنے میں عمدہ روایہ اختیار کیا، صحیح بخاری کے اوپر ایک کتاب تصنیف کی جس میں بہت سے فوائد اور اچھے علوم جمع کیے دارقطنی نے کہا ہے کہ میں نے ان کی طرف جانے کا بارہ ارادہ کیا مگر مجھے اس کا موقع نہ ملا۔

سالی رواں کے ماہ ربیع میں دسویں تاریخ کو ہفتہ کے دن ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر چوتھہ برس کی تھی۔ رحمہ اللہ

### ابن صالح

ابو محمد اکرمی ابن جریر، قاسم المطرز، غیرہ جماعت احمد، یثیمیں اور ابو القاسمی نے روایت کی ہے  
اثق اور حافظ احمد بیش تھے بہت زیادہ روایتیں بہان کہا مرتبے روایتیں نادر ہو انہیں۔

### ابن علی بن احسن:

بن الحیثم بن طہمان ابو عبد اللہ الشاہد جوالیادی سے مشہور ہوئے حدیثیں نہیں، ثقہ تھے ستانوے برس کی عمر پائی، ان میں  
سے پندرہ برس قید میں گزارے۔ نامہنا تھے۔

### عبداللہ بن الحسین:

بن امام علی بن محمد ابو بکر الفضی، بغداد میں منصف کا عبده پایا۔ پاک طبیعت، کنارہ کش اور دیندار تھے۔

### عبدالعزیز بن الحارث:

بن اسد بن الیث ابن الحسن الحسینی، عنبلی نہب کے فقیہ تھے۔ علم کلام اور اختلاف مذاہب کے سلسلہ میں ان کی ایک تصنیف  
ہے۔ حدیثیں نہیں اور کئی حدیثیں سے روایت کی۔ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے احادیث من گھڑت بیان کی ہیں،  
لیکن ابن الجوزی نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ احمد بن حبیل کے شاگردوں کے بارے میں یہ خطیب ایسا ہی کہتے رہے ہیں اور  
یہ بھی کہا ہے کہ خطیب کے وہ استاد جنہوں نے ان سے یہ باتیں بیان کی ہیں، ان کا نام ابوالقاسم عبد الواحد بن اسد العکبری ہے، ان کی  
باتیں قبل اعتاذ نہیں ہیں، کیونکہ وہ معترض تھے۔ حدیثیں میں سے نہیں ان کا دعویٰ تھا کہ کفار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ کبیرہ  
گناہ کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان سے ابن بطیح بنی بھی کلام نقل کیا ہے۔

### علی بن ابراہیم:

ابو الحسن المصری، الصوفی، الوعظی، بغداد کے صوفیوں کے امام تھے، اصل میں ان کا تعلق بصرہ سے تھا، شبلی وغیرہ کی صحبت  
میں بھی رہے۔ جامع مسجد میں لوگوں کو وعظ کہا کرتے۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو جامع منصور کے مقابل میں ان کے لیے ایک  
مسافرخانہ بنوادیا گیا تھا۔ پھر یہ اپنے شیخ المرؤزی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ صرف ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے گھر  
سے نکلتے تھے۔ متوفین کے طریقے کے مطابق فنِ تصوف میں ان کا اچھا کلام ہے۔ ابن الجوزی نے ان کے کلام سے جو کچھ نقل  
کیا ہے، ان میں سے چند جملے یہ ہیں: ”میرا اپنے اوپر کیا اختیار ہے اور کوئی چیز میرے اندر ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ  
سے ڈروں اور امید رکھوں، اگر اس نے رحم کیا تو اپنے مال پر اور اگر عذاب دیا تو اپنے مال کو“۔ اسی برس سے کچھ زائد عمر پا کر ماہ  
ذی الحجہ میں وفات پائی۔ بغداد کے دارِ حرب کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

### علی بن محمد الاحدب المزور:

بہت زیادہ خوش خط تھے، نقل تحریر میں ان کو مہارت حاصل تھی، جس کسی کی تحریر نقل کرنا چاہتے کہ لیتے، پھر اصل اور نقل میں

پسچھے نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی وجہ سے لوگوں یا ایک بڑی مصیبت آن پڑی تھی، شاہ نے باہم ان کی تحریر یا یادنامی اگلی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ کیا تحریر کی طفیل کرتے ہی رہے، اسی سال ان کی وفات ہوئی۔

### اشخ ابو زید المروزی الشافعی:

محمد بن احمد بن عبد اللہ بن محمد ابو زید المرزوکی، اپنے زمانہ میں شوافع کے شیخ تھے، اور فتنہ زدہ اعبادت اور پرستیزگاری میں اپنے زمانہ کے امام تھے، حدشیں سن کر بغداد آئے، اور وہاں حدشیں بیان کیں۔ تو وہاں دارقطنی وغیرہ نے ان سے حدشیں سنیں، ابو بکر البر ارنے کہا ہے کہ حج کے راستے میں میں نے ان کا بہت غور سے جائزہ لیا لیکن میں یہ نہیں پاس کا کہ اس عرصہ میں اعمال لکھنے والے فرشتے نے ان کے کسی بھی گناہ کو نقل کیا ہوئی میں نے ان کے حالات تفصیل سے ”طبقات الشافعیہ“ میں لکھے ہیں۔ شیخ ابو نعیم نے کہا ہے کہ سالِ رواں کے ماہ ربج کی تیر ہویں تاریخ جمعہ کے دن انہوں نے وفات پائی ہے۔

### محمد بن خفیف:

ابو عبد اللہ الشیرازی صوفیا کے مشاہیر میں سے ہیں۔ الاجری و اور ابن عطاء وغیرہما کی صحبت میں رہے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب ”تلمیس البلین“ میں ان کے کچھ ایسے قصے نقل کیے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب ابا جہ پر عامل تھے۔

## واقعات - ۳۷۴

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اسی سال عضد الدولہ نے اپنے گھر اور باغ میں پانی کی نہر رواں کی تھی، اور ماہ صفر میں (شفنا خانہ) انمارستان کا افتتاح کیا تھا، جسے عضد الدولہ نے بغداد کے مغربی جانب تیار کیا تھا، اس میں معالجین اور ملازموں کا پورا انتظام کیا گیا تھا، اس میں دو نیم، شربت اور جواہرات رکھنے کا بھرپور انتظام تھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ سالِ رواں ہی میں عضد الدولہ کی وفات ہو گئی تھی، مگر ان کے آدمیوں نے ان کی وفات کی خبر چھپا کر کھیلی یہاں تک کہ ان کے لڑکے صاصامہ کو اس جگہ حاضر کر کے اسے حکومت کا ذمہ دار بنادیا گیا، اس کے بعد قانونی طور پر خلیفہ کو مطلع کیا گیا تو اس نے بھی با ضابطہ اسے خلعت بھیجا اور اس کی بادشاہت کو بحال رکھا۔

## عضد الدولہ کے کچھ حالاتِ زندگی

ابو شجاع ابن رکن الدولہ ابو علی الحسین بن بویہ الدبلی ملک بغداد وغیرہ کا بادشاہ، سب سے پہلے اپنے لیے شاہنشاہ یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ کا لقب اختیار کرنے والا ہے۔

ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق ہے سب سے خراب نام (اس جگہ آپ کے فرمان میں دو الفاظ اوضع اور اخنون آئے ہیں، دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ہیں) اللہ پاک کے نزدیک اس شخص کا ہے جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو ایک

اور بہت جس انتہا کی تکمیل کی گئی تھی کہ تجھے میں شہزاد، تو انہوں جل سے بھی عذر الدین و عویض ایسا شام ہے جس کے لیے دھول بھائے بات تھے، لیکن، شخص ہے کہ ذمہ دار، ان خلیفہ کے ساتھ اس کا بھی نام بیجا جاتا تھا۔ ابن خلکان نے کہا ہے اب بہت سے شعراء بھیوں نے اس فی زبردست مدن خوانی فی ہے ان میں تجھی وغیرہ بھی ہیں انہی بوگوں میں ابو الحسن خدر بن عبد اللہ السعاتی نے اپنے قصیدہ میں اسی مدن کی ہے جس کے پند اشعار یہ ہیں۔

۱. آثیک طوی عرض البسطة جاعلٌ فصاری المصطایا ان يلوح لها القصر

ترجمہ: اتیری طرف سٹ گئی ہے چڑا اپنی وسعت کے لحاظ سے کم کرنے والی منزل کو یہ کہ چکر اس کے لیے محل۔

۲. فکلت و عزمی فی الظلام و صارمی شلاثۃ اشیاء کما اجتماع النسر

ترجمہ: تم ہو، تاریکی میں میرا پختہ ارادہ ہو اور میری تیز توار ہو، ان ہی تینوں چیزوں کا اجتماع ایسا ہے گویا کہ گدھ (مردار کھانے کو) جمع ہو گیا ہو۔

۳. و بشرت آمال بمنک هو الوری و دارہی الدنيا و يوم هو الدهر

ترجمہ: اور میں نے اپنی آرزوؤں کو خوب خری دی ہے ایسے بادشاہ کی کہ وہ تنہا ہی ایک مخلوق ہے اور ایک ایسے گھر کی کہ وہ تنہا ایک دن کی کہ وہی ایک زمانہ دراز ہے۔

ایسا ہی منتبی نے کہا ہے:

هی الغرض الاقضی و رؤیتك المنیٰ ومنزلک الدنيا و انت الخلاق

ترجمہ: یہی غرض کی منتها ہے اور تمہارا دیدار آرزو ہے اور تمہارا گھر دنہا ہے اور تم تنہا ساری مخلوق ہو۔

اور یہ بھی کہا ہے کہ ابو گبرا حمد الارجاني نے اپنے ایک قصیدہ میں ایک شعر ایسا کہا ہے کہ سلامی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، وہ

شعر یہ ہے:

لقيته فرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والارض في دارٍ

ترجمہ: میں نے اس عضد الدولہ کو دیکھ کر ساری دنیا کو ایک شخص میں، اور سارے زمانے کو ایک وقت میں اور ساری دنیا کو ایک گھر میں محدود و موقوف پایا۔

عضد الدولہ کے بھائی کے غلام افغانی نے اس کو خط لکھ کر لشکر بھیجنے کی فرماںش کی تھی، تاکہ فاطمیوں کے مقابلہ کے لیے اسے مشق بھیج دے، اس کے جواب میں عضد الدولہ نے یہ لکھا: ”تمہاری عزت نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا ہے، تمہارے لیے مفید نصیحت یہ ہے کہ تم اپنی بری حرکت سے بازاً جاؤ، ورنہ تمہاری موت کا احتمال ہے۔“

ابن خلکان نے کہا ہے کہ عضد الدولہ نے اپنے جواب میں فن بدائع کا پورا اظہار کیا ہے، خلیفہ کی جانب سے اس کی تعظیم کا اس قدر مظاہرہ ہوا ہے جو اس سے پہلے بھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوا ہے، انہوں نے بغداد کی عمارتوں اور اس کے راستوں اور سڑکوں کی تعمیر و اصلاح میں پوری توجہ دی ہے، مسکنیوں اور محتاجوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، نہریں کھداوائیں، شفا

لے لیا۔ یہاں العجہ کی کلمیہ کرنے والے یہ مدد کے لیے چون یہاں کی سماں، کی تھیں۔ کام اس وقت کے جس اس کی خدمت عراق پر قائم ہے اسی تھی جو صرف پانچ ہس تک رہی ہوئی مغلی اور فضیلت اسے تھے اتنا می صلاحیت بہت عمدہ تھی ان لوگوں پر رعوب بہت تھا ارادہ اے اور بہت بہت زیادہ تھی امریکی اموری سیاست میں حد سے بڑھ جاتے ایک ماندی سے اس کی بہت زیادہ بحث ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت کے انتظام میں کچھ غلطیت آئی تھی اس کا خیال آتے تھے اس بادی کو دریا میں دال دینے کا حکم دے دیا۔

ایسی طرح اس کو یہ خبر ملی کہ اس کے ایک غلام نے کسی کا ایک خربوزہ لے لیا ہے، اس کو سزا اس طرح دی کہ اپنے ہاتھ سے تلوار مار کر اسے صاف دکھڑے کر دیا۔ سزا کی یہ دونوں صورتیں مبالغہ آمیز ہوئیں، اس کی موت کا سبب مرگی کی بیماری ہوئی، یہ اپنے مرخص موت میں اس آیت مبارک

ترجمہ: ”میرے مال نے مجھے بے پرواہ نہیں بنایا، ہماری حکومت ہم سے چھوٹی،۔۔۔

کی تلاوت کے سوا دوسرا کوئی لفظ نہ تھی، بس یہی ایک تاسف قائم رہا، یہاں تک کہ موت آگئی، ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ علم و فضل سے بہت محبت رکھتے، اس کے پاس اقلیدس اور ابوعلی فارسی کی کتاب الخوبی جاتی، ابوعلی نے اس کے لیے جو کتاب لکھی تھی اس کی یہ کتاب تکملہ اور توضیح تھی۔

ایک مرتبہ اپنے باغ میں جا کر اس نے کہا کہ میرے خواہش ہے کہ اس وقت بارش ہو جاتی، اتفاقاً بارش ہونے لگی تو یہ اشعار کہے: ۱۔

۱. لیس شرب الراح الا فی المطر وغناء من جوارِ فی السحر

ترجمہ: شراب پینے کا مزہ نہیں آتا مگر بارش کے وقت اور باندیوں سے گاناٹنے کا مزہ تو صرف صبح کے وقت ہی آتا ہے۔

۲. غالیات سالبات للنهبی ناعمات فی تضاعیف الوتر

ترجمہ: جبکہ وہ باندیاں ایسی گانے والیاں ہوں جو عقل مندوں کی عقل اڑا لینے والی ہوں اور وہ نرم و نازک ہوں، فاقوں کے بڑھانے کی صورت میں۔

۳. راقصات زاهرات نحل رافلات فی افانین الحبر

ترجمہ: ایسی ہوں جو ناپنے والی ہوں، چکنے والی ہوں، خاندانی ہوں، ناز سے چلنے والی ہوں، یعنی چادروں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے۔

۴. مطربات غانحات لحر رافضات الهم امال الفکر

ترجمہ: خوشی سے جھومنے والی ہوں، ناز کرنے والی ہوں، سمجھدار ہوں، تکفیرات کو چھوڑ دینے والی ہوں، تکفیرات میں ڈھارس بندھانے والی ہوں۔

۱۔ پارہ ۲۹۔ ۲۔ اصل کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کے کہنے والے نے جھوٹ کہا اور اپنے اشعار میں کلمات کفر ادا کیے ہیں۔

شہزادہ مسیر سے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملکہ ملکہ فرانسیس شہنشاہ تھے۔

ترجمہ: پہلے انہوں نے اپنے دوسرے اس کی ابتدا کی تھی اور اس کی اپنے دوسرے اس شخص، جو ساری مخلوقت سے فوتوں کے نامہ تھے۔

۶۔ **أَنْتَ أَنْتَ الْمُكَفِّرُ وَأَنَا مُسْلِمٌ** مسلمان

ترجمہ: حکومت و مضبوط کرو اور اس کے متعلق اپنی ایجادوں و بادشاہی کا باذشہ ہے تھا یہ پرچمی بہت مالا بآئے ۱۹۷۳ء میں۔

۷۔ **سَهْلُ اللَّهِ أَلِيَّهُ نَصْرَةً** فی ملوك الارض مسلمان القمر

ترجمہ: اللہ اس کی مد کو اس کے لیے آسان کر دے، پورے روئے زمین میں جب تک کہ چاند (دنیا) میں باقی ہے۔

۸۔ **وَارَاهُ السَّخِيرُ فِي اُولَادِهِ** ولباس الملک فیهم بالغدر

ترجمہ: اور اس کی اولاد میں بھی خیر کو ظاہر کرے اور ان میں شاہی لباس شان و شوکت کے ساتھ قائم رہے۔

اللہ اس کا، اس کے اشعار کا اور اس کی اولاد سب کا حال برائے کہ اس نے اپنے ان اشعار میں بہت دلیری سے کام لیا ہے، اسی لیے وہ اس کے بعد فلاج نہ پاس کا، لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جیسے ہی اس نے غلبہ القدر کا شعر پڑھا، اسی وقت اللہ نے اس کی گرفت کر لی اور اسے ہلاک کر دیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اشعار اس کے سامنے پڑھ لیے گئے تھے اس کے بعد وہ ہلاک کیا گیا، وہ سالی رواں کے ماہ شوال میں سید لیس یا اڑتا لیس برس کی عمر میں وفات پا گیا، اور مشہد علی میں اسے لے جا کر دفن کر دیا گیا، اس کے اندر راضیت اور شیعیت کا غلبہ تھا، اس کی قبر پر جو کہ مشہد علی کے قریب تھی، یہ لکھا گیا، یہ قبر عضد الدولہ تاج لمملکت ابو شجاع بن رکن الدولہ کی ہے، اس نے امام تقی کا پڑائی رہنا اس دن نجات پانے کی امید میں پسند کیا ہے جبکہ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے حتی الامکان کو خش کرے گا، تمام حمد اللہ تھے لیے ہے اور اس کی رحمتیں اس کے نبی اور ان کے پاک خاندان کے لیے ہوں، اس کی موت کے وقت اس کا حال زار ان اشعار کے مطابق ہو گیا تھا، جو قاسم بن عبد اللہ کے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ **عَدُوًاً أَوْلَمْ أَمْهَلْ عَلَى ظَنَّهُ خَلْقًا** قتل صنادید الرجال فلم أذع

ترجمہ: میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا اس طرح کہ میں نے نہیں چھوڑا، ایک دشمن کو بھی اور میں نے دشمن کے ہم خیال ایک کو مہلت نہیں دی۔

۲۔ **فَشُودُهُمْ غَرَبًا وَ شَرَدُهُمْ شَرْقًا** وَاحليت دار الملک من كان باذلا

ترجمہ: اور میں نے شاہی محل کو ان تمام لوگوں سے خالی کرایا جو جان کی بازی لگانے والے تھے اور میں نے کچھ لوگوں کو مغرب کی طرف اور کچھ لوگوں کو مشرق کی جانب ہنکا دیا۔

۳۔ **وَ صَارَتْ رِقَابُ الْخُلُقِ اجْمَعَ لِي رِقَابًا** فلما بلغت النجم عزًا و رفعًا

ترجمہ: شدہ شدہ میں جب اپنی عزت اور مرتبہ کے ستارہ پر پہنچ گیا اور دنیا کی ساری مخلوقت کی گزدیں میرے تابع ہو گئیں۔

۴۔ **فَهَا آنَا ذَافِي حَفْرَتِي عَاطِلًا مَلْعُونِي** وَ مَانِي الرُّوْيِ سَهْمًا فَاحْمَدْ جَمْرَتِي

سچھنہ: اب تک میں دیکی، یا کوئی کہتے نہیں مجھ سے ۱۴۰۰ کر، اور حرمی ۱۴۰۰ کی یہ بھی کی کہتے ہیں، میں اپنے شوہر کی اکٹھی، بیکار بھائیوں بھوڑ پڑا ۱۴۰۰

### ۵۔ سم دھمت دسای ہ دسیں سعاهہ

سچھنہ: نتیجہ یہ، وزیر میں نے اپنی بے قویٰ کی بنا پر اپنی دنیا اور اپنا دین سب ۱۴۰۰ ہے۔ اب میرے منابع میں ان اکھاڑے میں بد بخت بومروں سراں کون پھر اب ہوا ہے۔

وہ باصرت ویساں ان اشعار کو اور اس آیت پاک ما اغنى عنی مالیہ هلک عنی سلطانیہ کو بار بار پڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ اسے موت آگئی اور اپنے بیٹے صمامہ کو بدن پر سیاہ کپڑے ڈالے ہوئے بلا کر زمین پر بٹھا دیا، خلیفہ خود بھی اسی تعزیت کو آیا، اور عورتیں حسب دستور بازاروں میں ننگے سرچہرے کھول کر بہت نوں تک نوچ کرتی رہیں، جب سوگ میانے کے دن گزر گئے تو اس کا بیٹا صمامہ دار الخلاف پہنچ گیا تو خلیفہ اسے سات خلعت بخشے اور اسے ہارا کر لگن پہنچا کر سر پر شاہی تاج رکھ دیا اور شمش الدولہ اس کا لقب پڑ گیا۔ پھر وہ سارے اختیارات اور ذمہ داریاں اس کے پرد کر دیں جو کہ اس کے باپ کو حاصل تھیں۔ وہ ایک تماشا کا دن تھا۔

محمد بن جعفر بن احمد:

بن احمد بن جعفر بن الحسن بن وہب، ابوکبر الجیری یعنی زوج الحمرہ سے مشہور ہیں، ابن جریر البغہ کی، ابن ابی اد وغیرہم سے حدیثیں سنی ہیں اور ان سے ابن رزق یہ، ابن شاہین اور البرقانی وغیرہم نے روایت کی ہے، عادل، ثقة اور بڑے مرتبہ والے تھے۔ ابن الجوزی اور خطیب نے ان کو زوج الحمرہ کہنے کی وجہ تسلیم یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنے والد کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ان کے باور پی خانہ میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ اپنے والد کی مالکہ کے گھر سے جس کا نام قہرمانہ تھا، جو المقتدر باللہ کی بیوی تھی، مقتدر باللہ کی وفات کے بعد تمام تکفیرات سے آزاد اور بہت دلتنند بھی تھی، اس وقت ان کی چڑھتی جوانی تھی، اسی حالت میں یہ دوسرے ملازم میں کے ساتھ اپنے سر پر کچھ وزنی سامان بھی لے کر مٹنخ میں جا کر اپنے والد کو دیا کرتے تھے، چہرے پر زرا کت، شرمیلا پن، اور بدن میں پھرتی بھی بہت تھی، اس طرح بار بار آمد و رفت سے اس مالکہ کے دل پر ایک اثر پڑا، یہاں تک کہ اس نے اس کو اس مٹنخ کا غشی بنا دیا، پھر ترقی دے کر اپنی تمام جائیداد اور مال کا ان کو دیکھ بنا دیا۔ یہ تمام سامان اور جائیداد کی تگہداشت کرنے لگے، پھر وہ خود ان سے پرده کی آڑ سے باتیں کرنے لگی، ایک وقت وہ آگیا جکہ وہ ان کو روک کر ان سے چھٹ گئی، اور شادی کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے اس کے مقابلہ میں خود کو معمولی سمجھنا اور فتنہ کھڑے ہونے سے یہ درگئے تو اس نے ان کو دلاسا دیا اور کافی مقدار میں دولت دی تاکہ یہ اپنے آپ کو اس حد تک لا لو کر لیں کہ بظاہر اس کے لیے مناسب ہو جائیں، پھر اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے قاضیوں اور بڑے بڑے عہدے داروں کو بھی بہت زیادہ تحفے تحائف دیئے، پھر ان سے شادی کے خیال کو پختہ کیا اور تمام لوگوں کی موجودگی میں اپنی رضا مندی کا اظہار کیا، اس پر اس کے خاص رشتہ داروں اور ولیوں نے اعتراض کر کے رکاوٹ ڈالنی چاہی، مگر اس نے ان سب کو بھی بدایا اور تحائف دے کر خاموش کر دیا، پھر زکاح ہو گیا اور یہ اس کے ساتھ زندگی

گزارنے کے اس طرح کافی تحریر گردانی کی جو درجات کو تکمیل کرے گا اور ٹیکسٹ پر اپنی کامیابی کا سریعہ میں رہا۔ اس کا نتیجہ ایک مختصر اور سادہ متن میں ملک کی ایک رسمی وفاڈیت ہوئی۔ واللہ اخیر

واقعات — ٣٧٣

اس سال بھی بغداد میں نلوں کی بہت زیادہ تر اُنی ہو گئی، اس حد تک کہ ایک کریم یہاں چار ہزار آٹھ سو کے عوام فروخت ہونے لگا، بھوک سے مرنے والوں سے راستے بند ہو گئے، پھر زمیں الجب کے مہینہ میں گرانی میں کمی آگئی اور ان ہی دنوں موئید الدولہ بن رکن الدولہ کی موت کی خبر آئی اور اس کے بھائی فخر الدولہ کے پاس اس کے وزیر ابوالقاسم بن عباد کو بھیجا گیا تو اسی کو الدولہ بن رکن الدولہ کی جگہ پر بحال کر کے اس وزیر کی جگہ پر ابن عباد کو حسب سابق وزیر بنادیا گیا، اس وقت جب قرامط کو عضد اس نے موئید الدولہ کی خبر ملی تو ان لوگوں نے بصرہ کا رخ کیا تاکہ کوفہ سمیت اس پر بھی قبضہ کر لے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، پھر بھی ان لوگوں کو قرامط سے بڑی رقم دے کر مصالحت کرنی پڑی، چنانچہ وہ اس مصالحت کے مطابق مال لے کر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔

مشہور لوگوں میں وفات یانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات یا نے والوں کے نام یہ ہیں:

بویه مُؤید الدوّله بن رکن الدوّله:

اسے بھی ان چند جگہوں کی بادشاہت حاصل ہو گئی تھی، جہاں اس کے والد کو حاصل تھی، اور ابوالقاسم بن عباد اس کا وزیر تھا، اس مورید الدولہ نے مزاج کر لیا تھا، اس کی شادی میں سات لاکھ دینار خرچ کیے گئے تھے حالانکہ یہ انتہائی درجے کا ہے خارج تھا۔

بلکین بن زیری بن منادی:

الحیری الصنہا جی، اس کا نام یوسف بھی تھا، جب وہ قاہرہ معز فاطمی کے بڑے امراء میں ہوتا تھا، جب وہ قاہرہ کی جانب گیا تو اس نے افریقہ کے شہروں پر اس کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، اس کی چار سو باندیاں تھیں، ایک رات میں اسے ان باندیوں سے انہیں اولاد کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تھی، بادیں المغر بی کا یہی جدا علی ہے۔

سعید بن سلام:

ابو عثمان المغربي، قیروان کے شہروں کا اصل باشندہ تھا، ملک شام میں پہنچ کر ابوالخیر الاقطع کی صحبت اختیار کی، مکہ مکرمہ میں کی برس تک مجاورت کی لیکن حج کے زمانوں میں ان پر نظر نہیں پڑتی تھی، ان کی کرامتیں بہت منقول ہیں، ابو سلیمان الخطابی وغیرہ نے ان کی بہت تعریفیں کی ہیں، ان کے کئی نیک اخلاق منقول ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

عبدالله بن محمد:

بن عبد الله بن عثمان بن محمد المزني الواطئ ابن النقاء کے نام سے مشہور ہیں، مبدان ابویعلی الموصلی، اہن ابی داؤ داوار الحنفی سے رہائیں تھیں تین بہت بحصہ اور برے حافظہ کے مکتبے بندہ امیں آنے کے بعد مجاہدین میں، بنی حدشیں سمیاً کر تھے تھے ان کی خدمت میں، اقطین، فیر وہ بے حفاظ آیا کہ اسے تھے، لیکن اسی نے بھی ان کی کوئی باتی بیان نہیں کی، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک روایت ابویعلی سے روایت کی تو کچھ حاضرین نے ان پر اعتراض کیا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے خود ان کے اصل مواد میں ختمی کی تحریر دی کیمی جس میں روایت ویسی ہی تھی، جیسی کہ انہوں نے روایت کی تھی، لہذا یہ اس ذمہ داری سے بری ہو گئے تھے۔

## واقعات — ۳۷۴ھ

اس سال صحاصامہ اور اس کے چچا خضر الدولہ کے درمیان مصالحت ہو گئی، اس لیے خلیفہ نے خضر الدولہ کو خلعت کے ساتھ بہت سے تھنے بھیجے۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماوراء رب میں درب ریاح میں عرس کا کام رچایا جا رہا تھا کہ وہ گھرگر پڑا جس سے اس کے اندر کے تمام انسان مر گئے، ان میں عورتوں کی اکثریت تھی، دیوار کے لمبے سے کچھ لوگ ان مردوں کے سامان اور مال اٹھاٹھا کر لے گئے، اس طرح مصیبت بہت بڑھ گئی تھی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں ان لوگوں نے وفات پائی:

الحافظ ابو الفتح محمد بن الحسن:

بن احمد بن الحسین الازدي الموصلي البحري والتعميل کے مصنف ابویعلی اور ان کے مساوی لوگوں سے حدشیں سنیں، اس زمانہ کے بہت سے حفاظ حدیث نے ان کی تضعیف کی ہے، اور بعضوں نے تو ان پر ایک حدیث گھٹنے کا بھی الزام لگایا ہے، جو ابن بویہ کے لیے گھٹری ہے، اس وقت جبکہ یہ بغداد میں اس کے پاس آئے، اس روایت کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچا دی کہ اس امیر کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام ان پر نازل ہوتے اور انہیں بہت سے درہم انعام میں دیتے۔

تعجب اس بات پر ہے کہ بالفرض اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو معمولی سمجھا اور عقل والوں میں کس طرح مشہور ہو گئی، ابن الجوزی نے ان کی وفات کی تاریخ اسی سال میں لکھی ہے لیکن بعضوں نے سن انہتر بھی بیان کی ہے۔

الخطيب بن نباتة الحذاء:

قائلہ قضاۃ سے تعلق ہے اور کہا گیا ہے کہ ایاد الغاروی جو کہ سیف الدولہ بن حمدان کی حکومت میں حلب کے خطیب تھے

نے ایسے یہ سچے ایسے محسوس چیز کی خطبہ دیا۔ جس ان تکے اس، یوں اس کی مقابله ہے۔ ۰۰۰ مرا کوئی بیوی والدہ پہلے اسی کا ہوا سے اور  
تھے بعد میں ٹھوڑا سا بات کا امکان رکھا گیا ہے کہ اللہ اسی کو اس کی توفیق نے دیتا ہے۔ یہ بہت ہی فصح و بلغ و دیندار اور پرہیز کا رجھی  
تھے، اشیع تاج الہ یعنی الائندہ نے اس نے تعلق بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ دن خواب والا خطبہ پڑھا پھر بتھ کی  
رات انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے حابہ کرام کے ساتھ قبروں کے درمیان دیکھا۔ بہبی یہ آپ کے قریب ہوئے تو  
آپ نے فرمایا، خوش آمدید! اے خلیبوں کے شہنشاہ! پھر ان کی قبروں کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قبر  
اے اب ایسے ہیں گویا یہ کبھی بھی لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں تھے، اور ایک مرتبہ بھی یہ زندوں میں شمار نہیں کیے گئے جس  
نے انہیں پیدا کیا تھا اسی نے ان کو ہلاک کیا ہے اور جس نے ان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے ان کو خاموش کیا ہے اور جس  
طرح بھی ان کو پڑا کر دیا ہے اسی طرح ان کو نیا کردے گا، اور جس طرح ان کو مفترض کر دیا ہے اسی طرح ان کو جمع بھی کر دے  
گا، یہاں تک کہ ابن بناۃ کا کلام تھا۔ پھر آگے بڑھ کر جب وہ قول باری تعالیٰ پر پہنچے: **إِنَّكُمْ نُوَاشَهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ**۔ جس دن  
کر تم لوگ دوسرے انسانوں کے خلاف گواہ بنو گے اور یہ کہتے ہوئے ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا جاؤ آپ کے ساتھ تھے پھر  
اس قول باری تعالیٰ کو دہرا یا: **وَإِنَّكُمْ أَنْرَسُؤْلَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**۔ اور رسول تمہارے خلاف گواہ ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے  
رسول اللہ ﷺ کی طرف اشارہ کیا، یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا تم نے صحیح بات کی ہے، تم نے اچھا کہا ہے، آؤ قریب آؤ! اس  
کے بعد آپ نے ان کے منہ کو چوہ ما اور ان کے منہ میں خون کھکھایا اور فرمایا اللہ تم کو اور بھی توفیق دے اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی  
اور خوشی کے مارے بے حال تھے اور ان کے چہرہ پر رونق اور یہک تھی، اس کے بعد صرف سترہ دن زندہ رہے اس عرصہ میں کچھ  
بھی نہیں کھایا، اس خواب کے بعد سے وفات تک ان کے منہ سے مشکل کی خوبصورا برآتی رہی۔

ابن الازرق الفاروقی نے کہا ہے کہ ابن بناۃ کی پیدائش سن تین پینتیس ہجری میں اور وفات تین سو چوہتر ہجری میں  
ہوئی، یہ بتیں ابن خلکان نے بیان کی ہیں۔



## واقعات — ۵۷۳۴

سال رواں میں خلیفہ نے صمانته الدولہ بخلعت دیا اور انکن اور ہار پہنیا پھر ایسے گھوڑے پر سوار کیا جس کی کامی ہونے کی تھی، مگر اسے نمونیہ کی بیماری تھی، اسی برس یہ خبر طبلی کفر امٹی سرداروں کے دشمن اسحاق اور جعفر بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے یہ خبر سن کر لوگوں کے دل دہل گئے، کیونکہ یہ لوگ بہادر اور دھن کے پکے تھے، اور اس لیے کہ عضد الدولہ اپنی بہادری کے باوجود ان کی مدارات کرتا تھا، اور علاقہ واسطہ میں کچھ زمینیں ان کے لیے خاص کر کھلی تھیں، اس سے پہلے عز الدولہ کا بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک تھا، لیکن اس وقت صمانته نے ان کے مقابلہ میں فوج بھیج دی، جس نے ان لوگوں کو اس علاقہ سے مار بھگایا، جہاں یہ فساد برپا کیے رہتے تھے، اس کے بعد ہی لوگوں کے دلوں سے ان کا رعب ختم ہو گیا، اسی سال صمانته الدولہ نے ریشمی کپڑوں پر نیکس لگانے کا ارادہ کیا، اس وقت تمام لوگ جامع منصور میں جمع ہوئے اور جمعہ کے دن تعظیل کرنے پر اتفاق کیا، جس سے فتنہ برپا ہونے کا جھلہ پیدا ہو گیا، آخر کار ان لوگوں سے نیکس معاف کر دیا گیا، ماہ ذی الحجه میں مؤید الدولہ کی وفات کی خبر ہوئی تو صمانته اس کی تعزیت نے لیے بیٹھا، پھر خود خلیفہ بھی تعزیت کو آیا، اسے دیکھ کر صمانته کھڑا ہو گیا، پھر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا، اور ایک نے دوسرے کو تعزیزی جملہ بہتر طریقے سے کہے۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال ان لوگوں نے وفات پائی:

شیخ ابوعلی بن ابی ہریرہ:

جن کا نام الحسن بن الحسین تھا، اور مشائخ شافعیہ میں سے تھے، اپنے مذہب میں ان کے اپنے مسائل بھی تھے۔ جو دوسروں سے مختلف تھے، طبقات الشافعیہ میں ہم نے ان کے بھی حالات بیان کیے ہیں۔

احسین بن علی:

بن محمد بن تیجی ابو احمد النیشا پوری، جو حنفی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی تربیت ابن خزیمہ کے پاس ہوئی اور ان کی شاگردی بھی کی، وہ انہیں اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے، ان کی وہ رعایتیں کرتے جو دوسروں کی نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی ابن خزیمہ بادشاہ کی مجلسوں میں شریک نہ ہو سکتے تھے تو ان حنفی کو اپنی جگہ پر بھیج دیتے، ابن خزیمہ کی وفات کے وقت یہ تھیں برس کے تھے، اس کے بعد انہوں نے طویل عمر پائی، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ سفر ہو یا حضر کبھی بھی تہجد کا ناغہ نہیں کرتے، بہت زیادہ صدقات اور عطیات دیتے رہتے، اکثر یہ اپنے استاذ ابن خزیمہ

کئے خواہ، تم زیرِ لفظِ کبر کے لوگوں کو کہا تھا، ملہ اور اس میں ان سے بڑھ کر کوئی نماز رکھنے والا نہیں تھا۔ حمد لله۔ الی فتاہ الہام  
نمیشاپوری نے ان سے جائز و کافی نماز پڑھائی۔  
ابوالقاسم الداری۔

مہبہ امیری بن عبد اللہ بن محمد ابوالقاسم الداری اپنے زمانہ میں شافعی مذهب سے تھے ایسا پور میں اتفاق تھا کہ جد  
میں بغداد و پاپا مسکن بنا لیا اور آخری عمر تک وہیں رہے۔ شیخ ابو حامد الاسفاری کی نے کہا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں  
دیکھا ہے۔ الخطیب نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان سے کوئی فتویٰ دریافت کیے جانے پر یہ بہت غور کر کے جواب دیتے  
گا ہے ان کا وہ جواب امام شافعی اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ دونوں کے مسلک کے خلاف ہوتا تو ان کو یہ بات بتائی جاتی تو فرماتے  
تمہارا براہ رکھ کر فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے رسول اللہ ﷺ سے ایسی روایت کی ہے تو اس روایت کو قبول کر لینا ان دونوں  
حضرات کی مخالفت سے زیادہ بہتر ہے اور ان دونوں کی مخالفت حدیث کی مخالفت سے زیادہ آسان ہے ابن خلکان نے کہا ہے  
کہ اپنے مسلک میں ان کے مخصوص مسائل اور دلائل ہوتے، جوان کی علمی پیشگی پر دلالت کرتے لیکن ان پر متعزل ہونے کی تہمت  
بھی لگائی جاتی تھی، انہوں نے شیخ ابو سحاق امروزی سے علم حاصل کیا ہے اور اپنے ناناصن بن محمد الداری سے حدیث حاصل کی  
ہے یہ ابو حامد الاسفاری کے مشائخ میں سے تھے ان سے تھے اسی سے بغداد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اکثر اساتذہ نے حدیث  
حاصل کی ہے، ان کی وفات ماہ شوال میں ہوئی، ویسے ماہ ذی القعده کا بھی قول ہے، ستر برس سے زیادہ عمر پائی ہے۔

### محمد بن احمد بن محمد حسنیہ:

ابو حائل نمیشاپوری اور حسنیہ سے زیادہ مشہور تھے، مذهب شافعی کے فقیہ، ادیب اور محدث تھے، اپنے کام میں مشغول رہتے،  
غیر مفید بالتوں سے دور رہتے۔

### محمد بن عبد اللہ بن محمد:

بن صالح ابو بکر الفقیہ المالکی ابن ابی عمرو یہ الباغنی اور ابو بکر بن داؤد وغیرہم سے حدیثیں سنیں اور ان سے البرقانی  
نے سنی ہے شرح مذهب مالک میں ان کی کئی تصنیفیں ہیں، اپنے زمانہ میں امام مالک کے مسلک کے بھی بڑے مانے جاتے تھے،  
عبدۃ قضا ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے خود اس سے انکار کرتے ہوئے ابو بکر الرازی الحنفی کی طرف اشارہ کر دیا تو انہوں نے بھی  
انکار کیا، اس سال ماہ شوال میں چھیساں برس کی عمر پا کر وفات پائی۔



## واقعات — ۲۷۴۰ھ

ابن ابوزری نے کہا ہے کہ اس سال ماه محرم میں بغداد کے اندر سانپوں اور بہت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے آدمی مر گئے تھے، ساتویں ربیع الاول کے مطابق روی مینے تموز کی میسویں تاریخ تھی، بھلی اور کڑک کے ساتھ زبردست موسلا دھار بارش ہوئی تھی، رجب کے مینے میں چیزوں کی قیمت بہت بڑھ گئی، اور یہ اطلاع میں کہ موصل شہر میں زور دار زلزلہ ہوا جس سے بہت سی عمارتیں گرد پڑیں اور بہت سے انسان مر گئے۔

اسی زمانہ میں صماصم الدولہ اور اس کے بھائی شرف الدولہ کے درمیان قفال چھڑ گیا جس میں شرف الدولہ دوسرے پر غالب آ گیا اور بغداد کو مکنزا کر لیا تو خلیفہ نے بھی اس کا استقبال کیا، اسے سلامتی پر مبارک باد دی، پھر شرف الدولہ نے فراش کو بلوایا تاکہ وہ صماصم الدولہ کو سرمد نہ کرے، اتفاقاً اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو مر نے کے بعد ہی اسے سرمد لگایا گیا اور یہ ایک عجیب واقعہ درپیش ہوا تھا۔

ماوذی الحجہ میں قاضی القضاۃ ابو محمد بن معزز نے قاضی حافظ ابو الحسن دارقطنی اور ابو محمد بن عقبہ کی گواہی قبول کی، تو یہاں کیا گیا ہے کہ اس واقعہ سے دارقطنی کو اس بات پر شرمندی ہوئی کہ تھا میری بات بعض اوقات قول رسول ﷺ کے مقابلہ میں سنی جاتی تھی۔ لیکن اب تھا میری روایت بھی قابل قبول اس وقت ہوئی جبکہ میرے ساتھ دوسرا بھی تائید کو آیا۔

## واقعات — ۲۷۴۱ھ

اس سال ماہ صفر میں خلیفہ کی موجودگی میں ایک مجلس منعقد کی گئی جس میں تمام قاضی اور بڑے بڑے تمام حکام موجود ہوئے، اس وقت خلیفہ طائع اور شرف الدولہ بن عضد الدولہ کے درمیان بیعت کی تجدید کی گئی، وہ ایک تاریخی دن تھا، جسے شان و شوکت سے منایا گیا، ماہ ربیع الاول میں شرف الدولہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر سے محل غلافت میں گیا، پورا شہر سجا گیا، بھل وغیرہ بجائے گئے اور ڈھونل نقارے بجائے گئے، اس موقع پر خلیفہ نے اسے خلعت دیا اور لگنگن پہنایا اور دو جھنڈے بھی اسے دیئے اور اپنے گھر کے باہر تمام علاقے اس کے حوالہ کر دیئے، اور ان علاقوں کا اسے خلیفہ بنادیا، شرف الدولہ کے ساتھ جو بڑے لوگ آئے تھے ان میں قاضی ابو محمد عبید اللہ بن احمد بن معروف بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر خلیفہ نے کہا ہے

مرحبا بالاحبته القادمينا او حشونا و طال ما انسونا

ترجمہ: سامنے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دھشت میں ڈال دیا اور زمانہ دراز تک ہم سے محبت نہیں رکھی۔

اس وقت انہوں نے خلیفہ کے ساتھ میں کامن کر دیا۔ اس کے بعد جنت کا کام ختم ہو گی، تو شرف الدولہ اپنی بھن پر اس یا جو غیرہ کی بیوی تھی، میں اس کے پاس حصہ تک قیام کیا اور اس کا انتظام آرتے رہے تو ان سے نکل کر اپنے گھر انہوں کے سامنے آئے، اس سال ہی نہدی خت کرانی ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں بستر موتیں دوئیں۔ ان سال شرف الدولہ کی مارکات انتقال ہو گیا، جو اہولہ اور ترکی کی تھیں، خلیفہ نے آ کر اس کی تعزیت کی اسی زمانہ میں شرف الدولہ کو جزاں دوڑ کے ہوئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن الحسین بن علی:

ابو حامد المرزوqi جوابن الطبری کے نام سے مشہور ہیں، حدیث کے حافظ اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بخت خیال اور احادیث پر وہ بالغ نظر رکھتے، حنفی فقیہ ابو الحسین کرخی سے سبق لیا، فن فقہ اور تاریخ میں کتابیں تصنیف کیں، خراسان کے قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز ہوئے، پھر بغداد آئے، اس وقت عمر کافی ہو چکی تھی، وہاں لوگوں کو صد شیں بیان کیں اور انہوں نے ان سے حدیثیں لکھ لیں، ان لوگوں میں دارقطنی بھی ہیں۔

اسحاق بن المقتدر باللہ:

انہوں نے سانچھ برس کی عمر پا کر ماڈی الجبکی سترھویں تاریخ جمعہ کی رات وفات پائی اور ان کے بینے القادر باللہ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی، وہ اس وقت امیر المؤمنین کے عہدے پر مأمور تھے اور اپنی دادی شغب جو مقتدر کی ماں تھیں، ان کی قبر کے پاس مدفن ہوئے، ان کے جنازے میں تمام امراء بڑے حاکم خلیفہ اور شرف الدولہ کی طرف سے حاضر ہوئے، شرف الدولہ نے اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر ان کی تعزیت کے لیے غلیفہ کے پاس بھیجا، اور اپنی بیماری کی وجہ سے خود حاضر نہ ہونے پر ان سے مذدرت کی۔

جعفر بن المکتبی باللہ:

بڑے فاضل اور قابل تھے، اسی سال ان کی بھی وفات ہوئی۔

ابو علی فارسی الخوی:

الایضاح کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے، اپنے شہر میں پیدا ہوئے، پھر بغداد آئے، بادشاہوں کی خدمت گزاری کی، عضد الدولہ کے پاس بڑی عزت پائی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہن نہ میں میں ابو علی کا غلام ہوں، اسی بنا پر ان کو بہت دولت حاصل ہوئی، کچھ لوگوں نے ان پر معترض ہونے کا الزام لگایا ہے، ایک جماعت نے ان کو المبرد نجومی پر بھی فضیلت دی ہے، ان سے علم حاصل کرنے والوں میں ابو عثمان بن جنی وغیرہ ہیں۔ سال روائیں میں نوے برس سے کچھ زائد عمر یا کروفات پائی ہے۔

تہییہ

جو کر قاضی ابو عبد اللہ الحسین بن اسماں بن الحجاجی کی میٹی تھیں اُن کی کنیت امام عبد الرحمن قرقان پڑھا، فتن فتن فتن ارض حساب اس فارغ و نیم و تمام علوم میں صدارت حاصل ہی تھی، اپنے وقت میں مذہب شافعی فی ہری عالم تھیں اُن مسلم میں شیخ ابو علی بن ابی ہریرہ کے ساتھ نتوء دیا کرتی تھیں، فی الحیثیت وہ فاضل تھیں، بہت زیادہ سد تے دیا کرتی، یعنی کے ۵ ہوں میں آگے بڑھنے والی تھیں، حدیث کی بھی ساعت کی نوے برَس سے زیادہ عمر پا کر ماہِ رب جب میں وفات پائی۔

## واقعات — ۸۷۸

بغداد شہر کے اندر ماہ محرم میں غلوں کی بہت گرانی ہو گئی، جس سے لوگوں کی موت بھی بہت ہوئی، یہ حالت اُشیعہ ان تک رہی، پھر آندھی اور طوفان بھی، بہت زیادہ آئے، جس نے بہت سے مکانات ویران کر دیئے، اور بہت سی کشتیاں ڈبو دیں اور بہت سی کشتیوں کو دریا سے خشکی پر اس کنارہ سے لا کر کرکھ دیا، جوٹ گیا تھا۔ اور بہت سی پریشان کن بات اور خطرناک معاملہ تھا، ان ہی دنوں بصرہ والوں کو انتہائی گرمی کی تلبیف اٹھانی پڑی، اس حد تک کہ بہت سے انسان راستوں میں گر پڑے اور مر گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احسن بن علی بن ثابت:

ابو عبد اللہ المقری، پیدائشی نایبنا تھے، یہ ابن الانباری کی مجلس میں جاتے، وہ جو کچھ کہتے اور جو کچھ لکھواتے ساری باتیں بالکل یاد کر لیتے، بہت ہنسنے ہنسانے والے اور اچھی صورت کے مالک تھے، فن قراءت سبعد کے اندر شاطبی نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کو یہ بہت پسند کرتے تھے، اسی طرح اس زمانہ کے تمام شیوخ نے یہ کتاب پسند کی، اور اسے قبول کیا ہے۔

الخلیل بن احمد القاضی:

اپنے زمانہ میں حفیہ کے شیخ تھے، فن فقہ اور حدیث میں سب سے بڑھے ہوئے تھے، ابن جریر بغوبی اور ابن ساعد وغیرہم سے حدیثیں سیں، اسی لیے یہ الحجۃ المقدم کے نام سے مشہور تھے۔

زیاد بن محمد بن زیاد:

بن الحیثم ابوالعباس الخرجانی، دونوں خاء کو نقطہ ہے اور یہ قوم کے ایک دیہات کی طرف منسوب ہے، اور کچھ لوگ اسی کو دو جیم کے ساتھ الخرجانی بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ الخرجانی، پہلا حرف خاء نقطہ کے ساتھ اور دوسرا جیم سے کہتے ہیں، یہ حصہ شیخ ابن الجوزی نے اپنی کتاب منتظم میں ذکر کیا ہے۔ اسی سے یہ منقول ہے۔

## — واقعات —

اسی سال شرف الدولہ بن عضد الدولہ بن بویہ الدیلمی کی وفات ہوئی وہ اس سے پہلے حکیموں کے مشورے سے تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے معزز الدولہ کے شاہی محل میں منتقل ہو چکے تھے کیونکہ ان کی بیماری سے تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، بالآخر جمادی الاولی میں تکلیف اور بہت بڑھ گئی اور اسی منینے میں انتقال کر گئے۔

اپنا مقام اپنے بیٹے ابونصر کو بنایا تھا، خلیفہ خود اپنی خاص سواری طیارہ کے ذریعہ ابونصر کے پاس ان کے والد کی تعریت کو پہنچے اس وقت ابونصر اور ان کے ساتھی ترکیوں اور دیلمی سب نے خلیفہ کا استقبال کیا اور خلیفہ کے سامنے زمین کو بوسہ دیا، دیکھا دیکھی بقیہ لشکر والوں نے بھی خلیفہ کے پاس کی زمین کا بوسہ دیا۔ خلیفہ اپنی سواری پر ہی سوار رہے اس وقت رئیس ابو الحسین علی بن عبدالعزیز نے خلیفہ کی جانب سے ابونصر کے پاس پہنچ کر ان کے والد کے انتقال پر تعریت کا پیغام پہنچایا۔ تو انہوں نے دوبارہ زمین کو بوسہ دیا، پھر ایک آدمی کو خلیفہ کے پاس بھیج کر تعریت کی رحمت برداشت کرنے پر ان کی طرف سے شکریہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر وہ شخص خلیفہ کی طرف سے ان کی رعنی کا پیغام پہنچانے کو ان کے پاس پہنچا، اس وقت ابونصر نے تیری بارز میں کو بوسہ دیا اور خلیفہ واپس لوٹ گیا، اس کے بعد اس منینے کی دوسری تاریخ ہفتہ کے دن امیر ابونصر سواری پر سوار ہو کر خلیفہ طائع اللہ کے دربار میں پہنچا، اس کے ساتھ معزز زین شہزاد کام وقت اور سارے تقاضی بھی تھے، خلیفہ نے اپنادر بار ایک سائبان میں لگایا، جب امیر ابونصر وہاں پہنچے تو خلیفہ نے انہیں سات خلعت دے کر نوازا، اور کا سیاہ رنگ کا تھا اور عمامة بھی سیاہ تھا، گردن میں ایک ہار اور ہاتھ میں دو لگن پہنائے، ان کے سامنے پیداے اور دربان تلوار اور لپکے لٹکائے ہوئے چل رہے تھے، اب دوبارہ زمین کو بوسہ دیا، ایک کری ان کے لیے رکھی گئی، اس پر یہ بیٹھے تو رئیس ابو الحسن نے عہد نامہ پڑھا اور ایک جھنڈا خلیفہ کو دیا، تو خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اسے ان کے ہاتھ میں باندھ دیا، اور ان کو بہاؤ الدولہ اور ضیاء الملک کا لقب دیا، پھر وہاں سے اپنے لشکر کو لیے ہوئے رخصت ہو کر شاہی محل میں پہنچا، وہاں وزیر ابو منصور بن صالح کو وزارت سونپی اور خلعت بھی بخشنا، اسی سال بغداد کے مشرقی حصہ میں جامع قطیعہ ام جعفر کی بنیاد ڈالی، اس مسجد جامع کی بنیاد رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اسی جگہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ اس کی دیوار پر رکھے ہوئے ہیں، صحیح کے وقت اس کو جب اپنا خواب یاد آیا تو اس نے اپنی دیوار پر اسی جگہ ہاتھ کا نشان پایا، اس لیے اسی جگہ مسجد کی بنیاد ڈال دی گئی، اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت اسی دن انتقال کر گئی۔

شریف ابو الحسن الموسوی نے اس مسجد کو از سر نوبوآ کر جامع مسجد کی حیثیت دے دی، اور اسی سال لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اسی دلیل مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے تعداد یہ ہے۔

### شرف الدوّلہ:

بن عضد الدوّلہ بن رکن الدوّلہ بن یوی الدین اپنے والدے بعد بغداد کے باڈشاہ ہوئے اچھائیوں کو پسند کرتے اور برائیوں کو ناپسند کرتے، جرم انوں کے معاف کرنے کا عام حکم کر دیا تھا، استقامہ کے مرض میں بیٹلا ہوئے، پھر وہ مرض بہت بڑھ گیا، یہاں تک کہ اٹھائیں برس پانچ ماہ کی عمر میں دوسری جمادی الآخرہ میں جمع کی شب کو انتقال کر گئے، صرف دو برس آٹھ ماہ حکومت کی ان کا جنازہ مشہد علی میں ان کے والدے قریب لے جایا گیا، ان کے تمام کاموں میں شیعیت کو خل تھا۔

### محمد بن جعفر بن العباس:

ان کے یہ القاب تھے ابو جعفر، ابو جعفر الجبار اور غدر ابوکبر غیثا پوری اور ان حیسوں سے روایت حدیث کی بہت بی سمجھدار اور بالخصوص قرآن پاک کی سمجھ بہت زیاد تھی، ثقات میں سے تھے۔

### عبدالکریم بن عبدالکریم:

بن بدیل ابو الفضل الخزاعی الہرجانی بغداد آئے اور باہ حدیثیں بیان کیں، خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ ان کو فن القراءت سے خاص دلچسپی تھی، اور اس کی تمام سندوں کو کتابی شکل دی ہے، پھر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سندوں میں ایک کو دوسرے سے ملا دیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی روایتیں بھی یقین کے قابل نہیں تھیں، انہوں نے حروف کے سلسلہ میں بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اسے ابوحنینؒ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن دارقطنی اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی گرفت کرتے ہوئے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ کتاب موضوع ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہے، اس بنا پر ان کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی، آخر یہ بغداد سے نکل کر پہاڑی علاقوں میں چل گئے، اور یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی، جس سے ان کا مرتبہ بہت گھٹ گیا، یا اپنانام شروع میں جبیل تاتے تھے، پھر نام بدل کر محمد رکھ لیا تھا۔

### محمد بن المطرف:

بن موی ابی عیسیٰ بن محمد بن عبد اللہ بن سلمہ بن ایاس ابو الحسنین الہرار الحافظ۔ سن تین سو بھری کے ماہ محرم میں پیدا شد و میں اہ سنت علاقوں کا سفر کیا۔ ابن جریر اور بغولی اور دوسرے بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے اور ان سے بہت سے دانظموں نے روایت کی ہے، جن میں دارقطنی بھی ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ روایت کی ہے، ان کی بہت عزت اور احترام رکھتے تھے، ان کی موجودگی میں دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، ثقہ اور ثابت تھے، ہمیشہ سے مشائخ پر تقدیم کیا کرتے، سال روایتیں ان کی وفات ہوئی اور تیسری جمادی الاولی یا جمادی الآخری کو ہفتے کے دن دن کیے گئے۔



## واقعات — ۳۸۰

اس سال الشریف ابو احمد الحسن بن موسی الموسوی نو طالبین کے معززین کی نقابت کا اعزاز خدا ساتھی مظالم کی دیکھ بھال اور حاجیوں کے معاملات کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں اور ان کے ان معاملات کو باضابطہ درج رجسٹر کر لیا۔ اس کے علاوہ ان کے دونوں بڑکوں المرتضی ابوالقاسم اور الرضی ابوالحسین علی کو بھی نقابت کا جائشین بنادیا اور ان دونوں کو خلعت پہنایا۔ اسی سال بغداد کے اوپاروں کے حالات اتر ہو گئے اور لوگ ہر محلے میں جوہ بندی کر کے بیٹھ گئے لوگوں کو قتل کرنے اور ان کے مالوں کو لوئئے، آپس کے ایک دوسرے پر بار بار حملوں اور بڑے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کے واقعات بہت بڑھ گئے۔

نہر الدجاج میں دن کے وقت آگ لگ گئی، جس سے بہت سے لوگوں کا بہت مال و سامان جل گیا۔ واللہ اعلم

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

### یعقوب بن یوسف:

یعقوب بن یوسف، ابوالفتوح بن کلس جو شاہ مصر عزیز کا وزیر تھا اور یہ بہت ہوشیار، سمجھدار، بآہم، مدبر بڑوں میں بھی اس کا حکم چلتا تھا۔ بادشاہ وقت نے اپنے سارے ملک کے تمام معاملات میں اسے با اختیار بنادیا تھا، جب یہ بیمار پڑا تو شاہ عزیز نے اس کی عیادت کی۔ اور اس موقع پر اس وزیر نے بادشاہ حکومت کے معاملات سے متعلق کچھ مشورے دیئے اور صیتیں کیں، ان کے انتقال کے بعد اپنے خاص محل میں انہیں دفن کیا اور خود اپنے ہاتھ سے دفن کرنے کے کام انعام دیئے اور ان پر بہت زیادہ غم کا انطباق کیا اور انہی کے وجوہ سے اپنادر بار کئی دونوں کے لیے بندر کھا۔

## واقعات — ۳۸۱

سال روایا میں خلیفہ الطاغیہ اللہ کو لوگوں نے گرفتار کر کے قادر باللہ ابوالعباس احمد بن الامیر اسحاق بن المقفتر باللہ کو اس کی جگہ پر خلیفہ بنا لیا، یہ وقت سال روایا کے ماہ شعبان کی انسیوں تاریخ بختہ کا دن تھا، صورت یہ ہوئی کہ خلیفہ حسب عادت اپنے برآمدہ میں بیٹھا اور بادشاہ بہاؤ الدولہ تخت پر بیٹھا تھا، اتنے میں کسی نے خلیفہ کو اپنی تلوار کے پر تلنے میں باندھ کر تخت سے نیچے اتار دیا اور کسی چادر میں لپیٹ کر حکومت کے خزانچی کے پاس لے گئے اور کچھ لوگوں نے لوٹ کھوٹ کا بازار گرم کر دیا لیکن اکثر کوئی بھی معلوم نہ ہوا کہ کیا واقعہ ہے اور کیا حقیقت ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حکومت کے سب سے بڑے ذمہ دار بہاؤ

الله، نے خواہی اسے گرفتار کر لیا ہے، اسی بنا پر سارے خزانے مال و دولت اور دارالخلافہ کے سارے سامان کو لوگوں نے لوٹ لیا۔ حد یہ ہوئی کہ مہرزین شہر اور حکام بالا اور تمام قاضیوں، مصطفویوں کے پیڑے تک لوٹ لیے گئے اور بہت بڑا حادثہ ہو کیا۔ آنحضرت کار بہاؤ الدلائل نے اپنے گھر پر اخراجیہ طائع اوسی کی نمائش میں شیرزادی کا پیغام جزا اس بات پر معذہ ہے۔ یہ شیرزادی کے امتحان یعنی آنحضرت کا تمام ازدواج خلافت سے دستبرداری کر کے خلافت قادر باللہ کو سوچ دیتے اور تمام بازاروں میں اس کا اعلان کرو دیا یا پھر تو تمام دیلمیوں اور ترکیوں نے مل کر فی الفور اسے مانتے ہوئے قادر باللہ سے بیعت لینے کا مطالبہ اور اس پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اور بہاؤ الدلائل سے اس سلسلہ میں تعلقات کیے اور بات بہت بڑی جمع کے دن تک منبر پر کھل کر کسی کا نام نہیں لیا جاسکا بلکہ صرف یہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ اپنے بندے اور اپنے خلیفہ القادر باللہ کی اصلاح فرم۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے تمام لوگوں کو انہوں نے اس بات پر راضی کر لیا، آخراً رقا در باللہ کے نام پر بیعت لی جانے لگی اور سب اس بات پر متفق ہو گئے، پھر بہاؤ الدلائل نے دارالخلافہ کے اندر کی ساری چیزوں برتن سامان وغیرہ کو اپنے گھر میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور تمام خاص و عام کے لیے دارالخلافہ کے بقیہ سامان کو لوٹ کر لے جانے کی عام اجازت دے دی، چنانچہ وہ لوگ ساری چیزیں کھوں کر اور اکھیز کر شاہی عمارت کا نقشہ بگاڑ کر سب کچھ لے گئے، جس وقت طائع نے قادر کی علاشی شروع کی تھی اس وقت وہ بطیحہ کے علاقے میں بھاگ گئے، اب جب وہ بغداد واپس آئے لگئے تو دیلمیوں نے وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، جب تک کہ دستور کے مطابق وہ بیعت نہ کر لیں، کافی گفت و شنید کے بعد وہ لوگ راضی ہو گئے اور بغداد میں داخل کی اپنیں اجازت دے دی جبکہ بطیحہ کے علاقے میں تین برس تک غائب رہے، داخل ہونے کے بعد دوسرے دن جلسہ عام کیا، اس میں لوگوں نے اپنیں مبارکبادیاں دیں، قصیدے اور مدح خوانیاں خوب ہوئیں۔ یہ معاملات ماہ شوال کے آخری عشرہ میں ہوئے، پھر بہاؤ الدلائل کو خلعت پہنچایا اور دروازے کے باہر کا علاقہ ان کے حوالہ کر دیا، یہ خلیفہ القادر باللہ پسندیدہ اور اچھے خلفاء اور اپنے زمانہ کے بڑے علماء میں سے تھے، داد دہش بہت کرتے اور اپنے عقیدے کے تھے، خاص ایک قصیدہ کہا ہے جس میں صحابہ کرام علیہم السلام کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی قصیدے کہے گئے ہیں، چنانچہ جامع المهدی میں جمع کے دن محدثین کی مجلس میں وہ قصیدے سنائے جاتے اور ان کی خلافت کے زمانہ میں لوگ ہمیشہ سننے کے لیے جمع ہوتے، چند اشعار جو سابق بربری کے ہیں ترجم کے ساتھ گائے جاتے، وہ یہ ہیں:

١- سبق القضاء بكل ما هو كائن والله يا هذا الرزقك ضامن

**مشہد:** جو کچھ بھی ہونے والا ہے تقدیر نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے، اوفلاں! اللہ تو تمہارے رزق کا ضامن ہو چکا ہے۔

٢. تعنى بـما تكفى و ترك ما به تعنى كـانك لـلحوادث أمن

**تشریحیہ:** تم صرف اس جن کی فکر کرتے ہو جو تمہارے لئے کافی ہے، اور چھوڑ دیتے ہو اس کے ساتھ گلی ہوئی ہے، تم ایسا

خال کرتے ہو گوا کہ تم حادثات میں بنتا ہونے سے محفوظ ہو۔

٣- اه مات دی الدنیا و مصر ع اهلها فاعمل لیوم فراقها یا خائن

**نتیجہ:** کہا تم دنیا اور اس کے باشندوں کے قریب نہیں دیکھتے ہو، اس لیے اپنی چدائی کے دن کی فکر کرلو اُسے خانست کرنے والو۔

۲۰۔ مکتبہ اسلامیہ لاہور کے ۱۹۷۵ء میں تین افسوسیں ایجاد کیے گئے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

تشریح: اے دنیا کے آبادگرنے والے! کیا تم ایسا گھر بناتے ہو کہ موت کے ساتھ اس گھر میں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔

٦٠. الموت شيء انت تعلم انه حق وانت بذكره متهاول

**ترجمہ:** موت کے متعلق تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے لیکن تم اس کی پادے سستی کر رہے ہو۔

٧- إن المبنية لاتامة أمر مراتب في نفسه يوماً ولا تستأذن

**تقریجہ:** یقیناً موت اس بات کا مطلقاً خیال نہیں کرتی ہے کہ وہ کس کے اندر اپنا اثر کر رہی ہے اور نہ وہ اجازت چاہتی ہے۔

ماہذی الحجج کی تیاری ہوئی تاریخ جو غدر یحیم کا دن ہے اس میں شیعوں اور سینیوں کے درمیان بڑے ہنگامے ہوئے اور آپس

میں قتل و قتال کرنے لگا جس سے بے شمار نہمان مارے گئے، آخر باب البصرہ والے غالب آگئے اور شاہی جھنڈوں کو جلا دیا۔

اس بنا پر جن پر آگ لگانے کی تہمت لگی ان میں سے بہت سے قتل کر دیے گئے، اور علی الاعلان پلوں کے اوپر انہیں سوئی دی گئی،

تاکہ آئندہ ان جیسے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔

اسی سال ابوالفتوح بن جعفر العلوی نامی ایک شخص مکہ مدینہ میں ظاہر ہوا اور اپنے متعلق اس نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور پاناما راشد بالدر کھا، لکھ دے بھی اس کی طرف مائل ہو گئے ایک شخص نے اپنا مال اس کے نام و صیت کر کے اسے مالک بنایا جس سے اس نے اپنے شہری انتظامات درست کیئے، گرون میں ایک تواریخ کاریہ دعویٰ کرنے لگا کہ یہی ذوالفقار علی ہے اور اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی چھڑی ہے، پھر ملد کی طرف رُخ کیا، تاکہ شام کے عرب سے مدد حاصل کرنے چنانچہ ان لوگوں نے زبردست طریقہ سے اس کا استقبال کیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور امیر المُمْنِین کہہ کر اسے سلام کیا اور اس نے وہاں امر بالمعروف اور نبی عن اُمّتک اور حدود کے قائم کرنے پر توجہ دی۔ پھر مصر کے حاکم نے جو اپنے والد العزیز کے بعد اسی سال ان کی جگہ پر تخت سنبھالا تھا، عرب شام میں پچھالیکی جماعتیں بھیجیں، جنہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کا دینا بھیجیا اور انہیں یمن میں بیٹھا دیا اور بزرگواروں دیناروں دینار دینے کا وعدہ کیا، اسی طرح حجاز کے عرب کے پاس بھی بھیجا اور ملکہ پر ایک شخص کو امیر مقترن کر کے اسے پچاس بزرگوار دینار دیا۔ اس طرح حاکم نے حالات پر قابو پالیا اور اس راشد کی جماعت میں انتشار ہو گیا اس کی قوت ثابت ہو گئی، اور ایک ایک کر کے سب نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پائے والے

اس بارہ مشہور لوگوں میں جس کا انتقال یادو ہے یہ ہے:

احمد بن الحسن بن المهران:

ابو بدر المقری، چھیسا سی برس کی عمر پر اکرم ماہ شوال میں وفات پائی۔ محب اتفاق ہے کہ اسی دن ابو الحسن العامری فلسفی کا بھی انتقال ہوا۔ تو کسی بزرگ نے احمد بن الحسن بن مهران کو خواب میں دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، جواب دیا کہ اللہ نے ابو الحسن العامری کو میرے بغل میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان کی بدولت تم کو جہنم سے رہائی مل گئی۔

عبداللہ بن احمد بن معروف:

اب محمد بغداد کے قاضی القضاۃ تھے، ابن صاعد سے روایت کی ہے اور ان سے الخالل الازہری وغیرہمانے روایت کی ہے۔ شفہ عاقل اور ذہین علماء میں سے تھے۔ حسین صورت، عده لباس استعمال کرتے، مالوں سے مستغنی، پھر برس کی عمر میں وفات پائی۔ ابو احمد الموسی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی، مگر اس میں پانچ تکبیریں کہیں، اپنے گھر میں دفن کیے گئے؛ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

جوہر بن عبد اللہ القائد:

قاہرہ کی بنیاد رکھنے والے اصلًا امنی تھے اور ان کا تب سے مشہور تھے کافور الانشیدی کی موت کے بعد مصر پر قبضہ کیا تھا، سن تین سو اٹھاون بھری میں ان کے آقا العزیز الفاطمی نے انہیں اس طرف بھیجا تھا، چنانچہ یہ ایک لاکھ فوج لے کر ماہ شعبان میں وہاں پہنچے اور قاہرہ کی تغیر کے لیے دوسو صندوق بھیجے تھے، وہ لوگ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے، مگر انہوں نے ان لوگوں کو شکست دے دی اور ان کے باشندوں کو ازسرنو امان دیا۔ مغل کے دن ماہ شعبان کی اٹھار ہو یہی تاریخ وہاں داخل ہو گئے، اس طرح مصر پر پورا قبضہ کر لیا اور اسی سال القاہرہ میں سکونت اختیار کی۔ اس رات کو دونوں محلات کی بنیاد بھی رکھی، اس کے بعد کے جدید ہی سے آقا العزیز کا نام خطبہ میں لینا شروع کر دیا، اور بنی العباس کے خطبوں کو موقوف کر دیا، اپنے خطبہ میں بارہ اماموں کا نام لیتے، اسی طرح اذ ان دینے میں ہی علی خیر العمل کے اضافہ کا حکم دیا، اس طرح لوگوں پر اپنے احسان کا اٹھا کر کیا، اور ہر ہفتے کے دن وزیر ابن الفرات اور قاضی کے ساتھ نشت ہوتی، قاہرہ کی تکمیل میں پوری کوشش ملکی، بہت جلد وہاں جامع الازہر کی تغیر سے فراغت کر لی۔ ۲۲ھ میں وہاں خطبہ دیا، وہی جامع آج کل لوگوں کی زبان میں الجامع الازہر ہے، ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر جعفر بن فلاح کو شام کی طرف روانہ کیا، اس نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ۲۲ھ بھری میں اپنے آقا العزیز کو بھی مستقلہ دہیں بلالیا، جیسا کہ گزر چکا ہے، انہوں نے وہاں پہنچ کر نئے دونوں قلعوں میں اپنی رہائش اختیار کی، ان کا مرتبہ بیشہ بلند ہوتا رہا، یہاں تک کہ سال رواں میں انتقال کر گئے اور ان کی جگہ اس حسین کو مقرر کیا گیا، جسے قائد القواد کہا جاتا ہے، اور یہی سب سے

ڈے حاکم قصہ کے گئے، لیکن اس پار سو ایک بھری میں ان ہی کے ماتھوں، قتل بھی ہوتے اور ان کے ماتھوں ان کے بھنوئی (بھن کے شوہر) قاضی عبدالعزیز بن نعمن بھی قتل کیے گئے میر الامان یہ ہے کہ یہی وہ قاضی ہیں جو ایمان آجرا اور الشاموس الاعظم کے مصنف ہیں، ان تین وہ کثریہ بکواس ہیں جہاں، ایس بھن تین پیش رکھتے ہیں، لیکن ابوہر ابا عقائی نے اس تابہ مکمل جواب دیا ہے۔

## واقعات — ۳۸۲

دو سویں محرم کو وزیر ابو الحسن علی بن محمد الکوبی نے جو کہ ابن المعلم سے مشہور اور بادشاہ پر حادی تھے، کرخ اور باب الطاق کے شیعوں کو یہ حکم دیا کہ اس سے پہلے تک عاشوراء میں بدعت کے جتنے کام مثلاً ناثوں اور بوروں کو بازار میں لٹکانا، بازاروں کو بند رکھنا، اور حسین بن ابی الداؤد پر ماتم کرنا، سب موقوف کر دیے جائیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا گیا۔ فالمحمد لله۔ یہ شخص اہل السنۃ میں سے تھا، البتہ یہ بہت لاچی بھی تھا اس لیے اس نے یہ قانون جاری کر دیا کہ اسے کسی کی گواہی مقبول نہیں ہوگی جس کی عداوت ابن معروف کے بعد ثابت ہوئی ہو، چونکہ ان لوگوں میں اکثر نے اس سلسلہ میں پہلے کافی مال خرق کر دیے تھے۔ اس لیے ان تمام لوگوں نے مل کر جنبدہ کر کے اسے پیش کیا تو اس نے اپنا حکم واپس لے لیا۔

ماہ جمادی الآخرہ میں دیلمیوں اور ترکیوں نے اس ابن المعلم وزیر کے خلاف بہاؤ الدولہ کے پاس شکوئے شکایات کیئے وہ اپنے خیموں سے نکل کر باب الشما یہ کی طرف جا کر جمع ہو گئے اور سلسل اس سے رابطہ قائم کیے رہے کہ اسے ان لوگوں کے حوالہ کردئے کیونکہ وزیر کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہ تھا، لیکن وہ وزیر ایک مخالفت اور زبردست مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر موقع پا کران لوگوں نے رسی سے ان کا گلا گھونٹ دیا تو اسے موت آگئی اور ان کر دیے گئے یہ واقعہ ماہ محرم کا ہے، ماہ رجب میں خلیفہ طالع جس نے اپنی خلافت قادر باللہ کو سپرد کر دی تھی اس خلیفہ نے سابق خلیفہ کو دار الخلافہ کے ایک کمرہ میں رہنے کا انتظام کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ جو کچھ کھانے پینے، تختے تھائف اور ہدایا، استعمالی کپڑے اور خوشبو وغیرہ باہر سے خلیفہ کے لیے آئیں ان میں سے سابق خلیفہ کو بھی دیے جائیں، اور ایک شخص کو خلیفہ سابق کی حفاظت اور خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ لیکن وہ شخص انتہائی بخالت کے ساتھ ہر چیز کم مقدار میں خلیفہ کو دیتا، اس لیے کسی دوسرے شخص کو بدلتا کہ ضرورت کی ساری چیزیں وافر مقدار میں ملتی رہیں، یہی معمول رہا یہاں تک کہ اسی قید خانہ میں خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔

سال روان کے ماہ شوال میں خلیفہ قادر کو ایک لڑکا ہوا، اس کا نام ابو الفضل محمد بن القادر باللہ رکھا گیا، اپنے بعد اسی بچہ کو اپنا ولی عبد مقرر کر کے اس کا نام الغالب باللہ رکھ دیا، لیکن آئندہ اس کا ارادہ مکمل نہ ہو سکا، اسی زمانہ میں بغداد کے بازاروں میں ایک رطل روٹی چالیس درہم کو اور ایک گا جرا ایک درہم کو بکتی۔

ماہ ذی القعده میں الصفراء الاعرابی کے حاکم نے حاجیوں کے آنے اور جانے کے وقت ان کی حفاظتی کا انتظام کیا اور یہ کہ بیامہ اور بحرین سے کوفہ تک تمام جگہوں میں قادر باللہ کا نام خطبوں میں لیا جائے، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، اس خوشی میں اسے

خلعت کے علاوہ مالی اور برترین وغیرہ بھی دینے گئے۔

## مشهور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### محمد بن العباس:

بن محمد بن محمد بن زکریا بن میحیٰ بن معاذ ابو عمر والقراء جواہن حیوہ کے نام سے مشہور ہیں، بغوی باغنڈی اور ابن صاعد کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں سے حدیثیں سُنیں، دارقطنی نے ان کی تقدیم کی ہے اور ان سے بہت سے مشہور لوگوں نے روایت کی ہے۔ ثقہ، دیندار، ہوشیار اور بہادر تھے۔ بہت سی بڑی بڑی کتابیں اپنے ہاتھ سے نقل کی ہیں، قریبًا نوے برس کی عمر پا کر ماہ ربیع الآخر میں وفات پائی ہے۔

### ابو الحسن العسكري:

احسن بن عبد اللہ بن سعید، فن لغت، ادب، خوارنوادر کے بڑے اماموں میں سے تھے، ان مضامین میں ان کی مفید تصانیفیں ہیں، جن میں تصحیف وغیرہ بھی ہیں، الصاحب بن عباد کی معیت کو پسند کرتے تھے، اس لیے ان کے پیچھے چل کر عسکر تک پہنچے، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے ان کا اکرام کیا اور اشعار کا ان سے تبادلہ کیا، نوے برس کی عمر میں سالِ رواں میں وفات پائی، یہ باشیں ابن خلکان نے بیان کی ہیں، ابن الجوزی نے سن ستاری میں وفات پانے والوں میں ان کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ عقریب آئے گا۔

## واقعات — ۳۸۳ھ

سالِ رواں میں قادر بالله نے مسجد الحرمیہ کی تعمیر کرنے، پھر اس پر غلاف چڑھانے کا حکم دیا اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس کے ساتھ خطبوں اور دوسرے معاملات میں جامع مسجدوں جیسا معاملہ کیا جائے، یہ حکم علماء سے اس کے جواز کا فتویٰ لے کر کیا تھا۔

خطیب بغدادی نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی وہ نماز جو بغداد میں ادا کی جاتی تھی اسے مسجد المدینہ، مسجد الرصافہ، مسجد دارالخلافہ اور مسجد براثا، مسجد قطیعہ ام جعفر اور مسجد الحرمیہ میں ادا ہوتے ہوئے پایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہی عمل سن چار سو کاؤن ہجری تک جاری رہا، اس کے بعد مسجد براثا میں یہ عمل موقوف کر دیا گیا۔

بہاؤالدولہ نے مشرعة القطا نین میں جس پل کے بنانے کا افتتاح کیا تھا، مادی الاولی میں اس کی تکمیل سے فراغت ہوئی، اور خود اس پر چل کر اس کا افتتاح کیا، اس سے پہلے اس جگہ کو خوب سجا یا گیا تھا۔

بڑے زمانی میں تیر تھیں۔ بعدی میں اور اکتوبر کی ماہ شروع گئی، اگرچہ ممکن تھی، کیونکہ ان کی آمد یعنی گلی قیمتیں اور پیغمبر مسی کی قیمتیں بہت بیش تھیں، خوش تھے بہاداری اور امداد۔ ابتداء تا کم کیا تھا ان کی ضرورت تھی، یعنی کسی کی قیمتیں نہ ہوں اور اتسعدہ ایسی بڑی سرگرمی تباخ جعرا تھے کہ ان خلائق نے بہاداری، اور کمیں سیدھے سے ایک الٰہ کو، خارج سماں اسماں اور امداد اور وکالت شریف ابو الحماد موسیٰ نے کی، یعنی شبِ عروضی سے پہلے یہ وہ بڑی مرگی۔

سالی رواں میں وزیر ابو نصر سابور بن اردشیر نے کرخ میں ایک گھر خرید کر اس کی عمارت از سر نو درست کی، پھر بہت سی کتابیں خرید کر وہاں بھیج دیں اور فقہاء کے لیے اس گھر کو وقف کرو یا اور اس کا نام دارالعلم برکھا، میرا خیال یہ ہے کہ فقباء کے لیے وقف ہونے والے مدرسون میں یہی گھر پہلا ہو گا، نظامیوں سے یہ بہت پہلے ہوا ہے۔

سالی رواں میں چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، لوگوں کی حالات خراب ہو گئی اور گھروں والے بھوکے رہنے لگے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

احمد بن ابراہیم:

بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران، ابو بکر البراز بنغوی، ابن صاعد، ابن الی داؤد اور ابن الی درید سے انہوں نے روایتیں سنیں، اور ان سے دارقطنی، البرقانی اور الا زہری وغیرہم نے روایت کی ہے، ثابت تھے اور بالکل صحیح سنتے تھے۔ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے، محقق اور پڑیزگار تھے، پچاسی برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ رحمہ اللہ

## واقعات — ۳۸۵

سالی رواں میں فتنہ پروروں کا زور بہت بڑھ گیا تھا، پورے بغداد میں فساد برپا کیے ہوئے پھر رہے تھے شب و روز وہ لوگ زیادہ سے زیادہ مال و صول کرتے، حد سے زائد مزدوری مانگتے، بہت سے علاقوں کو ان لوگوں نے آگ لگادی، بازاروں میں پڑی ہوئی چیزیں مال اور جانور اٹھا کر لے جاتے، پولیس اور حکومت کے آدمی انہیں تلاش کرتے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے اور نہ انہیں حکومت کی کوئی پرواہ تھی، بلکہ وہ وہندے میں مشغول تھے، یعنی سارے علاقوں میں لوگوں کے مال لوٹنا، مردوں کو قتل کرنا، عورتوں اور بچوں کو ڈرانا، جب یہ حد سے بڑھ گئے تو سلطان بہاداری اور خود ان کی تلاش شروع کی اور زیادہ سے زیادہ طریقے ان کو پکڑنے کے نکالے اس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر کہیں چلے گئے اور باشندگان شہر کو سکون میسر نہ آیا، میرا گمان یہ ہے کہ اس تھم کے قصے جو لوگوں نے بیان کیے ہیں وہ احمد الدلف نے ان سے ذکر کیے ہیں، یا یہ کہ یہ خود بھی ان ہی لوگوں میں تھا۔ واللہ اعلم

ماہِ ذوالقعدہ میں شریف موسیٰ اور اس کے دونوں لڑکے نقابت طالبین کے عہدے سے معزول کر دیئے گئے، اس سال عراق سے حج کو جانے والے درمیان راہ سے ہی بغیر حج کے لوٹ آئے، کیونکہ اصغر اعرابی، جس نے ان لوگوں کو بحفاظت

### **۲۸۳۔** کے حالات و اتفاقات کا بیان

عوفہ کے دن شریف ابوالحسین الزہبی نے محمد بن علی، بن ابی تمام الزہبی کو عباسیوں کی نقضتباہت کا عبیدہ دیا اور قاتلیوں اور تمام بڑے عبیدے داروں کی موجودگی میں خلیفہ کے سامنے تقریری نامہ پڑھا کیا۔

مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

ابراهیم بن ہلال:

ابن ابراہیم بن زہرون بن جبول ابو اسحاق الحراتی جو کے صابی اور بہت زیادہ تصنیفات کا مالک تھا، خلیفہ اور معزز الدولہ بن بویہ کے خطوط لکھا کرتا، آخری سانس لیے تھی، وہ مذہب صائمیت پر قائم رہا، اس کے باوجود رمضان کے روزے رکھتا اور قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرتا، عمدہ طریقے سے اس کے حصے یاد بھی کرتا اور اپنے رسائل میں اس کی آیتوں کو استعمال کرتا۔ اگرچہ اس کو اسلام لانے کی بہت زیادہ تر غیب دی گئی، پھر جن اسلام لانے کا اس نے اقران نہیں کیا، اس کے اشعار بہت مدد ہوا کرتے، ستر برس سے زیادہ عمر پا کر ماہ شوال میں وفات پائی، سید تبریف رضی نے اس کا مرثیہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگرچہ میں نے اس کے کچھ فضائل کا مرثیہ لکھا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کچھ فضائل نہ تھے اور نہ وہ ان کا مستحق تھا اور نہ اس میں کوئی کرامت تھی۔

عبدالله بن محمد:

بن نافع بن مکرم ابوالعباس الحستی الزابد۔ وادیں سے اطور و راشت انہیں بہت دولت ملی تھی جسے انہوں نے نیکیوں کی راہوں پر خرچ کر دیا تھا۔ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ستر برس کی عمر میں کبھی بھی نہ دیوار نہ تکریز کی اور چیزی کی طرف لیک رکایا تھا۔ عیشا پورے نے نیکے پیڈل پل کرچ ادا کیا۔ شام جا کر بیت المقدس میں کئی میئنے اقامت کرنے کے بعد مصر اور مغربی علاقوں میں گئے، اور دہان سے حج کو گئے، پھر اپنے شہربست لوٹ آئے۔ جہاں ان کا مالی اور جتنی جانیداد تھی سب کو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ وفات کے وقت بہت زیادہ تنظیف اور درد کا اظہار کرنے لگا تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا میں اپنے سامنے بہت سی خونق کے چیزیں دکھراہوں اور میں نہیں جانتا کہ ان سے میں کس طرح نجات پاؤں گا۔

پچاس برس کی عمر پا کر سال روں کے ماہ محرم میں وفات یاں، ان کے انتقال کی رات انتقال کے بعد کسی عورت نے ان

کی، اللہ کو خواب میں اسی حال میں دیکھا کہ ان کے بدن یہ خوبصورت لور خوشناکیوں سے تھے اس عورت نے انہیں دیکھ کر دریافت لیا اے محترم آپ کے بدن پر اس وقت اتنے بھر کیئے کہا رے کیوں ہیں؟ خواب یا کہ حرم بہت زیادہ حوشی کی حالت میں ہیں کیونکہ، راجڑا مبید اللہ بن محمد ازہد<sup>لهم</sup> قی جماعت پاس آیا ہے۔ ماء اللہ تعالیٰ علی بن عیسیٰ بن عبد اللہ:

ابو الحسن انخوی جو الرمانی کے نام سے مشہور ہیں، اہن درید سے روایت کی ہے، انخوی غوث مسلط اور کلام کے فنون میں انہیں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، ان کی کاصی ہوئی ایک تفسیر بکیر ہے، اب معرفہ کو دیکھ کر انہیں بوس دیا۔ ان سے انخوی اور الجوہری نے روایت کی ہے، ابن خلکان نے کہا ہے کہ انہیں الرمانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ الرمان یعنی انار کا کار و بار کرتے تھے، یا اس محل کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے جو واسطہ میں قصر الرمان نام کا ہے، اٹھائی برس کی عمر میں وفات پائی، شوینذ یہ میں ابو علی فارسی کے قریب مدفون ہوئے۔

#### محمد بن العباس بن احمد:

بن القراء ابو الحسن الکاتب المحدث ثقة اور مامون تھے، خطيب نے فرمایا ہے کہ ثقہ تھے، بہت سی کتابیں لکھیں۔ اتنے علوم جمع کیے کہ ان کے زمانہ میں کسی نے بھی اتنے بعنیوں کیے تھے، مجھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے سوتار تینیں لکھی ہیں اور وفات کے بعد کتابوں سے ہمارے ہوئے امثال بکس چھوڑے جن میں اکثر خود ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں، سو ان کتابوں کے جو انہیں کسی طرح ادھر ادھر سے لا کر دی گئی تھیں، اس وقت تک ان کا حافظہ انتہائی درست تھا، اس کے باوجود ان کی ایک باندی ان کے لکھے ہوئے کو ان سے ملتی تھی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

#### محمد بن عمران بن موسیٰ:

بن مبید اللہ ابو عبد اللہ الکاتب جو ابن المرزبان سے مشہور ہوئے، بغوی اور ابن درید وغیرہما سے روایت کی ہے، اچھی پسند اور آداب کے مالک تھے، اپنے پسندیدہ فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام "کتاب تفضیل الكلاب علیٰ کثیر ممن لبس الشیاب" (کتوں کی فضیلت بہت سے ایسے لوگوں پر جو کچھ رے پہنچتے ہیں)، (بظاہر شریف لوگوں پر)۔

ان کے اساتذہ وغیرہ اکثر ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کے گھر میں رات کو قیام فرماتے، کھانے میں بھی شرکت کر لیتے تھے، عضد الدولہ بھی جب کبھی اس علاقہ سے گزرتے تو ان کو سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے اور ان کے گھر سے نہ نکلنے تک وہ ان کے دروازہ پر کھڑے رہتے، ابو علی الفارسی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی خوبصورتیوں میں سے ہیں۔ لعشقی نے کہا ہے کہ یہ ثقہ تھے، الا زہری نے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں تھے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے نہیں تھے، البتہ ان میں شیعیت اور اعتزال کا مادہ تھا، اور یہ تماع اور اجازت کے دونوں طریقوں کو ملا کر کہا کرتے تھے۔



## واقعات — ۳۸۵

سالِ رواں میں ابن رکن الدولہ بن بویہ نے ابوالعباس بن ابراہیم الصحنی کو اپنا وزیر بنایا، اس کا لقب الکافی تھا، یہ معاملہ الصاحب السما عیل بن عباد کے انتقال کے بعد پیش آیا۔ یہ مشہور وزیر تھا۔ اسی سال بہاؤ الدولہ نے قاضی عبد الجبار کو گرفتار کر کے ان پر زبردست مالی جرمانہ کیا، جرمانے کے طور پر ان سے جو کچھ لیا گیا، ایک ہزار طیسان (سینزرنگ کی مخصوص قیمتی چادریں) اور ایک ہزار معدنی کپڑے وصول کیے گئے تھے، سالِ رواں میں اور اس سے ایک سال پہلے حج ادنیہ کیا، بعد کے سال میں عراق چلے گئے، حرمین شریفین میں فاطمیوں کے نام خطبہ میں لیے گئے۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے یہ تھیں:

#### الصاحب بن عباد:

اسما عیل بن عباد بن عباس بن احمد بن ادریس الطالقانی، ابو القاسم، وزیر جو کافی اللکفۃ سے مشہور ہوئے، مؤید الدہ، بن رکن الدولہ بن بویہ کے وزیر تھے، ان کو علم، فضیلت، براعت، شرافت اور علماء و فقراء پر احسان کرنے کا ملک تھا، یہ ہر سال بغداد میں اہل علم کی خدمت کے لیے پانچ لاکھ دینار دیا کرتے تھے۔ ادب میں بہت ملکہ تھا، مختلف فنون کی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، جو چار سو انوٹ پر لادی جاتی تھیں، بنی بویہ کے وزراء میں ان جیسا اور ان کے قریب بھی دوسرا وزیر نہیں ہوا ہے، جو مجموعی طور پر ان کے صفات کا حامل ہو۔ بنو بویہ کی حکومت ایک سال میں برس چند ماہ رہی، اپنے آقا، مؤید الدولہ اور ان کے بیٹے فخر الدولہ کے لیے پچاس قلعے فتح کیے جو مخصوص اپنی ذاتی سمجھ، حسن مدیر اور حاضر دماغی کی وجہ سے کیا۔ علوم شرعیہ کو پسند کرتے، فلسفہ، علم کلام، علم المذاہرہ اور ان جیسے دوسرے علوم سے نفرت کرتے، ان کو ایک مرتبہ دست ہونے تی بیاری ہوئی تھی، اس وقت جب بھی یہ استخراج کر کے واپس آتے ان خدمت گاروں کے لیے دس دینار وہاں پر رکھ دینے جاتے تھے، تاکہ وہ تنگ دل نہ ہوں، لیکن اس فائدے کی بناء پر وہ لوگ اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ ان کی بیاری طویل ہو جائے، تاکہ زیادہ فائدے حاصل ہوں، اس مرض سے افاقت کے بعد تمام فقراء کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ ان کے گھر کو وہ لوٹ لیں، جو جتنا لے سکتا ہو لے، اس گھر میں صرف سونا ہی تقریباً پچاس ہزار درہم کا تھا، حدیثیں ایسے مشائخ سے سنی تھیں جو اعلیٰ طبقہ کے تھے، اور ان کی سند میں عالی مرتبہ کی تھیں۔ ایک وقت ان کے لیے حدیث لکھوانے کی مجلس (مجلس املاء) کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں بہت بھیز ہوئی تھی، اور بڑے بڑے امراء اور سربرا آور دوہ لوگ بھی شریک ہوئے تھے، جب یہ اس مجلس میں املاء

ادبیت و تحریرتے ہیے، اپنے لگتے تھے، کہ انہوں نے اس بحث میں اپنے کہنا، اس سے اور انہوں نے اپنے میں کے رشتے سے بونکاران سے بزرگ ہوتے سب سے قبیر کرنے پر کام بنا دیا، اور کوئی بھی بھائی کہا کہا پہنچا۔ وہ میں آئے کے بعد آج تک اپنے آہو ابدوارت تو پچھاں اپنے دراثت ملاب اسی سے اپنی تمام ضروریت پر کی اور ہم احوال اگرچہ سلطان بیسیں اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں، لیکن ان کے قصور اور کتنا ہوں سے تائب ہوں اپنے گھر میں خاص ایک جلد مقرر کریں گی اس کا نام بیت التوبہ رکھا تھا، اور اپنی توبہ کی درستگی کے لیے علماء کرام سے ان کے دستخط لیے جب یہ حدیث لکھوانے لگے تو لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے ایک بڑی جماعت کا انتظام کیا گیا، کیونکہ حاضرین کی تعداد بہت زیاد تھی، چنانچہ اس دن جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ان میں قاضی عبدالجبار بھائی اور ان جیسے بڑے بڑے فضلاء اور سادات فقہاء اور محدثین بھی شرکیں ہوئے، قریدین کے قاضی نے ان کے پاس بہت حقیقتی کتابوں کا تخفیف بھیجا اور ان کے ساتھ یہ دعا شعار بھی لکھ کر بھیجے:

#### ۱. العمیدی عبد کافی الکفاة و انه اعقل فی وجوه القضاة

ترجمہ: یہ بنده العمیدی کافی الکفاة کا نام ہے، یقیناً یہ بزرگ، دوسرے تمام قاضیوں میں انتہائی عقلمند ہے۔

#### ۲. حدم المجلس الرفيع بكتاب منعمات من حسنها مترعات

ترجمہ: انہوں نے اوپری مجلسوں کی خدمت کی ہے الیک کتابوں سے جو بہت ہی اعلیٰ درجہ کی ہیں، اپنے حسن سے لبریز ہیں۔ وہ کتابیں جب ان کے پاس پہنچیں تو ان میں سے صرف ایک کتاب رکھ کر بقیہ لوٹادیں، اور یہ اشعار بھی لکھ دیئے:

#### ۱. قد قبلنا من الجميع كتاباً وردنا لوقتها الباقيات

ترجمہ: ہم نے ساری کتابوں میں سے ایک قبول کر لی اور بقیہ کتابیں اسی وقت ہم نے واپس کر دیں۔

#### ۲. لست استغنم الكثير و طبعي قول. حد، ليس مذهبی قول هاتی

ترجمہ: میں زیادہ لیئے کو غنیمت نہیں سمجھتا ہوں کہ میری طبیعت میں ”لو“ کہنا ہے، ”میراندہب“، ”کچھڈا“، ”کہنے کا نہیں ہے۔

ایک مرتبہ یہ شربت نوشی کی مجلس میں موجود تھے، پلانے والے نے ایک پیالہ ان کو بھی بڑھایا، انہوں نے اسے ہاتھ میں لے کر جیسے ہی پینے کا ارادہ کیا فوراً ایک خادم خاص نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جو پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا، آزمائش، پھر انہوں نے کہا کس پر؟ اس خادم نے کہا پلانے والے پر، انہوں نے کہا تمہارا براہو میں ایسا کام جائز نہیں سمجھتا ہوں، اس خادم نے کہا اچھا تو کسی مرغی پر آزمائ کر دیکھ لو، انہوں نے کہا حیوان کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ وہ پورا شربت زمین پر پھینک دیا جائے، اور اس ساتی سے کہا آج کے بعد سے تم میرے گھر نہ آنا، لیکن اس شخص سے اس سلسلہ میں کوئی بات بھی دریافت نہ کی۔

وزیر ابوالفتح نے ابن ذی الکفاستین کو حاکم بنادیا تھا، جس نے ایک وقت میں انہیں موید الدولہ کی وزارت سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ خود کام کرنے لگا، اس طرح کافی وقت گزار دیا، اسی زمانہ میں ایک رات وہ اپنے خاص لوگوں کی مجلس میں خوش گپتوں اور انتہائی خوشی کی حالت میں تھا، ہر قسم کی لذتوں اور سامان کا اس مجلس میں انتظام کیا گیا، اس وقت چند اشعار کہئے

جسکے بعد اپنے مکان پر بیٹھ گئے اور اپنے بیوی کو خوشیوں اور تبریز سے مرتضیٰ شد، یہ یعنی

۱۔ دعویٰ است ثبوت اور دعویٰ است اعذار فتنمہ الحادثہ و حبوب القدر

ترجمہ: میرزا نے اپنے معہوم بیوی اور اپنی ملکیتی میں بھی آزادی اور حبوب القدر سے مرتضیٰ شد، یہ یعنی

۲۔ وحدت ذاتیام شرح شبہ بے ایسی، فہذا نو ان السفرخ

ترجمہ: اور میں نے اپنی چھٹی جوانی کو پکار کر کھانا آدمیرے پاس کر کیں تو خوشی کا وقت ہے۔

۳۔ اذا بَلَغَ اَمْرَءُ اَمَّالَةَ فَلِيَسْ لَهُ بَعْدَهَا مُنْتَزَحٌ

ترجمہ: انسان کی آرزوئیں جب اسے مل جاتی ہیں، پھر تو اس انسان کو ان آرزوؤں سے کنارہ کشی نہیں ہوتی ہے۔

پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ سو یہی مجھے صحیح کی شراب پلاڑی یہ کہہ کر وہ اپنے آرام کے کمرہ میں چلا گیا، اس کے بعد سچ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مؤید الدولہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور اس کے گھر میں نقدی اور مال و سامان جو کچھ تھا سب ضبط کر لیا اور سارے انسانوں میں اسے خونہ غذاب بنا دیا، اور اس کی جگہ پر صاحب ابن عباد کو دوبارہ وزیر بنادیا۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اسی ابن عباد کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس کی عیادت کی غرض سے بادشاہ خیر الدولہ بن مؤید الدولہ آیا اور آئندہ کے لیے ملکی معاملات کے بارے میں اس کو کچھ وصیت کرنے کو کہا تو جواب دیا کہ میں آپ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام معاملات اور قوانین جس طرح جاری ہیں اسی طرح سب بھائی رہنے دیں، اور ان میں تغیر و تبدل مطلقاً نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے تمام معاملات پرانے دستور کے مطابق جاری رہے تو شروع ہے آخوندگی سارے معاملات آپ ہی کی طرف منسوب رہیں گے، اور اگر آپ نے ان میں تغیر و تبدل کیا تو اس سے پہلے کی ساری بھلاناں اور نیکیاں میری طرف منسوب ہو جائیں گی، اور آپ کی طرف بالکل منسوب نہ ہوں گی، حالانکہ میری ولی خواہش ہے کہ ساری بھلانیاں آپ ہی کی طرف منسوب رہیں، اگرچہ ان کا موسی میں در پردہ مشورہ میرا ہی رہتا تھا، بادشاہ کو اس کی یہ وصیت بہت پسند آئی اور اسی نیک مشورہ پر ہمیشہ وہ عمل پیرارہا۔

اس کی وفات سالی روایت کے ماہ صفر کی چوبیسویں تاریخ جمعہ کے دن ہوئی۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ وزراء میں سب سے پہلے ان کا ہی نام الصاحب رکھا گیا، ان کے بعد دوسروں کو بھی کہا جانے لگا، اور ان کو الصاحب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ اکثر و بیشتر وزیر ابو الفضل بن العمید کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی بنا پر اس کی وزارت کے زمانہ کو مطابق الصاحب کہہ کر پکارا جانے لگا، الصابی نے اپنی کتاب ”الناجی“ میں لکھا ہے کہ مؤید الدولہ نے ان کا نام الصاحب رکھا تھا، اس لیے کہ یہ بچپن سے ہی اس کے ساتھی تھے، اس لیے اس نے ان کا نام ہی الصاحب رکھ دیا، جب وہ بادشاہ بن گیا اور ان کو اپنا وزیر بنالیا جب بھی یہی نام رکھا، اور اسی پر قائم رہا، چنانچہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، ان کے بعد دوسرے وزراء کا بھی نام الصاحب رکھا جانے لگا۔

اس کے بعد ابن خلکان نے ایک مستقل قطعہ میں ان کے مکارم اخلاق، نفائل اور لوگوں نے جوان کی تعریفیں بیان کی ہیں، تمام کو ذکر کیا ہے اور ان کی بہت سی تصنیفات کا بھی ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کتاب الحجۃ فی اللغو بھی ہے جو سات

جندوں تیں بنے بس میں لفتے ہوئے اُڑھ لفاظ اباتے ہیں اسی طرح من کے پہنچا شعار بھی لکھ رکھتے ہیں ایک دوسری بھی تیس سو

أ و المزاج و رافت الحمر و تسامها فتش كل الأسر

**مشہود:** ششہ بھی بارہک سے اور شرائی بھی تکلی نے دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں اس لیے معاملہ بھی ایک جیسا ہو گیا۔

٢٠ فكان ما أحمر ولا قدح و كان ما قدح ولا أحمر

**تشریحیہ:** گوما صرف شراب سے اور یالہ نہیں، اور گوما صرف یالہ سے شراب نہیں ہے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ سالی روایت میں تقریباً ساتھ برس کی عمر میں ”ری“ کے مقام میں انہوں نے وفات پائی، لیکن اصحابان کی طرف منتقل کر دیئے گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ

احسین بن حامد:

اب محمد الاریب، جو شیلے شاعر اور مہمہ اخلاق و ادب تھے، علی بن محمد بن سعید الموصلى سے روایت کی اور ان سے الصوری سے روایت کی ہے۔ بہت سچے تھے، انہی نے مقتبی شاعر کو بغداد میں اعلیٰ رتبہ تک اس وقت پہنچا دیا تھا، جب وہ بغداد آیا تھا، پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک بھی کیا تھا، اس سے ہناذر ہو کر اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی تاجر کی تعریف کرتا تو صرف آپ کی تعریف کرتا، یہ ابو محمد مجھے ہوئے شاعر تھے، ان کے عمده اشعار میں سے چند یہ ہیں:

١- شربت المعالى غير متظر بها كساًولا سوقاً يقام لها احرى

**درستہ چیزیں:** میں نے بلند پوں کو یا اپا ہے بغیر کسی انتظار کئے نہ مہنگائی میں اور نہ فرستاری کے دنوں میں اس کے لیے انتظار کرنا پڑا ہے۔

٢٠ وما أنا من أهل المكاسب كلما توفرت الأثمان كنت لها اشرى

تہذیب: میں اپنے ترقیوں کو اس طرح حاصل کرنے والا نہیں ہوں کہ جب کبھی ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کی قبیلیں جمع ہو جاتی ہوں، اس وقت انہیں حاصل کرتا ہوں۔

ابن شاهين الوعظ:

عمر بن احمد بن عثمان بن محمد ایوب زدآن، ابو حفص المشبیر، بہت سی حدیثیں سنی ہیں، اور الباغمی، ابوگبر بن ابی داؤد، البخوی، ابن صاعد اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے، ثقة اور امین تھے، بغداد کے مشرقی جانب رہتے تھے، انہوں نے بے حساب کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کے متعلق یہ مقول ہے کہ انہوں نے تین سو میں سو کتابیں تصنیف کیں جن میں ایک ایسی ہے جو ایک ہزار جزو کی ہے، ایک مند ہے جو پندرہ سو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک تاریخ ڈپڑھ سوا جزاء کی مسئلہ زہد کو ایک سو اجزاء میں لکھا ہے، تقریباً نوے برس کی عمر پا کر سال روایا میں ماوذی الحجہ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ

الحافظ دارقطني:

علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن سعود بن دينار بن عبد الله الحافظ الکبیر آپ فن حدیث کے استاد تھے اپنے زمانہ میں بھی

اک سے پہلے بھی اور اپنے بعد کے زمانے سے آج تک بھی، بے شمار روایتیں سنی ہیں انہیں جمع کریاے انہیں کتابی شکل دیتے، انہیں بہتر بنایا ہے اور ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے ان میں گہری نظر ڈالی، ان کے بیوب کو تلاش کیا، انہیں پرکھا اور بہتر بنایا۔ اپنے زمانے میں یکتا تھے، یا ذہب تھا اپنے زمانہ کے امام تھے ان فنون میں اسما، اثر بجال، ان کی خراپیوں کی سورتوں برقرار و تعدیل، بہتر تصنیف، تایف، روایات کی زیادتی، حقیقت تسلیم پوری پوری پہنچ اور اطلاع میں ان کی مشہور کتاب اپنے مخصوص باب کی تصنیفات میں سب سے بہترین ہے۔ نہ تو اس سے پہلے کسی نے اس جیسی لکھی اور نہ ہی اس جیسی بعد میں لکھی گئی ہے، عمر اسی شخص نے کچھ لکھا ہے، جس نے ان کے ہی سمندر سے کچھ حاصل کیا ہے اور ان ہی کی طرح کام کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے ”کتاب العلل“، جس میں اصل اور نقل، متصل، مرسل، متصل اور معضل سب کو واضح کر دیا ہے اور ایک کتاب ”الافراد“، بھی ہے جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس جیسی لکھنا تو دور کی بات ہے بآسانے وہی سمجھ سکتا ہے جو منفرد قسم کا حافظ حدیث اور حدیثوں کو پرکھنے والے اماموں میں سے ہو، اور بہت ذہین اور دانا ہو، ان کے علاوہ اور بھی تصنیفات ہیں، جیسے ”العقود الاجیاد“ یہ پہنچنے سے ہی بڑی ذہانت اور قوت حافظہ کے مالک، سرعت فہم اور اتحاہ سمندر سمجھے جاتے تھے۔ اک مرتبہ ایک محدث اسماعیل الصفاری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ استار لوگوں کو حادیث لکھوار ہے تھے اور یہ ایک جزء میں احادیث لکھ رہے تھے، اسی مجلس میں کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو صحیح طور پر سن بھی نہیں سکتے ہیں، پھر کیا لکھ رہے ہیں؟ تو ان دارقطنی نے فوراً انہیں جواب دیا کہ لکھنے کے معاملہ میں میری سمجھ آپ کی سمجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ حاضر بھی ہے، تب اس شخص نے ان سے کہا کہ کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ محدث نے کتنی حدیثیں اب تک لکھوائی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب تک اخبارہ حدیثیں لکھوائی ہیں، ان میں پہلی حدیث کی سند و متن یہ ہے، اسی طرح پوری حدیثوں کی تمام سندوں اور متنوں کو بدکرم و کاست حرفاً سند ایا تو تمام لوگوں کو اس پر سخت تعجب ہوا۔ حاکم ابو عبد اللہ النیشا پوری نے کہا ہے کہ دارقطنی جیسا محدث کوئی بھر نہیں پایا گیا ہے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ یہ تمام علوم حدیث، قراءت، نحو، فقہ، شعر وغیرہ کے جامع تھے، امام فنِ عادل تھے اور عقیدہ بھی درست تھا، ستقر برس اور دودن کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ ذی القعدہ کی ساتویں تاریخ منگل کے دن وفات پائی، اور دوسرے دن اس مقبرہ میں مدفون ہوئے جو مقبرہ کرنخی کے نام سے مشہور ہے۔ رحمہ اللہ

ابن خلکان نے کہا ہے کہ انہوں نے مصری علاقوں کا سفر کیا تو زیر ابوبالفضل بن خزابہ نے ان کی بہت زیادہ تعظیم کی، یہ ابو الفضل کافور الانشیدی کے وزیر تھے۔ ان کی سمند کی تکمیل میں حافظ عبد الغنی نے بھی ان کی کافی مدد کی، جس سے دارقطنی کو مال بھی کافی مل گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ انہیں دارقطنی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت دارقطنی کی طرف تھی جو بغداد کا ایک محلہ تھا۔

عبد الغنی بن سعید الضریر نے کہا ہے کہ مندرجہ ذیل لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ میں فنِ حدیث میں جتنی بحثیں کی ہیں، ان کے زمانہ کے کسی دوسرے نے نہیں کی ہے، وہ ہیں علی بن المدینی موسیٰ بن ہارون، اور دارقطنی، خود دارقطنی سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ اپنے جیسا کسی دوسرے کو پایا ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ ایک ایک فن میں مجھے جیسے تو کئی گزرے ہیں، بلکہ مجھ سے بھی بڑھے ہوئے گزرے ہیں، لیکن کئی فنون کے جامع ہونے کی حیثیت سے میرے مقابلہ میں کسی دوسرے کا علم نہیں ہے۔

خطبیب الحمد اور اسے امیر ابو نصر، شیخ الشافعی، اکابر ائمہ اتفاق کے نامے کہ نہیں۔ نکاح پر کہ میں شاپے میں گما کیجیے ہے جو احسن، ارقاطنی کے حوالے دی یافت کر رہا ہوں کہ ان کے ما تھوڑی یا کیا کیا گیا ہے، اتفاق میں ان پر آیا لازمی؟ تو مجھے جواب دیا کیا کہ انہیں جانت میں بھی امام ہیں لیکن پکارا جاتا ہے۔

### عبدال بن عباس بن عباد:

ابو الحسن الطالقانی جوزیر اساعیل بن عباد کے والد تھے جن کا حال گزر چکا ہے، انہوں نے ابو غایفہ الفضل بن الحباب وغیرہ بخدا دیوں، اصفہانیوں اور رازیوں وغیرہم سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے وزیر ابو الفضل القاسم ابو بکر بن مردویہ نے روایت کی ہے، ان عباد کی ایک تصنیف بھی احکام القرآن کے بارے میں ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان کی اور ان کے بیٹے دنوں کی وفات اسی سال ہوئی۔ رحمہم اللہ علی

### عقیل بن محمد بن عبد الواحد:

ابو الحسن الاحتف الغبری جوشیہ، شاعر بھی ہے، ان کا ایک مستقل دیوان ہے، ان کے پچھے عمدہ اشعار کا ابن الجوزی نے اپنی منتظم میں اختیاب کیا ہے، چند یہ ہیں:

۱. اقضی علیٰ مِن الاجل عذل العذول اذا عذل

ترجمہ: میں اپنے لیے موت کا فیصلہ کرتا ہوں، ملامت گری ملامت کو جبکہ وہ ملامت کرے۔

۲. و اشَدَّ مِنْ عَذَلَ الْعَذُول صَدُودُ الْفِقْدُ وَصُدُول

ترجمہ: اور بہت ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں، کسی دوست کا ملاپ کے بعد منہ موز لینا۔

۳. و اشَدَّ مِنْ هَذَا وَذَا طلبُ النَّوَافِلِ مِنَ السَّفَلِ

ترجمہ: اس سے اور اس سے سب سے سخت تکلیف دہ ہے کہیں اور رذیل سے بخشش طلب کرنا۔

اور یہ اشعار بھی ہیں:

۴. مِنْ ارَادَ العَزَّ وَالرَّاحَةَ مِنْ هَمَ طَوِيل فَلِيَكُنْ فَرَدًا فِي النَّاسِ وَ يَرْضَى بِالْقَلِيل

ترجمہ: جو شخص عزت اور طویل غم سے راحت پانے کا ارادہ کرتا ہو اسے چاہیے کہ لوگوں میں تباہار ہے اور تھوڑے پر راضی رہے۔

۵. وَ يَرِى إِنْ سِيرِي كَافِيًّا عَمَّا قَلِيل وَ يَرِى بِالْحَزْمِ إِنَّ الْحَزْمَ فِي تَرْكِ الْفَضْول

ترجمہ: اور دیکھے گا کہ عنقریب تھوڑے کو کافی سمجھے گا، اور ہوشیاری کی نظر سے دیکھے گا کہ فضول کاموں کو چھوڑنے میں ہی علمندی ہے۔

۶. وَ يَدَاوِي مَرْضَ الْوَحدَةِ بِالصَّبَرِ الْجَمِيل لَيْمَارِي أَحَدًا مَا عَاشَ فِي قَالِ وَ قَبِيل

ترجمہ: اور تھائی کے مرض کا علاج کرے گا، سیر جمیل سے کسی سے بھی جھگڑا نہ کرے، بات چیت اور گفتگو سے بھی جب تک کہ زندہ رہے۔

۷. يَلْقَوْمُ الصَّمْدَ فَإِنَّ الصَّمْدَ  
تَهْلِيَ الْعُقُولَ يَلْقَأُكُبَرَ لَا هُمْ يَلْتَكِرُونَ  
تَرْجِيمَهُ: اور حاموشی کو اپنے لیے لازم کرنے کیونکہ خاموش رہنا خلندہوں کی تہذیب سے اور تکلیر و نشر ہیں اس کے لیے پھورہے اور گمانی سے راضی رہتے۔

۸. إِنْ عَيْشَنَ لَأَمْ رَئِيْدَ وَرَبِيعَ مِنْ حَلَّٰى دَلِيلَ  
تَرْجِيمَهُ: انسان کی کوئی زندگی ذیل عال ہو جاتی ہے وہ ہے جبکہ دشمن سے تعلقات میں میانہ روی اور کچے جاہل سے زرمی کے تعلقات ہوں۔

۹. وَاعْتَلَالٌ مِنْ صَدِيقٍ وَتَحْنِيَ مِنْ مَلْوِيلٍ  
تَرْجِيمَهُ: دوست کی وجہ سے بیمار ہونا اور رنجش کو برداشت کرنا اور بدلقنی سے بچنا ملامت گر کی ملامت گری کے باوجود۔

۱۰. وَمَقْلَسَاتٍ بِغَيْضٍ وَمَدَانَاهَ ثَقِيلٍ  
تَرْجِيمَهُ: اور سخت و شمشی رکھنے والے سے تکلیف برداشت کرنا اور بھاری چیز کے قریب ہونا، اُن کہنا لوگوں کے تعلق سے ہر جگہ پر۔

۱۱. وَتَمَامُ الْأَمْرِ لَا يَعْرِفُ سَمَحًا مِنْ بَخِيلٍ  
تَرْجِيمَهُ: اور آخر تک کسی بھی بخیل سے سخاوت کو نہیں پائے گا، جب یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں تو وہ تھنڈے سائے میں رہے گا۔

### محمد بن عبد اللہ بن سکرہ:

ابو الحسین الہاشمی، علی بن المهدی کی اولاد میں سے تھا، شاعر تھا اور دل لگی کرنے والا تھا، اور ہاشمیوں کی سرداری کرنے کے موقع میں قائم مقامی کر لیتا تھا، ایک موقع پر ایک معاملہ فیصلہ کے لیے اس کے سامنے پیش آیا، اس طرح پر کہ ایک مرد آیا جس کا نام علی تھا، اور ایک عورت آئی جس کا نام عائشہ تھا، ایک اونٹ کے جھگڑے میں تو اس نے کہا میں تم دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تاکہ نتیجہ ایک دھوکہ کی شکل میں نہ ہو جائے۔

اس کے عمدہ اشعار اور عمدہ باتوں میں سے یہ چند اشعار ہیں:

۱. فَى وَجْهِ انسانِ كَلْفَتْ بِهَا  
تَرْجِيمَهُ: کسی انسان کے چہرے میں جن پر میں عاشق ہوں چار چیزیں ہیں جو کسی میں جمع ہو جائیں۔

۲. الْوَجْهُ بَدْرٌ وَالصَّدْعُ غَالِيَةٌ  
تَرْجِيمَهُ: چہرہ چاند ہوئے خار پر گوشت ہو تو ہوک شراب ہو دانت اولے کے ہوں۔

اسی کے یہ چند اشعار بھی ہیں، اس وقت کے جبکہ وہ کسی غسل خانہ میں گیا تو اس کے جو تے پوری ہو گئے جس کی وجہ سے اسے اپنے گھر نگے پیر واپس آنا پڑا تھا۔

۳۔ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْفَقَادُ الْمُسْتَقْدَمُ حَمَّا  
تُرجمہ: سنوا میں تمہارے سامنے اہن موسیٰ کے حمام کی برائی کرتا ہوں اگرچہ وہ خوشبوؤں میں اور نرم رہنے میں دوسرے  
غسلی نوں سے بڑھا ہوا ہے۔

۴۔ تَكَاثِرُ النَّصْوَصِ عَلَيْهِ حَنْيٌ  
تُرجمہ: وہاں اتنے زیادہ چور جمع رہتے ہیں کہ جو کوئی وہاں جاتا ہے اسے ننگے پیر اور ننگے بدن آتا پڑتا ہے۔

۵۔ وَلَمْ افْقَدْ بِهِ ثُوبًا وَلِكْنَ دَخَلَتْ مُحَمَّدًا وَخَرَجَتْ بَشَرًا  
تُرجمہ: اگرچہ وہاں میرے کپڑے تو گم نہیں ہوئے، پھر بھی میں وہاں اچھی اور پسندیدہ صورت میں داخل ہوا لیکن بری حالت  
میں وہاں سے نکلا ہوں۔

#### یوسف بن عمر بن مسرور:

ابوالفتح القواس، بغوی ابن ابی داؤد اور ابن صاعد وغیرہم سے روایتیں سنیں اور ان سے الغلال، العشاری، البغدادی اور العنوی  
وغیرہم نے سنی ہیں، ثقہ اور ثابت تھے ابدال سے شمار کیے جاتے تھے، وارقطنی نے کہا ہے کہ ان کے بچپنے ہی میں ہم لوگ ان سے تبرک  
حاصل کرتے، پچاسی برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ ربيع الآخر کی ستائیسویں تاریخ وفات پائی اور باب حرب میں وفات کیے گئے۔

#### یوسف بن ابی سعید:

السیر افی ابو محمد الخوی، کتاب سیبويہ کی وہ شرح جوان سے الدال نے کی تھی، اسے آپ ہی نے مکمل کیا، علم اور دین کے ہر  
معاملہ میں لوگ ان کے پاس آتے، بچپن برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ ربيع الاول میں وفات پائی ہے۔

## — ۳۸۶ —

ماہ محرم میں بصرہ والوں نے ایک پرانی قبر کی وجہ سے کھودی تو اس سے ایک مردہ بالکل تازہ صورت میں پایا گیا، جس  
کے کپڑے بھی بالکل تازہ تھے اور ایک تلوار بھی اچھی حالت میں تھی، لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ حضرت زبیر بن العوام نبی ﷺ کی  
لغش ہے، اس خیال سے انہیں نکال کر دوبارہ کفن پہنا کر دفن کر دیا، اور ان کی قبر کے قریب ایک مسجد بنا کر اس کے ساتھ بہت سی  
زینں اور جائیداد وقف کر دی۔ وہاں مجاہر، حافظ، صفائی کنندے رہنے لگے، اور وہاں فرش اور روشنی کا پورا انتظام کر دیا گیا۔

اسی سال الحاکم العبدی اپنے والد العزیز بن المعز الفاطمی کی جگہ پر مصری علاقوں کے بادشاہ ہوئے، اس وقت ان کی عمر  
صرف گیارہ برس چھ مینے کی تھی، لیکن حکومت کی گلہدشت ارجوان الخادم اور امین الدولہ الحسن بن عمار کرتے رہے پسندوں کے  
بعد الحاکم نے جب حکومت پر پورا قبضہ پالیا اس وقت ان دونوں کو قتل کر کے ان کی جگہ پر اور کسی کو مقرر کر دیا۔ ان کے علاوہ اور  
بھی بہت سے دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ حکومت پورے طور پر سنبھل گئی، جیسا کہ ہم غقریب بیان کریں گے۔

اس سال اس شخص کو حج کا امیر بنا یا گیا جو مصریوں کی طرف سے مقرر ہو چکا تھا اور خطبہ میں بھی ان ہی لوگوں کے نام لیے گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات یافے والوں کے نام یہ ہیں

امد من ابراہیم:

بن محمد بن بیکر بن تجوید ابو حامد بن اسحاق المزراکی نیشاپوری اصم اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں سے روایتیں ہیں اپنے بچپنے سے آخری دم تک بہت زیادہ عبادت گزار رہے سالہاں سال متواتر انتیں برس تک روزے رکھتے رہے حاکم نے کہا ہے کہ میرے خیال میں کرانا کاتینے نے ان کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی ہے تو یہ شر برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ شعبان میں وفات پائی ہے۔

ابو طالب الہمکی:

وقت القلوب کے مصنف، محمد بن علی بن عطیہ ابو طالب الہمکی، الواقعۃ المذکر بڑے زاہد اور عبادت گزار مرد صالح، حدیثیں ہیں اور ایک سے زائد محدثین سے روایت کی تلقین نے کہا ہے کہ یہ مرد صالح اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے انہوں نے ایک کتاب لکھ کر اس کا نام ”وقت القلوب“ رکھا ہے اس میں بے اصل حدیثیں ذکر کی ہیں جامیع بغداد میں رہ کر یہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہتے۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ فلی اعتبارے یہ پہاڑی ملکہ کے تھے مکہ میں جوان ہوئے ابو الحسن بن سالم کی وفات کے بعد بصرہ میں داخل ہوئے تو ان کے مقابلہ کی طرف منسوب ہوئے پھر وہاں سے بغداد گئے تو لوگ ان کے اروگ درجع ہونے لگے اور ان کے وعظ کی مجلس منعقد ہونے لگی لیکن اس وعظ میں غلط باطنی بھی کہنے لگے جن میں ان کا ایک مقولہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ”خالق سے بڑھ کر مخلوق کے لیے کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے“ یہ جملہ سن کر لوگ ان سے بد دل ہو کر ان سے کنارہ کش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے سے بھی انہیں روک دیا گیا۔ یہ ابو طالب تمام اور گانے کو جائز کہتے تھے اس بنابر عبد الصمد بن علی نے انہیں بد عادی اور ان کے پاس جا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو ابو طالب نے یہ شعر پڑھا۔

فیالیل کم فیک من متعة ویاصبح لیلک لم تقرب

ترجمہ: اے رات، کتنے ہیں جو تیرے وقت میں بلاک ہوئے ہیں اور اے صبح! کاش تو قریب نہ ہوتی۔

تو عبد الصمد یہ سن کر غصہ سے نکل آئے ابوالقاسم بن سرات نے کہا ہے کہ میں اپنے شیخ ابو طالب کی کے پاس ان کی جان کنی کے وقت پہنچا تو میں نے ان سے کچھ وصیت کرنے کی فرمائش کی فرمانے لگے کہ اگر میرا خاتمہ بخیر ہو تو میرے جنازے پر بادام اور شکر پختہ اور کرنا میں نے کہا مجھے آپ کے خاتمہ بخیر ہونے کا علم کس طرح ہوگا؟ تو انہوں نے کہا آپ میرے بغیر میں بیٹھے رہیں اور آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اگر اسی حال میں میری روح قبض ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ میرا خاتمہ بخیر ہو گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے حکم کی بجا آوری کی جب بالکل آخری وقت آیا تو انہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ میرے ہاتھ

کو جلگھ لیا اس کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے وصیت کے مطابق اس جنازو پر بادام اور شکر اٹھائے ابین الجوزی نے کہا تھا کہ سال روان کے ماہ جمادی الآخرہ میں اسی دن قاتل ولی اور باعث الرسانی کے ساتھ اُن کی کیتے۔

### اعزیز صاحب مصر

خوار بن المعر، معد المیت تھیم، خوار کی کنیت اہ منسہ وحشی اور القتب العزیز تھا، بیان یہیں بریں کی مدد میں وفات پائی اپنے اللہ کے بعد اکیس بریں پانچ میں اور دس دن تک حکومت کی اور ان کے بعد ان کے لڑکے الحاکم نے حکومت سنگھائی اللہ اس کا حشر بردا کر کے یہی وہ الحاکم ہے جس کی طرف گراہ اور گراہ کنندہ زندیقوں کا الحاکم یہ فرقہ منسوب ہے اور اسی کی طرف وادی تھیم والے درز یہ منسوب ہیں جو اسی حاکم کے اس غلام کے مانے والوں میں سے ہیں جسے حاکم نے ان کے پاس کفر شخص کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے اسے مان لیا تھا۔ اس پر اور ان سب پر اللہ لعنت کرے اس عزیز نے ایک نصرانی شخص جس کا نام عیسیٰ نسطور س تھا اور دوسرا ایک یہودی جس کا نام میشا تھا دونوں کو اپنا وزیر بنالیا تھا ان دونوں کی وجہ سے اس زمانے کے ان کے مانے والوں کی مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادت عزت اور اہمیت تھی یہاں تک کہ ایک موقع پر اس کے پاس ایک عورت نے اپنی ایک ضرورت پر اسے اس مضمون کا بیان کیا ”واسطہ ہے اس ذات کا جس نے نصاریٰ کو عیسیٰ بن نسطور س اور یہود کو میشا کے سبب عزت دی ہے اور ان دونوں کے سبب سماں نوں کو ذلیل کر رکھا ہے کہ آج تک زور زبردستی سے میری چھینی ہوئی چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اس درخواست کی بنا پر اس نے ان دونوں وزیروں کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا اور نصاریٰ سے تین لاکھ دینار وصول کیے اس سال عضد الدولہ کی بیٹی جو الطاائع کی بیوی تھی کا انفال ہو گیا تو اس کا ترکہ اس کے بھتیجے بھاؤ الدولہ کے پاس بھیج دیا گیا جس میں بہت زیادہ ہیرے تھے۔ واللہ اعلم



## وَاقْعَاتٌ — ۳۸۷ھ

اس سال فخر الدولہ ابو الحسن علی بن رکن الدین بن بویہ کی وفات ہوئی اور ان کی جگہ پر اس کے بیٹے رستم بو شایا گیا جس کی عمر صرف چار برس تھی، اس لیے اس کے والد کے خاص لوگوں نے ملک اور رعایا کی گنبد اشت کی۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

#### ابو احمد العسكری الملغوی:

احسن بن عبد اللہ بن احمد العسكری الملغوی، اپنے فن کے بڑے عالم تھے، ان کی تصانیف میں فن لغت میں ایک کتاب ”المفید“ ہے، اس کے علاوہ بھی تصانیف ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعتزال کی طرف مائل تھے، جبکہ الصاحب بن عباد خود اور فخر الدولہ اس شہر میں پہنچ چہاں، ابو احمد العسكری موجود تھے، اور عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان پر بڑھا پا طاری ہو چکا تھا، تو الصاحب بن عباد نے ان کے پاس اپنا ایک نظر بھیجا جس میں یہ اشعار لکھ دیے تھے۔

۱. وَلَمَا يَيْتَمْ أَنْ تَزُورُوا وَقْلَتْهُ ضعفنا فما نقوی علی الْوِجْدَانِ

ترجمہ: اور جب آپ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ آپ ہم سے ملاقات کریں اور یہ کہہ دیا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں اور اب ملاقات کرنے کی قوت نہیں پاتے۔

۲. إِنِّي أَكُمْ مِنْ بَعْدِ أَرْضِ نَزُورِكُمْ فَكُمْ مِنْ مُنْزِلٍ بَكْرٍ لَنَا دُعَوْانِ

ترجمہ: تو ہم خود ہی آپ کے پاس دور راز علاقہ سے آپ کی ملاقات کو پہنچ گئے اب تو بہت سے جوان اور ادھیر میں مہمان بنانے والے ہیں۔

۳. يَنَاشِدُكُمْ هَلْ مِنْ قَرْيَ لَتَرْيَكُمْ بِطُولِ حَوَارٍ لَا يَمْلِ جَفَانِ

ترجمہ: اب ہم آپ کو قوم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس آپ کے مہمان کے لیے دعوت کا سامان ہے، دیریہ ہمنشین کے طفیل ایسا سامان جو ہمارے پیالوں کو والٹ پلٹ نہ کر دے۔

۴. تَضَمَّنْتُ بَيْتَ ابْنِ الرَّشِيدِ كَانَ مَا

ترجمہ: میں نے ضمانت دی ابن رشید کے شعر کی گویا کہ اس نے غمانت دی اس کے ساتھ میری تشبیہ اور میری خوبی کی۔

۵. اهْمُ بِأَمْرِ الْحَرْمَ لَا إِسْتِطِيعُهُ وَقَدْ حَيلَ بَيْنَ الْعِيرِ وَالنَّزُوانِ

ترجمہ: کیا میں نے ارادہ ایسے غم کے معاملے کا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا اور تحقیق وہ حائل ہو گیا ہے عیر اور نزوان کے درمیان۔

پھر مشکل ان کو پچھر پڑا اور کرویا اور وہ خود الحساب کے پاس پہنچ گئے تو انہیں دہلی اس عالی شہر پا یا کہ دہلی پہنچنے کی میں وزارت کی آن بان کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول تھے یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی آستین پڑھائی پھر بلند آواز سے یہ اشوار پر حصہ لگے۔

۱۔ مالی ارجی القبة الفیحاء مقالۃ دونی وقد طال ما استفتحت مقتطفها

**ترجمہ:** مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اتنے لانے چوڑے گند کو اپنے سامنے تالا لگا ہوا پاتا ہوں اور زمانہ دراز سے میں اسے نہیں کھلواس کا ہوں۔

۲۔ کانہا جنۃ الفردوس معرضۃ ولیس لی عمل ذاک فادخلها

**ترجمہ:** یہ تو گویا جنت الفردوس ہے جو سامنے ہے اور میرے پاس کوئی عمدہ مال نہیں ہے کہ میں اس میں داخل ہو سکوں۔

صاحب نے جب ان کی آواز سنی تو انہوں نے بھی بلند آواز سے پکار کر کہا اے ابو احمد! آپ چلے آئیں کہ اس طرح پہل کر کے چلے آئے میں آپ کو فو قیت حاصل ہو گئی یہ جب ان کے پاس پہنچنے تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، سالی رواں کے یوم الترمذی میں وفات پائی، ابن خلکان نے کہا ہے کہ ان کی ولادت سن دو سو ترا نوے ہجری کے ماہ شوال کی سولہ بیانیں تاریخ جمعرات کے دن ہوئی اور سن نویں سو بیانی ہجری کے ماہ ذی الحجه ساتویں تاریخ جمعرات کے دن وفات پائی۔

عبداللہ بن محمد بن عبد اللہ:

بن ابراہیم بن عبید اللہ بن زیاد بن مہران ابو القاسم الشاعر، بن ابن الشاج سے مشہور ہوئے کیونکہ ان کے دادا نے خلیفہ لورف کا بدبی کیا تھا، اس سے خلیفہ کے دل میں اس کی اہمیت ہو گئی اور خلیفہ کی مجلس میں یہ شلاج (برف والے) سے مشہور ہو گئے، ان ابو القاسم نے بنوی، ابن صاعد اور ابو داؤد سے روایتیں سنیں، اور التوخي، الازہری اور عقیقی وغیرہم حفاظ حدیث سے حدیث روایت کی۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ بعض محمد شین میں جن میں دارقطنی بھی ہیں، ان پر تہمت لگائی ہے کہ یہ حدیث کی مختلف سندوں کو ایک کو دوسرے سے ملا دیا کرتے تھے اور کچھ محمد شین کی طرف منسوب کر کے حدیثیں وضع کر لیتے تھے، ماہ ربیع الاول میں چانک وفات پائی ہے۔

ابن زوالق:

احسن بن ابراہیم بن الحسین بن الحسن بن علی بن خالد، بن راشد، بن عبید اللہ بن سلیمان بن زوالق، ابو محمد المصری الحافظ، مصر کے قاضیوں کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور اس کے آخر میں ابو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب الکندی کی کتاب کا بھی اضافہ کر دیا ہے جو سن دو سو چھیالیس تک کے احوال کی ہے، اور ابن زوالق نے قاضی بکار سے تین سو چھیاسی تک کے حالات کا اضافہ کیا ہے، اور یہی زمانہ محمد بن العمان فاطمیوں کے قاضی کا ہے، جنہوں نے قاضی الباقلانی کے رد میں ایک کتاب البلاغ تصنیف کی ہے اور وہ عبدالعزیز بن العمان کے بھائی ہیں۔ واللہ اعلم۔ ان کی وفات اکاسی برس کی عمر میں اسی سال ماہ ذی القعدہ کے آخر میں ہوئی۔

ابن بط عبد اللہ بن محمد:

ابن حماد، ابن عبد اللہ العلّمی، ابن بط مسی مشهور ہیں، ایک ہرے جنبلی عالم ہیں، بے شمار علوم پر ان کی بے شمار تصدیقیں ہیں، انہوں نے بغوی، ابو بشر الشیخا پوری اور ابن صاعد کے علاوہ مختلف شہروں کے بہت سے محدثین سے حدیث کی سماعت کی ہے اور ان سے بہت سے حافظین حدیث نے بھی روایت کی ہے جن میں ابو الفتح بن ابی الغوارس، الازجی، البرکی بھی ہیں، بہت سے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، امر بالمعروف اور نبی عن المنکر پر عمل کرنے والوں میں سے تھے، کسی عالم نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ آپ کے فرموداں تو مختلف نہ ہوں میں بٹ گئے ہیں، اس لیے کس پر عمل کرو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ابو عبد اللہ بن بط کے ملک پر عمل کرو، صحیح ہوتے ہی یہ ان کے پاس خواب کی بشارت سنانے کو گئے، ابن بط ان کو دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے تین بار فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بالکل حق فرمایا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے شیخ عبدالواحد بن علی الاسدی جو ابن برہان اللغوی سے مشہور ہیں، ان سے ایک روایت میں ابن بط کی جرح و طعن پا کر ابن بط پر کلام کیا ہے، لیکن ابن الجوزی نے اپنے بعض مشائخ سے ابن بط کی تعریف سن کر خطیب بغداد کے کلام اور طعن کا پورے طور پر رد کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ چنانچہ ابوالوفا بن عقیل سے منقول ہے کہ ابن برہان مر جیہ کے مذہب کے قائل تھے۔ اس طرح پر کہ کفار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور دوام کے قائمین نے محض تشفی کے لیے ایسی بات کی ہے اور آخرت میں تو اس تشفی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ علاوہ ازیں خدا نے پاکی نے اپنی صفت غفور الرحیم بھی بتائی ہے اور ارحم الراحیم بھی ہے، پھر ابن عساکر نے علی نے برہان کا رد کرنا شروع کیا ہے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جرح کس طرح مقبول ہو سکتا ہے، پھر ابن الجوزی نے اپنی سند سے ابن بط سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جویں سے احتجم سنی ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے دلیل ثابت دلیل منقی پر مقدم ہوا کرتی ہے، خطیب نے کہا ہے کہ مجھ سے عبد الواحد بن برہان نے کہا ہے کہ ہم سے محمد بن ابی الغوارس نے بیان کیا ہے کہ ابن بط سے منقول ہے، انہوں نے بغوی سے اور انہوں نے ابو مصعب سے انہوں نے ماں کے سے انہوں نے زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے بیان کیا ہے، کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مسلم پر طلب علم فرض ہے، خطیب نے کہا ہے کہ حدیث مالک سے باطل ہے، اور یہ روایت ابن بط پر محمول ہے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس کے جواب کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ابن برہان کی تحریر میں یہ بات ملی ہے جو ابن بط کی برائی میں خطیب نے بیان کی ہے کہ وہ میرے شیخ ہیں اور میں نے بچپن میں ان سے علم حاصل کیا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ابن برہان نے ان کے بارے میں بڑھ کر برائی نکالی ہے حالانکہ یہ بات اجماع محدثین کے خلاف ہے، لہذا کسی شخص کے بارے میں ایک شخص کی ایک بات کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے، جو کہ اجماع کے خلاف ہو، اس طور پر کہ تمام مشائخ علماء سے یہ بات منقول ہے کہ وہ یک مرد اور مستجاب الدعوات تھے۔ خواہشاتِ نفسانی کے اتباع سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔

علی بن عبد العزیز بن مدرگ:

ابو الحسن البردی، ابو حاتم اور ان کے علاوہ دوسروں سے بھی روایت کی ہے، بہت مالدار ہو کر بھی دنیا چھوڑ رکھی تھی، اور فکر

آن خواستہ کی تھی تھی مگر تین ہفتہ میں مکمل نہ تھی تھی بنت زینہ نماز بڑھتے اسے اور علیت آزاد رکھتے۔

### فخر الدولہ بن یوسف

میں بن رکن الدولہ ابو علی اشیع بن سعید الدینی میں اور اس کے اطراف میں باادشاہت فی اس وقت جلد ان کے بھائی مولید الدولہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت یا اپنے شہر سے باہر تھا اس وقت کے ویرا بن جہاد نے انہیں احلاع دئی کہ فی المخروہہ یہاں پہنچ جائیں چنانچہ وہاں پہنچتے ہی انہیں باادشاہت پسرو دکردی گئی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ابن عباد و عہدہ وزارت پر بحال کر دیا، چھیالیس برس کی عمر پا کر وفات پائی، جن میں تیرہ برس وس میں سترہ دن باادشاہت کی بے شمار دولت ترک میں چھوڑی، جن میں صرف سونا ہی تمیں لا کھو دینا کا، جواہر کے ٹکڑے پندرہ ہزار، جن کی مجموعی قیمت تقریباً تمیں لا کھٹھی، ان کے علاوہ سونے کے برتقن دس لاکھ دینار کے، چاندنی کے برتقن تین لاکھ درہم کے، یہ سب برتقن کی شکل میں تھے، کپڑے تین ہزار گھنٹھیاں اونٹوں کے بوجھ کی، بھتیجا روں کا خزانہ ایک ہزار اونٹوں کے وزن کا، فرش وغیرہ پندرہ ہزار اونٹوں کا بوجھ اور باادشاہوں کے مناسب دوسری تفرقی چیزیں تو اتنی تھیں کہ ان کا حساب بھی ممکن نہیں تھا۔ اتنی دولت چھوڑنے کے باوجود ان کی موت کی شب ان کے پاس کچھ بھی سامان نہ تھا، یہاں تک کہ کفن کے لیے بھی مسجد کے مجاورین کے دیے ہوئے کپڑوں سے تکفین ہوئی، اور جنازہ کو چھوڑ کر لوگ قائم مقام باادشاہ بنانے میں شغول رہے، بالآخر ان کے بیٹے رسم کو باادشاہت سونپی گئی، اس عرصہ میں نقش اس قدر بد بودار ہو گئی تھی کہ وہاں تک لوگوں کا پہنچنا بھی ممکن ہو گیا، بمشکل تمام کسی طرح رسیوں سے باندھ کر کھینچ کر قلعہ کے کسی گڑھ میں ڈال دیا گیا۔ ایسا کرنے سے اجزا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے عمل کا پورا پورا ابدالہ تھا۔

### ابن سمعون الوعظ:

محمد بن احمد بن اسماعیل ابو الحسین بن سمعون الوعظ ایک بڑے مرد صالح عالم تھے، ان کو حکمت سے بھر پور گفتگو کرنے والا "النااطق بالحکمة" کہا جاتا ہے، ابو بکر بن داؤ داور ان جیسے لوگوں سے حدیث کی روایت کی، وعظ و نصیحت کرنے اور معاملات کے اندر بار بار کی نکلنے میں بہت مہارت تھی۔ ان کی کراتمیں اور ان کے مشکل شفات بھی بہت مشہور ہیں، ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر یہ وعظ کہہ رہے تھے، ان کے نیچے ابو الفتح بن القواس بیٹھے ہوئے تھے جو نیکی میں بہت مشہور تھے، کچھ دیر بعد ابن القواس کو اونٹھا آگئی؛ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہی اپنا وعظ روک کر بیٹھ رہے جب وہ بیدار ہوئے تو ابن سمعون واعظ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اس وقت رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے؟ جواب دیا جی، ہاں فرمایا کہ اسی لیے تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا تاکہ آپ کی اس کیفیت میں خلل نہ ڈالوں۔

اسی طرح ایک شخص کی ایک لڑکی مستقل مریضتی اس نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ابن سمعون کے گھر جا کر انہیں اپنے گھر بلاؤ، وہ آکر تمہاری لڑکی کی صحت کے لیے دعا کر دیں گے، تو اللہ کے حکم سے تمہاری لڑکی تدرست ہو جائے گی، صح ہوتے ہی وہ شخص ان بزرگ کے پاس پہنچی، ابن سمعون بزرگ اس شخص کو دیکھتے ہی از خود اٹھے اور اپنے کپڑے بدال کر گھر سے نکل کر چلنے لگے، اس شخص نے یہ گمان کیا کہ یہ شاید کسی وعظ کی مجلس میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے

رات تھی میں امام طلب سرخ کر دوں گا، مگر وہ آگ بڑھتے گئے تھے اس تک کہ خود ہی اس شخص کے دروازے میں داخل ہو گئے، یہ پہنچنے کی لڑکی لا کی آئی اور وہ اس لئے دعا کرنے لوٹ آئے واقعۃ اللہ تعالیٰ حکمر سے وہ اسی وقت بالکل تند رست ہو گئی۔ اسی صورت علیہ اللہ تعالیٰ عصیٰ حالت تھیں اینے اُدی و ان کے پاس بھیج تر بولایا ایسی حالت تھیں وہ اُدی و ان کی بہان کا خطروہ محمد علی ہوئے ابھی، نیکن ان کے نام پر بھیجت ہی انہوں نے دعویٰ کہنا شروع کر دیا اور اپنے دفعہ میں زیارتِ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے فرمودات ہی بیان کرتے رہے، ان کی باتیں سن کر خلیفہ رونے لگا یہاں تک کہ رونے کی آواز سنائی دینے لگی تھی، بالآخر یہ اس مجلس سے بہت ہی باعزت طور پر انھوں کر چلے آئے، اس وقت خلیفہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو جس وقت اپنے پاس بلوایا تھا، ہم نے آپ کے چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے تھے، تو خلیفہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ خبر ملی تھی کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کی برائیاں بیان کرتے پھر تے ہیں، اس لیے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو سزا دوں گا، نیکن بیان آنے کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب کا تذکرہ کرتے رہے، جس سے میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جاری ہے اور وہ بزرگوں میں سے ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے کافی نصیحت کی اور میری خاطر خواہ تشویح کی۔

ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ کے بغل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ فرماتے تھے کہ کیا میری امت میں احبار عیسیٰ علامہ نہیں ہیں اور کیا میری امت میں گرجاگھروں والے نہیں ہیں۔ اتنے میں وہاں ابن سمعون پہنچ گئے، انہیں رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا آپ کی امت میں ان جیسا بھی کوئی ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، ابن سمعون کی ولادت سن میں سو بھری میں ہوئی اور سالِ روایت کے ماہ ذی الحجه کی چودھویں تاریخ جمعرات کے دن وفات ہوئی، اپنے گھر میں دفن کیے گئے، ابن الجوزی نے کہا ہے کہ دفن کرنے کے دو سال بعد قبر سے انہیں نکال کر مقبرہ احمد بن حنبل میں دوبارہ دفن کر دیا گیا، اس وقت تک ان کا پہلا نام پرانا نہیں ہوا تھا۔

### سامانی بادشاہوں کے آخری شخص نوح بن منصور:

بن نوح بن نصر بن احمد بن اسما عیل، ابو القاسم السامانی خراسان، غزنه اور ماوراء النهر پر بادشاہت کی، صرف تیرہ برس کی عمر میں تخت نشینی ہوئی تھی، اکیس برس نومیئن تک بادشاہت کی، پھر ان کے خواص نے انہیں گرفتار کر کے ان کی جگہ پر ان کے بھائی عبد الملک کو بھادرا یا، اس کے بعد محمود بن سلطنتی نے ان سے بھی بادشاہت چھین لی، مجموعی طور پر ان سامانیوں کی حکومت ایک سو سال تھی، اس تک قائم رہی، بالآخر سالِ روایت میں ان کی حکومت بر باد ہو گئی، اب صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا، جیسا کہ پہلے بھی تھا۔

### ابوالطیب سہل بن محمد:

بن سلیمان بن محمد بن سلیمان الصعلوکی، شافعی الحسلک، فقیہ اور اہل نیشاپور کے امام اور اس اطراف و جوانب کے شیخ تھے، ان کی مخلوسوں میں پندرہ سو دو تین آیا کرتی تھیں، بہت سے علماء لکھنے کو حاضر ہوتے تھے، مشہور قول کے مطابق اسی سال ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن حافظ ابویعلى الحنفی نے الارشاد میں لکھا ہے کہ سن چار سو سال تھے بھری میں وفات ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## واقعات — ۳۸۸

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس سال ماہ ذی الحجه میں زبردست مخدود پڑی یہاں تک کہ حمام کا گرم پانی بھی جنم گیا اور جانوروں کے پیشہ بھی راستوں میں جم گئے، سال روایت ہی میں ابوطالب بن فخر الدولہ کے سفیر خلیفہ کے پاس بیعت ہونے کو آئے تو خلیفہ نے ان کی بیعت قبول کر لی اور ان ابوطالب کو ری شہر کی امارت سونپ دی، اور ان کو مجد الدولہ، کھف الامدہ کا لقب دیا گیا، پھر خاص خلعت اور جھنڈے ان کے پاس سمجھے، ایسا ہی بدر بن حسنیہ کے ساتھ بھی کیا اور ناصر الدین والدولہ کا لقب دیا، یہ بہت زیادہ صدقات اور خیرات دینے والوں میں سے تھے۔

سال روایت میں ابو عبد اللہ بن جعفر جواب بن الوثاب سے مشہور اور اپنے دادا الطائع کی طرف منسوب تھا، دارالخلافہ کے قید خانہ سے نکل کر بطيحہ کی طرف بھاگ لی، تو وہاں کے حاکم مہذب الدولہ نے اسے پناہ دی، پھر القادر بالله نے اس کے گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، چنانچہ اسے کرفتہ کر کے اس کے سامنے لایا گیا، تو اسے یہی پہنادی، لیکن وہاں سے بھی نکل بھاگا اور کیلاں کے شہروں میں پہنچ کر اپنے متعلق خلیفہ الطائع اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، تو وہاں کے لوگوں نے اس کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور عشرت، علاوه دوسرے سارے حقوق اسے پہنچانے لگے، اتفاقاً ان میں کا ایک شخص کسی طرح بخدا پہنچ گیا اور اس شخص کی حقیقت دریافت کرنے پر اس کا بے حقیقت ہونا ثابت ہو گیا، سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو سارے علاقے والے اس سے پھر گئے اور اس کا حال بہت برا ہو گیا، اس طرح وہاں سے بھی بے عزت ہو کر نکل بھاگا۔

اسی سال مصریوں کے امیر نے لوگوں کو ج کرایا اور حاکم العبیدی کے نام کا حر میں شریفین میں خطبہ پڑھا گیا، اللہ اس کا حشر برآ کرنے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### الخطابی ابو سليمان محمد:

ان ہی کو احمد بھی کہا جاتا ہے، بن محمد بن ابراہیم بن الخطاب البستی، یہ بہت زیادہ مشہور لوگوں میں اور بڑے فقہاء اور بہت زیادہ اجتہاد کرنے والوں میں سے تھے، ان کی تصنیفات میں معالم السنن اور شرح البخاری کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے عمدہ اشعار میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ مادمت حافظاً لـ ائمَّةِ کلمَةِ فَإِنْ سَأَلْتَ فِي دِرْبِ الْمَدَارِاةِ  
ترجمہ: جب تک تم زندہ ہو، ہر انسان کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آؤ۔ کیونکہ تم دارالمدارۃ میں رہتے ہو۔

۲۔ مَنْ يَذَرْ دَارِيْ وَمَنْ نَهْ يَسْرُ سُوفَ يَرَى۔ عَمَّا فَمِسْ تَدِيمَ الْمُنْذَمَاتِ

ترجمہ: جو بھی میرے گھر کو باتا ہے اور جو نہ باتا ہو، سب غنقریب: کیجئے لے کا، بہت ہی تھوڑے دنوں میں بہت سی شرمندگیوں کے ساتھی کو۔

سالِ رواں کے ماہ ربیع الاول کی چھٹی تاریخ مدینہ میں وفات پائی، یہ باقی میں اہن غلکان نے کی ہی ہے۔

### احسین بن عبد اللہ:

بن عبد الرحمن بن مکبر بن عبد اللہ الصیرفی، حافظ حدیث اور صاحب الرائے تھے، اسماعیل الصفار، ابن السمک النجاشی، الحمدی اور ابو بکر الشاشی سے حدیثیں سنی ہیں، ان سے ابن شاہین الازہری اور التوفی خی نے روایت کی ہے، الازہری نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ ان کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ ان کے سامنے کتب احادیث کے بہت سے اجزاء رکھے ہوئے تھے، اس وقت جب وہ ان اجزاء سے کوئی سند ذکر کرنے تو ان کے متن کو زبانی بیان کرتے اور جب کسی متن کو ان اجزاء سے ذکر کرتے تو ان کی سندوں کو زبانی ذکر کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہی کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی ان سندوں اور ان کے متنوں کو کتاب کے مطابق ذکر کرتے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ثقہ تھے، لیکن لوگوں نے ان کی حد کی بنا پر عیوب جو بیان کی ہیں، اور خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ ابن ابی الغوارس نے ان پر ازالہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شیوخ کی سنی ہوئی حدیثوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے تھے، اور احادیث میں سندوں کا اضافہ کر دیتے اور مقطوع احادیث کو موصول کر دیا کرتے۔

اسی سال ماہ ربیع الاول میں اکہتر بریں کی عمر میں وفات پائی ہے۔

### صمامة الدوله:

جو عضد الدولہ کے بیٹے اور فارس کے علاقوں کے بادشاہ تھے، ان پر ان کے چچا زاد بھائی ابونصر بن بختیار نے چڑھائی کی تھی اس لیے یہ وہاں سے نکل بھاگے، اور کردیوں کی جماعت میں جا کر پناہ لی، لیکن وہ لوگ جب ان کے علاقہ میں اچھی طرح داخل ہو گئے، تو ان کے خزانے میں جو کچھ نقدی اور سامان وغیرہ پایا، سب اٹھا کر لے گئے، بالآخر بن بختیار کے لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا، اور انہیں قتل کر کے ان کا سراپا ساتھ لے گئے، جب وہ سرابن بختیار کے سامنے لا کر رکھا گیا، تو دیکھ کر سر کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سنت تمہارے باپ نے قائم کی ہے، یہ واقعہ سالِ رواں کے ماہِ ذی الحجه کا ہے، پہنچتیں بریں کی عمر میں قتل کر دیئے گئے، تو بریں چند برس تک حکومت کی۔

### عبد العزیز بن یوسف الحطان:

ابوالقاسم کے خطوط نویس تھے، پھر ان کے بیٹے بہاؤ الدولہ کے پانچ ماہ تک وزیر رہے، اکثر شعر پڑھتے رہتے۔ سالِ رواں کے ماہ شعبان میں وفات پائی۔

محمد بن احمد :

بن ابراهیم ابوالخشندخانہ انشدہ ان سے شہر تھے قرآن پاک کی تمام قرائتوں اور ان کی تفہیروں کے علم تھے بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے شاہد کے طور پر انہوں نے پیاس بڑا شمار لٹکا لیتے تھے اس کے باوجود اونکوں نے ان کی اس روایتوں میں جوابو احسین بن شہبود سے منقول ہیں اعتراف کیا ہے وارقشی نے ان کے بارے میں لٹکوں کرنے اور برا جانا ہے اور صفر میں وفات پائی اور سن تین سو آنٹیس بھری میں وفات پائی ہے۔

## واقعات — ۳۸۹

سال روایا میں محمود بن بکر گین نے خراسان کے علاقوں پر حملہ کر کے وہاں کی حکومت سامانیوں کے قبضے سے چھین لی اور اس سال بھی اور اس کے پہلے بھی وہاں بارہا حملے کیئے یہاں تک کہ ان لوگوں کے تمام نام و نشان کو وہاں سے مٹا دالا اور بھیشہ کے لیے ان کی حکومت وہاں سے ختم کر دی۔ اس کے بعد ماوراء النہر کے ترکی پادشاہ سے قتل و قفال کا مضموم ارادہ کیا، یہ ارادہ بڑے خاقان کی موت کے بعد کیا، جسے فال کہنا جاتا تھا، بالآخر ان لوگوں سے مسلسل قتل و قفال ہوتا رہا۔

اسی سال بھاؤ الدولہ نے فارس اور خوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس سال شیعوں نے جب یہ چاہا کہ یوم غدر یخم کے موقع پر حسب معمول چراغاں اور جشن منائیں، جوانے تقدیمے کے مطابق ماہ ذی الحجه کی اٹھار ہویں تاریخ کا ہے، تو ان کے مقابلہ میں کچھ سنی عقیدے والوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور ان کی غافلت کی یہ کہتے ہوئے کہ یہ دن تو ہمارے رسول اللہ ﷺ کی اور سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام کے غار میں بند رہنے کا ہے، الہذا وہ لوگ اپنے ارادہ سے بازاً گئے، لیکن حقیقت میں ان سنیوں کی جہالت کا نتیجہ تھا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تو ہجرت کے سال اول میں ربیع الاول کے مہینے میں اپنا سفر شروع کیا تھا، اور تین دن غار میں رہ کر مکہ مظہر سے نکل کر مدینہ منورہ میں تقریباً آٹھویں تاریخ داخل ہوئے تھے، اس طرح یہ دونوں حضرات ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ مدینہ میں داخل ہو گئے تھے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے جو تمام لوگوں میں مسلم اور مقبول ہے، اسی طرح شیعہ جو دسویں محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت پر ماتم اور تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کی دیکھادیکھی سنیوں کی ایک جماعت نے بھی بارہویں محرم کو ما تم وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس تاریخ مصعب بن الزیبر علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے لگے، لیکن یہ تو حقیقت میں ایک بدعت کا مقابلہ دوسرا بدعت سے ہوا، حالانکہ بدعت کا مقابلہ صرف اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح سنت قائم کی جائے۔

سال روایا میں زبردست ڈالہ باری ہوئی، گھٹاٹوپ بادل چھایا رہا، زبردست ہوا میں چلتی رہیں، اتنی کہ بغداد کے بہت سے کھجوروں کے باغ کو بر باد کر دیا، جنہیں درست کرنے میں دو سال لگ گئے، اس سال عراق کے حاجیوں کے قافلہ میں

الرضی اور المرضی جیسے ہے یہ سے بڑے حضرات نے بھی سفر ثروں کیا، لیکن اٹھ کر راہ بدوں کے امیہ ابن الجراح نے ۱۱ لوگوں کو برپا مال بنانی پا آئے اور دونوں اپنی جان کی رہائی کے لیے اسے فوجہار دینا رہ یعنی کی پیشکش کی اور اس نے وہ لے نہ روان دلوں کو چھوڑ دیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

زادہ بن عبد اللہ:

ابن سلیمان بن مخلد بن ابراہیم بن مرودز ابو القاسم جوابن حباب کے نام سے مشہور ہیں، بخوبی ابو مکبر بن داؤد اور ان کے هم عصروں سے روایت حدیث کی، یہ شفہ مامون اور منذر تھے، ولادت سن و سونا نوے، بھری میں بغداد میں ہوئی اور نوے برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ جمادی الاولی میں وفات پائی، شافع کے شیخ، شیخ ابو حامد الاسفاری کیمی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور جامع منصور کے مقبرہ میں دفن کیجئے گئے۔

## واقعات — ۳۹۰

سالی رواں میں بختان کے علاقے میں لوگ گھرے گذھے کر رہے تھے کہ ان کو وہاں سونے کی کان مل گئی، جس سے وہ لوگ سرخ سونا نکالنے لگے، اسی سال فارس کے علاقے میں باڈشاہ ابو نصر بن بختیار قطبی کر کے اس کی جگہ پر بہاؤ الدولہ نے قبضہ کر لیا۔ اسی سال القادر بالله نے واسطہ اور اس کے اطراف و جوانب کا ابو حازم محمد بن الحسن الواسطی کو قاضی کے عہدہ پر مقرر کیا اور ان کا عہد نامہ بغداد میں پڑھا گیا، اس کے بعد القادر نے ایک طویل وصیت نامہ لکھ کر ان کو دیا، جسے ابن الجوزی نے اپنی کتاب المنظہم میں ذکر کیا ہے، جس میں عمدہ نصیحتیں اور انہائی ضروری اور امر و نواہی ہیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن محمود:

بن ابی موکی ابو بکر الہاشی، مالکی مذهب کے فقیہ، مدائی وغیرہ کے قاضی، اور جامع منصور کے خطیب تھے، بہت سے لوگوں سے روایتیں سنی ہیں اور ان سے بھی بڑی جماعت نے روایت کی ہے، بالخصوص الدارقطنی الکبیر بھی ہیں بڑے ہی تیک پا کر امن، ثقہ اور دیندار تھے، پھر بزرگ برس کی عمر پا کر سالی رواں کے ماہ محرم میں وفات پائی۔

**عجیب اللہ بن عثمان بن محبی:**

ابوالقاسم الدراقی، ابن حذیفہ سے مشہور تھے قاضی عالم ابویعلیٰ ابن الفراء نے کہا ہے کہ یہ حذیفہ ان کے دادا تھے بعضوں نے اس نام پر بجائے نون کے لام سے حلیفاً بھی کہا ہے انہوں نے بہت کم احادیث کی سماعت کی ہے ان سے الازهری نے روایت کی ہے، ثقہ مامون اور عمده اخلاق کے تھے باطنی صورت میں ہم نے ان بیساکی کوئی پایا ہے۔

**احسین بن محمد بن خلف:**

بن الفراء جو قاضی ابویعلیٰ کے والد ہیں، حنفی مسلم کے فقیہ اور بہت نیک تھے حدیثیں نہیں، اور ان سے ان کے بیٹے ابو حازم محمد بن احسین نے روایت کی ہے۔

**عبداللہ بن احمد:**

بن علی بن ابی طالب البغدادی، مصر میں مقیم رہے، وہیں حدیث حاصل کی، اور ان سے حافظ عبدالغنی بن سعید المصری نے سماعت کی ہے۔

**عمربن ابراہیم:**

بن احمد ابونصر الکتانی اور المقری سے مشہور ہیں، سن تین سو ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ بغوی، ابن مجاهد اور ابن صاعد سے روایت کی ہے اور ان سے الازهری وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ اور صالح تھے۔

**محمد بن عبد اللہ بن احسین:**

بن عبد اللہ بن ہارون، ابو احسین الدراقی یا ابن اخي یہی سے مشہور ہیں، بغوی وغیرہ سے سماعت کی اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، بالکل بوڑھے ہو جانے کے باوجود حدیث لکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وقت ہو گئی، اس وقت ان کی عمر نوے برس کی ہوئی تھی۔ ثقہ مامون دیدار اور مرد فاضل تھے اور اپنے اخلاق کے مالک تھے سالی رواں میں ماہ شعبان کی اٹھائیسیوں تاریخ جمعہ کے دن وفات پائی۔

**محمد بن عمر بن محبی:**

بن احسین زید بن علی بن احسین بن علی بن ابی طالب بن عبد الشریف ابو احسین العلوی، کوفہ کے باشندے تھے، ابوالعباس بن عقدہ وغیرہ سے سماعت کی ہے، بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی، بہت زیادہ مالدار، بہت زیادہ جائیداد، بہت زیادہ آمدی اور رعب و داب کے مالک اور بلند ہمت تھے، اپنے وقت میں تمام علماء سے فائق تھے، ایک زمانہ میں عضد الدولہ نے ان پر چراگانے کیے اور ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے انہیں مقید کر رکھا تھا، بعد میں آزاد کر کے بغداد میں اپنا نائب مقرر کر دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے غلمان سے سالانہ بیس لاکھ دینار کی آمدی تھی، ان کا رعب و داب بہت زیادہ تھا اور ریاست وسیع تھی۔

### الفتح بر جوان

حاکمیہ حکومت میں مصری علاقوں میں انتظامی امور کے نگہبان تھے قابوہ میں ایک محلہ بر جوان ان سے کی طرف منسوب ہے یہ پہلے العزیز بن المعر کے ناموں میں تھے، بعد میں الحاکم کی حکومت میں بے بے فریاد، اسے لئے تھے پھر شاہی محل میں ان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ امیر ریدان نے جن کی طرف باب الفتوح کے ہاہر کا علاقہ ریدان یہ مشہور ہے ان کے پیش میں چھری مار کر انہیں قتل کر دیا، ترک میں انہوں نے بے شمار سامان اور کپڑے وغیرہ چھوڑے جن میں ایک ہزار پا جائے تھے، جن کی کمر بند بھی ایک ہزار روپیہ تھے، یہ تین اہن غلکان نے کہی ہیں، ان کے بعد الحاکم نے ان کے منصب پر امیر حسین بن القائد کو مقرر کر دیا تھا۔

### الجریی المعروف باب طرار:

المعافی بن زکریا بن سیحی بن حمید بن حماد بن داؤد ابو الفرج النہروانی القاضی، اس لیے کہ انہوں نے الحکم کی قائم مقامی کی تھی، جوابن طرار الجریی سے مشہور تھے، اور الجریی کہنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ابن جریر الطبری کی خدمت اختیار کی تھی اور ان کے ہی عقیدے پر کاربندے تھے اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئے تھے، البغوی اور ابن صاعد کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے حدیث کی ساعت کی تھی، اور ان سے بھی ایک جماعت نے روایت کی تھی، ثقة مامون اور عالم و فاضل تھے، اور بڑے آداب کے مالک تھے، بہت سے علوم میں ان کو مہارہ، حاصل تھی، ان کی تصنیفات بھی بے شمار تھیں، جن میں سے ایک کتاب کا نام الجلیس والانس ہے جس میں بہت سے فائدے اور کام کی باتیں جمع کی ہیں، الشیخ ابو محمد الباقلانی جوشافعی مسلک کے بڑے امام تھے وہ کہا کرتے تھے، کہ ایک معافی کے آجائے سے بہت سے علوم ایک ساتھ چلے آتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی شخص اپنے تہائی مال کی کسی بھی سب سے بڑے عالم کے لیے وصیت کر جائے تو لازم ہو جائے گا کہ وہ پورا مال ان کو ہی دیا جائے۔

کسی اور شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کسی رئیس کے گھر میں بہت سے بڑے علماء کا اجتماع ہوا جن میں یہ معافی بھی موجود تھے، لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم لوگ کسی علم پر بحث اور مذاکرہ کریں، اس وقت ان المعافی نے صاحب خانہ رئیس سے یہ کہا، جبکہ اس گھر میں اس رئیس کا بہت بڑا کتب خانہ تھا کہ آپ اپنے کسی بھی ملازم کو حکم دیں کہ آپ کے کتب خانہ سے کوئی بھی کتاب اٹھا کر لے آئے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اس جواب سے تمام حاضرین کو ان کی خود اعتمادی اور تمام علوم پر حاوی ہونے کی وجہ سے بہت تجھب ہوا۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ المعافی بن زکریا نے ہم لوگوں کو اپنے یہ چند اشعار سنائے:

۱. الاقل لمن کان لی حاسداً      اتدری علی من اسأل الادب

ترجمہ: اے مخاطب! تم اس شخص سے کہہ دو جو میرا حاصل ہے، کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم نے کس کی بے ادبی کی ہے۔

۲. اسأل على اللہ سبحانه      لانک لا ترضی لی ما وہب

ترجمہ: کوئی میر نہیں کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے ادبی کی ہے، کیونکہ اس نے از خود جو کچھ مجھے دیا ہے تم اس پر راضی نہ ہو۔

۳ میں ہے۔ اس سلسلہ کے بعد اس طبق سے تم کو اس کا بارہ اس طرح یاد رکھیں کہ میرا عمر ہے جو اسے بے امداد تباہ کے لئے طلبِ مرے تھا، میرا از مے بندگی دینے چاہیے ہیں۔ پچھائی سالی کی عمر پا کر سالی رو ان کے ماہِ ذی الحجه میں وفات پائی ہے۔

ابن فارس:

اجمل کے مصنف ہیں، کہا گیا ہے کہ پچانوے سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔

ام السلامہ:

جو القاضی ابی بکر احمد بن کامل بن خلف بن شجرہ، ام الفتح کی بیٹی تھیں۔ محمد بن اسما عیل البصلانی وغیرہ سے حدیث کی سمعت کی ہے اور ان سے الازہری، ابو یعلیٰ بن الفراء وغیرہم نے روایت کی ہے اس سے زائد آدمیوں نے ان کی دینداری فضیلت اور سیادت کی تعریف کی ہے، میں دوسرا ٹھانوے بھری کے ماہِ ربج میں ان کی ولادت ہوئی اور بانوے برس کی عمر میں سالی رو ان کے ماہِ ربج میں وفات پائی۔ اللہ ان پر حرم فرمائے۔

## واقعہ — ۳۹۱

اسی سال خلیفہ القادر بالله نے اپنے بعد اپنے لڑکے ابوالفضل کے لیے ولی عہدی کی بیعت لی اور منبروں پر خطبوں کے درمیان یہ بات ظاہر کر دی گئی تھی اور اس کا لقب الغالب بالقدر کھا، اس وقت اس کی عمر تقریباً صرف آٹھ سال چند میں کی تھی، اس جلد بازی کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ عبد اللہ بن عثمان الواقعی نامی ایک شخص نے ترکی علاقوں میں جا کر لوگوں میں دعویٰ کیا کہ اسے قادر بالله نے اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا ہے، چنانچہ خطبوں میں اس کا نام آنے لگا، جب القادر بالله خلیفہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس کی گرفتاری کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا تو وہ وہاں سے کہیں اور بھاگ گیا، لیکن کسی بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے قلعہ میں مقید کر دیا، بالآخر وہ مر گیا، اسی وجہ سے خلیفہ نے اس کی بیعت کے لیے جلت بازی سے کام لیا۔

اسی سال ماہِ ذی القعده کی اٹھارہویں تاریخ الامیر یا جعفر عبد اللہ بن القادر بالله کی ولادت ہوئی اور اس شخص کو خلافت پروردگاری اور اس کا لقب القائم بالمرالدر کھا گیا، اسی سال امیر حسام الدین نے المقلد بن الحسیب الحقیلی کو انبار کے علاقہ میں اچانک قتل کروادیا، کیونکہ اس علاقہ میں اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا، اور سلطنت کا خواب دیکھنے لگا تھا، اس لیے کسی تر کی غلام نے اسے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا قرداش اس کا قائم مقام ہوا، مصریوں نے لوگوں کو حج کروایا۔



## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام ہے ہیں۔

### جعفر بن الفضل بن جعفر

بن محمد بن الفرات ابو الفضل، یہ ابن حمزہ وزیر سے مشہور ہوئے، سن تین سو آنٹھ بھری میں ان کی ولادت ہوئی، مصری علاقوں میں رہے اور امیر کافور الائخیدی کی وزارت سنبھالی، ان کے والد المقتدر کے وزیر تھے، محمد بن ہارون الحضری اور ان جیسے بغدادی محدثین سے حدیث کی سماعت کی، البغوی کی مجلس میں بھی شرکت کر کے سماحت کی ہے اگرچہ وہ ان کے معیار کے نتھے، پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ جو بھی میرے پاس آجائے، میں اسے غنیمت سمجھتا ہوں، مصر میں ان کی مجلس الماء بھی ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے دارقطنی نے مصر کا سفر کر کے ان کے پاس قیام کیا اور ان کی ایک منڈی تاریکی جس سے انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا، دارقطنی وغیرہ اکابر نے ان سے روایت کی ہے، ان کے یہ چند معتمدہ اشعار ہیں:

۱. من انحمل النعم احباها و روحها      ولم يبت طاويا منها على ضحر

**تشریحہ:** جس نے اپنے نفس کو گم کر دیا اس نبی اسے زندہ کر دیا اور اسے آرام پہنچایا، اور اس گمانی کی وجہ سے وہ تنگدی کے ساتھ رات نہیں گزارے گا۔

۲. ان الرحاح اذا اشتدت عواصفها      فليس ترمي سوى العالى من الشجر

**تشریحہ:** یقیناً جب ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، تو وہ صرف اونچے، درخت کو گرتے ہیں۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ ان کی وفات ماہ صفر میں ہوئی اور ایک قبول یہ ہے کہ ماوریق الاول میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر بیاسی سال کی ہوئی تھی اور قرافہ میں یا ایک قول کے مطابق رہنے کے گھر ہی میں مدفن ہوئے، ایک اور قول یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک گھر خریدا تھا، اسی گھر میں ان کی قبر بنائی گئی، جب ان کی لغش وہاں لے جائی گئی، تو وہاں کے بڑے لوگوں اور اشرافِ قوم نے ان کے سابقہ احسانات کی بنا پر ان کا شاندار استقبال کیا، کمہ معظمه لے جا کر ان کا گشت کرایا، جو کے مراسم ان سے ادا کرائے، میدانِ عرفات میں لے جا کر کچھ دیر کھا، پھر مدینہ منورہ میں واپس لا کر ان کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔

### ابن الحجاج الشاعر:

احسین بن احمد بن الحجاج ابو عبد اللہ الشاعر، اس کی شاعری میں اس قدر بے حیائی اور بے ہودگی ہوتی کہ زبان اس کے تلفظ سے اور کان اس کے سننے سے گھناتے ہیں، ان کے والد بھی بڑے حاکموں میں سے تھے اور یہ خود عز الدولہ کی حکومت میں بغداد کے اندر حساب و کتاب اور جانچ پرستال کرنے کے عہدے پر مامور تھے، مگر اس نے اپنے لیے چھنانبوں کو مقرر کر کے خود رکیک شاعری اور فضول گوئی میں لگ گیا۔ البتہ اس کے اشعار میں معنی سے قطع نظر ان کے الفاظ میں ایک خاص مرتبہ حاصل تھا، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ تھا، جس سے انتہائی خراب معنی کی بھی بہت عمدگی اور سنجیدگی کے ساتھ فصح الفاظ میں پیش کر سکتا تھا، ان

کے بیان، اس کے بھجوئے مانعوا، بھی تھے تھے ایک مرتبہ اس نے شاد صارکی مدح کی تھی، تو اس نے خوش ہو کر اسے ایک بزار دینا رہا یعنی تھے، ابن خلکان کا اس بار سے میں یہ لہذا کہ اسے ابوسعید الاصطخري کی وجہ سے بغداد کے سرکاری عہدے حساب، کتاب سے معزول نہ دیا کیا تھا، ان کا یہ دعویٰ ترنا باعکل ممکن اور فقط حکومت ہوتا ہے کیونکہ ابوسعید کی وفات تو ۲۵۷ھ تھیں، تھی اس کی وجہ سے اس امن الحجاج کو کیونکہ معزول کیا جاتا تھا نیز یہ بات ممکن بھی نہ تھی اس کے خالی عہدہ پر اس کے بعد ابوسعید الاصطخري کو مقرر کیے جانے کی امید ہوئی ہوا، ابن خلکان نے اس شاعر کا اس وفات اسی سال کو بتایا ہے اور اصطخري کی وفات وہ بتائی ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہے، الشریف الرضی نے اس کے عمدہ اشعار چھانٹ کر ایک مستقل علیحدہ دیوان میں جمع کر دیا۔ خود انہوں نے اور ان کے علاوہ دوسرے شعراء نے بھی اس کا مرثیہ کہا ہے۔

### عبدالعزیز بن احمد:

بن الحسن الجزری، خاص حرم اور دارالخلافہ کے علاوہ اس کے اطراف و جوانب کے بھی قاضی مقرر کئے تھے، یہ اصحاب طواہر میں مذہب داؤ د پر عامل تھے، سنبھرہ اور باریک باتیں پیدا کرنے والے تھے، پناچہ ایک مرتبہ ایک معاملہ میں دو کیل ان کے پاس معاملہ لے کر آئے اور ان میں سے ایک مقدمہ کے دوران رونے لگا تو اس سے انہوں نے کہا تم مجھے اپنا وکالت نام دکھاؤ، اس نے اپنا وکالت نامہ نہیں دے دیا، قائل عاصی عاصی نے اسے لے کر اور پورا پڑھ کر کہا تم کو تمہارے موکل نے یہاں رونے پر کیل نہیں بنایا ہے، یہ سن کر تمام حاضرین ہنسنے لگے اور کیل انتہائی شرمندہ ہو گیا۔

### عیسیٰ بن الوزیر علی بن عیسیٰ:

بن داؤ د بن الجراح، ابو القاسم البغدادی، ان کے والد بڑے وزیروں میں سے تھے، اور خود انہوں نے بھی الطائع کی ملازمت کی ہے، بہت سی حدیثیں سنی ہیں، بہت صحیح سننے والے اور بہت زیادہ علوم والے تھے، منطق اور اگلے علوم کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے ان کے ہمرا در ان پرفلوی مذہب ہونے کا الزام لگاتے تھے، ان کے عمدہ اشعار میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ رب میتِ قد صار بالعلم حیا و مبقی قدمات جهلا و غیا

ترجمہ: بہت سے مردے علم کی بنا پر زندہ ہو گئے ہیں، اور بہت سے زندے اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے مر جکے ہیں۔

۲۔ فاقتلو العلم کی تعالوا حلوداً لا تعدوا الحياة في الجهل شيئاً

ترجمہ: لہذا تم علم کا شکار کر لوتا کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرلو اور اپنی زندگی کو ذرہ برا بر بھی جہالت میں نہ گنو۔

سن تین سو و بھری میں ان کی ولادت ہوئی اور تو اسی برس کی عمر پا کر سالی رواں میں وفات پائی، اور بغداد کے اپنے گھر میں دفن کئے گئے۔



## — ۳۹۲ —

### واقعات

اسی سال ماہ محرم میں یکین الدوہ مسعود بن سبئین نے ہندوستانی علاقہ پر حملہ کیا تو یہاں کے راجہ جسے پال نے بہت ہے اور لشکر سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور ان دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی ہوئی، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور ہندوؤں کو شکست دی اور ان کے مہاراجہ جسے پال کو مقید کر لیا، اور اس کی گردان سے ہمارا تاریخی جس کی قیمت اسی ہزار دینار تھی، اسی طرح عام مسلمانوں نے بھی اس سے بے شمار غنیمت کا مال حاصل کیا اور بہت سے شہروں کو فتح کر لیا، لیکن بعد میں سلطان محمود نے اس چیپال راجہ کو انتہائی ذلت اور حقارت کے ساتھ چھوڑ دیا تاکہ اس کی حکومت والے اسے دیکھ لیں کہ وہ کس قدر ذلیل ہوا ہے، جب وہ چھوٹ کر اپنے علاقہ میں پہنچا، وہاں اس نے خود کو اس آگ میں ڈال دیا جس کی وہ ہمیشہ پوجا کرتا آیا تھا، چنانچہ آگ نے اسے جلا کر بھسپ کر دیا۔ الحمد لله عليه سالی رواں کے ماہ ربیع الاول میں بغداد کے عوام نے نصاریٰ سے ناراض ہو کر گرجا کو لوٹ لیا جو قطیعہ الدقیق میں تھا، پھر اس میں آگ بھی لگادی، آگ لگنے سے وہ گرجا آدمیوں پر اس طرح گر گیا کہ بہت سے دب کر مر گئے، جن میں مسلمانوں کے مرد عورتیں اور بچے بھی تھے۔

پھر ماہ رمضان میں لشیرے اور شرپسند ابھر پڑے اور بغداد میں لوٹ مار مجاہدی اور فتنہ بھڑکا دیا۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ماہ ذی قعدہ کی تسلیمی تاریخ سموواری ررات کو ایک تاریث کر اس طرح گرا کہ اس کی روشنی چودھویں تاریخ کے رات کے چاند کی روشنی کے برابر تھی، پھر اس کی روشنی تو خشم ہو گئی، مگر اس کا لکھرا باقی رہ گیا، تقریباً دو ہاتھ لانا بنا اور دو ہاتھ چڑھا تھا، پھر کچھ دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔

اسی مہینہ میں حاج ججاز جانے کی نیت سے خراسان سے بغداد آئے، یہاں پہنچ کر لشیروں کی لوٹ مار اور شرپسندی کی اطلاع کے ساتھ ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ حاجیوں کی کمیں سے مدد ہی نہ ہوگی اور نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ مجبوراً وہ بیہیں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، الی اصل اس سال مشرقی شہروں سے ایک شخص بھی فریض صح ادا نہ کر سکا۔

اس سال یوم عرفہ میں بہاؤ الدوہ کو دو جڑواں بیٹھے ہوئے، جن میں ایک سات برس کا ہو کر مر گیا اور دوسرا نے بڑے ہو کر اپنے والد کی گدی سنہجاتی، اور اس کا القب شرف الدوہ ہوا، مصریوں نے اسی سال لوگوں کو حج کرایا۔



## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس بارہ مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں۔

ابن جنی

ابوالفتح عثمان بن جنی الموسی انجوی اللغوی فن تجوی اور لغت لی مشہور اور متداول کتابوں کے مصنف ہیں یہ تن روایتی سلیمان بن فہد بن احمد الازدی الموصلی کے غلام تھے اسی سلسلہ کے ان کے یہ اشعار ہیں:

۱. فَإِنْ أَصْبَحْ بِلَا نِسْبَ فَعُلْمَى فِي التَّوْزِي نِسْبِي

ترجمہ: اگر میں بغیر نسب کے ہو گیا ہوں تو کوئی غم کی بات نہیں کیونکہ میرا علم ہی تمام لوگوں میں میرا نسب ہے۔

۲. عَلَى أَسَى اُولَى اُولَى فَرُومَ سَادَةُ نَجَبٍ

ترجمہ: اس کے علاوہ میں تو اپنی نسبت رکھتا ہوں ایسے لوگوں سے جو عظیم ہیں سردار ہیں اور شریف ہیں۔

۳. قِيَاصَةً إِذَا نَطَقُوا اِرْمَوَ الدَّهْرَ دَالْخَطْبَ

ترجمہ: لوگ ایسے شہنشاہ ہیں کہ جب وہ لفظ بیرون آمدہ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے خطیبوں کو بھی خاموش کر دیتے ہیں۔

۴. اُولَاكَ دُعَا النَّبِيُّ لَهُمْ كَفِي شَرْفًا دُعَاءُ النَّبِيِّ

ترجمہ: ان لوگوں کے لیے رسول اللہ ﷺ نے خاص دعا فرمائی ہے ان کی شرافت کے لیے نبی کی دعا ہی بہت کافی ہے۔

یہ بغداد میں اقامت اختیار کر کے لوگوں میں علم پھیلانے کا فام کرتے رہے یہاں تک کہ ماہ صفر کی دوسری تاریخ جمعہ کی رات کے وقت انتقال کر گئے یہ بتیں ابن خلکان نے کہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی ملکیت نکھل عیب دار تھی اسی سلسلہ کے ان کے یہ چند اشعار ہیں:

۱. صَدُودُكَ عَنِي وَلَا ذَنْبَ لِي يَسْدُلْ عَلَى نِيَةِ فَاسِدَةٍ

ترجمہ: میرے کسی قصور کے بغیر ہی تمہارا مجھ سے منہ موڑنا تمہارے بد نیت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

۲. فَقَدْ، وَحِيَاتِكَ مَمَا بَكَيْتَ حَشِيتْ عَلَى عَيْنِي الْوَاحِدَةِ

ترجمہ: تمہاری زندگی کی قسم ایں جس قدر رویا ہوں اس سے مجھے اپنی ایک آنکھ پر خطرہ محسوس ہو گیا ہے۔

۳. وَلَامَ حَسَافَةُ الْأَرَى لَكَ لَمَا كَانَ فِي تِرْكَهَا فَائِدَةٌ

ترجمہ: اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میں نہیں دیکھ سکوں گا تم کو تو اس کے بھی چھوڑنے میں کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اشعار کسی غیر شخص کے ہیں جن کا کہنے والا ابور (بھینگا) تھا اور ان کا اپنا شعر تو وہ ہے جو ایک ایسے غلام کے بارے میں ہے جو بھینگا تھا، وہ یہ ہے:

۴. لَهُ عَيْنٌ اصَابَتْ كُلَّ عَيْنٍ وَعَيْنٌ قَدْ اصَابَتْهَا الْعَيْنُونَ

ترجمہ: اس کی ایک آنکھ ایسی ہے جو ساری آنکھوں کو لگی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ ایسی ہے جس پر ساری آنکھیں لگی ہوئیں ہیں۔

علی بن عبد العزیز بن

ابو الحسن ابیر جانی الشاعر امامہ زین العارفیؑ کے قصیٰ تھے حدیث کی سامت کی اور عوام حاصل برتبے تو نے اس قدر رتی کی کہ تمام لوگوں نے ان وفات میں بے مثال تمنہ و دعا زیارت مانی تھی ان کے تجھے شعراً میں سے پہنچ یہ تیز  
۱۔ يَقُولُونَ لِي فِيَّ الْقِبَاسُ وَلَا إِلَّا رَأَوْلَاهُ لَا عِنْ مِوْظَفٍ أَنْدَلَّ احْجَمَ  
ترجمہ: لوگ مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ تمہاری طبیعت میں القباض ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تو آئیک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ذلت کے مقام سے دور ہو گیا ہے۔

۲۔ ارِي النَّاسُ مِنْ وَإِنَّهُمْ هُنَّ عِنْهُمْ

وَمِنْ أَكْرَمَنَهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أَكْرَمَهُ

ترجمہ: اور میں لوگوں کے بارے میں اپنی رائے یہ رکھتا ہوں کہ جوان کے قریب ہوا وہ ان کے پاس ذلیل ہوا اور جس کسی کی عزت نفس نے شریف بنایا ہو وہی شریف ہو سکا ہے۔

۳۔ وَلَمْ يَقْضِ حَقُّ الْعِلْمِ إِذْ كَانَ كَلْمًا

بِدَاطِمَعٍ صِيرَتَهُ لِي سَلَّمًا

ترجمہ: میں اس وقت علم کا حق ادا نہیں کر سکوں گا جب کبھی میری لائچ ابھرے، میں اس کو اپنے مطلب برآ ری کے لیے سیر ہی بنالوں۔

۴۔ إِذَا قَلَلَ لِيَ هَذَا مَطْمِعٌ قَلَّتْ قَدْرَتِي

وَلَكِنْ نَفْسُ الْحَرَجِ تَحْمِلُ الظُّلْمَ

ترجمہ: جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ ہے مطلوبہ شے تو میں کے جواب دیا کہ میں اسے سمجھتا ہوں، لیکن ایک شریف انسان پیاس برداشت کر لیتا ہے۔

۵۔ وَلَمْ يَبْتَذِلْ فِي خَدْمَةِ الْعِلْمِ مَهْجُونٌ

لَا يَحْدُمُ مِنْ لَاقِيتٍ وَلَكِنْ لَا يَحْدُمُ

ترجمہ: میں نے علم کی خدمت میں اپنی عزت اس لیے نہیں گواٹی ہے کہ میں ہر کس و ناکس کی خدمت کرتا پھر وہیں میں نے تو اس لیے کی ہے کہ میری خدمت کی جائے۔

۶۔ أَشْفَقَى بِهِ غَرَسًا وَ اجْنِيَهُ ذَلَّةً

إِذَا فَاتَيْهُ الْجَهَلُ قَدْ كَانَ احْزَما

ترجمہ: کیا ایسا مناسب ہے کہ میں عزت نفس دے کر ایک درخت لگاؤں اور اس کے نتیجے میں ذلت حاصل کروں، ایسی صورت میں تو جاہل ہو کر ہناہی بہتر ہے۔

۷۔ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانِهِمْ

وَلَوْ عَظِمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعَظِمَ

ترجمہ: اگر اہل علم اس علم کی حفاظت کرتے تو یہ بھی ان کی حفاظت کرتا، اور اگر وہ لوگ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بھاتے تو خود بھی عظمت پاتے۔

۸۔ وَلَكِنْ أَهَانُوهُ، فَهَانُ وَوَنَسُوا

مَحِيَا بِالاَطْمَاعِ حَتَّى تَحْمَمَا

ترجمہ: لیکن انہوں نے اسے بے عزت کر دیا ہے، اس لیے یہ بے عزت ہو گیا ہے اور انہوں نے لائچ میں پڑ کر اس علم کو گندہ کر

بیتبے بہار تک کروہ بھری تر شوئی سے پوش آتا ہے۔

اور ان کے عمدہ اشعار میں سے چند یہ بھی ہیں:

۱۔ ماتضعمت ندہ العیش حسی صریح تسلیت و الخطاب جنیسا

ترجمہ: میں نے زندگی کی لذت کی لائی مطلقاً نہیں کی ایساں تک کہ میں اپنے گھر اور کتابوں کا ہمہ نہیں ہو گیا ہوں۔

۲۔ نیس عندي شيء شيئاً من العا م فما ابتغى سواه ایسا

ترجمہ: میرے نزدیک علم سے زیادہ دوسری کوئی چیز لذیذ نہیں ہے اس لیے اس کے مساویں کسی بھی دوسری چیز کو اپنے مونس نہیں سمجھتا ہوں۔

اور ان کے یہ بھی عمدہ اشعار ہیں:

۱۔ اذا شئت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمان العسر

ترجمہ: وہ ارادہ کرتا ہے غلیمین کاموں کا جس کی میں طاقت رکھتا ہوں اور وہ حاکل ہو گیا ہے عمر اور زیوان کے درمیان۔

۲۔ فصل نفسك الانفاق من كثرة صبرها عليك و انتظاراً الى زمان اليسر

ترجمہ: سوال کر اپنے نفس سے اس کے صبر کے خواستے کو خرچ کرنے سے روک لے اپنی نظر کو زمانے کی آسانی تک۔

۳۔ فان فعلت كنت الغنى و ان اتيت فكل منوع بعدها واسع العذر

ترجمہ: اگر نفس نے ایسا کر لیا تو تم مالدار ہو گئے اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟

سالی رواں میں ان کی وفات ہو گئی اور ان کا جنازہ جرجان شیخی کر دیا گیا اور وہیں دفن کیے گئے۔

## — ۳۹۳ —

سالی رواں میں الٹائی اللہ کی وفات ہوئی جس کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے۔

اس سال سالار شکر نے تمام شیعوں کو حضرت حسین بن علی پر یوم عاشورا میں ماتم کرنے سے روک دیا اسی طرح جاہل سینیوں کو بھی باب البصرہ اور باب الشعیر کے سامنے حضرت مصعب بن الزبیر بن علی کے نام پر آٹھ دنوں ماتم کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ دونوں گروہ رک گئے۔ فللہ الحمد والمنة۔ اور ماہ حرم کے آخری دنوں میں بہاؤ الدولہ نے اپنے وزیر ابو غالب محمد بن خلف کو وزارت کے عہدہ سے نکال دیا اور ایک لاکھ دینار کا جرمانہ کیا، اس زمانہ میں سالار شکر نے سرمن رای (سارہ) جا کر سید الدولہ ابو الحسن علی بن یزید کو بلا کراس پر سالانہ چالیس ہزار تیکس عائد کر دیا اور اس نے اسے مان کر اپنے شہروں پر تقسیم کر دیا۔ اسی زمانہ میں ابوالعباس الصیحی جو مجدد الدولہ بن فخر الدولہ کا وزیر تھا ”ری“ سے بھاگ کر بدر بن صویہ کے پاس پہنچ گیا، جس نے اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا، پھر مجدد الدولہ ابوعلی الحنفی کی جگہ پر وزیر بنادیا۔

اس سال الحاکم نے ابو محمد الاسود کو مدشق اور شام کے شکر پر اپنا نائب مقرر کیا، بعد میں اسے یہ خبر ملی کہ اس نے ایک ایسے

مغربی شخص کو سزا دی ہے، جس نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر ہمیں کو گالی دی تھی، پھر اسے شہر میں گشت بھی کرایا تھا، اس لیے لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ محسوس ہوا تو بہت تی چالائی اور دھوکتے اسے اس عبادت سے معزول کر دیا۔  
ہس سال بھی جزو اکتوبر کے خطرہ کی وجہ سے عراق کے کوئی بھی جنگ کوئی نہیں ہا کا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابراهیم بن احمد بن محمد:

ابو اسحاق الطبری مالکی مسلک کے فقیہ ہیں اور بغداد کے سر برآ دردہ لوگوں کے سردار تھے، اور فون قرأت کے ماہرا در شیخ تھے، بہت سے حدیث سے روایتیں نہیں، دارقطنی نے ان سے پانچ سو اجزاء کی حدیثیں اخذ کی ہیں، بہت ہی شریف اور اہل علم پر فضل و عنایت رکھتے۔

الطائع اللہ عبد الکریم بن المطیع:

ان کی معزولی اور دوسرے واقعات جو پھر ان پر گزرنے سب کا بیان پہلے ہی ہو چکا ہے، پھر یا چھتر بر س کی عمر پا کر سالی روائی کو عید الفطر کی رات وفات پائی، جن میں سترہ سال چھ میں پانچ دن خلافت کے گزارے غلیظ القادر نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور اس میں پانچ تنکیریں کہیں۔ ان کے جنازہ میں بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے رصافہ میں دفن کیے گئے۔

محمد بن عبد الرحمن بن العباس:

بن زکریا ابو طاہر الحفص - بہت زیادہ روایت کرنے والے شیخ نبغوی اور ابن صاعد کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں سے روایت حدیث کی ہے، ان سے البرقانی، الازہری، الخالل اور التوفی نے روایت کی ہے، ثقة اور صالحین میں سے تھے اٹھائی بر س کی عمر پا کر سالی روائی کے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ

محمد بن عبد اللہ:

ابوالحسن السلامی بڑے عمدہ شاعر تھے، ان کے اشعار اور عضد الدوّلہ وغیرہ کی شان میں ان کے قصیدے بھی بہت مشہور ہیں۔

میمونہ بنت شاقولہ الوعاظہ:

پورے قرآن کی حافظہ تھیں، ایک دن انہوں نے اپنے وعظ کے دوران یہ کہہ دیا کہ وہ کپڑے جوان کے بدن پر ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ انہیں مسلسل سینتا ہیں بر س سے پہن رہی ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اس کے سوت کو ان کی والدہ نے کاتا تھا اور یہ بھی کہا ہے کہ جب آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا ہے یہ کپڑے جلدی نہیں پھٹتے ہیں، ان کے بیٹے عبد الصمد نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کی ایک دیوار گرنے کے قریب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ ہم

اپنے گھر کی خیاں سست کر کے اس دیوار کو بھی تھیک کر دیں۔ تاکہ وہ مگر نہ یہ فتح جائے۔ یہ کرن کر انہوں نے کافنے کا ایک ٹکڑا لئے اس میں پتھر لکھا پھر مجھے حمل دیا کہ میں اسے دیوار میں کسی جگہ رکھ دوں۔ چنانچہ میں نے اسے دیوار میں لگا دیا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری تباہ ہے۔ تاکہ اسی حالت میں قائم رہی۔ اپنے اللہ کے انتقال کے بعد میں نے چاہا کہ یہ جان بوس کے انہوں نے کیا تھا ہے اس خیال سے میں نے وہ پرچہ اس میں سے نکال لیا، نکالتے ہی وہ دیوار کرکی، پھر جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ملایا۔ اللہ یہ تم سبک التسلیم و الارض اذ تَرْزُّلَا (الایہ) اللہ ہم ممکن التسلیم و الارضِ آمِسِگُهُ۔ (اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو بے جگہ ہونے اور روئٹنے پھوٹنے سے روکے ہوئے ہے) پ/۲۲/ع۷۴ (اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے تھامے رہنے والے! اس دیوار کو گرنے سے روک لے)۔

## واقعات — ۳۹۳

سالی رواں میں بہاؤ الدولہ نے ابو احمد الحسین بن احمد بن موسی الموسوی کو قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز کرتے ہوئے موسم حج کی ذمہ داری، مظلوموں کی دادرسی اور علیمین کی تقابلاً کے عہدوں پر بھی مامور کر دیا۔ اور یہ بحالی سیراج کے اندر واقع ہوئی۔ لیکن جب یہ تقریبی نامہ بغداد پہنچا تو خلیفہ القادری نے قاضی القضاۃ بنانے کو تسلیم نہیں کیا، اس بنا پر ان کا معاملہ موقوف ہو گیا۔ اسی سال ابو العباس بن واصل بطیحہ کے شہروں کا باڈشاہ ہو گیا اور وہاں سے مہذب الدولہ کو نکال باہر کیا، اس وقت پر سالار اس سے قبضہ واپس لینے کے لیے اس کے مقابلہ کو نکال لیکن ابین واصل نے اسے بھی شکست دے دی اور اس کی ساری دولت اور جائیداد چھین لی، اس کے خزانہ سے جو کچھ ملا اس میں تیس ہزار دینار اور پچاس ہزار درہم بھی تھے۔

اسی سال ایک عربی جماعت بہت ہی شان و شوکت اور حج دھنچے ساتھ سفر جاز کو نکلی، لیکن بدودوں کا امیر الصیران کے مقابلہ میں آ گیا، تب اس جماعت نے اس کے پاس اپنے دو جوانوں کو بھیجا، جو قرآن پاک بہت ہی عمدہ پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ سفر میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو الحسن بن الرفا اور دوسرے کا نام ابو عبد اللہ بن الرجاح تھا، یہ دونوں تمام لوگوں کے مقابلہ میں بہت بہتر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یہ دونوں اس غرض سے اس کے پاس گئے تھے کہ اس سے گفتگو کر کے اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان حاجیوں سے کچھ لے کر ان کو برقت حج ادا کر لیں گے کا موقع دے اور رکاوٹ نہ ڈالے، یہ دونوں اس کے سامنے پہنچ کر بہترین انداز اور دلکش آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، ان کی تلاوت نے اس کے دل پر بہت گہرا اثر ڈالا، اسے یہ قرأت بہت زیادہ پسند آئی، اس لیے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کے بغداد میں گھر بیلو حالات کیسے ہیں، زندگی کیسی گزرتی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور سونے چاندی اور سختے تھا ناف بہت دیتے رہتے ہیں، اس نے پھر پوچھا آج تک تم کو کسی نے بھی ایک دن میں دس لاکھ دینار دیئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ایک ہزار درہم بھی ایک دن میں نہیں دیئے ہیں، اس نے کہا میں تم دونوں کو کبھی ابھی دس لاکھ دینار دیتا ہوں اور تمہارے طفیل میں سارے حاجیوں کو ابھی چھوڑے دیتا ہوں، اگر تم دونوں نہ ہوتے تو میں ان لوگوں

سے وہ لاکھ دینے والے کم رہنے پا شن دیکھا۔ باہم تحریر و سب حج، پڑھ کرنا۔ میں ہمیشہ بھگت ہوں۔ تاہم نہیں یہ اور وہ سب صحیح و سالم ہے وہ عس قاریوں کا شہر و اسرت ہوتے ہوئے تھے کوئی پسے گئے نہ روان چھ توک جب عرفات کے میدان میں ۶ جولائی، ان دونوں نے جمل رحمت پر بارگاہ شاندار طریقہ سے قرأت اور تلاوت ایں کر رہے تھے والوں اور بارے افراد کو پرکرہ یہ طاری ہو گیا تھا اور وہ سب عراق والوں کو اپنے لئے کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ بیک وقت ان دونوں داپنے ساتھ واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ درمیان سفر کوئی حادثہ پیش آجائے تو دونوں ایک ساتھ ہی حادثہ کا شکار ہوں اس لیے ایک کو چھوڑ کر جاؤ کہ حادثہ کی صورت میں دوسرا تو محفوظ رہ جائے۔

گذشتہ سالوں کی طرح اسال بھی حج اور خطبہ کے انتظامات مصریوں کے ذمہ میں رہے۔ عراقیوں کے امیر نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ حج کے بعد مدینہ منورہ کے بغیر ہی وہ جلد از جلد بغداد واپس لوٹ جائیں اسی راستے سے جس سے وہ آئے تھے کیونکہ انہیں لیبرے بد و دوں کے حملہ کا خوف تھا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو بغیر زیارت نبوی واپس جانا بہت شاق گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں قاری اس بڑی سڑک پر جا کر کھڑے ہو گئے جو مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر ماکانِ الْأَهْلِ الْمَدِينَةَ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْعَبُو بِإِنْفِسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ۔ (مدینہ والوں اور اس کے آس پاس کے بد و دوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے لہذا آپ ﷺ کی ذات پاک سے منہ موزتے ہوئے اپنی جانوں کی فکر میں لگ جائیں) کی چند آیتیں تلاوت کیں، یہ سن کرتا تھا لوگ کمربیڈ و زاری کرنے لگے اور ان کے اونٹوں کی گرد نیں از خود ان دونوں کی طرف مڑ گئیں، اس طرح سارے عراقی اور ان کے امیر جی بھی یہ منورہ کی طرف چل پڑے اور سب نے روپہ پاک کی زیارت کی اور سب صحیح سالم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ فللہ الحمد والمنة۔ جب وہ دونوں قاری واپس آگئے تو وہاں کے گورنر نے ان دونوں کو ابو بکر بن بہلول کے ساتھ کر دیا کیونکہ خود وہ بھی بہت حمدہ قاری تھے اور ان سب کو ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ ان لوگوں کی عمدہ تلاوت کی وجہ سے ان کے پیچھے نمازیوں کی جماعت بہت زیادہ ہونے لگی، یہ لوگ دیری تک تلاوت کرتے اور نمازیں طویل کرتے، باری باری سے امامت کرتے، ہر رکعت میں تقریباً تیس آیتیں پڑھتے، اس طرح تراویح سے فارغ ہو کر واپس ہونے میں ایک تھائی یا آٹھی رات گزر جاتی، ایک مرتبہ ابن بہلول نے جامع منصور میں یہ آیت تلاوت کی: الْمُيَأْمُونُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشِعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ۔ (کیا مونشیں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ذکر اللہ اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے سن کر ان کے دل میں ڈر پیدا ہو) یہ سن کر جمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر لکھراتے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہا آپ نے ابھی کون سی آیت تلاوت کی تھی، تو ابن بہلول نے وہی آیت پھر پڑھ کر سنادی، یہ سن کر اس شخص نے کہا ہاں اللہ کی قسم! اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ رحمہ اللہ

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ابو الحسن بن الخشاب کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، وہ ابن الرفا کے شیخ اور ابو بکر بن الادی کے شاگرد تھے، جن کا ذکر اور ہو چکا ہے کہ وہ بھی بہترین آواز سے بہترین قرأت کیا کرتے تھے، ابن الخشاب نے بھی جامع الرصافی میں یہی آیت الْمُيَأْمُونُ لِلَّذِينَ آمَنُوا تلاوت کی، یہ سن کر وہاں بھی ایک صوفی پر وجود طاری ہوا اور کہا ہاں اللہ کی قسم

وقت آج یہ ہے یہ کہہ کر وہ صوفی دینیوں کے بعد بہت سی تین تھوڑی تھی۔ یعنی موسم رہے اتنے میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ مر پکھے ہیں۔ رحمہ اللہ

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

### ابوعلی الاسکافی:

ان کا نقب الموفق تھا، ان کا مرتبہ بہاؤ الدولہ کے نزدیک سب سے بڑھا ہوا تھا، آخربہاؤ الدولہ نے بغداد کا حاکم بنا دیا، تو انہوں نے وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ مال و صول کیا، پھر وہاں سے بھاگ کر بطیحہ کے علاقے میں پہنچ گئے، اور وہاں دو برس اقامت میں وہاں سے پھر بغداد بلوٹ آئے اور بہاؤ الدولہ نے انہیں اس مرتبہ وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا، یہ ذاتی طور پر بہت ہوتیسا را ورثا انہیں میں کامیاب رہتے تھے پھر کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو کر بہاؤ الدولہ نے انہیں سزا دی، اور سالی روائی میں انہیں قتل بھی کر دیا، جب آن کی عمر انچھی تھریس کی تھی۔

## واقعات — ۳۹۵

سال روایت میں مہذب الدولہ بطیحہ کی طرف وہ آئی اور ابن واصل نے اس کی کوئی مخالفت نہ کی اور اپنے اوپر بہاؤ الدولہ کے لیے سا ان پیچاس ہزار دینار لازم کر لیے۔

اسی سال افریقہ میں غلہ کی سخت گرانی ہو گئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ ماں کے سارے مٹنخ اور غسل خانے وغیرہ سب بند ہو گئے، بہت تی مخلوق موت کے گھاث اتر گئی، اور بہت سے انسانوں نے بھوک سے توبہ کر کر جان دے دی، ہم اللہ سے اپنے بہتر نی رہاء پیٹھے نجی ہر کرتے ہیں۔ آئیں

اسی سال بہت سے جانبی تھیں دوران سفر راستہ میں پیاس کی زیادتی سے بلاک ہو گئے۔ اس سال بھی حسب دستور مصروفیں بن اٹھے پڑے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات اپنے والوں کے نام یہ ہیں:

### محمد بن احمد بن موسیٰ بن جعفر:

ابونصر البخاری جو الماجھی کے نام سے مشہور اور حافظوں میں سے تھے، بغداد آئے، وہی محمود بن اسحاق سے اور انہوں نے بخاری سے حدیث حاصل کی تھی، اسی طرح یثم بن کلیب وغیرہ سے بھی روایت کی ہے اور ان سے دارقطنی نے روایت کی ہے،

یہ ناصر محمد شیخ میں سے تھے، اسی رکنے زیادہ عمر یا کم سال، وہ کے ماہ شعبان میں بخارا میں وفات یافتی۔

**محمد بن ابی اسماعیل:**

تلخی بن اکسین بن القاسم ابی اکسن انفوون، ہمدان میں پیدا ہوتے اور بغداد میں جوان ہوتے۔ جنہر انقدر دنیہ سے سد شیخ لکھیں، نیشاپور میں الاصح وغیرہ سے بھی عذر شیخ سنبھلیں اور علی بن ابی ہریرہ سے فتنہ شافعی کا سبق پڑھا، پھر شام گئے اور وہاں صوفیہ کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ کبار صوفیاء میں سے یہ بھی شمار کیے جانے لگے، باہم حج ادا کیا، ماہ محرم میں وفات پائی۔

**ابو الحمیں احمد بن الفارس:**

بن زکریا بن محمد بن حبیب اللغوی، الرازی، فن لغت کی الجمل کے مصنف ہیں، ہمدان میں قیام تھا، ان کے کئی عمدہ رسائلے ہیں، ان سے ”مقامات بدیع“ کے مصنف نے ادب سکھا ہے، ان کے عمدہ اشعار میں سے چند یہ ہیں:

۱. مرت بنا هیفاء محدودة ترکیۃ تمدنی لترکی

تترجمہ: میرے قریب سے گزری پکی کروالی، گھٹے ہوئے بدن والی، ایک ترکیہ عورت، غمازی کر رہی تھی ایک ترکی مرد کی۔

۲. ترنو بطریف قاتر فاتن اضعف من حجه نحسی

تترجمہ: میری طرف ٹکنگی باندھ کر دیکھ رہی تھی ابھی آنکھ سے جو پھرائی ہوئی، فتنہ میں ڈالنے والی اور دلیل سے عاجز ہو جانے والی تھی۔

اور ان کے ہی یہ چند اشعار بھی ہیں:

۱. اذا كنت في حاجة مرسلا وانت بها كلف مغرب

تترجمہ: جب کہ تم اپنی ضرورت پر کسی کو نہ سنداہ بنا کر سمجھو اور تم اس ضرورت کے عاشق اور بہت خواہش مند ہو۔

۲. فارسل حکیما ولا توصه وذاك الحکیم هو الدرهم

تترجمہ: تو کسی حکیم کو سمجھو اور اس کو کوئی وصیت نہ کرو، لیکن وہ حکیم درہم، سکہ رائج الوقت ہو۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ انہوں نے سن تین سو نوے اور ایک قول میں تین سو سچانوے بھری میں وفات پائی ہے لیکن پہلا قول مشہور ہے۔

## واقعات — ۳۹۶

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ سال روایت کے پہلی شعبان کو جمعہ کی رات ایک ایسا تارہ نکلا جو اپنی براوائی اور روشنی کی زیادتی کی بنا پر زہرہ ستارہ کے مشابہ تھا قبلہ کی دلفی جانب تیزی سے چک رہا تھا، زمین پر چاندی کی طرح اس کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ تارہ وسط ذوالقدر تک باقی رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اسی سال محمد بن الاکفانی کو پورے بغداد کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اسی سال القادر بالله نے الامیر قرداش بن ابی حسان کے لیے ایک مجلس منعقد کی اور اسے کوفہ کی حکومت سونپ کر اس کا لقب معتمد الدولہ رکھا، اسی

سال الشافعی نے الرضی کو اپنی لیبسن کی نفقات و نبی اور الرضی کو زاد الحجهین کا نقاب رہا اور اس کے بھائی الرضا کو زاد الحجه تری کا نقاب دیا اسی سال تیمن الدوام محمود بن سعیدتیمن نے بندوقستان کے شہروں پر تمدیر کئے بہت سے ہوئے ہوئے شہروں کو فتح کر لیا اور بے شمار مال حاصل کیا ان میں سے ایک رہبہ و جوکہ تراجمی کا تھا اس وقت ترقیات کر لیا جب کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اس نے ملادہ کے ہوئوں تو توڑ دیا اور اپنا شہری پیکا اس کی کفر میں اس کے تھات تغیرت کے باوجود باندھ دیا پھر رہبہ کے ماتحت کی پھوٹی انگلی کا تر راس کی توپیں کے خیال سے اسے آزاد کر دیا، اس طرح اس کے خیال میں ایک حد تک اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا اظہار بھی مقصود تھا۔ اس سال خطبہ میں الحاکم العبدی کا نام لیا جاتا، اس نے ایک نئی بات یہ پیدا کی کہ خطیب جب خطبہ میں الحاکم کا نام لے تو سارے انسان اس کی عظمت کے تصور سے کھڑے ہو جایا کریں اسی طرح اس نے مصری علاقوں میں بھی ایسے ہی احکام جاری کیے اس میں اتنی اور بھی زیادتی کر دی تھی کہ سارے لوگ اسے سجدے بھی کریں چنانچہ اس کا نام آتے ہی سب سجدے کرنے لگتے۔ حد تو یہ تھی کہ جو نماز میں ہوتے وہ بھی اور جو بازاروں میں ہوتے وہ بھی اسے سجدے کرتے۔ نعنة اللہ و قبھے اللہ۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابوسعید الاسلام عیلی:

ابراهیم بن اساعیل ابوسعید الجرجانی، یہ الاسلام عیلی نے مشہور ہیں، دارقطنی کے زمانہ میں بغداد آئے اور اپنے والد ابو بکر الاسلام عیلی اور الاسم بن عدی سے حدیث کی روایت کی اور ان سے اکیال اور التنوخی نے روایت کی ہے یہ ثقہ اور شافعی المسلک بہت بڑے فقیہ عربیت کے بڑے عالی تھی اور اہل علم پر بڑے مہربان رہتے تھے، بہت پرہیز گار بھی تھے ان کے اپنے شہر میں ان کو اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے کو بھی حکومت حاصل تھی۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ میں نے شیخ ابو الطیب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ابوسعید الاسلام عیلی بغداد تشریف لائے تو وہاں کے فقہانے ان کے اعزاز میں و مجازیں منعقد کیں، ان میں سے ایک کی سرپرستی ابو حامد الاسفر ایتنی نے اور دوسرے کی ابو محمد الباجی نے کی، چنانچہ الباجی نے قاضی المعانی بن زکریا الجھری کے پاس اپنے صاحبزادے ابو الفضل کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ وہ ہی اس مجلس کی رونق بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کریں اور ان کے ہاتھ پر یہ دو اشعار لکھ دیئے:

۱۔ اذا اکرم القاضی الحلیل ولیہ و صاحبہ الفاہ للشکر مو ضعا

ترجمہ: اگر قبل صد احترام کرم فرمائیں اپنے دوست اور اپنے ساتھی پر تو وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار پائیں گے۔

۲۔ ولی حاجۃ باتی بی بذکرها ویسائلہ فیہا التطول اجمعما

ترجمہ: اور مجھے ان سے ایک خاص ضرورت بھی ہے جسے ہمارے لئے کہ بیان کر دیں گے جس میں ان پر احسان کرنے کی درخواست ہے۔

تو قاضی الحجری نے شیخ کے صاحبزادے کے انتحال ان دو اشعار سے جواب دیا:

۱۔ دعا الشیح مصواعاً سمعیاً لامرہ      نسوانیہ ضوحاً حیث پرسسم صیعاً

ترجمہ: شیخ نے اپنے فرمادہ رائے پر حکم جزا نے مانتے ہوئے یہ اکثر میں اس فرمادہ کو بہترین انجام دے سکتے ہوں تو اگر گزروں گھا۔

۲۔ وَهَا إِنَّا غَادَ فِي غَدِيرِ نَحْوِ دَارِهِ      ابَا دُرْمَاقَدْ حَدَّهُ أَنِّي مَسْرِعًا

ترجمہ: اب میں کل سوریے ہی ان کے دری دلت پر حاضر ہونے والا ہوں، جو وقت مجھے بتایا ہے اسی میں تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا۔

یہ اسلامی جرجان میں ایک مرتبہ محراب میں کھڑے ہو کر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے جیسے ہی انہوں نے ایا ک بعد و ایا ک نستعین کی آیت تلاوت کی ان کی روح نفس غصری سے پرواز کر گئی اور ان پر موت طاری ہو گئی۔ رحمہ اللہ

### محمد بن احمد:

بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن نجیر الوعمر والهز کی۔ الحافظ نیشا پوری، الحجری سے مشہور ہیں طلب علم کے لیے دور راز علاقوں کا سفر کیا، حافظ حدیث تھے، گفتگو کا اندازہ بہت بہتر تھا، ثقہ اور ثابت تھے بنداد اور محققہ شہروں میں حدیثیں بیان کیں، تہذیر برس کی عمر میں ماہ شعبان میں وفات پائی۔

### ابو عبد اللہ بن مندہ:

الحافظ محمد بن اسحاق بن محمد بن میکی بن مندہ ابو عبد اللہ الاصفہانی الحافظ حدیث اور حفظ حدیث میں پختہ تھے۔ بہت دور راز علاقوں کا سفر کیا، بہت سے لوگوں سے حدیثیں سنیں۔ علم تاریخ اور النازخ والمنسوخ تی کتابیں تصنیف کیں۔ ابوالعباس جعفر بن محمد نے کہا ہے کہ میں نے ابن مندہ سے زیادہ حافظ کسی دوسرے کو نہیں پایا ہے۔ سالی روائی کے ماہ صفر میں اصفہان میں وفات پائی۔

## واقعات — ۳۹۷

سالی روائی میں شاہ مصر الحاکم عبیدی کے خلاف ابورکوہ نے بغاوت کی تھی، اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مردان اموی کے خاندان کا ایک شخص جس کا نام الولید اور اس کا لقب ابورکوہ تھا۔ ابورکوہ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ صوفیوں کی عادت کے مطابق اپنے ساتھ بھیش ایک چھاگل (پانی رکھنے کا برتن) ساتھ لیے پھرتا تھا۔ مصری شہروں میں جا کر حدیثیں بھی سنیں۔ مکہ میں جا کر اقامت کی، پھر یمن کی طرف سفر کیا پھر شام چلا گیا۔ ان پر یثانیوں کے باوجود جو کوئی اس سے بیعت ہونا چاہتا ان میں سے جس کے اندر اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ ہشام کے خاندان کی حکومت قائم کرنے میں مدد کرے گا، اسے بیعت کر لیتا اسی طرح وہ مصر کے شہروں میں سے کسی بھی عرب خاندان کے محلہ میں اقامت کرتا پھرتا، بچوں کو تعلیم دیتا، دنیا سے کنارہ کشی کی اور اپنی عبادات میں مشغولیت اور پرہیزگاری کا اٹھا کرتا پھرتا، پھر وہ کچھ غیب دانی کی باتیں کرتا اور لوگوں

کو کچھ پیشناویں شاکر کے انی طرف مائل کرتا اس طرح لوگ اس کی بہت زیادہ عظمت کرنے لگے پھر لوگوں میں یہ بھی ظاہر کرنے لگا کہ یہ اموی خاندان اور ان کی حکومت کے احیا کی کوشش کرتا چاہتا ہے یہ سن کر لوگ اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے اسے امیر امویین سے خطبہ کرنے لگے اور اس کا لقب سلطان بر امر اللہ المستنصر من احمداء اللہ رحمہ پھر ایک بہت بڑا لشکر لیے ہوا ہے یہ "رق" میں داخل ہوا تھا، باہل کے لوگوں نے اس کی ۷۰۰ کے لیے ۱۱۰۰ لاکھ بیان جمع کر کے اسے، یہ پھر اسی یہودی پر کسی امانت میں خیانت کے الزام کے سلسلہ میں دولاکھ دینار کا جرمانہ عائد کر کے اس سے بھی وصول کر لیا اور اس کے درہمودی اور دیناروں پر اس کے لقب کی مہر لگادی جمعہ کے دن اس نے خود ہی خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں الحاکم پر لعنت بھی کی، اس طرح تقریباً سولہ ہزار آدمی اس کے لشکر میں جمع ہو گئے جب الحاکم کو اس کے موجودہ حالات کا پتہ چلا۔ اور جو ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگایا تو اس نے پانچ لاکھ دینار اور پانچ ہزار کپڑے ابو روکہ کے سپہ سالار فضل بن عبد اللہ کے پاس بھیج دیے تاکہ اسے اپنی طرف مائل کر لے اور ابو روکہ سے اسے کنارہ کر دے چنانچہ جوں ہی یہ کپڑے اور نقد دینار اسے ملے اس نے فوراً ابو روکہ سے کنارہ کشی کر لی اور یہ اعلان کر دیا کہ الحاکم سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اور جب تک تم ہمارے درمیان رہو گے ہم قابل گرفت اور مور دعا کر رہیں گے، اس لیے تم جس جگہ رہنا پسند کرو وہاں چلے جاؤ تو اس نے اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ دوسوار کر دو جو ہمیں التوبہ تک پہنچا دیں، کیونکہ اس کے اور اس کی سلطنت میں اچھی دوستی اور ایجاد تھے۔ چنانچہ اس نے اسے روانہ کر دیا اور اس کے پیچھے پیچے اس نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی روانہ کر دیا جنہوں نے اسے درمیان راہ سے پکڑ کر الحاکم کے پاس پہنچا دیا۔ جب یہ ابو روکہ حاکم کے پانچ پہنچا اس نے اسے اوٹ پر بٹھا کر شہر میں گشٹ کرایا پھر دوسرے دن اسے قتل کر دیا، اس کے بعد اس حاکم نے اس فضل کا بہت اکرام کیا۔ اور اسے بہت سی جائیداد کا مالک بنادیا اس کے بعد یہ فضل بیار پڑ گیا تو الحاکم دوبارہ اس کی عیادت کو بھی آیا اور جب وہ اپنی بیماری سے اچھا ہو گیا تو اسے قتل کر کے اس کے دوست ابو روکہ تک پہنچا دیا۔ یہ گھریوال کی چالاکی اور اس کا بدلہ تھا۔ پھر الحاکم نے قرداش کو ماہ رمضان میں اس کے تمام اختیارات سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر ابو الحسن علی بن یزید کو بٹھاتے ہوئے اسے سند الدولہ کا لقب دیا۔

اسی سال یمن الدولہ محمود بن سبلگین نے ترکی بادشاہ کو خراسان سے نکال باہر کیا، اور بے شمار تر کیوں کو قتل کر دیا۔ اسی سال ابو العباس بن واصل کو قتل کر کے اس کا بر سر بہاؤ الدولہ کے پاس بھیج دیا جسے خراسان اور فارس پر جگہ گشٹ کرایا گیا، اسی سال ججاج کا قافلہ سفر جج میں جا رہا تھا کہ راستہ میں زبردست طریقہ سے سیاہ آندھی اٹھی جس نے انہیں پریشان کر دیا، پھر بد و دل لشیروں کا سردار ابن الجراح ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس طرح یہ لوگ جج کو نہ جاسکے اور میں تردد یہ کے دن یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے اس سال بھی مصریوں کے نام خطبہ میں لیے گئے۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں۔

عبد الصمد بن عمر بن اسحاق:

ابوالقاسم الدینوری الوعظ الزائد انہوں نے ابوسعید الاصطخری سے قرآن مجید ختم کر کے شافعی المسلک کے مطابق ان

سے فتنہ کی بھی تعلیم حاصل کی، پھر النجاشی، سے حدیث کی ساعت کی، ان سے الشیری نے روایت کی۔ یہ لفظ اور صلح تھے اور مجاہدہ نفس بالکل حق بات بولنے پاک، داں رہنے اور دینی سمجھا اور خشک مراجی، امر بالمعروف اور نهى عن المنكر، عمدہ طریقہ تے وعظ کرنے اور نوگوں کے دلوں میں اس کا اثر دالتے ہیں یہ بے شک اور شریب المثال تھے، ایک دن ایک شخص نے ان کو مودیا، اور زیع تو کہنے لگا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا کہ آپ یہے کہا پہنچنے والوں میں تسلیم فرمادیں تو انہوں نے کہا کہم انہیں زمین پر رکھ دو، تو اس نے رکھ دیئے، اس کے بعد انہوں نے حاضرین سے کہا کہ ضرورت مدد حضرات ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں، چنانچہ حاضرین نے حسب ضرورت لے کر انہیں ختم کر دیا، تب ان کا لڑکا ان کے پاس آیا اور اپنی ضرورت کے لیے ان سے شکایت کرنے لگا، انہوں نے فرمایا کہ تم بننے کے پاس جا کر میرا نام لے کر ایک چوتھائی رطل کھجور ادھار لے لواں سے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا تھا کہ اس نے ایک مرغی اور کچھ شیرینی خریدی تھی، اس لیے لوگوں کو اس لڑکے کی حرکت پر تعجب ہوا، اس لیے کسی نے اس کا پچھا لیا یہاں تک کہ وہ ایک ایسے گھر میں داخل ہوا فروشوں کی دوائیں کوٹا کرتے تھے پچھے تھے، اس لڑکے نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ ابتداء میں یہ سعد مزدوری پر دوا فروشوں کی دوائیں کوٹا کرتے تھے اسی اجرت سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتے تھے، اپنی موت کے وقت کہا کرتے کہ اے میرے مالک! میں اس وقت کے لیے آپ سے چھپنے کی کوشش کرتا تھا۔ سالی رواں کے ماہ ذوالحجہ کی تہیسوں میں تاریخ منگل کے دن وفات پائی، جامع منصوری میں ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی گئی، اور مقبرہ امام احمد میں فیض کیے گئے۔

### ابوالعباس بن واصل:

سیراف اور بصرہ وغیرہما کے بادشاہ، ابتداء یہ کرخ میں خدمت، گزاری کرتے تھے۔ لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ وہ عنقریب بادشاہ بن جائیں گے اس لیے ان کے احباب میں سے کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ بادشاہ بن جانے کے بعد تم مجھے کیا دو گے دوسرا کہتا مجھے کہیں کا گورنر بنادیا کچھ اور کہتے کہ مجھے خلعت پہنانا، الحاصل تقدیر ان پر غالب آئی اور یہ سیراف اور بصرہ کے بادشاہ بن گئے، پھر بطيحہ کے علاقہ کو مہذب الدولہ سے چھین لیا اور وہاں سے اس طرح سے خالی ہاتھ نکال باہر کیا کہ وہ راستہ میں بیل کی پیٹھ پر سوار ہونے پر مجبور ہوا، وہاں کی ساری دولت اور جائیداد پر امن واصل نے قبضہ کر لیا اس کے بعد اہواز جا کر وہاں بہاؤ الدولہ کو نشست دی، دوسرے موقع پر بہاؤ الدولہ کوں پر غالب آگیا اور انہیں ماہ شعبان میں قتل کر دیا، پھر سرتن سے جدا کر کے پورے شہر میں گشت کرایا۔

### واقعات — ۳۹۸

سالی رواں میں یہیں الدولہ محمود بن سکنگین نے ہندوستانی شہروں پر جہاد کیا، اور بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا، جن سے بے شمار مال اور قیمتی جواہر ملے، جو کچھ ملا ان میں سے قابل ذکر ایک گھر ایسا ملا جس کی لمبا تی میں ہاتھ اور چوڑائی پندرہ ہاتھ تھی اور وہ چاندی سے بھر پور تھا وہ یہ سب لے کر غزنی پہنچا اور وہاں اپنا سارا مال اپنے گھر کے آگلن میں ڈال دیا اور بادشاہ کے آدمیوں

کو ان کے دیکھنے کی اسازت اے وہی انہوں نے جو، یکجا تو ان کی آنکھیں پچھلی کی پچھلی اور متنہ ہوئے رہ گئی۔ اس سال ماہ ربیع الآخر کی گلزاری ہوئی تاریخ بدھ لے دن بغداد میں بُرثت اولے اور تھر گر سے بیان تک کہ وہ میں پر ذیر ہ با تھہ ہوئے تھے اور کسی بُرثت سے وہ نہ پُرس سنتے ان نے ترے کا اشترخیریت کو فہرستہ عرب دان اور عرب دان لفہ ہوا۔ اسی میں میں پوروں اور اچکوں کا بہت زور تو گیا تھا وہ تو مسجدوں اور بازاروں سے بھی پوری کرنے لگے تھے با تھر پولیس ان پر غالب آگئی اور ان کو پکڑ کر بہت سے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے اور آنکھیں نکال دیں۔

### مصحف ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے جلانے کا قصہ:

جو شیخ ابو حامد الاسفر آپنی کے ایک فتویٰ کے سلسلہ میں پیش آیا جسے ابن الجوزی نے اپنی کتاب منتظم میں بیان کیا ہے اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ دسویں رجب کو سنیوں اور افسیوں کے درمیان ایک فتنہ برپا ہوا جس کا سبب یہ ہوا کہ ہاشمیوں کی ایک جماعت شیعی فقیہ کے پاس گئی جس کا نام ابو عبد اللہ محمد بن العثمان تھا اور ابن المعلم سے مشہور تھے وہ اس وقت ابا ح کی گلی کی مسجد میں تھے انہوں نے ان سے کچھ سخت کلامی کی اور بد کلامی سے ان سے پیش آیا یہ دیکھ کر ان کے وہاں کے مانے والے ان کی طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کرخ والے بھی پھر گئے۔ پھر سب مل کر قاضی ابو محمد الکافی اور شیخ ابو حامد الاسفر آپنی کے گھر گئے اور زبردست ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس وقت ان شیعوں نے نوح قرآن پاک کا ان کے سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ یہ نوح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے جو سارے قرآن مجید سے بالکل مختلف ہے یہ سن کر تمام شرفاً، قاضی اور فقہاء، ما و رجب کی انتیسویں تاریخ جمع کی رات کو وہاں جمع ہو گئے اور وہ قرآن شریف سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ آخر میں شیخ ابو حامد الاسفر آپنی اور تمام فقہاء نے اس کے جلاڈا لانے کا مشورہ دیا پھر سب کے سامنے وہ نوح جلا دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سارے شیعہ غصے سے بھڑک اٹھے ما و شعبان کے وسط میں وہ لوگ ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے اس نوح کو جلا یا تھا ان کے لیے بد دعا میں کرنے اور گالیاں دینے لگے، اس کے بعد ان کے نوجوانوں کی ایک جماعت نے شیخ ابو حامد کے مکان کا رخ کیا، تاکہ ہر ممکن طریقہ سے انہیں تکلیفیں پہنچائیں، لیکن وہ خبر پاکروہاں سے دارقطن چلے گئے۔ پھر وہ لوگ یا حاکم اور یا منصور کہہ کر جیج و پکار کرنے لگے، خلیفہ کو جب شیعوں کی ان حرکتوں کی خبر ملی تو انہوں نے اہل سنت کی مدد کے لیے اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کو بھیج دیا۔ چنانچہ ان شیعوں کے بہت سے گھر جلا دیئے گئے اور بہت زیادہ ان میں ہنگامہ آ رائیاں ہوئیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے سالا رشکر کو شیعی فقیہ ابن المعلم کو وہاں سے نکال دینے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ اس نے اس فقیہ کو وہاں سے نکال دیا مگر بعد میں خود ہی اس کے لیے سفارش بھی کر دی اساتھ ہی قصہ گلوگوں کو اور مانگنے والوں کو حضرات شیخین (حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن حفظ) کے نام لے کر مانگنے سے منع بھی کر دیا، اس کے بعد شیخ ابو حامد الاسفر آپنے گھر لوٹ آئے۔

ما و شعبان میں الدینور میں زبردست زلزلہ آیا جس سے وہاں کے بہت سے مکانات گر گئے اور لوگوں کی بہت سی جائیدادوں اور سامانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسی طرح دوقتی، تکریت اور شیراز میں سیاہ آندھی چلی جس نے لوگوں کے

بہت سے سکافوں کھجور اور زیتون کے پاغوں کو ویران کر دیا۔ اور بہت سی مخلوق ماری گئی اور شر از کا پچھو حصہ کر گیا اور پچھے حصے میں زبردست بھونچاں آیا جس سے دریا کی بہت سی کشتیوں (و ب تینیں، نیز شہر واسطہ میں بہت زیادہ) اے پڑے۔ بہن میں سے ایک کا وزن ایک سو چھوڑ رام کے ورانہ کا بھی تھا اور بعد ازاں کے اندر ماءِ نصیر (رمی میڈ) میں زیر دست باش مولی جس نے پرانے سب بہنے لگے۔

### سالی روائیں میں قمامہ کے ویران کر دینے کا حکم:

بیت المقدس میں نصاریٰ کے ایک گرجا گھر کا نام قمامہ تھا۔ الحاکم نے اس کے ذہادینے اور اس میں جو کچھ مال و سامان تھا، سب کا سب عوام کے لیے مباح کر کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نصاریٰ اپنے گرجا گھروں میں آگ سے نجات پانے کے سلسلہ میں یوم نجات اور یوم عید منا کر پوری خوشی مناتے ہیں اس آگ کے متعلق ان کے جاہل عوام یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ آگ آ سماں سے برستی ہے، حالانکہ وہ تو ان ہی لوگوں کی بنائی ہوئی، برسائی ہوئی اور مصنوعی ہوتی ہے جو ریشم کے دھاگوں اور پرانے پھٹے کٹے دن میں گندھک اور بلسان کے درخت کے تبلیغات کے طریقہ سے ملا کر خاص طریقہ سے وہاں کے کمینے لوگوں اور عوام رواج کے مطابق نیڑ کرتے تھے اور آج تک اسی جگہ پر اسی طرح استعمال بھی کرتے ہیں۔

اسی طرح اس سال مصر میں بھی بہت سے گرجا گھر منہدم کردیے گئے اور نصاریٰ میں یہ عام اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہو وہ قبول کر لے اور جو اسلام قبول کرنا نہ چاہتا ہوا سے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ اطمینان کے ساتھ یہاں سے نکل کر ملک روم میں چلا جائے۔ اس کے باوجود اگر کسی اپنے دین پر رہتے ہوئے یہاں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حاکم کے نئے احکام کو بجا لائے جو شہری علاقوں میں رہنے والوں کے لیے نافذ کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ اپنے سینوں پر چار رطل وزن کی لڑکی کی ایک تختی لٹکائے پھریں اور یہودا پنے سینوں پر پور طل وزن کا پچھڑے کا سر لٹکائے پھریں، حمام میں جاتے وقت ہر فرد کی گردن میں پانچ رطل وزن کی مخف کھو اور اس میں گھٹنیاں بندھی ہوئی ہوں، اور آخر میں یہ حکم بھی ہے کہ وہ کسی گھوڑے پر سوار نہ ہوں البتہ کچھ دنوں بعد جن گرجا گھروں کو ویران کر دیا گیا تھا وہ دوسرا بنا سکتے ہیں اور ان میں سے جو شخص اسلام لے آیا ہوا سے پھر اپنے ندھب میں لوٹ جانے کی اجازت ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے سجدوں کو ایسے لوگوں سے پاک کر دینا چاہتا ہوں جن کی نیت صاف نہ ہو اور بد باطن ہوں، پہچانے بھی نہ جاتے ہوں، اللہ ایسے لوگوں کا انعام برآ کرے۔

### مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والے لوگ یہ ہیں۔

#### ابو محمد البانی:

ان کے حالات پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ نام عبد اللہ بن محمد البانی البخاری الخوارزمی ہے، فقہ شافعی کے اماموں میں سے تھے۔ ابوالقاسم الدارکی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، بعد میں ان کی ہی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیا۔ علم ادب، فضاحت اور شعر میں

ان کو براہ الملک حاصل تھا، یا ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کی ملاقات سے برآئے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی کہ وہ گھر پر نہیں تھے۔ اس وقت یہ اشعار کہتے ہیں۔

۱۔ فَدْ حَصْرَنَا وَنِيسْ عَصْيَ الْتَّلَافِي سَأَلَ اللَّهَ خَيْرَ هَذَا التَّفَارِ  
ترجمہ: ہم حاضر ہوئے تکن ملاقات نہ کر سکے ہم اس جدائی پر بھی اللہ سے بہتری کی، یا مانگتے ہیں۔

۲۔ إِنْ تَغْبَ لَمْ أَغْبُ وَإِنْ لَمْ تَغْبَ غَبْتَ كَانَ افْسَرَ أَقْنَا بَاتِفَاقِ  
ترجمہ: اگر آپ غائب ہو گئے مگر میں غائب نہ ہوا، اگرچہ آپ غائب نہیں ہوئے پھر بھی آپ غائب ہو گئے، گویا ہمارا یہ فرق اتفاقی ہے۔

سال رواں کے ماہ حرم میں وفات پائی، ہم نے ان کے حالات طبقات الشافعیہ میں قلم بند کر دیے ہیں۔

#### عبداللہ بن احمد:

بن علی بن احسین، ابو القاسم، الصیدلاني سے مشہور ہیں۔ ابن صاعد سے نقل کرنے والے شترادیوں میں یہ آخری شخص ہیں۔ ان سے الا زہری نے روایت کی ہے شقة مامون اور صالح بھی تھے اسی سال ماہ ربیع میں نوے سال سے زیادہ عمر پا کر وفات پائی۔

#### البغدادی الشاعر:

عبداللہ الواحد بن نصر بن محمد، ابو الفرج الحخروی، لقب الببغاء تھا۔ اسی سال ماہ شعبان میں وفات پائی، ادیب، فاضل، زم مزان، فی البدیہہ شاعر تھے ان کے یہ چند اشعار ہیں۔

۱۔ يَا مَنْ تَشَابَهَ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ فَمَا تَسَافِرُ إِلَّا نَحْوَهُ الْحَدْقِ  
ترجمہ: اے وہ شخص جس کی صورت اور سیرت ایک جیسی ہے اس لیے تم جدھر بھی جاتے ہو میری آنکھوں کے ڈھیلے بھی اسی طرف جاتے ہیں۔

۲۔ فَوَرَدَ دَمْعِيْ مِنْ خَدَّبِكَ مُخْتَلِسٌ وَسَقَمْ جَسْمِيْ مِنْ جَفْنِكَ مُسْتَرِقٌ  
ترجمہ: میرے آنسو تمہارے رخساروں سے اچکے ہوئے ہیں اور میرے جسم کی بیماری تمہارے دونوں پلکوں سے چوری کی ہوئی ہے۔

۳۔ لَمْ يَبْقَ لِي رَمْقَ اشْكُوْهُوكَ بِهِ وَانْمَا يَشْتَكِي مِنْ بِهِ رَمْقٌ  
ترجمہ: میرے بدن میں کوئی جان بھی باقی نہیں ہے جس سے میں تمہاری خواہش کی شکایت کروں۔ شکایت تو وہی کرتا ہے جس میں کچھ بھی جان ہو۔

#### محمد بن میجہ:

ابو عبد اللہ الجرجانی۔ زادہ غاہد علماء میں سے ہیں، ابو بکر الرازی کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے۔ قطیعۃ الربيع میں درس

بیت، ان کی آخری عمر میں ان برقا لجھ کا حملہ ہوا تھا۔ فاتح کے بعد انہیں کے رہنے کے گئے۔

### بدائع الزمان

المقامتات کے مصنف احمد بن احمد بن عین بن یعنی بن سعد ابو الحصل احمد اپنی اخلاق بدائع الزمان سے مشہور ہیں۔ پسندیدہ رسائلوں اور شہرت یافت مقامات کے سلف ہیں اسی کے انداز پر احریری نے بھی ستا ب تصنیف کی ہے اور ان کے ہی نقش قدیم پر طے ہیں۔ ان کے پیشو و ہونے پرانہوں نے ان کا شکر یہ ادا کیا ہے اور ان کی افضلیت کا اقرار کیا ہے۔ علم لغت ابن فارس سے حاصل کیا ہے۔ پھر منظر عام پر آئے اور فضلاء اور فصحاء میں شمار ہونے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا جس سے ان پر موت سا سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے عجلت کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر قبر میں زندگی لوٹ آئی اور جنح و پکار شروع کر دی جسے اوپر والوں نے بھی سن لیا، اس لیے ان کی قبر کھو کر انہیں نکال لیا گیا پھر جب ان کی موت آئی اس وقت قبر کے ہولناک منظر کا خیال کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑے ہوئے تھے یہ واقعہ سالِ رواں کے جمادی الآخر کی گیارہویں تاریخ جمعہ کے دن پیش آیا۔ رحمہ اللہ

### واثقات — ۳۹۹

سالِ رواں میں الحاکم العبدی کی طرف سے رجب میں نائب مقرر کیے ہوئے علی بن نماں قتل کر دیئے گئے۔ عیسیٰ بن الخلاط اعقولیں ان کو قتل کر کے خود بادشاہ بن کیا تھا۔ لیکن عباس بن مروان اس حلب کا بادشاہ اسے لے کر خود اس کی جگہ پر بادشاہ بن گیا۔

اسی سال عمرو بن الواحد کو بصرہ کے عہدہ قضاۓ سے معزول کر دیا، ابو الحسن بن ابی الشوارب کو اس جگہ پر فائز کر دیا گیا اس لیے لوگ ایک کو مبارک باد دینے اور دوسرے کی تعزیت کرتے پھرتے تھے۔ اسی موقع پر العصفری نے یہ اشعار کہے ہیں:

۱۔ عندي حدیث ظریف، بمثله یتعنی من قاضین یعزی، هذو هذو یهنا

تترجحہ: میرے پاس ایک بہت عمدہ بات ہے، ایسی ہی بات کی اور بتائی جاتی ہے۔ دو قاضیوں میں سے اس ایک کی تعزیت کی جاتی ہے تو اس دوسرے کو مبارک بادی دی جاتی ہے۔

۲۔ فذا یقول اکھونی، و ذا یقول استرحا ریکذبان جمیعاً، ومن یصدق منا

تترجحہ: اس لیے یہ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور یہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے راحت حاصل کی۔ لیکن یہ دونوں ہی غلط کہتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ہے جو حق بولتا ہے۔

سالِ رواں میں بغداد میں زبردست آندھی چلی جس نے اس کے راستوں پر لال رنگ کی کچڑیاں دی۔ اسی سال حاجیوں کے راستے میں بالکل اندر ہرا کر دینے والی تیز ہوا چلی۔ پھر لیئرے بدوبھی ان کے راستے میں آگئے اور ان کا راستہ روک لیا اور اتنا پریشان کیا کہ ان کے جنگ کا موسم ختم ہو گیا پھر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔

بنوہلال نے بصرہ کے حاجیوں کے چھ سو آدمیوں کے ایک قافلہ کو پکڑ کر ان سے دس لاکھ دینار وصول کر لیے۔ اس سال

بھی مجھ سے خطبوں، میرے عزیزیوں کے تین ہم لیے گئے

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں۔

عبداللہ بن بکر بن محمد:

بن الحسین ابواحمد الطبرانی۔ مکہ معلومہ، بغداد اور دوسرے شہروں میں حدیث کی سماحت کی بہت زیادہ معظم و کرم تھے۔ ان سے دارقطنی اور عبدالغنی بن سعید نے سماحت کی ہے۔ اس کے بعد شام میں ایک پہاڑ کے پاس اقامت کی اور اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہئے یہاں تک کہ ماہ ربيع الاول میں وفات پائی۔

محمد بن علی بن الحسین:

ابو مسلم وزیر بن خنزارہ کے فرشتے۔ بغولی، ابن صاعد، ابن دریڈ، ابن ابی داؤد، ابن عرفہ اور ابن مجاهد وغیرہم سے روایت کی ہے، بغولی کے شاگردوں میں یہ آخری تھے۔ یہ علم، حدیث، معرفت اور فہم کے مالک تھے۔ بعضوں نے ان کی بغولی سے روایت میں عیوب جوئی کی ہے کیونکہ اس کی غرض فاسد تھی اور الصوری نے کہا ہے کہ ان کی آخری عمر میں حافظہ میں کمی آگئی تھی۔

ابوالحسن علی بن ابی سعید:

عبدالواحد بن احمد بن یونس بن عبد العالی الصدقی المصری کتاب الریح الحاکمی جو چار جلدوں میں ہے اس کے مصنف ہیں، ان کے والد بڑے محدثین اور حفاظت میں سے تھے۔ انہوں نے مصر کی ایک مفید تاریخ لکھی ہے، علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن یہ خود علم النجوم میں مشغول ہو گئے اور اس میں ایک بڑا درجہ حاصل کیا۔ علم الرصد سے ان کو بڑی گہری دلچسپی تھی۔ اس کے باوجود یہ بڑے بے خبر اور بدحال لوگوں میں سے تھے۔ پرانے بھٹے کپڑے بدن پر ہوتے لبے قد کی بہت لمبی نوکدار روپی کے اوپر پگڑی باندھا کرتے تھے اور اس پر سبزرنگ کی خاص قسم کی چادر بھی ڈال لیا کرتے تھے۔ گدھے پر سوار ہوتے ان کو دیکھنے والا بنتے بغیر نہیں رہ سکتا تھا حاکم کے پاس جانے سے وہ ان کا بہت اکرام کرتے۔ ان کی یہ ظاہری صورت بتا دیتی تھی کہ اپنے کام اور فکر میں مدد ہوش ہیں، ان کی گواہی غیر معترض تھی۔ ان کے اشعار عمده ہوتے، ابن خلکان نے چند یہ بیان کیے ہیں:

۱۔ احمل نشر الريح عند هبوبه رسالت مشتاق الى حبيبه

تبتھجھتا: اے ہوا! اپنے بہتے وقت لے جا ایک عاشق کا خط اس کے معشوق کے پاس۔

۲۔ بنفسى من تحبى النفوس بريقه ومن طابت الدنيا به وبطبيه

تبتھجھتا: میری جان قربان ہوا شخص پر جس نے اپنے تھوک سے لوگوں کو زندگی بخشی اور اس شخص پر جس کی ذات سے اور اس کی خوبی سے دنیا معطر ہو گئی۔

۳۔ یحیاد، جدی صائف بنہ فی الک، سے مدد حسافی حفیہ من قده  
ترجمہ: اور یا مخالفوں کو اس سے کہ اس میں جو تباہ کرنے والا ہے اس کے رقیب سے اس سے گھ میں  
لے۔ عمری قد عصمت ذاتی بعدہ و عیہا عسی نضم معبسہ  
ترجمہ: قسم ہے میری الہمگی کی کہ اس کے بعد میری زندگی کا پیارہ بے محض ہو کر رہ گیا ہے اور زمانہ دراز سے اس سے  
ملاقات نہ ہونے کی بنا پر میں نے اسے خود سے دور کر دیا ہے۔  
**امیر المؤمنین القادر باللہ کی ماں:**

عبد الواحد بن المقذر کی باندی بہت زیادہ عابدہ اور صاحد تھیں، فضل اور دین کی مالک تھیں، سالی رواں کے ماہ شعبان کی  
بائیسویں تاریخ جمعرات کی رات کو انہوں نے وفات پائی، ان کے بیٹے القادر نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی تھی، اور بعد  
عشاء ان کو رصافہ میں دفن کر دیا گیا۔

## واقعات — ۳۰۰

اس سال ماہ ربیع الآخر میں دجلہ کا پائی بہت زیادہ کم ہو گیا یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جزیرے نظر آتے تھے اور اس  
کے بالائی حصوں میں کشتوں کا چلنگا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ لیے ان جگہوں کو کھود کر گہرا کرنے کا حکم دیا گیا۔  
اسی سال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشہد کی چار دیواری مکمل کر دی گئی جس کی تعمیر ابو اسحاق الاجانی نے کی تھی بات یہ  
ہوئی کہ ایک مرتبہ ابو محمد بن سہلان سخت یہاں پڑے تو انہوں نے نذر نماز تھی کہ اگر اللہ نے تشدیق دے دی تو اسے مکمل کر دیں  
گے۔ چنانچہ اللہ نے شفاء بھی دے دی تھی۔

ماہ رمضان میں یہ غلط خبر اڑا دی گئی تھی کہ خلیفہ القادر باللہ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس غلط خبر کو باطل ثابت کرنے کے لیے  
جعد کے دن نماز کے بعد سب کے سامنے مجلس میں نظر آنے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت ان کے بدن پر ایک چادر تھی اور ہاتھ میں  
چھڑی تھی اس موقع پر شیخ ابو حامد الاسفر ایت آئے اور ان کے سامنے حداب بجالائے پھر یہ آیت پاک تلاوت کی:  
ترجمہ: ”اگر بازنہ آئے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو مذینے میں جھوٹی جھوٹی  
اوایں اڑایا کرتے تھے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم  
رہیں گے... چند آیتوں تک۔“

یہ سن کر اور حالات کو دیکھ کر لوگ خوشی کے آنسو روئے ہوئے اور درازی عمر کی دعا کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ  
آئے۔ اسی سال یہ خبر بھی مشہور ہوئی کہ الحاکم نے جعفر بن محمد الصادقؑ کے اس مکان کے بارے میں جو مذینہ میں ہے اس سے  
سامان وغیرہ کے نکال لینے کا فرمان نافذ کیا ہے چنانچہ اس میں سے قرآن پاک اور جو تھیار وہاں تھے سب نکال لیے گئے۔ یہ  
گھر صاحب خانہ کی وفات کے بعد سے اب تک نہیں کھولا گیا تھا، قرآن پاک کے علاوہ وہاں لکڑی کا ایک بڑا پیارہ بھی تھا جس

کہ کہتا ہے میں نہ ہم اگر یا سماں تھا اس کے علاوہ خیر انی چڑھے کی ایک حال ایک جھیونٹا نہیں اور ایک تخت بھی تھا۔ ملاؤی یہ سماں سامان وہاں سے مصری شہروں میں لے گئے اس لیے الحاکم نے ان لوگوں کے لیے ہرے انعامات اور بہت سے اخراجات کے دینے کا بھی اعلان کیا اور تخت نو اپنے اترے بقدر سامان اپنے پاس رکھ لیا اور یہ دعویٰ لیا کہ میں ان چیزوں کا زیادہ حقدار ہوں مجبوراً خلیفہ کو برداشت کرتے ہوئے بھی سارے سامان ان کو واپس کر دیا اسی سال الحاکم نے اہل علم کے لیے ایک لگھر بنو ارفقہا کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا لیکن تین برسوں کے بعد ہی اس لگھر کو ویران کر دیا اور اس وقت وہاں جتنے فقهاء، محدثین، علماء اور نیک لوگ موجود تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اسی سال اس جامع مسجد کی تعمیر کرائی جو خلیفہ کی طرف منسوب ہو کر جامع الحاکم سے مشہور ہوئی، اس کے بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی سے کام لیا۔ پھر ماہ ذوالحجہ میں المؤیدہ شام بن الحکم بن عبد الرحمن العوی کو معزول کر کے اور جس اور جیل خانہ کی طویل مدت کی سزا بھگتے کے بعد وہ بارہ بادشاہت دے دی گئی، اس سال حرمن میں کے خطبہ میں مصر اور شام کے خلیفہ کا نام لیا گیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں انتقال کرنے والوں کے نام یہ ہیں۔

### ابو احمد الموسوی القیقب:

احسن بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر الموسوی۔ الرضی اور المرتضی کے والد عہدہ نقابت الطالبین پر پانچ بار فائز ہوئے۔ معزول کیے جاتے پھر بحال کیے جاتے پھر آخری عمر میں بھی بحال کیے گئے ستانوے برس کی عمر میں وفات پائی، ان کے بیٹے المرتضی نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور مشہد الحسین میں دفن کیا گئی، ان کے لڑکے المرتضی نے اپنے بہترین مرثیہ میں ان کا اس طرح مرثیہ کہا ہے، چند اشعار یہ ہیں:

۱۔ سلام اللہ تنقلہ اللیالی و تهدیہ والغدو الی الرواج

ترجمہ: اللہ کا سلام ایسا ہے راتیں لے پھریں اور صبح کا وقت اس سلام کے تختہ کو شام تک پیش کرے۔

۲۔ علی جدیٰ حسیب من لؤی لینبوع العبادة والصلاح

ترجمہ: ایسی قبر پر نازل ہو جو قبیلہ لوی کا خاندانی شخص سے جو عبادات اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔

۳۔ فَتَّیْ لِمْ يَرُو الْآمِنَ حَلَالٍ وَلَمْ يَكْرَادَ الْمُبَاح

ترجمہ: جو ایسا شریف ہے کہ صرف حلال چیزوں سے ہی سیراب کیا گیا ہے اور اس کا تو شہ بھی صرف پاک اور مباح چیزوں کا تھا۔

۴۔ وَلَا دَنْسَتَ لَهُ أَرْلَزُورٍ وَلَا عَلْقَتَ لَهُ رَاجِ بِرَاج

ترجمہ: اور ان کی پیٹھ کی جھوٹ سے گندہ نہیں ہوئی ہے اور اس کے لیے کوئی شراب دوسری شراب سے نہیں ملائی گئی ہے۔

۵۔ خَفِيفُ الظَّهَرِ مِنْ ثَقْلِ الْخَطَايَا وَعَرِيَانُ الْحَوَارِحِ مِنْ جَنَاحِ

ترجمہ: اس کی پہلی آنکھوں کے بوجھے بالکل ملکی ہے، اور اس کے اعضا میں آنکھوں نے نگاہ اور نعلیٰ ہیں۔

۶۔ مشرق فی الامور اُسی علامہ

ترجمہ: تمام کاموں میں اس کے اعلیٰ مرتعوں کا، لد ۱۹۰۰ء ہے اور کامیابی کا، ۱۹۰۰ء سے تباہی ہوا ہے

۷۔ من الدین لهم قنوب بذكر الله عامرة النواح

ترجمہ: یہ ایسی قوم سے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے رو نے دھونے سے آباد ہیں۔

۸۔ باجسام من التقوی مراض لنصرتها و اديان صحاح

ترجمہ: ایسے بیمار جسم والے ہیں جو تقوی اللہ میں اس کی مدد کرتے رہنے سے کمزور اور بیمار ہیں، لیکن فرماں برداریوں میں بالکل تدرست ہیں۔

الحجاج بن هرمزابو جعفر:

عراق میں بہاؤ الدولہ کے نائب بدروؤں اور کردیوں سے لڑائی میں ہمیشہ کے شریک۔ عضد الدولہ کے زمانہ میں ان کے صفا اول کے لوگوں میں تھے، لڑائی کے نام سے پورے پورے واقف، انتہائی ہوشیار، بڑے بہادر، بہت زیادہ بلند ہمت اور حجج رائے اور مشورے کے مالک تھے۔ ۲۹۰۰ھ میں یہ جب بغداد سے نکلے تو وہاں مختلف قسم کے فتنے برپا تھے، ایک سو پانچ برس کی عمر پا کر اہواز میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ

ابو عبد اللہ الحنفی:

المصری التاجر۔ بہت بڑے مالدار تھے، دس لاکھ دینار سے ہی بیادہ مال ترکہ میں چھوڑا اور ہر قسم کے مال کے مالک تھے۔ جاز کے علاقہ میں وفات پائی اور مدینہ منورہ میں حضرت حسن بن علیؑ کی قبر کے پاس مدفن ہوئے۔

ابو الحسین بن الرفالمرقی:

ان کا بیان اور ان کی تلاوت قرآن کا حال ۲۹۰۰ھ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ان کی آواز بہت عمده اور بہت زیادہ شیرین تھی۔ رحمہ اللہ



## و اتفاقات — ۱۴۰۷ھ

سالِ رواں کے ماہِ محرم کے پوتھے جمعد و قرواش بن مقلد ابی منیع کے حکم سے موصل میں الحاکم العبیدی کا نام خطبہ میں لایا جائے لگا، کیونکہ اس نے اس کام کے لیے اپنی رعایا پر زبردست دباؤ ڈالا تھا۔ ابن الجوزی نے ان خطبوں کو حرفاً حرفاً ذکر کیا ہے۔ خطبے کے آخری الفاظ یوں میں: ”ان کے آباء پر درود بھیجو اور پھر ان کے بیٹے القائم پر پھر المصور پر پھر ان کے بیٹے المعز پر پھر ان کے بیٹے العزیز پر پھر ان کے بیٹے الحاکم پر جو موجود وقت کے باشاہ ہیں اور سب کے حق میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرو بالخصوص الحاکم کے لیے۔“ اسی طرح انبار اور مدائیق وغیرہما میں بھی ان کے عاملوں نے اس کام میں ان کی اتباع کی۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ الحاکم قرواش اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے خطوط آدمی ہدایا اور تباہ اس کی طرف بھیجا رہا تھا۔ بالآخر قرواش نے الحاکم کے کہنے پر مطابق خطبوں میں رد و بدل کیا۔ جب القادر بالله العباسی کو اس رد و بدل کی خبر ملی تو اس نے قرواش کو اس کی حرکت پر تحریری سرزنش کی اور بہاؤ الدولہ کو سالار شکر کے پاس ایک لاکھ روپیے دینار لے کر بھیج دیا تاکہ قرواش سے قتال کرے، جب قرواش کو اس ارادہ کی اطلاع ملی تو اسی حرکت سے باز آیا اور نہادامت کا اظہار کیا، پھر فوراً ہی اپنے علاقوں سے خطبوں میں الحاکم کا نام لینا منع کر دیا اور حسب عادت سابق قادر کا نام خطبوں میں لینے لگا۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ماہِ ربیع کی پچیسویں تاریخ جلد کامی بہت زیادہ بڑھ گیا، رمضان تک یہ زیادتی ہوتی ہی رہی، یہاں تک کہ اکیس ہاتھ سے بھی زیادہ پانی اونچا ہو گیا، اس کے نتیجے میں بہاد کے اکثر گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا۔

سالِ رواں میں وزیر ابو خلف بغداد اپس آیا تو اسے فخر الملک کا لقب دیا گیا۔

اسی زمانہ میں ابوالفتح الحسن بن جعفر العلوی نے بغاوت کی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، ساتھ ہی اپنا لقب المرشد بالشدر کھا۔

عربیوں میں سے اس سال ایک شخص نے بھی حج نہیں کیا۔ خطبے میں الحاکم کا نام لیا گیا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

ابراہیم بن محمد بن عبید:

ابو مسعود الدمشی الحافظ الکبیر۔ کتاب الاطراف علی الحسینی کے مصنف ہیں۔ بغداد، بصرہ، کوفہ، واسطہ، اصبهان اور خراسان جیسے بہت سے دور راز شہروں کا بھی دورہ کیا۔ حفاظ صادقین اور زبردست امامت داروں میں سے تھے۔ مختصر سی

حمدشوال کی روایت کی ہے، ان سے ابو القاسم ابو داؤد البروی، حمزہ الجنی و غیرہم نے روایت کی ہے۔ ماہ جب میں بغداد میں وفات پائی اپنے جنازوں کی نماز پڑھانے کے لیے ابو حامد الاستراحتی کو وصیت کئی تھی۔ وصیت کے مطابق انہوں نے نماز پڑھائی اور تعمیرہ باعث منصور میں السکتے قریب مدفن ہوتے۔ ابن عساکر نے ان کے حالات قلمبند کئے ہیں اور ان کی بہت تعریف کی ہے۔

### عمید الجیوش الوزیر:

برمز کے استاذ الحسن بن ابی جعفر، سن تین سو پچاسی بھری میں ولادت ہوئی، ان کے والد عضد الدولہ کے حاجیوں میں سے تھے اور ۳۹۲ھ میں بھاؤ الدولہ نے ان کو اپنا وزیر منتخب کر لیا تھا۔ اس وقت شہر میں زبردست بد امنی اور شر و فساد تھا۔ چنانچہ پورے شہر کا انتظام درست کر دیا اور لیہروں کو خونزدہ کر دیا۔ جن سے شہر پر امن ہو گیا۔ آزمائشی طور پر اپنے ایک نام کو حکم دیا کہ ایک کھلے ہوئے لگن میں بہت سے دراہم رکھ کر بغداد کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پکڑ لگاؤ، اگر کوئی شخص راستے میں بد نیت سے حائل ہو جائے سب اُس کے حوالہ کر دو، صرف اس جگہ کی اچھی طرح شناخت کرلو، چنانچہ غلام نے حکم کے مطابق پورے شہر کا چکر لگایا مگر کوئی بھی سامنے نہ آیا، اس امن اور یادیاری حاصل ہونے پر اللہ کی حمادا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح رواض کو یوم عاشوراء میں ماتم کرنے اور اٹھاڑ ہوئی دالجھ کو یوم غدریخ کی خوشی منانے سے بالکل روک دیا۔ یہ بہت زیادہ عادل اور انصاف پسند تھے۔

### خلف الواسطی:

اور اطراف کے بھی حاکم تھے۔ خلعت بن محمد بن علی بن حمدون ابو محمد الواسطی۔ مختلف شہروں کا دورہ کیا بہت سے محدثین سے سماught کی، پھر بغداد لوٹ آئے، پھر شام اور مصر گئے، بہت سے لوگوں نے ان کے انتخاب حدیث کو لکھا ہے۔ ایک کتاب اطراف علی اصحیحین کی تصنیف کی حدیث کی انہیں پوری معرفت تھی اور حافظ بہت زبردست تھا۔ وہاں سے بغداد آ کر تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور علم میں غور و خوض کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آخر اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ الا زہری نے ان سے روایت کی ہے۔

### ابو عبید الہروی:

کتاب الغریبین کے مصنف ہیں۔ نام احمد بن محمد بن ابی عبید العبدی ہے۔ ابو عبید الہروی المفعوی الباری فی ادب اور لغت کے بڑے علماء سے تھے۔ ان کی کتاب الغریبین جو قرآن مجید اور حدیث کے غریب الفاظ کو پیچانے کے سلسلے میں ہے یا ان کے وسیع اور بحر علی پر دلالت کرتی ہے، ابو منصور الا زہری کے تلامذہ میں سے تھے۔ ابن خلکان نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کنارہ کشی کو پسند کرتے اور اپنی خلوت میں وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے جن کا استعمال ناجائز ہے لذت اور خوشی کی مجلس میں اہل ادب کے ساتھ رہتے۔ واللہ ان کی لغوشوں سے درگزر فرمائے۔ ان ۴ کے ماہ جب میں ان کی وفات ہوئی۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ اسی سال یا اس سے قبل ابستمی شاعر کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام یہ ہے۔

علی بن محمد بن الحنفیں:

بن یوسف اکاٹ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں چند یہ ہیں۔ *الحضرۃۃ الازمۃ*، *الحسنۃ الأسس*، *الندیع*، *الحمد*، *الخلافۃ و النظم و النشر* نامے ان کا حال پہلے بیان رہا یا ہے۔ امن غلام نے ان کے جتنے بحثے بیان کیے ہیں ان میں چند یہ ہیں جو اپنی فاطمیوں کی اصلاح کر دیتا ہے وہ اپنے حادثہ، میل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خدمتی اخاعت کرتا ہے وہ اپنا ادب ضائع کرتا ہے۔ تھماری خوش قسمتی میں سے ہے اپنی حد پر واقف ہو جانا۔ موت آرزوں پر پشتی ہے۔ رشوت حاجتوں کی رسی ہے۔ پاک دامنی کی حضورت کے لاکن چیزوں پر راضی ہو جانا ہے۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

۱. ان هر اقلامہ یوماً لی عملها انساک کل کسمی ہر عاملہ

ترجمہ: اگر اس کے قلم اپنے عمل کے لیے حرکت کرنے لگیں تو ایسے سارے بہادر بھی تم کو بھول جائیں گے جن کو ان کے عاملوں نے متحرک بنایا ہے۔

۲. و ان امرَ عالمی رقِ ائمَّةٍ اقرَّ بالرُّقْ کتاب الانام لَهُ

ترجمہ: اگر وہ کسی کی غلامی کا حکم دے بیھیں تو تمام مخلوقات کے ناموں کی کتاب اس کی غلامی کا اقرار کر لیں۔ اور یہ بھی ہیں:

۳. اذا حديث نسى قومٍ لغتهم بما تحدث من ماضٍ ومن ابٍ

ترجمہ: اور اگر تم کسی قوم میں ان سے موانت کے لیے باتیں کرنے لگو۔ براں موضوع پر جو گز رگیا ہے یا جاؤ نے والا ہے۔

فلا تعدل حديثاً عن طبعهم مؤکل بمعاداة المعادات

ترجمہ: تو تم کسی بھی بات کو دوبارہ نہ کہو، کیونکہ ان کی طبیعت میں دشمنی رکھنا داخل ہے۔

## واقعات — ۲۰۴

ماہ محرم میں فخر الملک وزیر نے رواضہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بری حرکتوں اور بدترین بدعتیں جو کیا کرتے تھے۔ مثلاً ہاتم، سرکوبی، سینہ کوپی، غیرہ نالوں کو بازاروں میں لٹکانا صبح سے شام تک اور ان کی عورتیں کھلے چہرے ننگے سر ہو کر سارے بازاروں میں گشت کرنا، ان کا اپنے چہروں کو طمانچے مارتے رہنا، قدیم ترین زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق حسین بن علیؑ کا نام لیتے ہوئے وہاب سب کچھ کر سکتے ہیں؛ اللہ ان جیسوں کے کاموں میں کسی کی بھلانی ملحوظ نہ رکھے اور قیامت کے دن ان سبھوں کے چہروں کو کالے کر کے اٹھائے کر دی، دعاوں کا قبول کرنے والا ہے۔

اور ماہ ربیع الآخر میں القادر نے قطیعۃ الدین میں مسجد الکلف کی تعمیر کا حکم دیا، ان الفاظ میں کہ پہلے جس طرح شاندار تھی اس طرح شاندار بنائی جائے۔ چنانچہ اسی طرح بہت سچ دھن کے ساتھ بنائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

فاطمیوں کے نسب کے سلسلہ میں بغداد کے اماموں اور علماء کا طعن:

سال روائی کے ماہ ربیع الآخر میں ان محترم حضرات نے بغداد میں ایک مجلس منعقد کی جس میں فاطمیوں یعنی شاہان مصر

کے نسب پر عیب اور طعن اور تضییغ کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ حقیقت میں وہ لوگ فاطمین نہیں تھے۔ اس کا فیصلہ ایک بہت بڑی جماعت علماء، قضاۃ، سعراز شہری ذمیدار آئیلوں کا رفقہ اور محمد شین سب کا شش رکعتاً ان تمام حضرات نے اس بیت پر تضییغ طے کر کوئی دوئی کر مصہ کا الحاَم جس کا نام منصور بن نزار اور لقب الحاَم ہے (اللہ اس کی بلاد کرت رسولی بر بادی کا فیصلہ نہ کر دے) یہ نزار ابن سعد بن اسماً میں بن معبد اللہ بن سعید ہے (اللہ اسے خوش قِمت نہ بنائے) کہ یہ الحاَم جب مغربی ممالک گیا تو اس نے وہاں اپنا نام عبد اللہ اور لقب المہدی اختیار کیا ہے اور یہ کہ اس کے تمام سلف خوارج کے دعویداروں میں سے ہیں ان کا نسب حضرت علی بن ابی طالب ہنی شہزاد کے نسب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے وہ تو ان کے باطل عقیدوں سے بالکل برقی تھے اور یہ کہ اس شخص نے جن عقیدوں کی دعوت دی ہے وہ سب لغو اور باطل ہیں۔ اور یہ محترم حضرات ان میں سے کسی کو بھی حضرت علی بن ابی طالب کے خاندان والوں سے نہیں جانتے ہیں، اس لیے انہیں جھوٹے خارجی کہنے سے توقف کرتے ہیں اور ان کے باطل عقیدوں کا غیر معروف ہونا حرمین شریفین میں مشہور ہو چکا تھا ابتداءً ان جنوبی شہروں میں مختلف جگہوں میں ان کی خبریں اس طرح مشہور ہو چکی تھیں کہ کوئی بھی ان کے دھوکہ میں نہیں آ سکتا تھا، یا ان کے دعوؤں کی تصدیق کر سکتا۔

مصر کا یہ بادشاہ الحاَم خود اور ان کے تمام الگے سربراہان کا فرماجر، فاسق، بلخ، زندیق، فرقہ، معطلہ سے تعلق رکھنے والے اسلام کے منکر اور نہ ہب، مجوسیت اور شیوه کے معتقد تھے۔ ان تمام لوگوں نے حدود شرعیہ کو بے کار کر دیا تھا۔ حرام کا ریوں کو مباح کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہرا۔ انبیاء کرام کو گالیاں دیں، اسلاف پر لعنتیں بھیجنیں۔ خدائی کے دعوے کیے یہ ساری باتیں ۲۰۰۲ھ میں ہر طبقہ کے بے شمار آدمیوں فی موجودگی میں لکھی گئی ہیں۔ چنانچہ علویوں میں سے المرتضی، الرضی، ابن الارزق الموسوی، ابو طاہر بن ابی الطیب محمد بن محمد بن عمرو بن ابی بکری ہیں اور قاضیوں میں ابو محمد بن الاکفانی، ابو القاسم الججزی، ابو العباس بن الشیری ہیں اور فقہاء میں ابو حامد الاسفرائیی ابو محمد الکسفی، ابو الحسن القدوری، ابو عبد اللہ الحسیری، ابو عبد اللہ البیضاوی ابو علی بن حمکان ہیں اور گواہوں میں ابو القاسم العوفی اپنی بڑی جمعیت کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں، یہ عبارت ابو الفرج بن الجوزی کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جھوٹے اور مردی ہونے کے ثبوت میں وہ عبارتیں ہیں جو گزشتہ عبارات بالاحضرات آئنہ کرام اور فقہاء عظام کی گزر چکی ہیں، ان کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب ہنی شہزاد اور حضرت فاطمہ ہنی شہزاد سے کچھ بھی نسبی تعلق ہونے پر ان کے دعوے کے غلط ہونے کے لیے حضرت عبد اللہ بن عمر ہنی شہزاد کا یہ مشورہ جوانہوں نے حضرت حسین بن علی ہنی شہزاد کو عراق کے سفر کا قصد کرنے پر دیا تھا۔ جب کہ کوفہ کے عوام نے ان کو بیعت کرنے کے لیے مسلسل خط لکھنے تھے۔ اس وقت حضرت عبد اللہ بن عمر ہنی شہزاد نے ان کو لکھا تھا کہ آپ ان کے پاس کسی قیمت پر نہ جائیں۔ کیونکہ مجھے اس بات کا سخت خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ کے نانا جان کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے قبول کر لینے کا اللہ پاک کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا، تو انہوں نے دنیا پر آخرت کو اختیار کر لیا اور آپ بھی ان کے گوشہ جگر ہیں اس لیے اللہ کی قسم نہ آپ اور نہ آپ کے بعد آپ کے خاندان یا اہل بیت کا کوئی شخص اس دنیا کو پاسکتا ہے تو جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر ہنی شہزاد کا یہ کلام اور مشورہ سو فیصد صحیح اور قابل قبول ثابت ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت میں سے سوائے

محمد بن عبد اللہ المبدی جو آخری زمانہ میں حضرت میلی علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوں گے، کسی اور کو دنیاوی خلافت مکمل طور پر حاصل نہ ہوئی آئونکہ وہ دنیا سے تغیر ہیں گے اس سے اپنے امن و بھروسے نہ ہیں گے۔ اب جب کہ یہ بات حق ہو پہنچ کر یہ الہام کم ۱۰، ان کے آباء نے مصریوں پر زمانہ را تسلیک حکومت کرنی ہے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ اہل بیت میں سے نہیں ہیں جیسا کہ فقہاء کرام کی مذکورہ بالاعبار توں سے واضح ہوتی ہے۔

قاضی الباقلانی نے ان مدینوں کے روایتیں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”کشف الاسرار و تہک الاستار“ رکھا ہے جس میں ان کی برائیوں اور رسولوں کو واضح کر دیا ہے، ہر ایک کے سامنے ان سبھوں کی حقیقت واضح کر دی ہے اور ان کی حد پر وہ سارے حالات اور اقوال کی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے۔ قاضی الباقلانی اپنی عبارت میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ظاہر میں تو راضی تھے مگر باطن میں کافر محسن تھے۔ واللہ سبحانہ اعلم

ماوراء رباعان اور رمضان میں وزیر خزانہ نے فقراء مساكین، اسی طرح مساجد اور عام مقامات میں رہنے والوں کے علاوہ دوسروں کو بھی بہت زیادہ صدقات اور عطیات دیئے، از خود تمام مساجد اور عام مقامات میں جا کر ان کا معائنہ کیا، بے شمار قیدیوں کو جیل خانہ سے رہائی دی اور بہت سے زاہدوں اور عابدوں کو منظر عام پر لائے، سوق الدقائق کے پاس ایک بہت بڑا مکان بنوایا۔

ماہ شوال میں طوفانی ہوا چلی جس نے کھجوروں کے باغات کو تہس نہیں کر کے رکھ دیا۔ جن میں تقریباً دس ہزار کھجور کے درخت تھے۔

غزنی کے بادشاہ سین الدولہ محمود بن سبکنگین نے ایک خط آغا کروہ اپنے لشکر کو لے کر دشمنوں کے علاقہ میں جا رہے تھے کہ ایک بڑے چیل میدان سے ان کو گزرنما پڑا جہاں ان کے ساتھ کاپی اکل ختم ہو گیا، اس حد تک کہ عنقریب ان کا ایک ایک فرد پیاس کی شدت سے ختم ہو جاتا، اچانک اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے ان پر ابر بھیجا اور بارش برسادی اتنی کہ سبھوں نے خود پیا، لوگوں اور جانوروں کو سیراب کیا، اس کے بعد دشمنوں نے ان کا آمنا سامنا ہوا، دشمنوں کے ساتھ چھسوہا تھی تھے۔ اس کے باوجود دشمن ان سے شکست کھا گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو ان دشمنوں کے بے شمار مال غنیمت سے مالا مال کیا۔ فللہ الحمد۔

اس سال بھی شیعوں نے حسب دستور سابق عید غدیر خم بہت ہی شان و شوکت سے منائی، جو ماہ ذوالحجہ کی اٹھار ہویں تاریخ تھی اور اپنی دکانوں اور بازاروں کو سمجھایا، یہ سہوئیں ان کو اسی وزیر اور دوسرے بہت سے ترکیوں سے حاصل ہو گئیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

الحسن بن الحسن بن علی:

بن العباس، بن نوجہت، ابو محمد المنوختی۔ ۲۰۰۰ھ میں ولادت ہوئی۔ محالی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے

البرقانی نے روایت کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ شیعی معتزلی تھے، البتہ ہمیں تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ سچے تھے۔ ان سے الا زہری نے بھی روایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ رافضی بدترین مذہب دانے تھے۔ عقائد نے آہا ہے کہ یہ علم و حدیث شیعیہ تھے اور اعتدال کی طرف بائل تھے۔ اللہ اعلم

### عثمان بن عیسیٰ ابو عمر والباقلاني:

مشہور زادہوں میں سے تھے۔ ان کے پاس کھجور کے باغ تھے جن سے یہ اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے اور ذیہاتوں میں جا کر مزدوری پر کام کرتے۔ انتہائی زادہ مزاج تھے۔ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے۔ اپنی مسجد سے جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے، پھر اپنی مسجد میں پڑھتے رہتے، اپنی مسجد میں روشنی کے لیے کوئی چیز نہ پاتے جس سے مسجد روشن کرتے اس لیے ان سے کسی مالدار شخص نے تیل وغیرہ مسجد کو روشن کرنے کے لیے ان سے قبول کر لینے کی درخواست کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اسی جیسے ان کے اور بھی واقعات ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پڑوسیوں میں سے کسی نے ان کے ایسے پڑوی کو خواب میں دیکھا جس کا انتقال ہو چکا تھا تو اس سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کیسے اور کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا پوچھتے ہو کہ وہ کہاں اور کیسے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا اور قبر میں ان کو فون کیا گیا اسی وقت ہم لوگوں نے ایک آواز سنی تھی۔ فردوسِ اعلیٰ کی طرف، فردوسِ اعلیٰ کی طرف۔ چھیساں رس کی عمر پا کر سالی روائی کے ماہِ جب میں وفات پائی۔

### محمد بن جعفر بن محمد:

بن ہارون بن فروہ بن ناجیہ ابو الحسن الحنفی ایں الجابری الحنفی کو نسبت میں مشہور ہیں۔ بغداد آئے اور ابن درید صولی اور نفطویہ وغیرہم سے روایت حدیث کی ہے۔ ستر برس کی عمر پا کر سالی روائی کے ماہِ جمادی الاولی میں وفات پائی۔

### ابوالطیب سہل بن محمد:

الصلوکی نیشاپوری۔ ابو یعلی الحلیلی نے کہا ہے کہ اسی سال انہوں نے وفات پائی ہے۔ ہم نے ان کے حالات کے ۳۸۲ھ میں قلمبند کر دیے ہیں۔

## واقعات — ۳۰۲

سالی روائی کے ماه محرم کی سولہویں تاریخ الشریف الرضی ابو الحسن الموسوی کو طالبین کو ناقابت کے عہدہ پر سارے ملک میں فائز کیا گیا۔ اور روزِ یخرالملک کے گھر میں اس کے عہد نامہ کی قراءت کی گئی۔ تمام معزز شہری اور بڑے بڑے عہدیداروں نے اس مجلس میں شرکت کی۔ اسے سیاہ جوڑے کا خلعت دیا گیا۔ یہ طالبیوں میں پہلا وہ شخص ہے جسے سیاہ خلعت دیا گیا ہو۔ اسی سال بنو خجاجہ کے امیر ابو القلنہ (الله اس کا حلیہ بگڑ کر ہی رکھے) اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سال گزشتہ میں حاجیوں کو ان کی والپسی پر شراء کے راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی، وہاں پانی کے جن چشمیوں پر یہ تھہر سکتے تھے انہیں ناکارہ گندہ بنا کر ان میں الیواً گھوول کر پانی پینے کے لائق بالکل نہ چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے

پندرہ ہزار حاجیوں نے پیاس سے ترپ ترپ کر جان دے دی تھی اور بقیہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے، انہیں اپنے اونٹوں اور جانوروں کا جچ وابا بنایا۔ بدترین حال میں رہنا، ان سبھوں کے پاس جو کچھ مال و سامان تھا سب پھیلن لیا تھا۔ یہ لوگ جب گرفتار کر کے وزیر کے گھر میں لائے گئے انہیں قید نہ انوں میں؛ ال دیا گیا اور پانی کا ایک ایک قطرہ بھی ان پر حرام کر دیا۔ پھر جنہیں اسماں پانی ان کے سامنے رکھ کر انہیں دکھا دکھا کر رسولی دے دی تھی انہوں نے بھی ترپ ترپ کر پانی پانی لکھتے ہوئے جان دی۔ ان کے ساتھ پورا پورا بدل کا عمل ہوا۔ حسین (بخاری و مسلم شریف) میں حضرت انس بن مالک کی روایت کردہ حدیث کی روشنی میں یہ بہتر عمل تھا۔ اس کے بعد بخواجہ میں جتنے حاجی قیدی تھے سبھوں کو وہاں سے واپس منگوایا گیا۔ اس عرصہ میں ان کی بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی تھیں اور ان کے مالوں کی تقسیم بھی ہو چکی تھی۔ اب ان کو ان کی بیویاں واپس کی گئیں اور ان کے مال انہیں لوٹا دیے گئے۔

ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ماہ رمضان میں مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے ایک تارہ ٹوٹ کر گرا تھا، چاند کی پوری روشنی اس میں پائی جا رہی تھی، گر کروہ ہکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طویل مدت تک باقی بھی رہا۔

ماہ شوال میں کسی نصرانی سرداری بھی مرگی تھی، اس موقع پر صلیب لیے ہوئے حکم کھلانو ہے زاری کرتے ہوئے ان کی عورتیں نکلیں تو کچھ ہاشمیوں نے انہیں علی الاعلام اس طرح کرنے سے روکا۔ اس پر اس نصرانی کے لوگوں نے آہنی گرزان کے سر پر مارا تو ان کے سر پھٹ گئے اور خون کا فوارہ بہہ گیا۔ مسلمانوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، بالآخر وہ شکست کھا گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گرجا گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اس موقع پر عام افراد نے ان گرجا گھروں میں گھس کر لوٹ مار چاہ دی اور جو کچھ وہاں اور ان کے پاس کے دوسرا گھر وہ میں پایا، لوٹ لیا اور شہر میں نصاریٰ کا پیچھا کیا۔ اور الناصح اور ابن ابی اسرائیل کا بھی پیچھا کیا، تو ان کے غلاموں نے ان مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس ضریح پورے بغداد میں فتنہ پھیل گیا اور بازاروں میں مسلمانوں نے قرآن پاک بلند کئے۔ کچھ جمعہ کی جماعتیں نہ ہو سکیں۔ بالآخر سبھوں نے خلیفہ سے مدد چاہی۔ فی الفور خلیفہ نے ابن ابی اسرائیل کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت خلیفہ نے بغداد سے نکل کر ان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ فتنہ بہت پھیل گیا۔ ان نصاریٰ کے بہت سے گھر لوٹ لیے گئے۔ آخر کار ابن اسرائیل حاضر کیا گیا اور اس نے بہت زیادہ مال دے کر معافی چاہی تو اسے معاف کر دیا گیا، تب فتنہ ختم ہو گیا۔

ماہ ذوالقدر میں یہیں الدولہ کا ایک خط خلیفہ کے پاس آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ شاہ مصر والحاکم کا ایک آدمی اس کے پاس آیا ہے اس کے پاس ایک خط ہے، اس کے ذریعہ وہ ہمیں اپنی فرمابرداری کی دعوت دیتا ہے خط لے کر خلیفہ نے اس میں تھوک دیا، پھر اس کے جلا دینے کا حکم دیا اور لانے والے کو بہت سخت باتیں کہیں۔ اس سال ابونصر بن مروان الکروی کو آمد میافارقین اور دیار بکر کا حاکم بنادیا گیا اور اسے خلعت کے علاوہ گلے کا ایک ہار اور دنگن دیئے گئے، اور ناصر الدولہ کا لقب دیا گیا۔

اس سال عراق اور خراسان کے لوگوں کو راستہ کی خرابی اور بے اطمینانی کی وجہ سے حج کے لیے جانا ناممکن ہو گیا کیونکہ ملک کی اصلاح کے لیے وزیر خرا الخلق باہر تھا۔ اس سال امویوں کو اندرس کے علاقوں میں حکومت قائم کرنا ممکن ہو گیا چنانچہ

سلیمان بن الحکم بن الحیان بن عبد الرحمن الرازح الیموی کی حکومت قائم ہو گئی اور مسکونین بالله لقب سلطنت میں ان کے باقی پر لوگوں نے بیعت کی اور شاہ بغداد بہار والدلوہ بن بویہ الدیلمی کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ملک کا انتظام اس کے بیٹے سلطان اللہ ولہ ابوالشجاع نے سنبھالا۔ اس سال ترک کے باشاہ الظفیر کا جس کا نام ایلک خان تھا۔ انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی طغان خان نے حکومت سنبھالی۔ اس سال شمس المعالی قابوس بن دشکنیر کی ہلاکت ہو گئی کیونکہ جائز کے دن میں وہ ایک دن بغیر کپڑے کے ایک ٹھنڈے گھر میں داخل ہو گئے اور درینک اسی میں رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اوران کی نیابت منوچہر نے کی اور فلک المعالی لقب اختیار کیا۔

شمس المعالی قابوس، عالم، فاضل اور بڑے ادیب و شاعر بھی تھے۔ چنانچہ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

۱۔ قل للذى بصروف الدهر عيرنا      هل عاند الدهر الا من له خطر

**ترجمہ:** تم اس سے کہہ دو جس نے ہمیں ہمارے ناموافق حالات ہونے کی بناء پر عار دلائی ہے، کہ زمانہ ناموافق نہیں ہوا ہے  
گمراہ سے اس نے خطرہ محسوس کیا ہو۔

۲۔ اما ترى البحريطنوا فوقه جيف      ويستقر باقضى قعره الدرر

**ترجمہ:** کیا تم سمندر کو نہیں دیکھتے ہو کہ اس کے اوپر آمردے بہت رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ورنی تیہ میں موتی بھرے پڑے ہیں۔

۳۔ فان تكن نسبت ايدى الخطوب بنا      و مَسْنَانِ مَنْ تَوَالَى صَرْفَهَا ضُرَّ

**ترجمہ:** اگر مصالب زمانہ نے اپنے بچوں کو ہم میں گڑا دیا ہے اور ہمیں نقصان پہنچ چکا ہے، اس کے متاثر حملوں سے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں ہے۔

۴۔ ففی السماء نجوم غير ذى عدد      رئيس يكشف الا الشمس والقمر

**ترجمہ:** کیونکہ اگرچہ آسمان میں بے شمار ستارے ہیں، لیکن سورج اور چاند کے سوا کوئی بھی گہنا تا نہیں ہے، اور یہ بھی ان کے عمدہ اشعار میں سے ہیں۔

۵۔ خطرات ذكرك تستثير مؤذني      فاحسٌ منها في الفؤاد ديبا

**ترجمہ:** تمہاری یاد کے خیالات ہی ہماری محبت کو برآ بھیختہ کر دیتے ہیں کہ اس محبت کی دل میں حرکت محسوس کی ہے۔

۶۔ لا عضولى الا وفيه صباحة      وكأن اعضائي خليلون قلوبنا

**ترجمہ:** میرے بدن کے ہر حصہ میں عشق کا مادہ بھرا ہوا ہے گویا میرے تمام اعضاء فطری طور پر قلب کی صفت سے متصف ہیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات پانے والوں کے نام یہ ہیں:

احمد بن علی ابو الحسن اللیثی:

یہ بطيح قادر کے مشی تھے۔ پھر مکملہ خراج اور ڈاک کے خاص مشی کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ انہیں قرآن بہت عمدہ یاد تھا۔

آوار اور تنادی دو توں ان شیریں تھیں۔ ہم نہیں ان کی پرندیدہ تھیں۔ مراں نہیں خداوت تھی۔ بہت فتنہ مرتاق کرنے والے تھے آیک دن وہ خود اور دونوں شریف الرضی اور المرتضی اور اعلیٰ جمادیہ داروں کی آیک بڑی جماعت تھی ان کے ساتھ کسی بادشاہ کی ملاقات کو نکلی۔ درمیان راہ میں کچھ چوران کے سامنے آ کر ان کو کشتوں پرے ڈھیلوں مارنے لگے اور یہ کہنے لگے اے بدکار عورتوں کے شوہر۔ یہ سن کر الیشی نے کہا یقیناً یہ لوگ شہری ہیں۔ بقیہ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ یہ معلوم ہوا۔ لبے لگے کہ ہم بدکار عورتوں کے شوہر ہیں۔

### الحسن بن حامد بن علی:

بن مروان الوراق الحنبلي۔ یہ اپنے زمانہ کے عربی طلبہ کے مدرس اور ان کے فقیہ تھے۔ ان کی تصنیفات مشہور ہیں، چند یہ ہیں: الجامع فی اختلاف العلماء، چار سو حصوں میں۔ ایک اور کتاب ہے اصول الفقه والدین۔ ابویعلى بن الفراء ان کی خدمت میں رہتے۔ تمام لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے مقبول بارگاہ تھے اپنے ہاتھ سے کپڑے بن کر صرف اسی کی آمدی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ابو بکر الشافعی ابن مالک القطعی وغیرہما سے حدیث کی روایت کی ہے۔

سالِ رواں میں یہ حج کو نکلے۔ راستے میں تمام حاجیوں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اسی حالت میں یہ ایک پتھر پر ٹیک لگا کر سخت گرمی میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک شخص تھوڑا بیانی لے کر آیا اور انہیں پینے کو دیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے۔ اس نے کہا آپ اسے پی لیں یہ وقت آپ کے لیے سوال وجواب کا نہیں ہے۔ کہنے لگے ضرور ہے کہ یہی تو اللہ کے دیدار کا وقت آگیا ہے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں پیا اور فوراً روح پرواہ کر گئی۔ رحمہ اللہ الحسین بن الحسن:

بن محمد بن حلیم، ابو عبد اللہ الحلبی، المحتاج فی اصول الدین کے مصنف ہیں۔ شافعی مشائخ میں سے ہیں۔ جرجان میں ان کی ولادت ہوئی اور بخاری میں رہتے گئے۔ بہت سی حدیثیں محمد شین کرام سے سنیں، یہاں تک کہ یہ اپنے زمانہ میں محمد شین کے مشائخ میں سے ہو گئے۔ بخاری میں قاضی مقرر کیے گئے، ابن خلکان نے کہا ہے کہ ماوراء النہر میں یہی سب کے لیے سند ہو گئے تھے۔ مذہب کی تحقیق میں ان کو عبرتھا۔ ان سے الحاکم ابو عبد اللہ نے روایت کی ہے۔

### فیروز ابوالنصر:

ان کا لقب بہاؤ الدولہ بن عضد الدولہ الدیلمی تھا۔ بغداد وغیرہ کے حاکم تھے۔ یہی وہ ہیں، جنہوں نے اطائع کو قابو میں لا کر القادر کوشائی کری پر بٹھا دیا تھا۔ ان کو لوگوں پر جرمانے کرنا پسند تھے، اس طرح انہوں نے اتنا مال جمع کر لیا تھا جتنا بی بی بو یہ میں اس سے پہلے کسی اور نے جمع نہیں کیا تھا، اور اپنائی بخشی بھی تھے، یا لیس برس تین ماہ کی عمر پا کر اس سال ماہ جمادی الآخرۃ میں ارجان میں وفات پائی۔ ان کی بیماری مرگی طاری ہونے کی تھی۔ مشہد میں اپنے والد کے بغل میں دفن کیے گئے۔

### قاپوس بن دشمکیر:

اس کے ارکانِ دولت اس سے ناراض ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کے بیٹے منوجہر کو کواس کے تخت پر بٹھا دیا۔

اور بعد میں اسے قتل کیا جیسا کہ تم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس نے علم نجوم کے نزدیک جب تماں پر نظر ڈالنے کا اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا اسے قتل کر دے گا، اس لیے اسے یہ مان ہوا کہ اس کا بیٹا دارا ادا بیٹا کرے گا کیونکہ اس کی طبیعت میں باپ کی مخالفت تھی، لیکن اسے دوسرے بیٹے منوچہر کے متعلق ذرہ برا بر بدگمانی نہ تھی۔ کیونکہ اس میں بیش و فاداری پائی تھی۔ مالا خر اسی کے ہاتھوں وہ قتل کیا گیا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کے پچھا شعار ذرا لار دیئے ہیں۔

### القاضی ابو بکر الباقلانی:

محمد الطیب ابو بکر الباقلانی مسلم شافعی میں متکلمین کے سردار تھے، فن کلام میں بہت سے لوگوں کے مقابلہ میں ان کی تصنیف زیادہ ہے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنی زندگی میں برسہا برس رات کے وقت بغیر بیس ورق لکھے ہوئے نہیں سوتے تھے۔ اس لیے ان کی تصنیفیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور عوام میں مشہور بھی ہو گئی تھیں۔ چند یہ ہیں: التبصرۃ، دفاتر الحلقات، التہبید فی اصول الفقہ، شرح الابانۃ اور مجمع کبیر و مجمع صغیر وغیرہ۔ ان تمام میں بہترین کتاب وہ ہے جو فرقہ باطنیہ کے رد میں ہے۔ جس کا نام انہوں نے کشف الاسرار اور ہتھ الاستار رکھا ہے۔ لوگوں نے ان کے مسئلک فروعیہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ شافعی المسئلک تھے اور کسی نے کہا ہے کہ یہ مالکی تھے۔ یہ باتیں ان کے بارے میں ابوذر الہروی نے بیان کی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے فتاویٰ کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے۔ یہ بات محمد بن الطیب الحسینی نے لکھی ہے اور بالکل نادر معلوم ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار اور ذہنی تھے۔ خطیب بغدادی وغیرہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عضد الدولہ نے انہیں اپنا سفیر بنا کر شاہ روم کے پاس سمجھا تھا، یہ جب اس کے پاس پہنچ تو دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ان کے لیے ایسا بنا کر رکھا گیا تھا کہ اس سے رکوع کی حالت میں گزرے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ یہ دیکھ کر یہ فوراً سمجھ گئے کہ شاہ روم ہمیں اپنے سامنے اس طرح جھکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے جس طرح خدا کے سامنے جھکا جاتا ہے، اس لیے یہ فوراً گھوم گئے، اپنی پیٹیجہ بادشاہ کے سامنے کر دی اور پیٹیجہ کی طرف سے اس میں داخل ہو کر الٹی طرف سے چل کر شاہ روم کے پاس پہنچ گئے، اس کے قریب پہنچ کر یہ فوراً مژگع گئے اور اس کے سامنے ہو کر اسے سلام کیا، بادشاہ نے یہ حالات دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ بہت زیادہ سمجھدار اور بڑے ہی علم و فضل کے مالک ہیں، اس لیے ان کی بہت زیادہ عظمت کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں پر بادشاہ کے سامنے بجانے کا ایک آلہ جسے الارغل کہا جاتا تھا، لا کر رکھ دیا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے یہ بے وقوف بن جائیں اسے دیکھ کر اپنے اوپر انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی موجودگی میں ان سے کوئی نامناسب حرکت ہر زد ہو جائے۔ اس لیے اس کی طرف سے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگے، اسی دوران ان سے کسی طرح ان کا پیغمبر زخمی ہو گیا اور بہت زیادہ خون بہہ گیا، اب بجائے خوشی کے تکلیف محسوس کرنے لگے اور اس کے سامنے اپنی کوتا ہی یا خفت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تو اس بات سے بھی بادشاہ کو بہت تجھب ہوا، اس کے بعد بادشاہ نے حقیقت معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس باجے کی خوشی میں پہنچنے سے پہنچنے کے لیے خود کو اس طرح چوٹ لگا کر تکلیف میں بٹلا ہوئے ہیں، اس طرح بادشاہ کو ان کی بلند ہمتی اور اولو العزمی کا یقین آ گیا۔

نیوں کے یہ آئندہ پھر اس قسم کا تھا کہ اس کی آواز سننے والا چاہے یا نہ چاہے اس پر بنے خود کی طاری ہوتی جاتی ہے وہیں پر باقشہ کے سامنے کسی پادری نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ کے نبی کی بیوی نے کیا تھا اور ان پر تہمت لگنے کی حقیقت کیا تھی تو الباقلانی نے فی الجبور جواب دیا کہ ہمارے سامنے دو عروتوں پر برائی کا الزام لگایا گیا ہے یعنی حضرت مریمؑ اور حضرت عائشہؓ عین دونوں لیکن اللہ تعالیٰ نے از خود ان دونوں کی برأت کر دی ہے۔ ان میں سے حضرت عائشہؓ عین دونوں تو شہزادی تھیں اور انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن دوسری حضرت مریمؑ تو غیر شادی شدہ بھی تھیں اور انہیں اولاد بھی ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تصریح بارات کر دی ہے، پھر بھی بالغرض اگر حضرت عائشہؓ عین دونوں کی طرف سے کسی کے ذہن فاسد میں بدگمانی آتی ہے تو اس سے بڑھ کر حضرت مریمؑ کے بارے میں چاہیئے حالات اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے خاص وحی کے ذریعہ دونوں کو بری ظاہر کر دیا گیا ہے۔

الباقلانی نے حدیث ابو بکر بن مالک القطعی اور ابو محمد بن ماسی وغیرہما سے سنبھالی ہے۔ ایک دن دارقطنی نے انہیں بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہل ہوا کے باطن ہنپہ دوں کا بھر پور جواب دیتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا خیر کی، ان کی وفات ماہ ذی القعدہ کی تھیوں یہ تاریخ ہفتہ کے دن ہوتی، اپنے گھر ان میں دفن کر دیئے گئے، پھر باپ حرب کے مقبرہ میں منتقل کر دیئے گئے۔

### محمد بن موسیٰ بن محمد:

ابو بکر الخوارزمی خفیہ کے شیخ اور ان کے فقیہ ہیں، احمد بن علی الرازی سے علم حاصل کیا، بغداد میں اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم مانے گئے، باوشا ہوں اور حکام میں ان کی عظمت بہت زیاد تھی، ان کے شاگردوں میں الرضی اور الرضیمیری بھی ہیں، ابو بکر شافعی وغیرہ سے احادیث کی سماعت کی ہے، ثقہ اور دیدار تھے، اسلاف کی طرح نمازیں پڑھتے، اعتقاد کے بارے میں کہا کرتے، ہمارا دین بوڑھیوں کے دین کی طرح پختہ ہے، فن کلام میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے، بڑے فصح الکلام تھے، پڑھانے کا انداز بہت عمدہ تھا، انہیں بارہا عہدہ قضاء قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اسے قبول نہیں کیا، سالی روائی کے ماہ جمادی الاول کی اخبار ہوئی تاریخ جمعہ کی رات وفات پائی، درب عبده میں اپنے گھر میں مدفون ہوئے۔

### الحافظ ابو الحسن علی بن محمد:

بن خلف العامری القابضی جو تخلیص کے مصنف بھی ہیں، خاندانی اعتبار سے قزوینی ہی القابضی اس لیے کہا جانے لگا کہ ان کے پچھا قابضیہ عمامة سر پر رکھتے تھے، اس لیے ان کے خاندان والوں کو ہی القابضی کہا جانے لگا، یہ حافظ تھے اور فن حدیث میں بہت نام پیدا کیے ہوئے تھے، سالی روائی کے ماہ ربیع الآخر میں جب ان کا انتقال ہوا تو متواتر کنی راتوں تک لوگ ان کی قبر پر قرآن پاک کا ختم کر کے ان کے لیے دعاء خیر کرتے رہے اور اطرافِ جواب کے شعراء نے وہاں پہنچ کر ان کے مرثیہ خوانی کی اور دعا گور ہے، ایک مرتبہ مناظرہ کی مجلس میں انہوں نے یہ اشعار کہتے تھے:

سے سرخ و بھر کی سیست سرخ  
وصوچ بھیار خسی بھیار  
پھر خود بھی رونے اور دوسروں وہ بھی رلای پھر کہنے لگے شیم میں تی بون۔ رحمہ اللہ

### الحافظ بن الفرضی:

ابوالولید عبد اللہ بن محمد بن یوسف بن نصر الا زدی الفرضی کینیہ کے قاضی بہت سی حدیثوں کی ساعت کی اور حدیثوں کو جمع کیا، تاریخ میں مؤلف اور مختلف میں اور مشتبہ النسبۃ وغیرہ مضامین میں کتابیں تصنیف کیں، یہ علامۃ الزمان تھے بربر یوں کے ہاتھوں قتل ہو کر درجہ شہادت پایا، اس وقت جبکہ زخم پڑے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو وہ حدیث پڑھتے ہوئے ساجد صحابہ میں ہے: مَا يَكُلُّ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَنْ يَكْلِمُ فِي سَبِيلِ الْإِحْمَادِ يَوْمَ القيمة وَ كَلْمَةٌ يَدْمِي اللَّوْنَ لَوْنَ  
الدَّمِ وَ الرِّيحُ رِيحُ المَسْكِ۔ (جو کوئی اللہ کی راہ میں زخم ہوتا ہے، مگر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون زخم ہو رہا ہے، وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے رخصم سے خون اس قسم کا بہرہ رہا ہو گا کہ اس خون کا رنگ تو خون کا ہی ہو گا، مگر اس کی خوبیوں کی ہو گی)۔

ایک بار انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی، جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، ان کے چند

اعشار یہ ہیں:

۱. اسیر الخطايا عند بابك واقفٌ      علیٰ وَ جَلٍ مَمَّا به انت عارفٌ

تَرْجِيمَه: گناہوں کا قیدی آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کھراہت کے ساتھ جس سے آپ واقف ہیں۔

۲. يَحَافُ ذُنُوبًا لَمْ يَغُبْ عَنْهَا غَيْرَهَا      وَ يَرْجُوكَ فِيهَا وَ هُوَ رَاجِ وَ خَائِفٌ

تَرْجِيمَه: ان گناہوں سے ڈرتے ہوئے جن کی نافرمانیوں میں سے کوئی چھپ نہیں سکی ہے ان کے بارے میں امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھی۔

۳. وَ مِنْ ذَا الَّذِي يَرْجُى سُوَاكَ وَ يَتَقَى      وَ مَالِكٌ فِي فَصْلِ الْفَضَاءِ مُخَالِفٌ

تَرْجِيمَه: اور وہ کون ہے جس سے آپ کے سوا امید رکھی جائے اور ڈراجائے، اور وہ کون ہے جو آپ کے فیصلوں میں دم مارے۔

۴. فِيَاسِيدِي لَا تَحْزِنْي فِي صَحِيفَتِي      اذَا نُشِرتَ يَوْمُ الْحِسَابِ الصَّحَافَ

تَرْجِيمَه: اے میرے آقا! میرے نامہ اعمال کی بنا پر مجھے رسولہ کریں، اس دن جبکہ قیامت کے دن یہ اعمال نامے کھول کر دکھائے جائیں گے۔

۵. وَ كُنْ مُونسِيٰ فِي ظَلْمَةِ الْقَبْرِ عِنْدَمَا      يَصْدِ ذُو الْقَرْبَى وَ يَحْوِفُوا الْمُؤَلَّفَ

تَرْجِيمَه: اور آپ میری قید کی تاریکی میں میرے غم خوار ہیں جبکہ تمام رشتہ دار کنارے ہو جائیں گے، اور تعلق رکھنے والے دور ہو جائیں گے۔

۶۔ لش ضاق عن عفوک الواسع الذي ارتاحى لا سرافسى فلابى تائب  
تبرىجت: آنرا آپ کا وہ دین عفو و ذرگز رجھت کم دبایے جس کا میں اپنے گذاہ کرنے کی وجہ سے اسید وار ہوں تو یقیناً میں بنا کے  
ہو جاؤں گا۔

## واقعات — ۳۰۲

سالی روائی کے ماہ ربيع الاول کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن خلیفہ قادر اپنی کرسی خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور ان  
کے سامنے ایک وقت سلطان الدولہ اور تمام حافظین موجود کیے گئے، اور انہیں دستور کے مطابق سات غلعت فاخرہ دیا گیا اور سیاہ  
عمامہ سر پر لپیٹا گیا اور تلوار گردن میں لٹکائی گئی، سر پر مقتض تاج رکھا گیا، و لگن اور ہار پہنایا گیا، ہاتھ میں دو چندے دیے گئے  
پھر ایک نگی تکوار دی گئی اور خادم سے کہا گیا کہ اسے ان کے گل میں ڈال دو کہ یہ ان کے اور بعد والوں کے لیے اعزاز کا سبب  
ہو گا، جس سے یہ مشرق و مغرب کے سارے علاقوں فتح کریں گے، یہ دن بہت ہی شان و شوکت سے منایا گیا جس میں شہر کے  
تمام قاضی حکام وقت اور زراء سب موجود تھے۔

اسی سال محمود بن سلطان نے ہندوستان کے علاوہ پر حملے کر کے انہیں فتح کیا، لوگوں کو قتل کیا، قیدی بنایا، غیمت کامال  
حاصل کیا اور صحیح و سالم لوٹ آئے، پھر خلیفہ کو لکھا کہ وہ تمام علاقے جو میرے پاس ابھی ہیں، شہر خراسان وغیرہ ان پر ہماری  
حکومت تسلیم کر لی جائے، چنانچہ ان کی خواہش پوری کر دی گئی۔

اسی سال کوفہ کے علاقے میں بونحلجہ نے ہنگامے پا کیے، تب وہاں سے زبک گورنر ابو الحسن بن مزید ان کے مقابلے کو نکلے۔  
اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور محمد بن یمان اور ان کی جماعت کے مزید کچھ افراد گرفتار کر لیے گئے اور بقیہ نے شکست  
قول کر لی، اس موقع پر اللہ نے ان پر گرم ہواں کا جھونکا چلایا جس سے ان کے پانچ سو آدمی مارے گئے۔

اس سال ابو الحسن محمد بن الحسن الافسوسی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## مشہور لوگوں میں وفات پانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں ان حضرات نے وفات پائی:

الحسن بن احمد:

بن جعفر بن عبد اللہ جواب بن البغدادی کے نام سے مشہور تھے، حدیث کی ساعت کی۔ وہ زائد عابد اور بہت زیادہ مجاہدہ  
والے تھے جب نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا وہ سوتے۔

احسین بن عثمان بن علی ابو عبد اللہ المقری الضریری المجاہدی نے ان سے ملاقات کی، آپ نے بہت ہی بچپنے میں اہن مجاہد  
سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ان کے شاگردوں میں یہ سب سے چھوٹے اور آخری تھے، سالی روائی کے ماہ جمادی الاول

لیں سو برہن سے رہنمای پڑھ دیتے پائیں۔ اسین مکتبہ میں مدفن ہوتے۔

### علی بن سعید الاصطخري:

معزیوں کے شیخ تھے باطیل فرقوں کے خلاف القادر بالله کے لیے رسائل تصنیف کر کے دیا تھا، اس لئے میں ان کے لیے کچھ و نظیفہ مقرر کر دیا تھا، رباح کی قلگی میں رہائش تھی اسی برہن سے زائد عمر پا کر ماہ شوال میں وفات پائی۔

## واقعات — ۵۰۵

سالِ روائی میں شاہ مصر الحاکم نے عورتوں کو ان کے گھروں سے نکلنے سے، چھتوں اور برآمدوں سے جھانکنے سے منع کر دیا، جبھی موزوں کے کاریگروں کو عورتوں کے لیے موزے بنانے سے روک دیا۔ اسی طرح ان کو حماموں میں بھی جانے پر پابندی عائد کر دی۔ ان احکام کی مخالفت کرنے پر بہت سی عورتوں کو قتل بھی کر دیا، بہت سے حمام ڈھادیئے پھر بہت سی بوڑھی عورتوں کو اس خبر پر مقرر کر دیا جو ان مسلمان عورتوں کی خبریں لایا کرتیں، جو وہ خود کسی سے عشق کرتی ہوں یا ان سے کوئی عشق کرتا ہو، ایسا ہونے سے ان کے نام اور جن سے ان کا تعلق ہوتا ان کے نام اور پتے لا کر دیتیں تو انہیں پکڑ کر ہلاک و بر باد کر دیا جاتا، پھر انہوں نے خود بھی شہروں میں ایسے لوگوں کی تلاش میں گشت کرنے کا سلسلہ دن رات بڑھادیا، اور ایسے بہت سے مردوں، عورتوں اور بیجوں کو بھی پانی میں غرق کر دیا جن کے فتن و ف HOR کا حال ظاہر ہو جاتا۔ اس طرح سختیاں بہت بڑھ گئیں، عورتوں، فاسقوں اور فاجروں کی حالت دگر گوں ہو گئی، اور ان لوگوں کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ اپنی مطلب برآری کے لیے گھر سے نکلیں، اتفاقیہ دو ایک واقعات ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک عورت کسی مرد کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس کے پاس پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا، اور ملاقات کی راہ بند ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کے قریب ہو گئی، تو وہ گرفتار کر کے قاضی القضاۃ مالک بن سعد الفاروقی کے پاس لائی گئی، انہوں نے اس کی ساری باتیں سن لیں، تو اس عورت نے الحاکم کا واسطہ دے کر قسم کھائی تو قاضی کو اس پر کچھ رحم آیا، اس وقت مکاری اور چالاکی سے چلا چلا کر رونے لگی، پھر کہنے لگی اے محترم قاضی! میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، جو بازاروں میں رہتا ہے، میں اس الحاکم کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اس کے ہاں پہنچنے کی اجازت دیں تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری بار اسے اپنی نظروں سے دیکھ لوں، خدا آپ کو جزاے خیر دے گا۔ یہ باتیں سن کر قاضی صاحب کا دل پتچ گیا، اور دو آدمیوں کو مقرر کر دیا، تاکہ وہ اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا میں، اور ملاقات کے بعد لے آئیں، اس نے ایک گھر میں پہنچ کر اس کے دروازہ میں باہر سے تالہ لگا دیا، اور چاپی اپنی پڑوں کو دے دی، پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے معشوق کے گھر پہنچی، اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور ان سے کہا آپ دونوں چلے جائیں یہی میرے بھائی کا گھر ہے، اسی گھر میں اس کا معشوق موجود تھا، جس کے فرلق میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا، اس نے انتہائی حیرانی کے ساتھ اس سے دریافت کیا کہ تجھے مجھ تک پہنچنا کیونکر ممکن ہو گیا، تو اس نے قاضی صاحب کے سامنے اپنی کی ہوئی مکاریاں اسے بتا دیں، شام کے قریب

جب اس کا شوہر اپنے گھر پہنچا اور اس میں تالا لگا ہوا اس طرح دیکھا کہ اندر ایک شخص کا ہمی پتہ نہیں ہے تو وہ اپنی پرزوں کے پاس گیا اس نے سارے واقعات اس شخص کو بتا دیئے وہ فوراً قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ابھی فوراً یہوی کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں، ورنہ بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کرتا ہوں۔ کیونکہ میری یہوی کا مطلبنا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تو فقط اپنے مشتوق کے ہاں گئی ہے۔ قاضی صاحب اس معاملہ کے خراب نتیجہ سے سخت گھبرا گئے وہ فوراً الحکم کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رونے لگے، انہوں نے وجہ دریافت کی اور حقیقت حاصل معلوم کی، تو قاضی صاحب نے اس عورت سے متعلق ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں، انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو فوراً اس عورت کے گھر بھیجا کہ جس حال میں وہ عورت اور مرد ہوں دونوں کو گرفتار کر کے لے آئیں، وہاں وہ دونوں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ جوڑا بدستی کے ساتھ ایک ساتھ ہیں، ان دونوں کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے، ان دونوں سے حقیقت دریافت کرنے پر انہوں نے اپنی غیر اختیاری حالت پر مغذرات خواہی کی، لیکن بادشاہ نے اس عورت کو جنگل میں لے جا کر جلا دینے اور اس مرد کو مار مار کر ختم کر دینے کا حکم دیا، اس واقعہ کے بعد سے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا اور ان پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی، بادشاہ کی آخری زندگی تک سختی پر عمل ہوتا رہا۔ یہ باتیں ابن الجوزی نے بیان کی ہیں۔

سال رواں کے ماہ رجب میں ابو محمد الاکفانی کے انشغال کے بعد ان کی جگہ پر ابو الحسن احمد بن ابی الشوارب کو عہدہ قضا پر مامور کیا گیا۔ اسی سال فخر الدولہ نے مسجد الشریقہ کی تعمیر کرائی اور ان میں لوہے کی کھڑکیاں لگائی گئیں۔

## مشہور لوگوں میں وفات ہانے والے

اس سال مشہور لوگوں میں وفات ہانے والوں کے نام یہ ہیں:

### بکر بن شاذان بن بکر:

ابوالقاسم المقری الواعظ، ابو بکر اشافعی اور جعفر الخلدی سے حدیث کی ساعت کی ہے اور ان سے الا زہری اور الخلال نے ساعت کی ہے، یہ ثقہ، امین، صالح اور عابد وزاہد بھی تھے، ہمیشہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ اخلاق ان کے بہت عمدہ تھے، اسی برس سے زائد عمر پا کر سالی رواں میں وفات پائی، اور باب حرب میں مدفون ہوئے۔

### بدر بن حسون یہ بن الحسین:

ابوالنجم الکردوی، دینور اور ہمدان کے علاقوں کے اچھے اور پسندیدہ بادشاہوں میں ہیں، ان میں سیاست کی صلاحیت اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی عادت تھی، ظلیفہ قادر نے ان کی کنیت ابوالنجم رکھی تھی، اور ان کا لقب ناصر الدولہ تھا، انہیں ایک خاص جھنڈا دیا گیا تھا، ان کا انداز حکومت بہت بہتر تھا اور شہری علاقہ بہت مامون تھا، اس قدر امن و اطمینان تھا کہ مسافروں کے اونٹ پا ان کے گھوڑے بوجھ لادے ہوئے راستہ میں تھک جاتے تو ان کے پورے سامان اور بوجھ کو اسی جگہ چھوڑ کر وہ چلے

جاتے پھر جب بھی وہ وہاں جاتے اس سامان میں ذرہ برابر کی نہ پاتے ایک موقع پران کے کچھ حکام نے علاقہ میں شروع و فساد پھیلایا تھر پا نرس بی شاہدار دعوت کا انتظام نہ کرنے کے انہیں شرکت کی دعوت دی لختا ان کے سامنے لا یا کیا تھر روتی نہیں لائی گئی اور وہ نہ ستر ہے کافی دیر لگرنے کے بعد باشاہ نے جواب دیا کہ جب تم کھیتیاں رہو، کرو گئے اور کاشتکاروں پر تم ظلم کرو گے تو یہ دو نیا تھیں کہاں سے ملیں گی پھر ان سے کہا کہ آئندہ میں یہ سننے نہ پاؤں کتم میں سے کسی نے کاشتکاروں پر ظلم کیا ہے ایسا ہونے سے اس کی گردن اڑادی جائے گی ایک موقع پر وہ اپنے حالت سفر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے سر پر لکڑی کی ایک بڑی گھری تھی اور وہ رورہا تھا اس سے پوچھا کہ تم کیوں رورہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس دو روٹیاں تھیں میں اپنی فرصت میں انہیں کھانا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی سپاہی آیا اور مجھ سے انہیں چھین کر لے گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم اسے دیکھ کر پہچان سکو گے؟ اس نے کہا ضرور پہچان لوں گا اس کے بعد بادشاہ اس لکڑہارے کے ساتھ ایک ٹنگ گھانی پر جا کر تھر گیا اور اپنے تمام سپاہیوں کو اسی جگہ سے گزرنے کا حکم دیا آخرو ہی شخص سامنے سے گزرنے لگا تو لکڑہارے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ یہی شخص ہے بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کی گھری اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر پہنچا دے اس فیصلہ کی بناء پر اس شخص نے بہت کوشش کی کہ وہ لکڑہارا بڑی سے بڑی رقم لے کر اسے معاف کر دے مگر وہ نہ مانا ان دو قلعے سے پورے لشکر کو زبردست سبق ملا۔

اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ جمہ کو بیس ہزار درہم فقیروں اور تیبوں پر خرچ کرتے اور ہر ماہ میں ہزار درہم مزدوں کی تجویز و تکفین میں اور سالانہ ایک ہزار دینار میں آدمیوں پر خرچ کرتے کہ وہ بادشاہ کی والدہ اور خلیفہ عضد الدولہ کی طرف سے حکم کے آئیں کیونکہ عضد الدولہ ہی کی وجہ سے اسے بادشاہی ملی تھی اور سالانہ تین ہزار دینار لوہاروں اور جوتوے بنانے والے موچیوں میں خرچ کرتے تاکہ ہمدان اور بغداد سے آنے والے بھولے بھکلے مسافروں کے جوتوں کی مرمت اور ان کے گھوڑوں کے پیروں میں نفل بندی کرتے رہیں۔

اسی طرح ہر سال ایک لاکھ دینار حرمین شریفین بھیجتے تاکہ ان دیناروں سے وہاں کے مجاہدوں کی ضروریات، عمارتوں کی تعمیر اور مرمت اور جواز کے راستوں میں پانی کا بہتر انتظام کنوئیں کھونے کے اخراجات میں کام آئیں ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی پانی کا انتظام کیا گیا وہیں آبادی بسادی نیز اپنے زمانہ حکومت میں انہوں نے تقریباً دو ہزار مسجدیں، اسی طرح سرائے خانے بھی بنوادیئے یہ اخراجات ان کے علاوہ تھے جو باضابطہ جنرلوں میں فقیبوں، قاضیوں، مؤذنوں، شریف ا لوگوں، گواہوں، فقیروں، مسکینوں، تیبوں اور لاوارثوں کے لیے مقرر تھے علاوہ بریں وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور ورد و وظائف کرنے والے بھی تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے بیس ہزار سے بھی زائد گھوڑے پالے ہوئے تھے۔

اسی برس سے زائد عمر پا کر سالی روایا میں وفات پائی اور مشہد علی کرم اللہ وجہہ میں مدفن ہوئے اور چودہ ہزار بدرہ سے زائد کمال اور نقد چالیس بدرہ سے بھی زائد تر کر چھوڑا جبکہ ایک بدرہ دس ہزار دینار کی ایک تھیلی ہوتی ہے۔ رحمۃ اللہ

### الحسن بن الحسین بن حمکان:

ابو علی الہمد افی بنداد کے شافعی المسلک فقیہ تھے، حدیث کی تعلیم اور حاصل کی ایجاد مامنہ زدی نے ان سے ساعت کی اور الا زہری نے ان سے روایت کی ہے، ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔

### عبداللہ بن محمد بن عبد اللہ:

بن ابراہیم ابو محمد الاسدی ابن الکفاری سے مشہور ہیں، بغداد کے قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز تھے، سن تین سو سو لمحہ میں ان کی وفات ہو گئی، قاضی صالحی، محمد بن خلف، اور ابن عقدہ وغیرہم سے روایت کی ہے اور ان سے البرقانی اور التخونی نے روایت کی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طلب علم کے سلسلہ میں ایک لاکھ دینار خرچ کیے، بہت ہی کثرہ کش اور پاکدا من تھے، عزتِ نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے، پچاس برس کی عمر پا کر اسی سال وفات پائی، ان میں چالیس برس حکومت کی کچھ نیابت میں اور زیادہ تر مستقل۔ رحمہ اللہ

### عبد الرحمن بن محمد:

بن محمد بن عبد اللہ بن ادریس بن سعد المانع الاستراباذی، الادریسی سے مشہور ہیں، علم اور حدیث کے طلب میں دور دور تک سفر کیا ہے اور اس سے دلچسپی رکھی ہے، الاصم وغیرہ، ہے ان کی ساعت کی ہے، سرفندی میں سکونت اختیار کر کے وہاں تاریخ لکھ کر الدارقطنی کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اس کی بہتر تعریف کی۔ اور بغداد میں بیٹھ کر حدیثیں بیان کیں، اس موقع پر الا زہری اور التخونی نے ان سے ساعت کی تھی، ثقة اور حافظ تھے۔

### ابونصر عبد العزیز بن عمر:

بن احمد بن بناۃ، بہت مشہور شاعر تھے، سیف الدولہ بن حمدان کی بہت تعریف کی، میراً گمان ہے کہ یہ الخطیب بن بناۃ یا کسی اور کے بھائی ہیں، یہی اس مشہور شعر کے قائل ہیں، جو یہ ہے:

نَوْعَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ  
وَمَنْ لَمْ يَمْتِ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ

تترجمہ: جو شخص تلوار سے نہیں مرادہ کسی اور ذریعہ سے مرا، اسباب مختلف ہوں گے لیکن موت تو ایک ہی ہے۔

### عبد العزیز بن عمر بن محمد:

بن بناۃ ابو نصر السعدی الشاعر، ان کے یہ اشعار بھی مشہور ہوئے۔ چند یہ ہیں:

۱۔ وَإِذَا عَحِزْتَ عَنِ الْعَدُوِّ فَدَارَهُ وَأَمْرَجْ لَهُ اَنَّ الْمَزاجَ وَفَاقَ

تترجمہ: جب تم دشمن کے مقابلہ میں عاجز ہو جاؤ تو اس کے ساتھ عدمہ سلوک کرو اور اس سے گھل ملنے کی کوشش کرو، کیونکہ مزان میں موافق ہو جاتی ہے۔

۲۔ كالسماء بالنهار الذي هو ضدها لصطف النساء طبعها الادب  
 ترجمہ: جیسے کہ پانی آگ سے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دوسرے کو گلانے کا مادہ پیدا کر دیتا ہے حالانکہ اس کی طبیعت میں باہر یا باہر۔

### عبد الغفار بن عبد الرحمن:

ابو بکر الدینوری، سفیان ثوری کے مسلک کے فقیر تھے جامع منصور بغداد میں ان کے مذهب پر فتوے دینے والوں میں یہی آخری مفتی تھے، اس جامع کی طرف دکھلے بھال اور اس کے انتظامات میں ان ہی کو پورا خل تھا۔ وہیں ان کی وفات ہوئی اور الحاکم کے قریب مدفون ہوئے۔

### الحاکم نیشاپوری:

مستدرک کے مصنف، محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمودہ بن نعیم بن الحاکم ابو عبد اللہ الحاکم الفضی الحافظ ابن البیع سے مشہور ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ علم، حفظ اور حدیث والوں میں سے تھے۔ سن تین سو ایکس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ سن تین سو تین ہجری سے ہی یعنی صرف نہ برس کی عمر سے ہی حدیث کی ساعت شروع کر دی تھی، بہت سے محدثین سے ساعت اور دُور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ بڑی اور چھوٹی بہت سی کتابیں تصنیف کیں، جن میں چند یہ ہیں: المستدرک على الصحيحین، علوم الحديث، "الاکلیل"، تاریخ نیشاپور بہت سے محدثین سے روایت کی ہے، ان کے مشائخ میں دارقطنی، ابن القوارس وغیرہما ہیں، ان کے اندر دینداری، امانت، حفاظت اپنی طرح یاد رکھنا، کنارہ کشی اور پرہیزگاری کا بڑا مادہ تھا، لیکن خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ ابن البیع شیعیت کی طرف مائل تھے، کیونکہ مجھ سے ابو سحاق ابراہیم بن محمد الارموی نے بیان کیا ہے، کہ الحاکم ابو عبد اللہ نے بہت سی حدیثیں جمع کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ سب صحیح ہیں اور بخاری و مسلم رحمہما اللہ کی شرطوں کے موافق ہیں، ان دونوں نے ان احادیث کو اپنی کتابوں، صحیحین میں لانے کا ارتکام کیا ہے، جن میں حدیث الطیر اور من کنت مولاه فعلی مولاہ بھی ہیں، لیکن اصحاب حدیث نے ان دونوں کو منکر کہا ہے اور ان کے کہنے پر مطلق توجہ نہیں دی ہے بلکہ ایسا کرنے پر محدثین نے ان کی ملامت کی ہے اور محمد بن طاہر المقدسی نے کہا ہے کہ الحاکم نے کہا ہے حدیث الطیر اگرچہ صحیحین میں مذکور نہیں ہے، لیکن وہ صحیح ہے، اور ابن طاہر نے کہا ہے بلکہ یہ تو موضوع ہے اس کی روایت اہل کوفہ کے جاہلوں اور غیر معترف لوگوں نے حضرت انس بن مدد سے کی ہے۔ اس بنا پر اگر یہ حاکم اس بات کو نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی جاہل ہوئے اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو یہ دشمن اور جھوٹے ہوئے، اور ابو عبد الرحمن السعیدی نے کہا ہے کہ میں حاکم کے پاس گیا تو انہیں دیکھ کر وہ فرقہ کرامیہ میں غرق ہو گئے ہیں، ان سے نکلنے کی صورت نہیں پاتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنی کتاب میں حضرت معاویہ میں نیشنڈ کے فضائل کے بارے میں بھی کچھ لکھ دیں تو آپ اس کلمکش سے نجات پا جائیں گے، کہنے لگے مجھ سے یہیں ہو سکتا، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، چورا سی برس کی عمر پا کر سالی روایت میں وفات پائی۔

ابن کبج:

یوسف بن احمد بن کبج ابو القاسم القاضی شافعی اماموں میں سے تین یا اپنے مدھب میں منتفع انسان تین ان کے لیے یہ بات بڑی نعمت کی تھی بدر بن حسویہ کی قائم مقامی میں وہ دینور کے قاضی رہے، لیکن بدر کے انتقال کے بعد شہر کے حالات خراب ہو چکے پر بدمعاشوں اور مکاروں کی ایک جماعت نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ جو سال روائی کے ماوراء رمضان کی ستائیں میں تاریخ تھی۔



بغضله تعالیٰ اب البداية والنهاية کا گیارہواں حصہ ختم ہوا اس کے بعد ہی بارہواں حصہ بھی شروع ہو جائے گا  
جس کی ابتداء من چار سو چھوٹے بھرپوری کی تاریخ سے ہو گی۔